

# نوع الحجاز

شرح اردو

مفت محمد عقیل

فضل محمد رضا  
مفت مولانا

جامع المعقول والمنقول اساتذہ کرام جامعہ العلوم الاسلامیہ  
خاندان مولانا مفت محمد عقیل

ناشر

المکتبۃ العربیۃ

0331-3788677, 0300-9268449  
Email : mustaqimbilwani@yahoo.com

# توضیحات

اُردو شرح

## مشکوٰۃ

متن ترجمہ تشریح و توضیح کے ساتھ

تألیف

مولانا فضل محمد السیف رزوی  
استاذ و مدرسہ جامعہ علوم اسلامیہ، پتوئی ٹاؤن، کراچی

حکومت پاکستان کا پی راءنٹ کے تحت

# جملہ حقوق حق ناشر محفوظ ہیں

رجسٹرڈ نمبر (20559)

کتاب کا نام : توضیحات شرح مشکوٰۃ (جلد ششم)

مصنف : استاذ الحدیث حضرت مولانا فضل محمد صاحب یوسف زئی مدظلہ

سن اشاعت : 2010ء

تعداد صفحات : (744)



(021-35470973)

(0321-3788955)

المکتبۃ العربیۃ

ناشر

## ملنے کے لیے

مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور

دارالکتاب اردو بازار لاہور

مکتبہ خلیل اردو بازار لاہور

مکتبہ الحرمین اردو بازار لاہور

وحیدی کتب خانہ پشاور

مکتبہ علمیہ اکوڑہ خٹک

مکتبہ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی

مکتبہ انعامیہ، اردو بازار کراچی

کتب خانہ اشرفیہ اردو بازار کراچی

دارالاشاعت، اردو بازار کراچی

اسلامی کتب خانہ، بنوری ٹاؤن کراچی

مکتبہ القرآن، بنوری ٹاؤن کراچی

کتب خانہ مظہری، گلشن اقبال کراچی

بیت الاشاعت، بہار کالونی، کراچی

# انتساب

میں اپنی اس محنت شاقہ کو اپنی مادرِ علمی اور عالمی مرکزِ علمی  
جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کی طرف منسوب کرتا ہوں

جس کے سایۂ عاطفت میں

بندہ نے محدث العصر حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ  
اور صدر مدرس حضرت اقدس حضرت مولانا فضل محمد سواتی رحمۃ اللہ سے

احادیثِ مقدسہ کی سند حاصل کی۔

فضل محمد یوسف نوری



نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا  
وَوَعَاَهَا وَأَدَّأَهَا (الحديث طبرانی)



وَمِنْ مَذْهَبِي حُبُّ النَّبِيِّ وَكَلَامِهِ  
وَالنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ



روزِ محشر ہر کسے با خویش دارد توشہ  
من نیز حاضر میشوم ”توضیح“ مشکوٰۃ در بغل

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۷	کتاب الجہاد	۲۷	نبی پاکؐ نے ہر جنگ میں شریک ہونے اور شہید ہونے کی تمنا فرمائی
۲۷	جہاد کی تعریف	۲۷	اسلامی سرحدات پر پہرہ دینے کے فضائل
۲۹	جہاد کی اقسام	۲۹	سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟
۲۹	قسم اول فرض کفایہ	۲۸	فضائل رباط فی سبیل اللہ کی چند احادیث
۳۰	قسم دوم فرض عین	۲۸	جہاد کے راستے کا غبار
۳۱	جہاد کی چند انواع	۲۹	جہاد میں کافر کو مارنے کا ثواب
۳۲	جہاد بالنفس	۵۰	مسلمانوں کی بہترین زندگی کونسی ہے؟
۳۲	جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی بحث	۵۱	مجاہد کو جہاد پر بھیجنا بھی جہاد ہے
۳۶	ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق	۵۲	مجاہدین کی عورتوں کا احترام لازم ہے
۳۷	دعوت اسلام	۵۲	جہاد میں مالی مدد کرنے کی عظیم فضیلت
۳۸	دعوت اسلام فقہاء کی نظر میں	۵۳	ہر گھر سے ایک مجاہد جہاد پر جائے
۳۸	امام مالک رحمہ اللہ	۵۳	دین کی حفاظت کے لئے مجاہدین قیامت تک لڑتے رہیں گے
۳۸	امام شافعی رحمہ اللہ	۵۴	راہ جہاد میں زخم لگنے کی فضیلت
۳۸	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ	۵۵	شہادت کی فضیلت و تمنا
۳۹	حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول	۵۵	شہداء کی حیات بعد الموت
۳۹	صاحب ترمذی کا قول	۵۸	شہادت سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں
۳۹	صاحب درمختار کا قول	۵۹	قاتل اور مقتول دونوں جنت میں
۳۹	صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کا قول	۶۰	شہادت کی سچی تمنا بھی شہادت ہے
۴۰	دعوت کے فوائد	۶۰	میدان جہاد میں نامعلوم گولی لگنے سے بھی شہادت ملتی ہے
۴۱	جہاد افضل ترین عمل ہے		
۴۲	ایمان کے بعد جہاد افضل عمل ہے		
۴۳	مجاہد ہر حال میں کامیاب ہے		

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۷۶	افضل مجاہد اور افضل شہید	۶۱	کھجور پھینک کر جام شہادت نوش کیا
۷۸	شہید کے چھ امتیازی نشان	۶۳	شہید کا مطلب اور شہداء کی اقسام
۷۹	جس نے جہاد نہ کیا اس کا ایمان ناقص رہیگا	۶۵	مجاہد کے اجر کی تقسیم
۷۹	شہید موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے		جس مسلمان کے دل میں جذبہ جہاد نہ ہو وہ نفاق کی
۸۰	جہاد میں گرنے والا قطرہ خون محبوب تر چیز ہے	۶۶	موت مریگا
۸۰	شدید ضرورت کے بغیر سمندر کا سفر نہ کرو	۶۶	حقیقی مجاہد کون ہے
۸۱	جہاد میں ہر طرح کی موت شہادت ہے	۶۷	عذر کی بنا پر پیچھے رہنے والے کو جہاد کا ثواب ملتا ہے
۸۲	مجاہد گھر لوٹنے تک جہاد میں شمار ہوتا ہے	۶۷	ماں باپ کی خدمت کا مقام و اہتمام
۸۲	کسی مجاہد کو جہاد پر بھیجنے کا ثواب	۶۸	فتح مکہ کے بعد ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی
۸۳	اجرتی مجاہد بنا بہت برا ہے	۶۹	جہاد باقی رہیگا حتیٰ کہ مجاہدین دجال سے لڑیں گے
۸۴	اجرت پر جہاد میں جانے والے کا حکم	۷۰	جہاد نہ کرنے والوں کے لئے شدید وعید
	صرف دنیا کے لئے جہاد کرنے والے کو ثواب نہیں	۷۰	جان مال اور زبان کے ذریعہ سے جہاد کا حکم
۸۴	ملے گا	۷۱	کفار کی کھوپڑیاں اڑاؤ جنت کماؤ
۸۵	حقیقی مجاہد کا تعارف	۷۱	جہاد میں پاسبانی کی فضیلت
۸۷	نافرمان امیر کو معزول کیا جاسکتا ہے	۷۲	تھوڑی دیر کے لئے جہاد میں شرکت کی فضیلت
۸۸	اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں	۷۳	جہاد میں ایک روپیہ خرچ کرو سات سو کا ثواب کماؤ
۸۹	جہاد میں اخلاص نیت ضروری ہے	۷۳	بہترین صدقہ
۸۹	مجاہدین کے اونچے درجے	۷۴	مجاہد کی فضیلت
۹۰	جنت تلواروں کے سائے تلے ہے		جہاد میں کچھ وقت گزارنا گھر میں ستر سال
۹۱	شہداء احد کے بارے میں بشارت	۷۵	نماز پڑھنے سے افضل ہے
۹۱	تین قسم کے مسلمان	۷۶	ہزاروں کی عبادت سے افضل عمل جہاد ہے
۹۲	شہید کی تمنا	۷۶	جنت میں پہلے داخل ہونے والے لوگ

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۱۱	مسابقت میں محلل کے شامل ہونے کا حکم	۹۳	چار قسم کے لوگ جنت میں ہوں گے
۱۱۲	گھوڑوں میں جلب، اور جنب منع ہے		جہاد میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور انچاس
۱۱۳	عمدہ گھوڑے کی علامت	۹۳	کر وٹ کی بات
۱۱۴	سرخ گھوڑوں میں برکت ہوتی ہے	۹۵	مجاہد کے بلند درجات کو دیکھ کر سر سے ٹوپی گر گئی
۱۱۵	گھوڑوں کی پیشانی، ایال اور دم کے بال نہ کاٹو	۹۷	منافق شہید نہیں ہوتا
۱۱۵	جہادی گھوڑوں کی دیکھ بال کرو	۹۸	صرف ایک نیکی پر جنت، عجیب قصہ
۱۱۶	اہل بیت کی تین خصوصیات	۱۰۰	باب اعداد الہ الجہاد
۱۱۷	گھوڑی پر گدھا چھوڑنا منع ہے	۱۰۰	سامان جہاد کی تیاری کا بیان
۱۱۷	حضور اکرم کی تلواریں		بقدر استطاعت جہاد کے لئے طاقت فراہم کرنے
۱۱۸	احد کے دن حضور اکرم نے دوزرہیں پہنیں	۱۰۰	کا حکم
۱۱۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی جھنڈا	۱۰۳	خطرہ نہ بھی ہو پھر بھی اسلحہ کا شغل جاری رکھو
۱۱۹	اپنا قومی اسلحہ بناؤ اور اسی کو اپناؤ	۱۰۳	اسلحہ سیکھ کر بھول جانا بڑا گناہ ہے
۱۲۲	باب آداب السفر	۱۰۳	تیر اندازی کرو میں سب کے ساتھ ہوں
۱۲۲	سفر کے آداب کا بیان	۱۰۴	جہادی گھوڑوں کی فضیلت
۱۲۳	جہاد کے لئے یوم النہیس کا انتخاب		جہادی گھوڑے کا چارہ پانی پیشاب اور لید بھی نیک
۱۲۳	تنہا سفر کرنے کی ممانعت	۱۰۵	اعمال میں ہونگے
	اگر قافلہ میں سنا اور ریکارڈنگ ہو تو رحمت کے	۱۰۶	اشکل گھوڑا ناپسندیدہ ہے
۱۲۴	فرشتے نہیں ہونگے	۱۰۶	گھوڑوں میں مسابقت جہادی ٹریننگ کا حصہ ہے
۱۲۵	جانوروں پر سواری سے متعلق ہدایت	۱۰۷	ایک دیہاتی مقابلے میں آگے نکلا
۱۲۶	ضرورت مند رفیق سفر کی مدد کرو	۱۰۸	ایک تیر کے ذریعہ تین آدمی جنت جاتے ہیں
۱۲۷	مقصد سفر پورا ہو جانے پر فوراً گھر آؤ	۱۰۹	میدان جہاد میں تیر مارنے کا ثواب
۱۲۸	معزز مہمان یا مسافر کی آمد پر استقبال جائز ہے	۱۱۰	جہادی ٹریننگ میں شرط لگانا جائز ہے

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۴۷	دعوت اسلام کا طریقہ اور جہاد کے آداب	۱۲۹	سفر سے گھر پر حضور اکرمؐ کی آمد کا وقت
۱۴۹	جنگ کی تمنا نہ کرو جب سر پر آئے تو جم کر لڑو	۱۳۰	سفر سے واپسی پر دعوت کرنا منسوں ہے
۱۵۰	جنگ خیبر میں اللہ اکبر کا نعرہ	۱۳۰	سفر سے واپسی پر مسجد میں بیٹھنا اور نفل پڑھنا
۱۵۳	کفار کے نام حضرت خالد بن ولید کا ایک عظیم مکتوب	۱۳۰	منسوں ہے
۱۵۵	باب القتال فی الجہاد	۱۳۰	صبح سویرے کام پر جانے والے کے لئے برکت
۱۵۵	جہاد میں لڑائی کی ترتیب کا بیان	۱۳۱	کی دعا
۱۵۵	مشروعیت جہاد کی حکمت	۱۳۲	دن کے سفر کے ساتھ کچھ رات بھی ملایا کرو
۱۵۶	شوق شہادت	۱۳۲	سفر میں کم سے کم تین آدمی ساتھ ہوں
۱۵۶	جہاد پر نکلنے میں آنحضرتؐ کی حکمت عملی	۱۳۳	تین کی جماعت ایک کو امیر بنائے
۱۵۷	جنگ چال اور تدبیر کا نام ہے	۱۳۳	عمدہ فوج اور عمدہ سریہ
۱۵۸	جہاد میں عورتوں کے شریک ہونے کا حکم	۱۳۵	جہادی سفر میں حضور اکرمؐ کا عظیم نمونہ
۱۵۹	جہاد میں عورتوں اور بچوں کا قتل کرنا منع ہے	۱۳۶	سواری کے جانوروں پر رحم کرو
۱۵۹	شب خون میں عورتیں اور بچے مارے جاسکتے ہیں	۱۳۷	گاڑی کا مالک فرنٹ سیٹ کا حقدار ہے
۱۶۰	دشمن کے باغات کے کاٹنے اور جلانے کا مسئلہ	۱۳۷	شیطانی اونٹ اور شیطانی گھر
۱۶۱	غفلت کی حالت میں دشمن پر حملہ جائز ہے	۱۳۸	راستہ تنگ کر کے جہاد کا ثواب خراب نہ کرو
۱۶۲	جنگ سے متعلق ایک حکمت	۱۳۹	جہادی سفر میں تاخیر باعث نقصان ہوتا ہے
۱۶۲	جنگی شعار اور کوڈ ورڈ	۱۴۱	جو خادم ہوتا ہے وہی سردار ہوتا ہے
۱۶۳	جنگ کے وقت شور و شغب منع ہے	۱۴۱	باب الکتاب الی الکفار
۱۶۴	دشمن کے شہر اور کھیتوں کو بوقت ضرورت جلاؤ الو	۱۴۲	ودعائهم الی الاسلام
۱۶۴	جب کفار قابو میں آجائیں تو مارو	۱۴۲	کفار کو خطوط کے ذریعہ دعوت دینے کا بیان
۱۶۵	عورت اور غلام کو نہ مارو	۱۴۳	قیصر روم کے نام آنحضرتؐ کا مکتوب
۱۶۵	مجاہدین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں	۱۴۵	شاہ فارس پرویز کے نام حضور کا خط

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۸۹	فتح مکہ کے دن امان کی ایک صورت	۱۶۶	بدر کے میدان میں تین کاتین سے مقابلہ
	عورت کے عہد و امان کی پاسداری مسلمانوں پر لازم ہے	۱۶۷	جنگ موتہ کا واقعہ
۱۹۰	عہد و امان توڑنے والے کے لئے وعید	۱۶۸	غزوہ طائف میں منجنیق کا استعمال
۱۹۱	حضرت معاویہؓ نے حدیث سن کر فوج واپس کر دی	۱۶۰	باب حکم الاسراء
۱۹۲	قاصد کو قتل نہیں کیا جاسکتا	۱۷۰	قیدیوں کے احکامات کا بیان
۱۹۳	اسلام کا ضابطہ مکمل اور کافی ہے	۱۷۰	کفار کی گردنوں میں زنجیر ڈال کر اسلام کی طرف لاؤ
۱۹۵	مسئلہ کذاب کے دو قاصد	۱۷۱	جاسوس کو قتل کرو
۱۹۷	باب قسمة الغنائم والغلول فیہا	۱۷۳	بنو قریظہ میں حضرت سعد کا فیصلہ
۱۹۷	مال غنیمت کی تقسیم اور خیانت کا بیان	۱۷۴	سردار یربامہ ثمامہ کا عجیب قصہ
	مال غنیمت کا استعمال اس امت کی خصوصیات میں سے ہے	۱۷۷	احسان کا بدلہ احسان ہے
۱۹۸	کافر مقتول سے چھینا ہوا مال قاتل مجاہد کا ہے	۱۷۷	حدیبیہ کے موقع پر ۸۰ مشرک گرفتار پھر رہا
۲۰۱	مال غنیمت کی تقسیم کا ضابطہ	۱۷۸	قلیب بدر میں صنادید قریش سے آنحضرتؐ کا کلام
۲۰۳	مال غنیمت میں عورتوں اور غلاموں کا حصہ نہیں ہے	۱۸۰	جنگ حنین کے چھ ہزار قیدی
۲۰۳	حضرت سلمہ بن اکوع کی بہادری	۱۸۱	قیدیوں کا تبادلہ جائز ہے
۲۰۶	اگر کفار مسلمانوں کا مال چھین لیں تو کیا ہوگا؟	۱۸۳	بدر کے قیدیوں میں آنحضرتؐ کا داماد تھا
۲۰۸	خمس کا حکم	۱۸۴	قیدی کو قتل کرنا بھی جائز ہے
۲۰۹	مال فہی کا تعارف اور حکم	۱۸۵	بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی
	مشرکہ قومی دولت میں خیانت کرنے والا دوزخ میں جائے گا	۱۸۶	قیدیوں کی عمر میں تحقیق و تفتیش
۲۰۹	مشرکہ قومی دولت میں خیانتوں کی مختلف صورتیں	۱۸۶	کسی مسلمان کو کافروں کے حوالہ کرنا حرام ہے
		۱۸۷	ایک کی بے اعتیاطی سے سب کی مصیبت
		۱۸۹	باب الامان
		۱۸۹	امان دینے کا بیان



مضمون

صفحہ نمبر

مضمون

صفحہ نمبر

۲۱۱ مشترکہ قومی دولت میں خیانت پر شدید وعید

جہاد میں ضرورت کے تحت خورد و نوش کی چیزوں

کا استعمال

۲۱۳

دلچسپ صورت

۲۱۳

مقتول کا سلب قاتل کو ملے گا

۲۱۴

ابو جہل کا اصل قاتل کون تھا؟

۲۱۴

تلوار گھسیٹ کر جہاد پر جا رہا ہے

۲۱۵

خیبر کے غنائم کی تقسیم میں احناف کا متدل

۲۱۶

جو زیادہ جرأت سے لڑے گا زیادہ حصہ پائے گا

۲۱۷

مال فی میں سب مسلمان برابر کے شریک ہیں

۲۱۸

اہل سفینہ کی خصوصیت

۲۱۸

حضور اکرمؐ نے ایک خائن کا جنازہ نہیں پڑھا۔

۲۱۹

خیانت کردہ مہار قیامت میں خود لاؤ

۲۲۰

مشترکہ قومی دولت میں خیانت کی سزا

۲۲۰

خائن پر پردہ ڈالنا بھی خیانت ہے

۲۲۱

تقسیم سے قبل مال غنیمت کی خرید و فروخت منع ہے

۲۲۱

ذوالفقار تلوار کا ذکر

۲۲۲

جو مومن ہے وہ خیانت نہیں کریگا

۲۲۳

مشترکہ مال سے سوئی بھی نہ اٹھاؤ

۲۲۴

ابو جہل کے قتل کا قصہ

۲۲۷

حضرت ابن مسعودؓ ابو جہل کے سینے پر

۲۲۹

کمزور مسلمان کا ایمان مال دیکر بچانا چاہئے

۲۳۰

۲۳۱ حضرت عثمانؓ کو بدریوں کا درجہ حاصل ہے

۲۳۲ جہاد کے لئے سورج غروب ہونے سے رک گیا

مال غنیمت میں خیانت کرنے والا دوزخ میں

۲۳۳ ڈالا جائے گا

باب الجزية

۲۳۵

جزیہ کا بیان

۲۳۵

جزیہ کے اقسام

۲۳۵

ذمیوں کے لئے اسلام کی طرف سے شرائط

۲۳۶

مجوسیوں سے جزیہ لینا کیسا ہے

۲۳۶

مسلمانوں پر جزیہ نہیں

۲۳۸

جزیہ پر صلح کی ایک صورت

۲۳۹

یہود و نصاریٰ سے مال تجارت پر محصول لینے کا مسئلہ

۲۴۰

ذمیوں پر جزیہ کی ایک عجیب صورت

۲۴۱

سونے چاندی والوں پر جزیہ کی مقدار

۲۴۲

کتاب الصلح

۲۴۳

صلح حدیبیہ کا تفصیلی بیان

۲۴۳

صلح حدیبیہ کی چند شرائط

۲۴۸

صلح کی ایک سخت شرط کی حکمت

۲۴۹

آنحضرتؐ نے بیعت میں کسی عورت کے ہاتھ میں

۲۵۰

ہاتھ نہیں دیا

۲۵۰

صلح حدیبیہ کی مزید شرائط

۲۵۱

معاہدہ کی پاسداری ضروری ہے

۲۵۱

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۸۶	بندوق کی گولی کا شکار کیسا ہے؟	۲۵۲	معابدة حدیبیہ کا متن
۲۸۷	یہود و نصاریٰ کے برتنوں میں کھانا کیسا ہے؟		باب اخراج الیہود
۲۸۸	مارا ہوا شکار اگر گرم ہو جائے تو کیا حکم ہے؟	۲۵۵	من جزيرة العرب
۲۸۹	مشتبہ ذبیحہ کا حکم	۲۵۵	جزیرہ عرب سے یہودیوں کے نکالنے کا بیان
۲۹۰	غیر اللہ کے نام ذبیحہ حرام ہے	۲۵۶	جزیرہ عرب سے یہود کے اخراج کا حکم
۲۹۱	جو چیز بھی رگوں کا خون بہادے اس سے ذبح جائز ہے	۲۵۷	حضرت عمرؓ اخراج یہود کا پس منظر بتا رہے ہیں
۲۹۳	تیز پتھر کے ذریعہ سے ذبح جائز ہے	۲۵۸	یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دو
۲۹۴	قتل بھی کرو تو سلیقہ اختیار کرو	۲۵۹	اخراج یہود کا پکا ارادہ
۲۹۴	جانور کو باندھ کر نشانہ بنانا جائز نہیں ہے	۲۶۰	اخراج یہود کا عمل حضرت عمرؓ نے مکمل کیا
۲۹۵	کسی کو نہ منہ پر مارو نہ چہرہ پر داغ لگاؤ	۲۶۲	باب الفی
۲۹۶	ضرورت و مصلحت کے تحت داغنا جائز ہے		فی کا بیان
۲۹۶	ہر اس چیز سے ذبح جائز ہے جو خون بہادے	۲۶۲	مال فی کا مصرف
۲۹۷	ذبح اضطراری کا حکم	۲۶۳	مال فی میں تقسیم کی ایک صورت
۲۹۸	جن کا ذبیحہ حرام ہے ان کے کتے کا شکار بھی حرام ہے	۲۶۴	مال فی کے گنینے بھی تقسیم ہو گئے
۲۹۹	غیر مسلموں کے ہاتھ کا کھانا حلال ہے	۲۶۵	مال فی کی تقسیم میں فرق مراتب کا لحاظ
۲۹۹	معجشمة کا کھانا ممنوع ہے	۲۶۵	قضیہ فدک میں حضرت عمرؓ کا استدلال
۳۰۰	دھ جانور جن کا کھانا حرام ہے	۲۶۷	قضیہ فدک کی پوری تفصیل
۳۰۱	شریطہ کھانا ممنوع ہے	۲۶۸	جہاد پر عمومی اعتراضات اور اس کے جوابات
۳۰۲	ذبیحہ کے پیٹ کے بچہ کا حکم	۲۷۱	كتاب الصيد والذبائح
۳۰۳	بلا وجہ کسی جانور یا پرندہ کو مارنا جائز نہیں	۲۸۲	شکار اور ذبیحوں کا بیان
۳۰۴	زندہ حیوان سے کاٹا گیا گوشت مردار ہے	۲۸۲	کتے اور تیر کے ذریعہ کیے گئے شکار کے مسائل
۳۰۵	کسی بھی تیز دھار آلہ سے ذبح جائز ہے	۲۸۵	متروک التسمیہ ذبیحہ کا حکم

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۲۴	مانع گھی میں چوہے کے گر جانے کا مسئلہ	۳۰۵	دریائی جانوروں کا حکم
۳۲۴	غلاظت کھانے والے حیوان کا حکم	۳۰۷	باب ذکر الکلب
۳۲۵	گوہ کا گوشت کھانا حرام ہے	۳۰۷	کتے سے متعلق احکام کا بیان
۳۲۵	بلی کا گوشت حرام ہے	۳۰۷	بلا ضرورت کتا پالنا باعث نقصان ہے
۳۲۶	پالتو گدھے، خچر اور درندوں کا گوشت حرام ہے	۳۰۸	کتوں کو مار ڈالنے کا حکم
۳۲۶	گھوڑے کا گوشت کھانا منع ہے	۳۱۰	جانوروں کا لڑنا منع ہے
۳۲۶	بلا وجہ معاہدہ کا مال لینا حرام ہے	۳۱۱	باب مایحی و مایحرم
۳۲۷	مچھلی، ہنڈی، ککلی اور تلی حلال ہے	۳۱۱	جن جانوروں کا کھانا حلال یا حرام ہے
۳۲۷	مسک طانی کا حکم	۳۱۱	ذی ناب درندہ حرام ہے
۳۲۸	ہنڈی کا حکم	۳۱۲	کیا گھوڑا حلال ہے؟
۳۲۹	مرغ سحر کو برانہ کہو	۳۱۳	گور خر کا گوشت حلال ہے
۳۳۰	گھر میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کیا جائے	۳۱۳	خرگوش حلال ہے
۳۳۰	انتقام کے خوف سے سانپ کو نہ مارنا گناہ ہے	۳۱۴	گوہ حلال ہے یا حرام؟
۳۳۱	جب سے جنگ چھڑ گئی ہے صلح ہوئی ہی نہیں	۳۱۵	مرغ کا گوشت کھانا حلال ہے
۳۳۱	زمزم کے کنوئیں میں سانپ	۳۱۵	ہنڈی کا کھانا جائز ہے
۳۳۲	گھر یلو سفید سانپوں کو نہ مارو	۳۱۶	غیر مچھلی کا قصہ
۳۳۲	کبھی کی شرارت کو دیکھو	۳۱۷	کھانے پینے کی اشیاء میں کبھی گر جائے تو کیا حکم ہے
۳۳۳	چار قسم کے جانوروں کا مارنا منع ہے	۳۱۸	منجھد گھی وغیرہ میں چوہا گر جائے تو کیا حکم ہے؟
۳۳۴	تحلیل و تحریم کا حق صرف شارع کو ہے	۳۱۸	سانپ کو مار ڈالنے کا حکم
۳۳۴	جنات کی قسمیں	۳۱۹	گھر سے جنات بھگانے کا طریقہ
۳۳۶	باب العقیقة	۳۲۲	چھکلی کو مار ڈالنے کا حکم
۳۳۶	عقیقہ کا بیان	۳۲۳	چیونٹی کو مارنے کا مسئلہ

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۵۰	آنحضرتؐ نے نہ چپاتی دیکھی نہ دم پختہ بکری دیکھی	۳۳۷	عقیقہ کرنے کا حکم
	میدہ یا چھنے ہوئے آٹے کی روٹی آنحضرتؐ نے	۳۳۷	تحنیک مسنون عمل ہے
۳۵۰	نہیں کھائی	۳۳۸	اول مولود فی الاسلام
۳۵۱	کھانے میں عیب نہ نکالو	۳۳۹	عقیقہ میں کتنے بکرے ہوتے ہیں
	مومن ایک آنت سے کافرسات آنتوں سے	۳۴۰	عقیقہ کا طریقہ
۳۵۱	کھاتا ہے	۳۴۱	حضرت حسنؑ کا عقیقہ حضور اکرمؐ نے کیا
۳۵۲	قناعت ہو تو دو کا کھانا تین کے لئے کافی ہو جاتا ہے	۳۴۲	عقیقہ میں دو مینڈھے ذبح کئے
۳۵۲	بیمار آدمی کے لئے تلینہ بہترین چیز ہے	۳۴۲	جس کا عقیقہ ہو وہ عقوق سے بچ جاتا ہے
۳۵۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا	۳۴۳	حضرت حسنؑ کے کان میں حضور اکرمؐ نے اذان دی
۳۵۵	آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو لازم نہیں آتا	۳۴۳	جاہلیت میں عقیقہ کا طریقہ کیسا تھا؟
۳۵۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی	۳۴۴	کتاب الاطعمۃ
۳۵۶	سرکہ بہترین سالن ہے	۳۴۴	کھانوں کا بیان
۳۵۶	کھمبی کے فوائد	۳۴۴	کھانے کے تین آداب
۳۵۷	لکڑی اور کھجور ملا کر کھانے کا حکم	۳۴۵	بسم اللہ نہیں کہو گے تو شیطان ساتھ کھائے گا
۳۵۷	پیلو کے پھل کا بیان	۳۴۶	کھانا پینا دائیں ہاتھ سے مسنون ہے
۳۵۸	کھاتے وقت آنحضرتؐ کی ایک کیفیت	۳۴۶	بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے
۳۵۸	ساتھیوں کے ساتھ دودھ و کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ	۳۴۷	تین انگلیوں سے کھانا اور انگلیاں چاٹنا سنت ہے
۳۵۹	گھر میں کھجور رکھنے کی فضیلت	۳۴۷	کھانے کے بعد انگلیاں چاٹو یا چٹاؤ
۳۶۰	آنحضرتؐ کے گھر میں فاقے		کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ تراشہ گر جائے
۳۶۱	پانی اور کھجور سے کبھی پیٹ نہیں بھرا	۳۴۸	تو کیا کیا جائے
۳۶۲	کچا لہسن کھانا کیسا ہے؟	۳۴۸	ٹیک لگا کر کھانا کھانے کی ممانعت
۳۶۳	پیاز لہسن اور بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا منع ہے	۳۴۹	میز اور چوکی پر رکھ کر کھانا کھانے کا حکم

مضمون

صفحہ نمبر

مضمون

صفحہ نمبر

کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا

۳۶۵

کچا پس کھانا منع ہے

۳۷۹

کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو

۳۶۵

پیاز کھانے کا مسئلہ

۳۸۰

کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو

۳۶۶

آنحضرتؐ کو مکھن کے ساتھ کھجور پسند تھا

۳۸۰

بھول جائے تو کد۱۔۲ کے درمیان بھی بسم اللہ پڑھو

۳۶۶

برتن میں مختلف اشیاء ہوں تو پسند کی چیز لو

۳۸۰

کھانے کے بعد کی دعا

۳۶۷

حریرے کا فائدہ

۳۸۲

کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھولیا کرو

۳۶۸

عجوبہ جنت کی کھجور ہے

۳۸۲

اطراف سے کھاؤ بیچ کو بچاؤ

۳۶۹

اگر کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا تو شیطان ساتھ

۳۸۲

آنحضرتؐ نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا

۳۶۹

کھاتا ہے

۳۸۳

مسجد میں کھانے کا مسئلہ

۳۷۰

زیادہ کھانا نخوست کی علامت ہے

۳۸۵

بیماری کے لئے پرہیز ضروری ہے

۳۷۲

نمک بہترین سالن ہے

۳۸۵

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھر چن پسند تھی

۳۷۲

جوتا اتار کر کھانے سے قدموں کو راحت ملتی ہے

۳۸۵

کھانے کے بعد برتن صاف کرنا مغفرت کا ذریعہ ہے

۳۷۳

کھانا کچھ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہئے

۳۸۶

کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر سویا کرو

۳۷۳

کھانے کا برتن دعا بھی دیتا ہے اور بد دعا بھی کرتا ہے

۳۸۶

آنحضرتؐ کو ثرید پسند تھا

۳۷۴

باب الضیافۃ

۳۸۷

زیتون کی فضیلت

۳۷۴

مہمان نوازی کا بیان

۳۸۷

سرکہ سالن ہے

۳۷۵

مہمان کا اکرام کرنا ایمان کی علامت ہے

۳۸۷

کھجور بھی سالن کا کام کرتی ہے

۳۷۵

مہمان میزبان پر بوجھ بن کر نہ رہے

۳۸۸

غیر مسلم معالج سے رجوع کرنا جائز ہے

۳۷۵

ذمیوں پر مجاہدین کی ضیافت لازم ہے

۳۸۹

غذا کو معتدل بنا کر کھانا چاہئے

۳۷۶

مہمان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہئے

۳۹۰

بھلوں میں کیڑا پڑنے سے پھل نجس نہیں ہوتا

۳۷۷

برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے

۳۹۲

اسلام نے جن چیزوں کو حرام کہا وہی حرام ہیں

۳۷۸

کھانا کھانے کے بعد کی دعا

۳۹۲

عہدہ کمانے کی خواہش جائز ہے

۳۷۸

پرہیز گار لوگوں کی ضیافت زیادہ بہتر ہے

۳۹۴

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۴۱۲	ضرورت کے پیش نظر چلتے پھرتے کھانا پینا جائز ہے	۳۹۵	گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھانا تو وضع ہے
۴۱۳	پیتے وقت برتن میں سانس مت لو	۳۹۶	جمع ہو کر کھانے سے برکت نازل ہوتی ہے
۴۱۳	ایک سانس میں پانی مت پیو یہ جانوریاں کا کام ہے	۳۹۶	تعیش کی زندگی کا قیامت میں سوال ہوگا
۴۱۴	پانی سے تنکا وغیرہ ہٹانے کا طریقہ		اگر ساتھیوں کے ساتھ کھا رہا ہے تو کھانے سے
۴۱۴	برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہ پیو	۳۹۷	ایک ساتھ ہاتھ کھینچو
۴۱۵	بوجہ ضرورت کبھی مشکیزہ سے منہ لگا کر پانی پینا جائز ہے	۳۹۹	بھوک ہو تو کھانے میں تکلف نہیں کرنا چاہئے
۴۱۵	حضور اکرم کو ٹھنڈا میٹھا مشروب پسند تھا	۳۹۹	مہمان کو گھر کے دروازہ تک چھوڑ آؤ
۴۱۶	کھانے پینے میں دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں	۴۰۰	ضیافت میں برکت ہی برکت ہے
۴۱۷	آنحضرتؐ کے لئے میٹھے پانی کا خاص اہتمام	۴۰۱	باب (المضطر)
۴۱۸	باب النقیع والانبذة	۴۰۱	مضطر کا بیان
۴۱۸	نقیع اور نبیذوں کا بیان	۴۰۱	حالت اضطرار میں مردار کھانے کا مسئلہ
۴۱۸	نبیذ کی اقسام	۴۰۲	باب الاشربة
۴۱۹	حضور اکرم کے لئے نبیذ بنانے کا طریقہ	۴۰۲	پینے کی چیزوں کا بیان
۴۲۰	نبیذ کب تک رکھا جاسکتا ہے؟	۴۰۲	تین سانس میں پانی پینے کے فوائد
۴۲۰	کن برتنوں میں نبیذ بنانا منع ہے	۴۰۵	مشکیزہ کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت
۴۲۱	برتنوں کے بارہ میں ایک حکم منسور ہو گیا	۴۰۶	کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت
۴۲۲	شراب کا نام بدل کر لوگ شراب پیئیں گے	۴۰۷	کھڑے ہو کر زمزم کا پانی استعمال کرنا مستحب ہے
۴۲۳	باب تغطية الأواني وغيرها	۴۰۷	وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا جاسکتا ہے
۴۲۳	برتنوں کے ڈھانکنے کا بیان		مجبوری میں منہ لگا کر تالاب یا نہر سے پانی پیا
۴۲۳	مسلمان کی رات کے لئے اسلام کے رہنما اصول	۴۰۸	جاسکتا ہے
	جس برتن میں کھانے پینے کی چیز ہو اسے	۴۰۹	سونے چاندی کے برتن میں پانی پینا حرام ہے
۴۲۶	ڈھانکا کرو	۴۱۰	دائیں طرف سے جام کا گھومنا چاہئے



صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۴۳۹	ریشم عورتوں کو پہناؤ	۴۲۶	سوتے وقت گھر کی آگ بجھایا کرو
۴۳۹	مردوں کے لئے چار انگشت ریشم کی پٹی جائز ہے	۴۲۷	کتے اور گدھے کی آواز سنو تو تعوذ کرو
۴۴۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ		چوہے نے آنحضرت کے مصلیٰ پر آگ کی بتی
۴۴۱	کسی عذر کی بنا پر ریشمی کپڑا استعمال کرنا جائز ہے	۴۲۷	ذالذی
۴۴۲	کسم کارنگا ہوا سرخ کپڑا مردوں کے لئے منع ہے	۴۲۹	کتاب اللباس
۴۴۳	قیص کی فضیلت	۴۲۹	لباس کا بیان
۴۴۳	قیص کی حد	۴۳۰	اسلامی لباس کا خاکہ
۴۴۴	اسبال ہر کپڑے میں ممنوع ہے	۴۳۱	یعنی ”جبہ“ چادر آنحضرتؐ کو بہت پسند تھی
۴۴۵	صحابہ کرام کی ٹوپیاں کیسی ہوتی تھیں	۴۳۱	آنحضرتؐ نے تنگ آستینوں والا جبہ پہنا
	عورتوں کا لباس مردوں سے زیادہ کشادہ	۴۳۲	سفر آخرت کے وقت آنحضرتؐ کے کپڑے
۴۴۶	ہونا چاہئے	۴۳۲	حضور اکرمؐ کا چھوٹا
۴۴۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا گریبان	۴۳۳	آنحضرتؐ کا تکیہ
۴۴۸	سفید کپڑے پہننے کی فضیلت	۴۳۳	سر پر عقال اور رومال ڈالنے کی دلیل
۴۴۸	پگڑی باندھنے کے آداب	۴۳۳	گھر میں تین سے زائد بستر رکھنا منع ہے
۴۴۹	ٹوپی پر عمامہ باندھنا مسلمانوں کی امتیازی علامت ہے	۴۳۴	ازراہ تکبر ٹخنوں سے نیچے پا جامہ لٹکانا منع ہے
۴۵۰	سونار ریشم عورتوں کے لئے حلال ہے	۴۳۴	ٹخنوں سے نیچے شلوار پا جامہ چٹلون لٹکانا حرام ہے
۴۵۰	نیا کپڑا پہننے وقت کی دعا	۴۳۵	پا جامہ لٹکانے والا زمین میں دھنستا چلا گیا
	کھانے اور کپڑے پہننے کے بعد دعا سے سارے	۴۳۵	ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانا دوزخ کا حصہ ہے
۴۵۱	گناہ معاف ہو جاتے ہیں	۴۳۶	اشتمال الصماء جائز نہیں ہے
۴۵۱	پرانے کپڑے کو ضائع نہ کرو	۴۳۷	مردوں کے لئے ریشم استعمال کرنا حرام ہے
۴۵۲	لباس میں سادگی اختیار کرنا ایمان کی علامت ہے	۴۳۸	آخرت کا بد نصیب دنیا میں ریشم پہنتا ہے
۴۵۳	بڑائی کے لئے شہرت کا لباس پہننا اخروی ذلت ہے	۴۳۸	ریشم کے کپڑے پر بیٹھنا بھی منع ہے

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۶۸	عورت کے لئے ایسا باریک لباس منع ہے جس میں جسم نظر آتا ہے	۳۵۳	جو شخص غیر مسلموں کی تقلید اختیار کرے گا وہ وہی بدیہ کا
۳۶۹	نیا کپڑا پہن کر جو دعا پڑھی جاتی ہے	۳۵۴	جو شخص تواضع کرتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے
۳۷۰	حضرت عائشہؓ نے باریک کپڑا پھاڑ ڈالا	۳۵۵	اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا اظہار محمود عمل ہے
۳۷۰	زمانہ بدلتا کیسا کیسا لوگ بدلتے کیسے کیسے؟	۳۵۵	شائستگی اور صفائی اسلام میں محمود عمل ہے
۳۷۱	ریشمی لباس پہننا مردوں کے لئے حرام ہے	۳۵۷	مردوں کے لئے سرخ کپڑا پہننا حرام ہے
۳۷۲	اگر کپڑے کا تاناریشم کا ہو تو مردوں کے لئے جائز ہے	۳۵۷	مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق
۳۷۳	شال استعمال کرنا جائز ہے	۳۵۸	دس باتوں کی ممانعت
۳۷۳	خوب کھاؤ پیو مگر اسراف اور تکبر سے بچو	۳۵۹	مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے
۳۷۴	سفید کپڑوں میں اپنے رب سے ملاقات کرو	۳۶۰	ریشم اور چیتے کی کھال پر بیٹھنا منع ہے
۳۷۵	باب الخاتم	۳۶۰	سبز رنگ کے کپڑے جائز ہیں
۳۷۵	انگوٹھی پہننے کا بیان	۳۶۱	قطری چادر کا ذکر
۳۷۵	سونے کی انگوٹھی مردوں کے لئے حرام ہے	۳۶۱	ایک بد بخت یہودی کا معاملہ
۳۷۶	مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے	۳۶۳	سرخ کپڑے عورتوں کے لئے ہیں مردوں پر حرام ہیں
۳۷۷	مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی دوزخ کی آگ	۳۶۴	سیاہ چادر کا ذکر
۳۷۷	کا انگارہ ہے	۳۶۴	گوٹ مار کر بیٹھنے کا ذکر
۳۷۷	مہربنوی کا نقش	۳۶۴	عورتیں باریک کپڑا کس طرح استعمال کریں
۳۷۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا گکینہ	۳۶۵	کپڑے میں اسراف کرنا منع ہے
۳۷۹	آنحضرت کی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی خنصر میں ہوتی تھی	۳۶۵	ازار و شلوار کا نصف ساق تک ہونا پسندیدہ ہے
۳۷۹	کس انگلی میں انگوٹھی پہنی جائے؟	۳۶۶	ازار لٹکانے کی حرمت بوجہ تکبر ہے
۳۸۰	مردوں کے لئے دائیں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بھی جائز ہے	۳۶۷	اصل میں چادر وغیرہ پیچھے سے گھیننا منع ہے
		۳۶۸	پگڑی باندھنا فرشتوں کی علامت ہے

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۴۹۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خفین کا ہدیہ	۴۸۰	سونا اور ریشمی کپڑا مردوں کے لئے حرام ہے
۴۹۷	باب الترجل	۴۸۱	قلیل مقدار میں سونا استعمال کیا جاسکتا ہے
۴۹۷	کنگھی کرنے کا بیان	۴۸۱	لوہے اور پیتل کی انگوٹھی استعمال کرنا منع ہے
۴۹۷	حائضہ عورت کا بدن ناپاک نہیں ہوتا	۴۸۲	وہ دس اشیاء جن کو حضور اکرمؐ برا سمجھتے تھے
۴۹۷	پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں	۴۸۳	عورت کو بجنے والا زیور پہننا ممنوع ہے
۴۹۹	داڑھی منڈانا اور مونچھ بڑھانا مشرکوں کا کام ہے	۴۸۵	شرعی مجبوری کے تحت سونے کا استعمال جائز ہے
۵۰۰	زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کی آخری مدت	۴۸۶	زیورات میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر شدید وعید
۵۰۱	بالوں میں سیاہ خضاب کرنے کا تفصیلی مسئلہ		اگر جنت میں ریشم اور سونا چاہتے ہو تو دنیا میں
۵۰۳	حضرت ابو بکرؓ کے والد کو خضاب کے بارے میں حکم	۴۸۸	اس سے بچو
۵۰۵	یہود کے برعکس سر کے بالوں میں مانگ نکالنا سنت ہے	۴۸۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی انگوٹھی
۵۰۶	سر کے بالوں میں قزع کرنا منع ہے	۴۸۹	ناجائز لباس یا زیور بچوں کو پہننا بھی منع ہے
۵۰۷	بیمچرہ اور منٹ بننا حرام ہے	۴۹۰	باب النعال
۵۰۸	سر کے بالوں میں مصنوعی بال جوڑنے کا حکم	۴۹۰	پاپوش کا بیان
۵۱۰	تغییر خلق اللہ حرام ہے	۴۹۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ پاپوش
۵۱۱	نظر بد ایک حقیقت ہے	۴۹۱	جوتے کی اہمیت
۵۱۲	مرد کے لئے زعفران کا استعمال منع ہے	۴۹۱	جوتا پہننے اور اتارنے کا مسنون طریقہ
۵۱۳	آنحضرت نے اعلیٰ خوشبو استعمال فرمائی	۴۹۲	ایک پیر میں جوتا ایک نگاہ بے ڈھنگا عمل ہے
۵۱۳	مخلوط اور غیر مخلوط خوشبو کی دھونی کا ذکر	۴۹۳	ایک موزہ پہن کر چلنا منع ہے
۵۱۴	مونچھیں کٹنا قدیم سنت ہے	۴۹۳	آنحضرتؐ کے پاپوش مبارک کے تسے
۵۱۴	مونچھیں بڑھانے والوں کے لئے وعید	۴۹۴	کھڑے ہو کر بعض جوتوں کا پہننا منع ہے
۵۱۴	داڑھی کو اطراف سے برابر کرنے کا حکم	۴۹۴	ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا کیسا ہے؟
۵۱۵	مرد کو خلوق استعمال کرنا جائز نہیں	۴۹۵	جوتے اتار کر بیٹھنا مجلس کے آداب میں سے ہے

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۵۳۶	چند مفید دواؤں کا ذکر	۵۱۶	مردوں اور عورتوں کے عطریات میں فرق
۵۳۷	حمام استعمال کرنے کا ذکر	۵۱۷	آنحضرتؐ کثرت سے سر میں تیل لگاتے تھے
۵۳۷	عورتیں مشترکہ حمامات میں نہ جائیں	۵۱۸	نبی پاکؐ کے گیسوئے مبارک
	جو شخص ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے وہ مشترکہ حمام میں نہ	۵۱۸	آنحضرتؐ کی مانگ کا ذکر
۵۳۹	جائے	۵۱۹	روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت
۵۳۹	آنحضرتؐ نے سر مبارک میں کبھی خضاب نہیں کیا	۵۲۰	زیادہ عیش کی زندگی چھوڑ کر کبھی ننگے پیر چلا کرو
۵۴۰	آنحضرتؐ نے زرد خضاب استعمال کیا ہے	۵۲۱	اگر کوئی بال رکھے تو اس کا اکرام ضروری ہے
۵۴۰	آنحضرتؐ کے بال	۵۲۱	بہترین خضاب کونسا ہوتا ہے؟
۵۴۱	ایک منٹ کو آنحضرتؐ نے شہر بدر کر دیا	۵۲۳	سیاہ خضاب کرنے والے کے لئے شدید وعید
۵۴۱	مرد کے لئے خلوق استعمال کرنا ممنوع ہے	۵۲۳	زرد خضاب کرنا جائز ہے
۵۴۲	اگر کسی کے بال ہوں تو اس کی دیکھ بھال ضروری ہے	۵۲۴	مومن کے سفید بال نورانیت کا سبب ہیں
۵۴۲	غیر مسلموں کی وضع قطع اختیار کرنا منع ہے	۵۲۵	آنحضرتؐ کے جہم، لمہ اور وفرہ کے بال
۵۴۳	عورت کو اپنے سر کے بال منڈانا حرام ہے	۵۲۶	مردوں کے لئے زیادہ لمبے بال اچھے نہیں ہیں
	سر اور داڑھی کے بال بکھرا ہوا ہونا تہذیب کے	۵۲۷	برکت کے بال
۵۴۳	خلاف ہے	۵۲۸	ضرورت کے پیش نظر سر کے بال منڈا دینا جائز ہے
۵۴۴	گھر کے صحن کو صاف رکھو	۵۲۸	لڑکیوں کا خضاب
۵۴۵	بڑھا پا عظمت اور وقار ہے	۵۲۹	عورتوں کے لئے بالوں میں مہندی لگانا جائز ہے
۵۴۶	باب التصاویر	۵۳۰	عورتوں کیلئے ہاتھوں پر مہندی لگانا مستحب ہے
۵۴۶	تصویروں کا بیان	۵۳۱	مردوں اور عورتوں کا لباس میں التباس باعث لعنت ہے
	رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے جہاں شوقیہ		آنحضرتؐ نے اپنے اہل بیت کے لئے سادہ زندگی
۵۴۶	کتایا تصاویر ہوں	۵۳۲	پسند فرمائی
۵۴۷	غیر ضروری اور شوقیہ کتوں کا مارڈالنا ضروری ہے	۵۳۵	سرمہ لگانے کا مسنون طریقہ اور اشد کے فوائد

مضمون

صفحہ نمبر

مضمون

صفحہ نمبر

۵۶۴	طب اور جھاڑ پھونک کا بیان	۵۴۹	حضور اکرم تصاویر والی چیز کو توڑ ڈالتے تھے
۵۶۷	اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے	۵۴۹	جہاں تصویر تھی وہاں حضور اکرم داخل نہیں ہوئے
۵۶۷	دوا صرف ظاہری سبب ہے شفاء اللہ تعالیٰ دیتا ہے	۵۵۰	آنحضرت نے تصاویر کو مٹا ڈالا
۵۶۸	تین چیزوں میں شفاء ہے	۵۵۱	بلا ضرورت دیواروں کو پردے نہ پہناؤ
۵۶۹	احادیث میں داغنے کا ذکر		قیامت میں تصویر کشی کرنے والوں کو سب سے
۵۷۰	کلونجی کی خاصیت	۵۵۲	زیادہ عذاب ہوگا
۵۷۱	شہد میں شفا ہے	۵۵۳	مصور میں ہمت ہے تو چیونٹی پیدا کرے
۵۷۲	قط کے فوائد	۵۵۳	اللہ کے ہاں مصور کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا
	”کوٹ“ سے بچوں کے گلے کی مخصوص بیماری	۵۵۴	جتنی تصویریں بناؤ اتنا عذاب کماؤ
۵۷۲	”عذرہ“ کا علاج	۵۵۴	تین بڑے گناہ اور ان پر عجیب سزا
۵۷۳	”کوٹ“ سے ذات الجنب کا علاج	۵۵۵	نزد شیر کھینے کی مذمت
۵۷۴	بخار کا علاج پانی سے	۵۵۷	مصورین پر محشر میں دوزخ کی گردن مسلط ہوگی
۵۷۵	نظر بد کیلئے جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج کی اجازت	۵۵۷	شراب، جوا اور کوہ حرام ہے
	وہ جھاڑ پھونک جائز ہے جس میں خلاف شرع	۵۵۸	کبوتر بازی ناجائز ہے
۵۷۶	بات نہ ہو	۵۵۹	جاندار کی تصویر کشی کا پیشہ ناجائز ہے
۵۷۷	چھ آیات شفا سے نظر بد کا علاج	۵۶۰	تصاویر کے ذریعہ سے بت پرستی آئی ہے اور آئے گی
۵۷۷	نظر بد کا لگنا ایک حقیقت ہے	۵۶۱	پانچ قسم لوگوں کو قیامت میں شدید ترین عذاب ہوگا
۵۷۹	بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے	۶۲	شطنج کی مذمت
۵۷۹	مریض کو زبردستی کھانا نہ کھلاؤ	۵۶۲	خطا کار آدمی شطنج کھیتا ہے
۵۸۰	سرخ بادہ کا علاج	۵۶۲	شطنج ایک باطل کھیل ہے
۵۸۰	ذات الجنب کا علاج	۵۶۳	کتے اور بلی میں فرق
۵۸۱	سنا بہترین دوا ہے	۵۶۴	کتاب الطب والرقی

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۶۰۲	کھمبی کے خواص	۵۸۲	حرام چیزوں سے علاج مت کرو
۶۰۳	ہر ماہ کے پہلے تین ایام میں شہد چاٹنے سے شفاء	۵۸۳	مہندی سے درد کا علاج
۶۰۴	شفاء کے دو بڑے ذرائع	۵۸۳	مہندی سے زخم اور پھوڑوں کا علاج
۶۰۴	بلا ضرورت کھینچنے لگوانا نقصان دہ ہے	۵۸۴	سینگ کی کھنچوانے کا ذکر
۶۰۵	سینگ کی کھنچوانے کے دن	۵۸۵	سینگ کی کھنچوانے کی اہمیت
۶۰۶	سینگ کی ہوسٹرہوں تاریخ ہو منگل کا دن ہو	۵۸۵	مینڈک کی دوا بنانے کی ممانعت
۶۰۷	باب الفال والطيرة	۵۸۶	آنحضرتؐ کے کھینچنے لگوانے کا بیان
۶۰۷	فال اور طیرہ کا بیان	۵۸۷	کھینچنے لگوانے کے دن اور تاریخیں
۶۰۸	بدشگونی لینا منع ہے		شیطان کس طرح انسان کو غلط منتر جنت پر
۶۰۹	چند بے اصل ادہام اور اس کا بطلان	۵۸۸	مجبور کرتا ہے
۶۱۲	کسی بیماری کا متعدی ہونا بے حقیقت بات ہے	۵۹۰	نشرہ شیطان کا کام ہے
۶۱۳	نوء اور پجھتر کی کوئی حیثیت نہیں ہے	۵۹۱	گلے میں گندے لٹکانے کی مذمت
۶۱۳	غول اور چڑیل ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا	۵۹۲	غلط جھاڑ پھونک منع ہے
۶۱۵	جدامی سے اجتناب	۵۹۳	وہ امراض جن کے لئے جھاڑ پھونک بہت عمدہ ہے
۶۱۵	نیک فال لینا جائز ہے	۵۹۴	عورتوں کو لکھنا سکھانا کیسا ہے؟
	پرندوں کو اڑانا اس کے نام اور آواز سے فال لینا	۵۹۵	نظر بد لگنے کا ایک عجیب واقعہ
۶۱۵	شرک ہے	۵۹۷	معوذتین سے نظر بد کا علاج
۶۱۶	ادہام پرستی سے بچنے کا علاج توکل ہے	۵۹۷	مُعَوِذَاتُ کا مطلب کیا ہے؟
۶۱۷	آنحضرتؐ نے جدامی کے ساتھ کھانا کھایا	۵۹۹	صحت و بیماری کا مرکز معدہ ہے
۶۱۷	بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے	۶۰۰	عجیب قدرتی نظام ہضم
۶۱۸	آنحضرتؐ نیک فال لینے کو پسند فرماتے تھے	۶۰۰	بچھو کے کاٹے کا علاج
۶۱۹	مکان میں بے برکتی کا ذکر	۶۰۱	آنحضرتؐ کے موئے مبارک



صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۶۳۸	جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا	۶۲۰	وبازدہ علاقہ سے بھاگنے کا مسئلہ
۶۳۹	آنحضرت کو خواب میں دیکھنے کی فضیلت	۶۲۱	شگون بد سے بچنے کی دعا
	اچھے اور برے خواب دیکھنے کے وقت آدمی	۶۲۲	باب الکھانۃ
۶۳۹	کیا کرے؟	۶۲۲	کاہنوں کا بیان
۶۴۰	خوابوں کے لئے اصولی ضابطہ	۶۲۳	کہانت اور ربل ناجائز ہے
۶۴۲	ڈراؤ نے اور مہمل خوابوں کی تعبیر نہ پوچھا کرو	۶۲۴	کہانت کی بنیاد کیسی ہے؟
۴۲	خواب کی تعبیر کا ایک ضابطہ	۶۲۵	ایک سچ کے ساتھ سو جھوٹ
۶۴۳	ہجرت سے متعلق آنحضرت کا ایک خواب		نجومیوں کے پاس جانے والے کی چالیس دن کی
۶۴۴	آنحضرت کے ایک اور خواب کی تعبیر	۶۲۵	نمازیں مردود
۶۴۵	عالم برزخ کی سیر سے متعلق ایک خواب	۶۲۶	ستاروں کو بارش کا سبب قرار دینا کفر ہے
	تعبیر کے لئے خواب کو حبیب یا لیب کے	۶۲۷	علم نجوم اور سحر و جادو ایک چیز ہے
۶۴۹	سامنے رکھو	۶۲۷	نجومیوں کی تصدیق کرنا حرام ہے
۶۵۰	ورقہ بن نوفل کا میاب ہو کر مرا ہے	۶۲۸	کاہنوں کو غیب کی بات کس طرح پہنچتی ہے
۶۵۰	اگر ممکن ہو تو بیداری میں خواب پر عمل کراؤ	۶۲۹	شہاب ثاقب کی حقیقت
۶۵۳	جھوٹا خواب بیان کرنا بڑا جھوٹ ہے	۶۳۰	ستارے کس مقصد کے لئے پیدا کیے گئے؟
۶۵۳	صبح کا خواب سچا ہوتا ہے	۶۳۲	نجومی ساحر ہے اور ساحر کا فر ہے
۶۵۴	کتاب الآداب	۶۳۴	کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے نسبت غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے
۶۵۴	آداب کا بیان	۶۳۵	کتاب الرؤیا
۶۵۴	باب السلام	۶۳۵	خوابوں کا بیان
۶۵۴	سلام کا بیان	۶۳۶	سچے خواب مبشرات ہیں
۶۵۵	تخلیق آدم اور فرشتوں کو سلام	۶۳۷	سچا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے
۶۵۶	سلام کرنا بہترین عمل ہے	۶۳۸	حضور اکرمؐ کو خواب میں دیکھنے کی تحقیق

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۶۷۰	خط لکھ کر اس پر مٹی چھڑکنے کی وجہ	۶۵۷	ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھ حق ہیں
۶۷۱	مضمون کے تسلسل کے لئے قلم کان پر رکھنا چاہئے	۶۵۷	آپس میں سلام کرنا محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے
	ضرورت کے تحت غیر مسلموں کی زبان	۶۵۷	کون کس کو سلام کرے؟
۶۷۱	سیکھنا جائز ہے	۶۵۸	حضور اکرمؐ نے بچوں کو سلام کیا ہے
۶۷۲	ملاقات اور رخصت کے وقت سلام کرو	۶۵۸	غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ
۶۷۲	راستہ میں بیٹھنے کا حق ادا کرو	۶۵۹	مسلمانوں سے یہودی عداوت و شرارت
۶۷۳	سلام کی ابتداء حضرت آدمؑ نے کی	۶۶۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم و صبر
	سلام کے ثواب کے حصول کے لئے	۶۶۱	مسلم اور غیر مسلم کی مخلوط مجلس میں سلام کا طریقہ
۶۷۵	بازار کا چکر لگانا	۶۶۱	راستوں اور چبوتروں میں بیٹھنا کب جائز ہے
۶۷۶	سلام میں بخل کرنے والا بڑا بخیل ہے	۶۶۳	اسلامی معاشرہ کے چھ باہمی حقوق
۶۷۷	سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے	۶۶۳	سلام جتنا کامل ہوگا ثواب بھی کامل ملے گا
۶۷۸	باب الاستیذان	۶۶۵	اجنبیات کو سلام کرنے کا حکم
۶۷۸	اجازت لینے کا بیان		ایک آدمی کا سلام کرنا یا جواب دینا پوری جماعت کی
۶۷۸	تین بار سلام پراگر اجازت نہ ملی تو واپس جاؤ	۶۶۵	طرف سے کافی ہے
۶۸۰	حضرت ابن مسعودؓ کا آنحضرتؐ سے قرب		سلام کرنے میں یہود و نصاریٰ کی مشابہت
۶۸۱	اپنا تعارف غیر مبہم الفاظ میں کرنا چاہئے	۶۶۶	اختیار نہ کرو
	قاصد کے ساتھ آنے کے وقت مزید اجازت کی	۶۶۷	ہر نئی ملاقات پر سلام کرنا چاہئے
۶۸۲	ضرورت نہیں	۶۶۷	گھر میں داخل ہوتے یا نکلنے وقت سلام کرو
۶۸۲	سلام کر کے اجازت مانگو	۶۶۸	کلام سے پہلے سلام کرنا چاہئے
	اجازت کے وقت دروازہ سے ہٹ کر کھڑا	۶۶۸	سلام میں جاہلیت قدیمہ و جدیدہ کی تقلید ناجائز ہے
۶۸۳	ہونا چاہئے	۶۶۹	غائبانہ سلام اور اس کا جواب
۶۸۳	گھر میں ماں بھی ہو پھر بھی اجازت مانگ کر جاؤ	۶۷۰	خطوط میں سلام لکھنے کا طریقہ

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۶۹۸	حضرت سعدؓ کے لئے مجلس والوں کا اٹھنا	۶۸۵	حضرت علیؓ کو اجازت کی ایک صورت
۶۹۹	کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھنا جائز نہیں ہے	۶۸۶	باب المصافحة والمعانقة
۶۹۹	مجلس سے کچھ دیر کیلئے اٹھنے والے کی جگہ کا حکم	۶۸۶	مصافحہ اور معانقہ کا بیان
	آنحضرتؐ اپنے لئے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے	۶۸۷	مصافحہ ثابت ہے
۷۰۰	لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا رکھنے کی شدید وعید	۶۸۷	بچے کو چومنا مستحب ہے
۷۰۱	اگر مجلس میں واپس آنا ہو تو نشانی رکھ کر جاؤ	۶۸۸	مصافحہ کی فضیلت
۷۰۲	دو آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھنا منع ہے	۶۸۸	سلام کے وقت جھکنا ممنوع ہے
۷۰۲	مجلس برخاست ہونے پر قیام جائز ہے	۶۸۹	سلام کا ایک طریقہ
۷۰۳	مجلس میں آنے والے شخص کو اہمیت دینا سنت ہے	۶۸۹	سفر سے آنے والے سے معانقہ اور تقبیل جائز ہے
۷۰۴	باب الجلوس والنوم والمشي	۶۹۰	معانقہ جائز ہے
۷۰۴	بیٹھنے لیٹنے اور چلنے کا بیان	۶۹۰	حضرت عکرمہؓ کی آمد پر معانقہ
۷۰۴	گوٹ مار کر بیٹھنا جائز ہے	۶۹۱	ایک شخص کا آنحضرتؐ کو بوسہ دینے کا عجیب قصہ
۷۰۴	آنحضرتؐ کا مسجد میں آرام کرنا ثابت ہے	۶۹۲	پیشانی پر بوسہ دینا ثابت ہے
۷۰۵	ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر چپ لیٹنا منع ہے	۶۹۲	قدوم جعفر پر خوشی
۷۰۶	تکبر کی چال چلنے والے کا انجام	۶۹۳	پاؤں کو بوسہ دینا کیسا ہے؟
۷۰۶	آنحضرتؐ نے تکیہ استعمال کیا ہے	۶۹۳	حضرت فاطمہؓ کا عمل
۷۰۶	گوٹ مار کر بیٹھنے کا ذکر	۶۹۴	حضرت صدیق کا عمل
۷۰۷	کبھی آنحضرتؐ قرفصاء کی صورت میں بیٹھتے تھے	۶۹۴	اولاد گل ریحان کی مانند ہیں
۷۰۷	آنحضرتؐ فجر کی نماز کے بعد چاشت تک بیٹھتے تھے	۶۹۵	ہدیہ دیا کرو محبت بڑھے گی
۷۰۸	آنحضرتؐ کے پڑاؤ ڈالنے کا طریقہ	۶۹۶	مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں
۷۰۸	آنحضرتؐ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا کر کبھی نہیں سوتے	۶۹۷	باب القیام
		۶۹۷	تعظیماً کھڑے ہونے کا بیان

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۷۲۲	چھینک کے وقت السلام علیکم پر حضورؐ ناراض ہوئے	۷۰۹	پیٹ اور منہ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہے
۷۲۳	تین بار تک چھینک کا جواب آخری حد ہے	۷۱۰	چہار دیواری یا پردہ کے بغیر چھت پر سونا منع ہے
۷۲۴	شارع کے وضع کردہ الفاظ کی پابندی ضروری ہے	۷۱۱	حلقہ کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت
۷۲۵	باب الضحک	۷۱۲	بہترین مجلس وہ ہے جو کشادہ جگہ میں ہو
۷۲۵	ہنسنے کا بیان	۷۱۳	ایسی جگہ نہ بیٹھو جہاں کچھ سایہ اور کچھ دھوپ ہو
۷۲۵	آنحضرتؐ تبسم فرماتے تھے	۷۱۳	عورتوں کو راستے کے کنارے پر چلنے کا حکم ہے
۷۲۵	آنحضرتؐ کا جریر بن عبد اللہ کے ساتھ معاملہ	۷۱۴	مرکود و عورتوں کے درمیان نہیں چلنا چاہئے
۷۲۶	قصہ ہائے پارینہ پر ہنسنا جائز ہے	۷۱۵	مجلس میں جہاں جگہ دیکھو وہاں بیٹھو
۷۲۷	حضور اکرمؐ بہت مسکراتے تھے	۷۱۵	بیٹھنے کا ایک ممنوع طریقہ
۷۲۷	صحابہ کرامؓ خوب ہنستے تھے	۷۱۶	منہ کے بل لیٹنا دوزخیوں کا طریقہ ہے
۷۲۸	باب الأسماء	۷۱۷	باب العطاس والتثاؤب
۷۲۸	ناموں کا بیان	۷۱۷	چھینکنے اور جمائی لینے کا بیان
۷۲۸	آنحضرتؐ کی کنیت پر اپنی کنیت رکھنے کا حکم	۷۱۷	چھینکنے سے رحمان اور جمائی سے شیطان خوش ہوتا ہے
۷۳۰	مجھے میرے رب نے قاسم بنایا ہے	۷۱۸	چھینک کے جواب کا مسنون طریقہ
۷۳۰	عبد اللہ اور عبد الرحمن سب سے بہتر نام ہیں	۷۱۸	چھینکنے والا اگر الحمد للہ نہ کہے تو وہ جواب کا مستحق
۷۳۱	غلام کا نام یسار اور افرح نہ رکھو	۷۱۹	نہیں ہے
۷۳۱	اب افرح اور یسار نام رکھنا جائز ہے	۷۲۰	مزکوم شخص کی چھینک کا جواب دینا لازم نہیں
۷۳۲	فقیح ترین نام اور لقب شہنشاہ ہے	۷۲۰	جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھو
۷۳۲	ایسا نام مناسب نہیں جس میں خود رائی ہو	۷۲۰	چھینک کے وقت منہ ڈھانک کر آواز پست کرنا
۷۳۳	برانا نام تبدیل کرنا چاہئے	۷۲۰	چاہئے
۷۳۴	اپنے غلام اور لونڈی کو عبدی و امتی نہیں کہنا چاہئے	۷۲۱	چھینک اور اس کا جواب
۷۳۵	انگور کو "کرم" کہنے کی ممانعت	۷۲۱	یہود کی چھینک پر آنحضرتؐ کا جواب

مضمون

صفحہ نمبر

مضمون

صفحہ نمبر

	۷۳۵	زمانہ کو برانہ کہو
	۷۳۶	اپنے آپ کو خبیث نہ کہو
	۷۳۶	ابوالحکم کی کنیت مناسب نہیں ہے
	۷۳۷	اجدع نام رکھنا اچھا نہیں ہے
	۷۳۸	اچھے نام رکھو
	۷۳۸	آنحضرت کا نام اور کنیت ایک ساتھ نہ رکھو
	۷۳۹	آنحضرت کے نام اور کنیت رکھنے کی اجازت
	۷۳۹	حضرت انس کی کنیت
	۷۴۰	آنحضرت نے کئی نام تبدیل فرمائے
	۷۴۱	زعموا کا لفظ جھوٹ کا پل ہے
	۷۴۲	شرک فعلی کی طرح شرک قولی سے بچنا بھی ضروری ہے
	۷۴۳	منافق کو سردار مت کہو
	۷۴۳	برے نام کا بُرا اثر پڑتا ہے
	۷۴۴	اچھے اور سچے نام

## کتاب الجہاد

### جہاد کا بیان

قال الله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾  
وقال الله تعالى ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (سورة النساء)

### جہاد کی تعریف

(۱) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الْجِهَادُ؟ قَالَ  
أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ قِيلَ فَإِي الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ عَقَرَ جَوَادُهُ وَأَهْرَيْقَ دَمُهُ.

(کنز العمال جلد ۱ صفحہ ۲۷ و طبرانی و مسند احمد)

ترجمہ ”حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ  
جہاد کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد یہ ہے کہ تم بوقت مقابلہ کفار سے لڑائی لڑو پوچھا گیا کہ افضل  
ترین جہاد کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا جہاد سب سے افضل ہے جس کا گھوڑا مارا جائے  
اور پھر خود اس کا خون بہایا جائے۔“

(۲) قَالَ وَمَا الْجِهَادُ؟ قَالَ أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ وَلَا تَغْلَّ وَلَا تَجُنَّ.

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان و رواہ کنز العمال جلد ۱ صفحہ ۷۶)

(ترجمہ ”ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا کہ جہاد یہ ہے کہ تم بوقت مقابلہ کفار سے لڑائی لڑو اور اس راستہ میں نہ خیانت کرو اور نہ بزدلی دکھاؤ۔“

(۳) الْجِهَادُ بِكُسْرِ الْجِيمِ أَصْلُهُ لُغَةٌ هُوَ الْمَشَقَّةُ وَشَرْعًا بَدَلُ الْجُهْدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ.

(فتح الباری جلد ۶ صفحہ ۴)

ترجمہ ”جہاد کسرہ جیم کے ساتھ لغت میں محنت و مشقت کے معنی میں ہے اور اصطلاح شریعت میں کفار سے لڑنے میں اپنی  
پوری طاقت استعمال کرنے کا نام جہاد ہے۔“



## فائدہ

مذکورہ بالا جہاد کی شرعی تعریفات ہیں ہر تعریف میں کفار سے لڑنے اور لڑائی کا ذکر ہے نیز ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکوٰۃ کی شرح مرقاۃ میں جہاد کی تعریف اس طرح کی ہے ”اپنی پوری توانائی کو کفار سے لڑنے میں صرف کرنے کا نام شریعت میں جہاد ہے۔“ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں جہاد کی شرعی تعریف اس طرح کی ہے ”اپنی پوری طاقت کفار کے مار بھگانے میں صرف کرنے کا نام جہاد ہے“ کتاب شرعۃ الاسلام کی شرح میں جہاد کی اس طرح تعریف کی ہے ”دین کے دشمنوں کو مغلوب کرنے اور کفار سے لڑنے کا نام جہاد ہے“ اسی طرح قاموس نے یہ تعریف کی ہے ”دشمنان اسلام سے لڑنے کا نام جہاد ہے“ ان تمام تعریفات کے پیش نظر ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جہاد کے اسی شرعی مفہوم کو اپنائے، کیونکہ شریعت میں احکام کا مدار شرعی اصطلاحی مفہوم پر رکھا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی کو جہاد سمجھ کر کفار کے مقابلے کے لئے مسلح ہو کر نکلا کرتے تھے اور پھر میدان میں بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے، انہوں نے جہاد کے لغوی معنی کو نہیں دیکھا کہ جہاد صرف مشقت اور محنت کا نام ہے جس میں کفار سے لڑنے اور مقابلہ کرنے اور تلوار اٹھانے کی کبھی نوبت ہی نہیں آتی۔ شرعی احکام میں لغوی مفہوم اختیار کرنے سے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے مثلاً کوئی شخص صلوٰۃ کے لغوی مفہوم کو اپنا کر کہتا ہے کہ صلوٰۃ کا معنی دعاء ہے میں صرف دعا کروں گا نماز نہیں پڑھوں گا یا صوم یعنی روزہ کا مفہوم تھوڑی دیر کے لئے کھانے پینے سے رکنا ہے اب ایک شخص کچھ وقت کے لئے کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بس روزہ ہو گیا یا کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ زکوٰۃ پاکیزگی کا نام ہے اور میں یہ پاکیزگی کسی اور طرح سے حاصل کر لوں گا یا حج کا لغوی مفہوم قصد کرنا ہے اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے گھر جانے کا قصد کر لیا ہے مسجد وغیرہ جانے کا قصد کر لیا ہے بس اب حج ہو گیا تو دیکھئے لغوی مفہوم مراد لینے سے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ شریعت کے اصل حکم سے یہ شخص محروم رہ گیا اور لغوی مفہوم سے کچھ بھی ہاتھ نہ آیا اسی طرح جہاد کو صرف مشقت اور محنت کا نام دے کر کفار سے لڑنے کے لئے نہ نکلنا اپنا ہی نقصان کرنا ہے، دیکھئے ذکر یہ فرقہ نے نماز کو ذکر کے مفہوم میں لیا اور اصل تعریف کو چھوڑ دیا تو پورے دین سے محروم ہو گئے۔

## جہاد کی اقسام

﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (سورۃ نساء ۲۶)

”اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو گھر میں بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم دیا ہے۔“

قرآن کریم کی اس آیت اور احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے جہاد کی بڑی بڑی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں اور دونوں قسمیں فرض ہیں قسم اول کو فرض کفایہ کہتے ہیں اور قسم ثانی کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ جہاد کے اپنے احوال کے تحت ہوتا ہے کہ حالات کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاد فرض کفایہ کے درجے میں چلا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی حالات اتنے سنگین ہو جاتے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے بہر حال دونوں حالتوں میں جہاد فرض کے درجے میں رہتا ہے جہاد کا کوئی درجہ فرض سے کم نہیں۔

### قسم اول فرض کفایہ

جب مسلمانوں کو پورے عالم میں غلبہ اور شوکت حاصل ہو تو اس وقت فریضہ جہاد کو باقی اور جاری رکھنے کے لئے اور اسلام کو مزید پھیلانے کے لئے دنیا کے کسی حصہ میں ایک ایسی جماعت ہو جو کفار کے ساتھ برسرِ پیکار اور جہاد میں مصروف ہو ایسی حالت میں جہاد فرض کفایہ ہو جاتا ہے اس لئے کہ ایک جماعت نے جب یہ کام سنبھال لیا تو باقی مسلمانوں کا ذمہ ساقط ہو جائے گا بشرطیکہ کفار کے مقابلے کے لئے یہ جماعت کافی ہو اور اگر دنیا کے تمام مسلمانوں نے جہاد کو یکسر چھوڑ دیا تو سارے کے سارے گناہ گار ہو جائیں گے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے ”ان ترکوا جمیعا ثم الککل“ یعنی اگر تمام مسلمانوں نے عمل جہاد کو ترک کر دیا تو سب گناہ گار ہوں گے اس قسم کی عبارات فقہ کی دوسری بڑی کتابوں اور فتاویٰ میں موجود ہیں جہاد کی اس قسم کو جہاد اقدامی بھی کہتے ہیں اور یہ فرض کفایہ ہوتا ہے اس کے لئے چند شرائط بھی ہیں۔

(۱) والدین اور سرپرست کی اجازت (۲) امارت شرعیہ (۳) بعض کے یہاں طاقت کا توازن (۴) دعوت الی الاسلام، یاد رہے جہاد سے پہلے جو دعوت کفار کو دی جاتی ہے اور جس پر جہاد موقوف ہوتا ہے اس دعوت کے تین جملے ہوتے ہیں۔ (۱) اسلام قبول کرو (۲) ورنہ جزیہ ادا کرو (۳) نہیں تو پھر میدان جنگ میں لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ دعوت بھی ان کفار کے لئے ضروری ہے جنہوں نے کسی طور پر اسلام کا نام نہ سنا ہو اور نہ اسلام سے واقف ہوں لیکن جن لوگوں کو ایک بار دعوت اسلام پہنچ چکی ہو یا انہوں نے کسی نشریاتی ذریعہ سے اسلام کا نام سنا ہو ان کو دوبارہ میدان جنگ میں دعوت دینا صرف مستحب ہے۔ خلاصہ یہ کہ جہاد چونکہ کفار سے ہوتا ہے تو یہ دعوت بھی کفار ہی کے ساتھ خاص ہوگی اس کی مزید تفصیل ان شاء اللہ کسی مقام پر آئے گی۔ قرآن عظیم کی مذکورہ آیت ہی سے علماء اور فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اس قسم کو مستنبط کیا ہے کیونکہ

آیت میں دو جماعتوں کا ذکر ہے اور دونوں مقبول ہیں ایک وہ جماعت ہے جو گھر میں بیٹھ کر عبادت اور دوسرے نیک کاموں میں مشغول رہتی ہے اور ایک وہ جماعت ہے جو جہاد کے لئے کفار کے مقابلے پر نکلی ہوئی ہے اب گھر میں بیٹھنے کی جب ان کو اجازت مل گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک قسم جہاد کی ایسی بھی ہے جس سے کچھ لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں اور وہی فرض کفایہ ہے اب نکلنے والے مجاہد ہوئے جن کا بہت بڑا درجہ ہے اور بیٹھنے والے اس وقت مجاہد نہیں ہوئے اور ان کا درجہ بھی کم رہا اگرچہ وہ تمام عبادات میں مشغول تھے اس آیت سے دو باتیں واضح ہو گئیں ایک یہ کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں ان میں ایک فرض کفایہ ہے اور ایک فرض عین ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہر عابد اور جہاد کے علاوہ دوسرے نیک کام کرنے والے کو مجاہد نہیں کہا جاسکتا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے:-

”اس سے معلوم ہو گیا جہاد فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں یعنی اگر مسلمانوں کی کافی مقدار اور ضرورت کے موافق جماعت

جہاد کرتی رہے تو جہاد نہ کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔“ (تفسیر عثمانی ۱۲۳)

اسی قسم کا مضمون اس آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے (سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۰۴)

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾

یعنی ”چاہئے کہ رہے تم میں ایک جماعت بلا تے نیک کام پر اور حکم کرتے پسند بات کو اور منع کرتے ناپسند کو اور وہی پینچے مراد کو“

اس آیت کے تحت شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:-

”معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں فرض ہے ایک جماعت قائم رہے جہاد کرنے کو اور دین کا تقید رکھنے کو تا خلاف دین کوئی نہ کرے اور جو اس کام پر قائم ہوں وہی کامیاب ہیں اور یہ کہ کوئی کسی سے تعرض نہ کرے موسیٰ بدین خود عیسیٰ بدین خود یہ راہ مسلمانی کی نہیں۔“ (موضح القرآن صفحہ ۱۰۱)

## قسم دوم فرض عین

اور اگر کفار مسلمانوں کے کسی علاقے پر چڑھائی کرتے ہیں، لوگوں کو مار بھگاتے ہیں اور عزت و مال کو لوٹ لیتے ہیں اور مسلمان دفاعی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت جہاد کی یہ قسم دفاعی اور فرض عین ہو جاتی ہے یہ جہاد پہلے قرب و جوار کے لوگوں پر فرض عین ہے اگر وہ ناکافی ہوں تو رفتہ رفتہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے جہاد کی اس قسم کے لئے شرائط نہیں ہیں، بس نفیر عام پر سب مسلمانوں کو نکلنا ہو گا غلام کو آقا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں نہ بیٹے کو باپ سے اور نہ بیوی کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت ہے بس جو کچھ ہاتھ لگا اسے اٹھا کر مقابلہ کے لئے نکلنا ہو گا اس وقت دعوت الی الاسلام بھی ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ سرخسی اور فتاویٰ تاتارخانیہ اور فقہ کی دیگر کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے حضرت

مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے الکوکب الدرری شرح ترمذی میں علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”وان هجمو علينا سقطت الدعوة“ (یعنی اگر کفار نے ہم پر چڑھائی کر کے ہلہ بول دیا تو دعوت ساقط ہو جائیگی)۔ صاحب بحر الرائق نے کتاب الجہاد میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت مشرق میں کافروں نے قید کر لی تو مغرب تک تمام مسلمانوں پر اس کو کافروں کی قید سے چھڑانا فرض عین ہے۔ باقی جہاد فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم سب مسلمانوں کی طرف ذاتی اور شخصی طور پر متوجہ ہو جاتا ہے تو کسی کی باری آج آئے گی وہ جائیں گے اور کسی کی باری بعد میں آئے گی جب جانے والے لوٹ آئیں گے اس طرح ایک دستہ جائے گا جب وہ واپس آئے گا تو دوسرا جائے گا تو نظام بھی چلتا رہے گا اور جہاد کا کام بھی ہوتا رہے گا جس طرح حج فرض عین ہے لیکن سب دنیا والے ایک ہی سال میں نہیں جاتے بلکہ موقع بموقع جاتے آتے ہیں فتح القدر نے اس بات کو اسی طرح لکھا ہے، یہ بات بھی یاد رہے کہ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ، سعید بن المسیب رحمہ اللہ، ابن شبرمہ رحمہ اللہ اور کچھ دوسرے فقہاء کرام کے نزدیک جہاد کی ایک ہی قسم ہے وہ فرماتے ہیں کہ جہاد فرض عین ہی ہے فرض کفایہ نہیں تاہم عام فقہاء نے یہ تقسیم کی ہے ہم اس تقسیم کے قائل ہیں مگر اس وقت دنیا میں تقریباً ہر جگہ مسلمان دفاع میں جہاد لڑ رہے ہیں جو فرض عین ہے۔ نفیر عام کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ وقت کا بادشاہ یا جہاد کا عام امیر لوگوں کے نکلنے کا عام اعلان کر دے دوسری صورت یہ کہ مظلومین اور بے بس مسلمانوں کی فریاد کسی طرح کسی کے کانوں تک پہنچ جائے۔ (تاتارخانیہ)

## جہاد کی چند انواع

﴿وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالْأَسْتِثْمُ﴾ (مشکوٰۃ صفحہ ۳۳۲)

”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے خلاف جہاد کرو اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے۔“

اس حدیث میں جہاد کی تین انواع کا ذکر آیا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں اور جنکی کچھ تفصیل ہے۔

## جہاد بالمال

اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کا مال جہاد اور مجاہدین کے کام میں آجائے اور اس سے براہ راست میدان جہاد کو فائدہ پہنچ جائے اگر ایک شخص کسی غریب فقیر کو مال دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے یا اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کرتا ہے یہ ایک نیک کام تو ہو سکتا ہے اور اس پر اس کو ثواب بھی مل سکتا ہے لیکن اس سے وہ شخص اپنے آپ کو مجاہد بالمال نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا مال بے شک ایک نیک جگہ میں لگ گیا مگر جہاد میں نہیں لگا اگر وہ اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے مالی جہاد کیا تو یہ بات

اور یہ خیال بے محل ہوگا حدیث میں ”مشرکین کے خلاف اپنے مالوں سے جہاد کرو“ کے الفاظ آئے ہیں یہاں کس مشرک کے خلاف اس نے اپنا مال خرچ کیا ہے کہ وہ جہاد بالمال کا ثواب حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے؟ قرآن وحدیث میں جہاد بالمال کی بہت ترغیب آئی ہے کیونکہ مال کے بغیر جہاد کا عمل معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور مالی جہاد ہر آدمی کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ مال کو مقدم رکھا ہے۔

## جہاد بالنفس

جہاد بالنفس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو جہاد میں استعمال کرے کفار سے مقابلوں کے لئے میدان جہاد میں اس نفس کو دھکیل دے اور حق وباطل کے معرکوں میں اس نفس کو مکمل طور پر جھونک دے ”جہاد بالنفس“ عربی کا کلمہ ہے اور بالنفس میں با کا لفظ آلہ پر داخل ہے یعنی ”نفس کے ساتھ جہاد کرنا“ یہ لفظ ایسا ہے جیسے کوئی کہدے بندوق کے ساتھ جہاد یا تلوار کے ساتھ جہاد، راکٹ لانچر کے ساتھ جہاد، توپ کے ساتھ جہاد، کلاشنکوف کے ساتھ جہاد، یہ جتنے آلات حرب وضرب ہیں اس پر ”ب“ کے داخل ہونے کے بعد یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ ان اشیاء کو بطور آلہ استعمال کیا گیا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس شخص نے جہاد بالسیف کیا یعنی تلوار کے مقابلہ میں آ کر تلوار کو مارنا شروع کر دیا بلکہ اس کا عربی محاورہ میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس شخص نے جہاد کے میدان میں تلوار کو استعمال کیا اور تلوار لے کر اس کے ساتھ کفار سے مقابلہ کیا بالکل اسی طرح جہاد بالنفس کا مطلب ہے کہ اس نفس کو کفار کے مقابلے میں استعمال کیا جائے یہی مطلب صحابہ کرامؓ نے اور سلف صالحین نے اس جملے کا لیا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں ”والمجاهد من جاهد نفسه بنفسه“ یعنی ”مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے اسی نفس کے ذریعہ جہاد کرے“ یعنی نفس کو جہاد کے میدان میں ڈال دے اور اسے مقابلہ کفار میں استعمال کرے یہ نفس کے ذریعہ سے کفار سے مقابلہ بھی ہوا اور اس ضمن میں نفس کا مجاہدہ بھی ہوا کیونکہ نفس کا مجاہدہ اسی عمل سے ہوتا ہے جو نفس کی خواہش کے خلاف ہو اور یہ بات ظاہر ہے کہ جہاد میں جا کر لڑنا نفس کو کتنا دشوار معلوم ہوتا ہے جہاد بالنفس کے متعلق ایک حدیث کا حوالہ بھی لوگ دیتے ہیں جس کی روشنی میں جہاد کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں ایک چھوٹا جہاد اور دوسرا بڑا جہاد اس حدیث سے متعلق بحث بھی ملاحظہ فرمائیں۔

## جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی بحث

جب قوموں کا زوال شروع ہو جاتا ہے تو ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں اور جب ہمتیں پست ہو جاتی ہیں تو پھر زبان پر کزور جملے آتے ہیں دل و دماغ میں ہر وہ فلسفہ بیٹھ جاتا ہے جو آدمی کو پستی کی طرف لے جاتا ہے پھر اس وقت دشمن آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور زوال پذیر قوم خود بخود اپنے زوال کے منصوبے بناتی رہتی ہے چنانچہ اسلام کا سنہرا دور جب چلا گیا اور اسلام کے

بلند و بالا جھنڈے نیچے اترنے لگے اور عزت و عظمت اور شان و شوکت کے بعد جب مسلمان مجموعی اعتبار سے پستی کی طرف گرنے لگے تو ان کے ہاں ایسے معذرت خواہانہ جملے رائج ہونے لگے جن کی روشنی میں آرام طلبی سہولت پسندی کے اچھے مواقع تو فراہم ہو گئے لیکن اس کے ضمن میں مسلمان کسی کارنامے، کردار یا تاریخ سازی کی حیثیت سے محروم ہو گئے، اسی محرومی کے زمانے کا ایک جملہ گھڑ لیا گیا اور اس کو حدیث کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات کا رخ اعداء اسلام کے بجائے اپنی ہی جانوں کی طرف مڑ جائے اور ”قہر درویش بر جان درویش“ کا مکمل مصداق بن جائے، راہ فرار اختیار کرنے کے لئے جس جملے کو حدیث کا نام دے کر اس کی خوب تشہیر کی گئی وہ یہ ہے۔

”رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ قَالُوا وَمَا لَ جِهَادٍ الْأَكْبَرِ؟ قَالَ جِهَادُ الْقَلْبِ“۔

یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد کی طرف آگئے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہاد اکبر کون سا جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نفس کا جہاد (یعنی کفار سے لڑنا چھوٹا جہاد ہے) ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موضوعات کبیر میں حرف الراء کے ضمن میں (صفحہ ۱۲۷) پر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حوالہ سے فرمایا کہ لوگوں کے ہاں یہ حدیث زبانوں پر چڑھی ہوئی ہے حالانکہ یہ ابراہیم بن عبدلہ نامی شخص کا مقولہ ہے۔

(۱) تنظیم الاشتات شرح مشکوٰۃ جلد ۶ صفحہ ۶۹ میں اس حدیث کے متعلق بحوالہ تعلیق الصبح اور تفسیر بیضاوی لکھا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”هَذَا حَدِيثٌ لَا أَصْلَ لَهُ“ یعنی اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔

(۲) اسی طرح فتاویٰ عزیزی صفحہ ۱۰۲ میں شاہ عبدالعزیز نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ کلام صوفیاء کرام کی کتابوں میں اکثر پایا جاتا ہے اور یہ ان کے نزدیک حدیث نبوی ہے بلکہ بعض علماء محدثین نے بھی یہ عبارت ذکر کی ہے اس غرض سے کہ اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا افضل ہے مگر مجھ کو یاد نہیں کہ حدیث کی کسی کتاب میں یہ عبارت میں نے دیکھی ہے۔ بہر حال جہاد اکبر سے مراد یہ نہیں کہ جہاد سے فارغ ہو کر واپس آئے، بلکہ جہاد اکبر سے مراد جہاد اکبر ہے کہ نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد کیا جائے یہ تفسیر صوفیاء کے خیال کے مطابق ہے اور جمیع علماء کے خلاف ہے کہ جہاد اکبر سے مراد جہاد سے فارغ ہو کر آنا ہے اور سلیقہ کتاب دانی اور عبارت شناسی اس خیال سے بالکل متنفر ہے اس واسطے کہ مراجعت یعنی واپسی آنا لفظ رجعتا سے مفہوم ہوتا ہے۔

اور جہاد اصغر ابتداء کی غایت ہے اور جہاد اکبر انتہاء کی غایت ہے اور دونوں غایت جس چیز کی غایت ہوتی ہے اس سے مغایر ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دونوں جہاد اصغر اور جہاد اکبر مراجعت یعنی واپسی کے مغایر ہیں۔

شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہ کلام ذرا مغلق ہے لیکن اس سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک یہ کلام صوفیاء کا کلام ہو سکتا ہے مگر حدیث نہیں ہے نیز مفہوم کے لحاظ سے بھی تمام علماء نے اس کلام کو جہاد اصغر سے واپس جہاد اکبر کی

طرف لوٹنے کے معنی پر نہیں لیا ہے نیز عبارات کے سمجھنے کا سلیقہ بھی اس طرح نہیں ہے۔ اور کتاب دانی کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے آگے شاہ صاحب نے عبارت پر اعتراض کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی ہے۔

(۳) مشارع الاشواق الی مصارع العشاق کے مقدمہ (صفحہ ۳۰) پر لکھا ہے کہ دشمنان اسلام نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس دفاع کے لئے اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے جہاد ایک عظیم بنیادی طاقت ہے اور جب تک جہاد قائم رہے گا تو دشمنان اسلام کے پیر کہیں جم نہیں سکتے کیونکہ جہاد کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں نے نصف صدی سے بھی کم مدت میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا تاریخ کے صفحات پر جب کفار نے اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے جہاد کو توڑنے اور اسے کمزور کرنے کے لئے کئی سال تک گٹھ جوڑ کر کے غور و حوض کیا یہاں تک کہ انہوں نے اس مشکل کا حل ڈھونڈ لیا اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو آسائش و آرائش میں ڈال کر جہاد سے ہٹا لیا جائے پھر اس کے لئے کفار نے ایک مہذب طریقہ اختیار کر لیا اور وہ یہ کہ انہوں نے جہاد کی اصغر اور اکبر کی طرف تقسیم کر دی کہ نفس کے ساتھ جہاد بڑا جہاد ہے اور کفار سے جہاد کرنا چھوٹا جہاد ہے پھر اس مقصد کے حصول کے لئے دشمنان اسلام نے احادیث گھڑ لیں اور اس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت سے مسلمان اسے جلدی قبول کر لیں گے چنانچہ انہوں نے ”رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر“ کی حدیث گھڑی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح جھوٹ ہے اور احادیث کی کتابوں میں مطلقاً یہ حدیث موجود نہیں ہیں ابراہیم بن علیہ رحمہ اللہ اگر چہ ثقہ آدمی ہیں مگر دارقطنی نے کہا ہے کہ ان کی طرف بھی اس عبارت کی نسبت واضح نہیں ہے پھر اس گھڑی ہوئی حدیث کا اثر کمزور مسلمانوں پر اس طرح ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ نفس و شیطان کا مقابلہ بڑا جہاد ہے تو وہ کفار سے جہاد کرنے سے باز آ گئے اور کنارہ کش ہو کر تنبیج اور ذکر و فکر میں مشغول ہو کر دنیا کو کفار کیلئے خالی چھوڑ گئے تو کفار غالب آ گئے اور مسلمان غلام ہو کر رہ گئے۔

(۴) خطیب بغدادی وغیرہ نے اس عبارت سے ذرا مختلف ایک اور حدیث کا ذکر کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے جب واپس آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا خوش آمدید خوش آمدید تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہو صحابہ نے پوچھا کہ بڑا جہاد کون سا ہے تو آپ نے فرمایا بندے کا اپنی خواہشات کے خلاف مجاہدہ کرنا بڑا جہاد ہے۔ اس حدیث پر بھی محدثین نے جرح کی ہے چنانچہ اس میں ایک راوی ”خلف بن محمد خیام“ ہے حاکم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی حدیثیں ناقابل اعتبار ہیں اور ابویعلیٰ خللی نے فرمایا کہ یہ بہت ہی ضعیف تھا ان کو اشتباہ ہوتا تھا اور کبھی ایسی حدیثیں نقل کرتا تھا جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ابوزرعرہ رحمہ اللہ نے بھی ان کی روایت کردہ حدیثوں سے براءت کا اعلان کیا تھا اس روایت میں ایک راوی یحییٰ بن علاء ہیں ان کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا جو حدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا ابن عدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس

آدمی کی ساری حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ جو یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور نے تبوک کے غزوہ سے واپسی پر فرمایا کہ:

﴿رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ فَلَا أَصْلَ لَهُ﴾

یعنی ”ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔“ (مقدمہ مشارع الاشواق صفحہ ۳۱)  
جہاد مع النفس اور جہاد الکفار کے متعلق ترمذی شریف کی ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے کوکب الدرری جلد ۱ صفحہ ۴۲۵ پر اس طرح لکھا ہے۔

﴿وَلَا يَخْفَى مَا بَيْنَ الْجِهَادَيْنِ مِنَ الْإِتِّصَالِ فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْكُفَّارِ لَا تَخْلُو عَنْ مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ وَلَا تُتَصَوَّرُ دُونَهَا وَمُجَاهَدَةُ النَّفْسِ إِذَا كُمِلَتْ لَا تَكَادُ تَتْرُكُ الرَّجُلَ لَا يُجَاهِدُ الْكُفَّارَ بِلِسَانِهِ أَوْ بَسَانِهِ﴾

”اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ جہاد مع النفس اور جہاد الکفار دونوں میں آپس میں ایک جوڑ اور اتصال ہے کیونکہ کفار سے لڑنے میں نفس کا مجاہدہ ہوتا ہی ہے نفس کے مجاہدے کے بغیر کفار سے لڑنے کا تصور ممکن نہیں ہے اور رہ گیا نفس کا مجاہدہ تو یہ مجاہدہ نفس جب مکمل ہو جائے تو یہ آدمی کو کفار سے لڑائے بغیر چھوڑتا ہی نہیں چاہے زبان سے یا تلو اور سنان سے۔“

(۵) ان تفصیلات کے بعد میں اس بحث کی ابتداء کی آیت ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ کی طرف لوٹتا ہوں کہ اس آیت کے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں، ان میں ایک جماعت آیت کے اترنے کے وقت وہ تھی جو جہاد پر نکل چکی تھی اور ایک جماعت وہ تھی جو جہاد پر نہیں نکلی تھی کیونکہ فرض کفایہ کی صورت میں ان کو نہ جانے کی اجازت تھی البتہ جو جماعت جہاد پر گئی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دو امتیازات سے ممتاز کر دیا ایک یہ کہ بیٹھنے والوں اور نہ جانے والوں کے مقابلے میں جانے والوں کا درجہ بہت اونچا ہے اور ان کو اجر عظیم ملے گا دوسرا یہ کہ جانے والے مجاہدین ہیں اور اس وقت جہاد پر نہ جانے والے قاعدین (یعنی بیٹھنے والے) مجاہدین نہیں ہیں، اب غور کرنا چاہئے کہ جو صحابہ کرام مسجد نبوی میں رہ گئے تھے وہ سارے کے سارے نمازی، تہجد گزار تھے، روزہ رکھنے والے تھے نفلی عبادات، صدقات اور نفس کے ریاضیات میں بہت زیادہ مشغول تھے لیکن ان تمام محنتوں اور نفس کے مجاہدہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مجاہدین نہیں فرمایا بلکہ مجاہدین وہی ہوئے جو کفار سے لڑنے کے لئے نکلے تھے اگر نفس سے مجاہدہ کرنے والا بھی مجاہد ہو جائے تو پھر ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ﴾ کا کیا مطلب لیا جاسکتا ہے؟ پھر تو آیت کا مفہوم سمجھنا دشوار ہو جائے گا نیز ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سلف صالحین نے جہاد کے متعلق جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں سب جہاد مع الکفار ہی کے حوالے سے لکھی ہیں نفس سے ریاضت کے لئے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا نام انہوں نے کتاب الزہد رکھا ہے آج تک اسلام میں ایک کتاب بھی ایسی موجود نہیں ہے



جو کسی نے کتاب الجہاد یا فضائل الجہاد کے نام سے موسوم کر کے لکھی ہو اور اس میں نفس سے جہاد کے مباحث درج کئے ہوں ہاں البتہ نفس کی ریاضت کے لئے جو کتابیں لکھی گئیں ہیں ان کو زہد و تقویٰ وغیرہ کے نام سے موسوم کیا ہے خود عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے کتاب الجہاد اور دوسری کتاب الزہد ہے، دونوں کے مباحث اور مضامین الگ الگ ہیں نام بھی الگ الگ ہیں۔ لہذا جہاد الکفار اور چیز ہے اور ریاضۃ النفس اور چیز ہے پھر یہ سوچیں کہ تقریباً پچاس ہزار (۵۰۰۰۰) ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے میدان جہاد میں جام شہادت نوش کیا باقی سارے صحابہ نے جہاد میں حصہ لیا تو کیا ان کی زندگیاں ایک ایسے کام میں صرف ہوئیں جو شریعت میں اصغر اور کم تر درجے کا تھا۔ حاشا وکلا۔

### جہاد باللسان

انواع جہاد کی ابتدا میں جو حدیث لکھی گئی ہے اس میں تیسری نوع جہاد باللسان ہے اسلام میں جہاد باللسان کی بھی بہت اہمیت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مشرکین سے زبانوں کے ذریعہ سے جہاد کرو حدیث کے شارحین نے جہاد باللسان کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ زبانی تقریر و تحریر سے لوگوں کو شوق جہاد دلایا جائے جہاد کے فضائل و مسائل بیان کئے جائیں، جہاد کی نظمیں پڑھی جائیں۔ اب اگر ایک آدمی ایک گھنٹہ تقریر عمامہ کی فضیلت پر کرے اور پھر کہہ دے کہ میں نے جہاد باللسان کیا تو یہ غلط ہوگا جہاد باللسان ہر وہ گفتگو ہے جس سے میدان جہاد اور مجاہدین و جہاد کو فائدہ پہنچتا ہو یہ تقریر جو عمامہ کے متعلق ہے بے شک ثواب کا کام ہے لیکن جہاد باللسان نہیں ہے کیونکہ اس سے جہاد یا مجاہد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا چنانچہ اس حدیث کی تشریح میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اپنے رسالہ جہاد (صفحہ ۴۵) پر فرماتے ہیں کہ مال کا جہاد یہ ہے کہ مال کو جہاد کے کاموں میں صرف کیا جائے اور زبان کا جہاد یہ ہے کہ لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے کر اس پر آمادہ کریں، اور جہاد کے احکام بتائیں اور یہ بھی کہ اپنی گفتگو اور تقریر سے دشمن کو مرعوب کریں، ایسی نظمیں جن سے مسلمانوں میں جذبہ جہاد قوی ہو یا جن سے دشمنوں کی تذلیل ہو، وہ بھی اسی جہاد میں داخل ہیں جیسے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شعراء صحابہ میں سے ہیں ان کی نظمیں جو مشرکین مکہ کے مقابلے پر کہی گئی ہیں ان کو جہاد فرمایا گیا۔ (رسالہ جہاد ص ۴۵)

### ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق

ایک حدیث میں آیا ہے:

﴿أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةً حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ﴾

یعنی ”ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ کہنا افضل ترین جہاد ہے۔“

اس حدیث سے یہ شبہ نہ کرا جائے کہ یہاں تو جہاد نہیں ہے پھر اس زبانی کلمہ کو افضل جہاد کیسے فرمایا؟ تو اس کی تشریح حضرت

مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے کوب الدری شرح الترمذی صفحہ ۴۷ جلد ۲ میں اس طرح کی ہے:

”چونکہ مجاہد دو باتوں کے درمیان ہوتا ہے یا تو جہاد کر کے کفار کو قتل کر دے گا اور مال غنیمت حاصل کرے گا اور یا خود شہید ہو کر خون میں رنگین ہو جائے گا لیکن وہ شخص جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ بلند کرتا ہے اس کے حق میں تو یقین ہی ہے کہ مارا جائے گا (بچنے کی امید نہیں) اس لئے وہ افضل ہوا، اس کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ غازی جب کفار سے میدان میں لڑتا ہے تو موت اور حیات دونوں کا احتمال ہے لیکن یہ شخص جس نے ظالم کے سامنے حق کا کلمہ بلند کیا اس کی موت یقینی ہے لہذا یہ بھی جہاد بلکہ افضل جہاد ہوا۔

## دعوت اسلام

امت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اسلامی احکامات کو ماننے کی ہے اور جتنا ہو سکتا ہے اس پر عمل کرتی ہے امت کے اس حصہ کو اصطلاح شرع میں ”امت اجابت“ کہا جاتا ہے دوسری قسم وہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنے کفر پر برابر قائم ہے امت کے اس حصہ کو اصطلاح شرع میں ”امت دعوت“ کہا جاتا ہے۔ جہاد سے پہلے اسلام نے جس دعوت کو ضروری قرار دیا ہے وہ دعوت صرف امت دعوت کے لئے ہے کیونکہ یہ دعوت امت اجابت میں چل ہی نہیں سکتی اس دعوت کے تین جملے ہوتے ہیں: (۱) اسلام قبول کر لو (۲) اگر اسلام قبول نہیں تو جزیہ ادا کرو (۳) اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو روانہ فرماتے تو ان کو انہیں چیزوں کی وصیت فرماتے چنانچہ مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث میں یہ تینوں چیزیں ترتیب کے ساتھ مذکور ہیں، میں اس حدیث کے ان ہی تین جملوں کو حدیث سے مختصر کر کے ہدیہ ناظرین کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ضَمْنِ حَدِيثِ طَوِيلٍ: وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى

الْإِسْلَامِ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلِّهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. (مشکوٰۃ صفحہ ۳۴۱)

”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں (مجاہدین کے امیر کو) اس طرح وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

جب تم اپنے دشمن مشرکین سے ملو تو ان کو اسلام کی دعوت دو اگر انہوں نے قبول کر لیا تو پھر ان سے لڑائی سے باز رہو پس

اگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو ان سے جزیہ ادا کرنے کا مطالبہ کرو اگر انہوں نے جزیہ قبول کر لیا تو ان سے

لڑنے سے باز رہو پس اگر انہوں نے جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور ان کفار سے لڑو۔“

(۲) وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ فَارِسَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ خَالِدِ

بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى رُسْتَمَ وَمِهْرَانَ فِي مَلَاءِ فَارِسَ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى

الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ فَإِنْ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

كَمَا يُحِبُّ فَارِسُ الْخَمْرِ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى. (مشکوٰۃ صفحہ ۳۴۲)

”ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل فارس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اس طرح لکھا: ہم تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو اگر تم نے اس سے انکار کیا تو پھر تم ذلت کے ساتھ جزیہ ادا کرو (اگر یہ بھی نہیں) تو پھر لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ بیشک میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں جیسا کہ فارس والے شراب پینے کو پسند کرتے ہیں۔ اور جو ہدایت کو قبول کرے اس پر سلامتی ہو۔“

## دعوت اسلام فقہاء کی نظر میں

جہاد سے پہلے جو دعوت واجب ہوتی ہے اور جس پر جہاد موقوف ہوتا ہے اس دعوت کے متعلق فقہاء کرام رحمہم اللہ نے الگ الگ تفصیل پیش کی ہے جس کو رحمۃ الامۃ فی اختلاف الامۃ نامی ایک معتمد کتاب نے اس طرح بیان کیا ہے۔ (عربی عبارات کے ترجمے ملاحظہ فرمائیں۔)

### امام مالک رحمہ اللہ

فقہاء کرام کے ہاں دعوت کے مسئلہ میں تعبیرات میں اختلاف ہے وہ اس طرح کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کفار کے گھر ہمارے قریب ہوں تو ان کو دعوت اسلام دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بوجہ پڑوس کے دعوت الی الاسلام کو جانتے ہیں (مانتے نہیں) اس لئے ان کے ساتھ لڑائی لڑی جائے گی اور ان کی غفلت کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اور جن کے گھر ہم سے دور ہوں تو ان کو دعوت دینا ضروری ہے تاکہ شک و شبہ دور ہو جائے۔ (رحمۃ الامۃ صفحہ ۲۹۳)

### امام شافعی رحمہ اللہ

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں آج کل کسی مشرک کو ایسا نہیں پاتا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو ہاں ممکن ہے کہ مملکت ترکیہ کے پیچھے کچھ مشرک قومیں ہوں یا خزر (چچینیا) کے پیچھے کچھ ایسے لوگ ہوں جن تک دعوت نہ پہنچی ہو تو ان لوگوں سے اگر لڑائی لڑنی ہو تو دعوت اسلام سے پہلے لڑائی نہیں ہونی چاہئے۔ (صفحہ ۲۹۳)

### امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کفار تک اسلام کی دعوت بالکل نہیں پہنچی ہے تو امیر الحرب کے لئے ان سے لڑنا مناسب نہیں ہے اور اگر ان کو اسلام کی دعوت پہنچی ہے تو پھر امیر الحرب کے لئے مستحب ہے کہ لڑائی سے پہلے ان کو دعوت اسلام دے ورنہ جزیہ کی ادائیگی کا کہے تاہم اگر واجب دعوت سے پہلے پہلے کسی نے کسی کافر کو قتل کر دیا تو دیت و قصاص نہیں

ہوگا (صفحہ ۲۹۳) محیط میں لکھا ہے کہ دعوت کا پہنچنا دو قسم پر ہے حقیقۃً یا حکماً اور حکماً اس طرح ہوتا ہے کہ مغرب و مشرق میں مشہور اور عام ہو جائے کہ یہ مسلمان کس چیز کی طرف بلاتے ہیں اور کس چیز پر لڑتے ہیں اس ظاہری شہرت کو حقیقت کا قائم مقام سمجھا جائے گا۔ (فتح القدیر جلد ۵ صفحہ ۱۹۶)

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول  
اگر کفار کو دعوت نہیں پہنچی تو لڑنے سے پہلے دعوت واجب ہے اور اگر دعوت کسی طرح پہنچ چکی ہے تو پھر دعوت دینا مسنون و مستحب کے درجے میں ہے ہاں اگر کفار نے ہم پر چڑھائی کر کے بلہ بول دیا تو پھر دعوت ساقط ہو جائے گی۔  
(اللوکب الدرر شرح ترمذی صفحہ ۴۱۳)

### صاحب ترمذی کا قول

امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت الی الاسلام والی روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ دعوت سے پہلے کفار سے جنگ نہ کی جائے جنگ سے پہلے دعوت دی جائے کیونکہ اس سے دشمن مرعوب ہو جائے گا لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ آج کل کفار کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کل کسی کو دعوت دینا ضروری ہے۔ (ترمذی کتاب الجہاد)

### صاحب درمختار کا قول

فقہ کی دوسری کتابوں اور خاص کر درمختار میں دعوت کا مسئلہ اس طرح لکھا گیا ہے کہ اگر ہم نے کفار کا محاصرہ کر لیا تو ہم ان کو پہلے اسلام کی طرف بلائیں گے اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو بہت اچھا ورنہ پھر جزیہ دینے کی طرف بلائیں گے اگر انہوں نے جزیہ قبول کر لیا تو پھر ہم اور وہ قانون اسلام اور قانون انصاف کے سامنے یکساں ہوں گے اور جن کفار تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو ان سے قبل از دعوت لڑنا جائز نہیں ہے لیکن جن کفار تک دعوت پہنچی ہو تو ان کو پھر دعوت دینا مستحب ہے ہاں اگر اس دعوت میں جنگی حکمت عملی کے تحت ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر دعوت نہیں دی جائے گی اگر کفار نے جزیہ قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا تو پھر ہم اللہ کا نام لے کر ان سے لڑیں گے۔ منجیق (راکٹ لانچر، بھاری توپ خانہ) سے ان پر گولہ باری کریں گے، آگ سے انہیں جلا لیں گے یا پانی میں ڈبو دیں گے اور ضرورت پڑنے پر ان کے باغات اور کھیتوں کو بھی تباہ کریں گے۔

### صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کا قول

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَاتَلَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يَدْعُوهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي وَصِيَّةٍ

أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ: فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَيَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُوَ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ مُبَالَغَةً فِي الْإِنذَارِ وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَعَهْدَ إِلَى أَسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُغَيِّرَ عَلَى "أُبْنَى" صَبَاحَتَهُمْ يُحَرِّقُ وَالْغَارَةُ لَا يَكُونُ بِدَعْوَةٍ. (ہدایہ جلد ۱ صفحہ ۵۶۰)

”صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو دعوت دینے سے پہلے اس سے لڑنا جائز نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوجی کمانڈروں کو یہ وصیت فرمایا کرتے تھے کہ ”ان کفار کو پہلے کلمہ شہادت کی دعوت دیا کرو“ اور اگر ان کو دعوت پہنچی ہے تو پھر دعوت دینا صرف مستحب ہے تاکہ دعوت دینے میں خوب مبالغہ ہو جائے لیکن یہ دعوت واجب نہیں ہوگی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے بنی مصطلق پر اس طرح چھاپہ مار کر بلہ بول دیا تھا کہ وہ لوگ بالکل بے خبر تھے اور اسی طرح آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ صبح سویرے علاقہ ”أُبْنَى“ کے لوگوں پر چھاپہ مار کر روائی کرو اور پھر علاقہ میں آگ لگا دو۔ (ظاہر ہے) کہ چھاپہ مار کر غارتگری کی کارروائی دعوت کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔“

فائدہ ! صاحب ہدایہ کی مندرجہ بالا عبارت کی طرح قدوری میں بھی اور کنز الدقائق میں بھی اسی طرح مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور شرح وقایہ میں بھی اسی طرح مذکور ہے اس کے علاوہ فقہ کی دوسری چھوٹی بڑی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ اسی طرح موجود ہے لہذا مجاہدین پر لازم ہے کہ وہ جہاد سے پہلے اس دعوت کو دیا کریں ہاں اگر مجاہدین دفاعی جنگ لڑ رہے ہوں تو پھر یہ دعوت ساقط ہو جائے گی اور جہاں دعوت پہنچی ہے وہاں بھی یہ دعوت صرف مستحب ہے اگر حالات موافق ہیں تو اس مستحب پر عمل کریں ورنہ مستحب کا چھوڑنا کوئی گناہ نہیں۔

### دعوت کے فوائد

فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے دعوت کے چند فوائد کا بھی ذکر کیا ہے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر کفار نے بات مان لی اور اسلام قبول کر لیا تو مقصد حاصل ہو جائے گا اور مسلمان لڑائی کی مشکلات سے بچ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دعوت دینے سے کفار کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان صرف ملک گیری یا اموال اکٹھا کرنے اور عورتوں بچوں کو قید کرنے کے لئے نہیں لڑ رہے بلکہ یہ لوگ اسلام اور اس کے نظام کے لئے لڑ رہے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کفار دعوت اسلام کو ٹھکرائیں گے تو پھر ان کا مقابلہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شروع ہو جائے گا اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آئیں گے ضرور شکست کھائیں گے۔ اور جو تھا فائدہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ رہے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی کتاب الجہاد کی

ابتدائی مباحث میں یہ چند صفحات کی بحث میں نے اپنی تالیف ”دعوت جہاد“ سے نقل کر کے یہاں لکھ دیا ہے تاکہ جہاد کے مفہوم پر کچھ روشنی پڑ جائے اب احادیث کی روشنی میں جہاد کے موضوع سے متعلق احادیث پڑھئے اور آگے بڑھئے۔

نوٹ: الحمد للہ توضیحات جلد سادس کے مسودہ کی تحریر کا آغاز ۲۹ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ مطابق ۷ جون ۲۰۰۵ء میں افریقہ زامبیا کے سفر کے دوران لوساکا شہر میں مفتی محمد ایوب بوبات صاحب کے گھر میں قیام کے موقع پر ہوا۔ (فضل محمد)

## الفصل الاول

### جہاد افضل ترین عمل ہے

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ أَلْتَنَى وَلَدَ فِيهَا قَالُوا أَفَلَا تُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے ذریعہ دنیا میں بھیجی (یعنی شریعت) پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر (ازراہ فضل و کرم عیب اپنے وعدے کے) واجب ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے خواہ اللہ تعالیٰ کی راہ جہاد کرے اور خواہ اپنے وطن و گھر میں جہاں پیدا ہوا ہے بیٹھا رہے۔ صحابہؓ نے سن کر عرض کیا کہ ”لوگوں کو ہم یہ خوشخبری نہ سنا دیں؟“ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جنت میں سو درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار کیا ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور ان کے دو درجوں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ لہذا جب تم اللہ سے (جہاد پر درجہ عالی) مانگو تو فردوس کو مانگو کیونکہ وہ (فردوس) اوسط جنت ہے (یعنی جنت کے تمام درجات میں سب سے بہتر و افضل ہے) اور سب سے بلند جنت ہے اور اس کے اوپر خدا کا عرش ہے (گویا وہ عرش الہی کے سایہ میں ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں) (یعنی جو چار چیزیں جنت کی نہروں کی اصل ہیں جیسے پانی، دودھ، شراب اور شہد۔ وہ جنت الفردوس ہی سے جاری ہوتی ہیں۔) (بخاری)

توضیح

”وصام رمضان“ اس حدیث میں صلوٰۃ و صوم کا ذکر کیا گیا ہے زکوٰۃ اور حج وغیرہ عبادات کا ذکر نہیں ہے یہ ان دونوں

عبادات کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔

”او جلس فی بیتہ“ گھر میں بیٹھ رہنے اور جہاد پر نکلنے میں یہ اختیار اس وقت ہوتا ہے جب جہاد فرض کفایہ کے درجہ میں ہو، اگر جہاد فرض عین کے درجہ میں ہو جائے یا امیر المؤمنین کی طرف سے نفیر عام یعنی نکلنے کا عمومی اعلان ہو جائے اس وقت جہاد میں نکلنا ہی ہوگا۔ بہر حال دخول جنت سے یہاں دخول اولیٰ مراد ہے۔

”قالوا“ صحابہ میں سے یہ سوال حضرت معاذ بن جبلؓ نے کیا تھا آپؐ نے جب سنا کہ جہاد کرنے کے بغیر بھی جنت میں جانا ممکن ہے تو آپؐ نے اس سہولت کی خوشخبری کو عام کرنے کی درخواست کی اس پر نبی پاکؐ نے جواب میں فرمایا کہ لوگوں کو چھوڑ دو تا کہ جہاد کے عمل میں لگے رہیں کیونکہ جنت کے عالیشان درجات جہاد سے حاصل ہونگے۔

ترمذی کی حدیث میں اس طرح الفاظ ہیں ”قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَرِ النَّاسَ يَعْمَلُونَ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ“ الخ۔ ”اوسط“ یہ لفظ افضل، اوسع اور عمدہ تر کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

”عرش الرحمن“ جنت فردوس کی چھت عرش کافر ش ہے۔ (مرقات)

## ایمان کے بعد جہاد افضل عمل ہے

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بَأْيَاتِ اللَّهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجَعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ روزہ

رکھنے والا نماز اور عبادات کرنے والا جو روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے (یعنی عبادات میں مہمک رہنے) سے کبھی نہیں تھکتا،

یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اپنے گھر واپس آجائے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح

”مثل المجاہد“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ایک صحابی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی ہے اس نے مجاہد فی سبیل اللہ کے درجات پانے کی درخواست کی تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک خاتون نے بھی درخواست کی تھی کہ میرا شوہر جہاد میں گیا ہے میں ایسا عمل کروں کہ جنت میں ان کے درجات کے برابر درجہ پاؤں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہاں اگر کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ رات بھر نمازیں پڑھے اور دن بھر روزہ رکھے اور اس کا ایک لمحہ عبادت سے خالی نہ گزرے وہ مجاہد کا رتبہ پاسکتا ہے کیونکہ مجاہد کے بھی تمام لمحات عبادت میں شمار ہوتے ہیں اور ایسا عمل کوئی نہیں کر سکتا ہے لہذا مجاہد کا رتبہ کوئی نہیں پاسکتا۔ یہ تعلق بالحوال ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد تمام اعمال سے افضل

ہے جیسا کہ مشکوٰۃ کی حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ”أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ“۔ (کتاب الحج ص ۲۲۳)

بخاری شریف میں ایک حدیث ہے ”جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذُنُبِي عَلَى عَمَلٍ يَّعْدِلُ الْجِهَادُ قَالَ لَا أَجِدُهُ“۔

ابن ہمامؒ نے فتح القدر میں اس پر طویل کلام کیا ہے کہ آیا جہاد افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ دونوں کے افضل ہونے پر احادیث موجود ہیں بعض علماء نے جہاد کو ایمان کے بعد افضل قرار دیا ہے لیکن اکثر علماء نے نماز کو جہاد سے افضل قرار دیا ہے۔ علامہ ابن ہمام نے اس طرح تطبیق فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سالکین کے لئے کے جواب میں ان کے احوال کے مطابق جواب دیا ہے جس کے مناسب جہاد تھا اس کے لئے جہاد کو افضل قرار دیا یا تو کے لئے نماز کو افضل قرار دیا۔ بعض علماء نے اس طرح بہتر تطبیق کی ہے کہ جب جہاد فرض عین ہو تو یہ تمام اعمال سے مطلقاً افضل ہے لیکن جب جہاد فرض کفایہ ہو تو نماز مطلقاً افضل ہے۔

علامہ ابن ہمامؒ کی عبارت میں ایک نایاب حدیث بھی مذکور ہے فرمایا۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ”الْجِهَادُ مَا ضَرَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ فَذَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِهِ وَأَنَّهُ لَا يُنْسَخُ۔ (مرقات ص ۷۳۴)

”لا یفتر“ ای لا یسنم ولا یمل من العبادة نہ عبادت سے تھکے نہ اکتائے یہ میخدا ہر ہے۔

## مجاہد ہر حال میں کامیاب ہے

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ مَخْرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيْمَانًا بِي وَتَصَدِيقًا بِرُسُلِي أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أَدْعِلَهُ الْجَنَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ) جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلا اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو گیا، اس کو (جہاد کے لئے) مجھ پر اس کے ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ اور کسی نے نہیں نکالا (یعنی اس کا جہاد میں جانا دکھا دے سنانے کے لئے اللہ تعالیٰ کسی طلب و خواہش کے پیش نظر نہیں بلکہ وہ محض میری رضا و خوشنودی طلب کرنے کے لئے نکلا ہے) تو میں اس کو (یا تو بغیر غنیمت کے محض) آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا اور یا (اگر شہید ہو گیا تو) میں اس کو (بغیر حساب و عذاب کے سب سے پہلے جنت میں جانے والوں کے ساتھ، جنت میں داخل کروں گا) (بخاری و مسلم)



## توضیح

”انتدب“ اس لفظ کا آسان ترجمہ تکفل اور تضمن ہے جو کفالت و ضمانت کے معنی میں ہے ”من اجرا و غنیمۃ“ یعنی یا صرف ثواب لیکر آئے گا مال غنیمت نہیں ہوگا یا صرف غنیمت لیکر آئے گا۔ اس طرز بیان سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اگر غنیمت حاصل ہوگئی تو پھر اجر نہیں ملے گا حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ”او“ کا لفظ ممانعة الخلو کے طور پر ہے کہ دو چیزوں سے خالی ہو کر مجاہد واپس نہیں آئے گا یا ثواب ہوگا یا مال غنیمت ہوگا ہاں اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو مضائقہ نہیں ہے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ”او“ کا لفظ تنويع کے لئے ہے یعنی یہ نوع بھی ملے گی وہ نوع بھی ملے گی ایک نسخہ میں ”او“ نہیں بلکہ واؤ ہے پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے۔

”او ادخله الجنة“ اس عبارت میں بھی ”او“ کا لفظ ہے یہاں ”او“ مانعة الجمع کے لئے ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ کبھی زندہ واپس لوٹاتا ہے تو وہ ثواب اور غنیمت لیکر آتا ہے اور اگر زندہ واپس نہ کیا بلکہ شہادت دیدی تو پھر اس کو جنت میں داخل فرمائے گا یہاں غنیمت اور شہادت دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، الگ ہو سکتے ہیں۔

## نبی پاکؐ نے ہر جنگ میں شریک ہونے اور شہید ہونے کی تمنا فرمائی

﴿۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنِّي رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ دِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر مجھے یہ خوف و لحاظ نہ ہوتا کہ بہت سے (وہ) مسلمان (جو مفلس ناچار ہیں) اپنے بارے میں اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ وہ مجھ سے پیچھے اور مجھ سے جدار ہیں اور مجھے ایسی کوئی سواری میسر نہیں ہے جس پر ان سب کو سوار کر دوں تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کسی بھی لشکر سے پیچھے نہ رہتا! قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میری خواہش و تمنا تو یہی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں (یعنی بار بار زندہ کیا جاؤں اور بار بار مارا جاؤں تاکہ ہر بار نیا ثواب پاؤں)۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”والذی نفسی بیدہ“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ۲۷ جنگوں میں حصہ لیا ہے بعض میں جنگ نہیں ہوئی بعض میں ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ۵۶ چھاپہ مار دتے جہاد پر بھیجے ہیں یہ کل ۸۳ جنگیں بنتی ہیں گویا دس سالہ مدنی دور میں اوسطاً فی سال آٹھ جنگوں سے کچھ زیادہ ہوئی ہیں اس پورے عرصے میں طرفین کے ایک ہزار اٹھارہ آدمی مارے گئے ہیں ۲۵۹ صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں اور ۵۹ کفار ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد جا کر جزیرہ عرب کفر کے چنگل سے آزاد ہوا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ شہادت اتنا بلند تھا کہ آپ نے ہر معرکہ میں جانے اور شہید ہونے کی تمنا فرمائی لیکن آپ چند معرکوں میں خود اس لئے شریک نہ ہو سکے کہ پیچھے مدینہ منورہ میں کچھ نادار لوگ تھے جو بوجہ فقر و فاقہ اور عدم وسائل جہاد پر نہیں جاسکتے تھے ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں تھے کہ ان سب کو سواریاں فراہم فرماتے اگر نبی پاک ان کو مدینہ میں چھوڑ کر خود جہاد پر چلے جاتے تو ان بیچاروں کو دو غم لاحق ہو جاتے ایک تو جہاد پر نہ جانے کا غم ہوتا دوسرا آنحضرت کی جدائی کا غم ہوتا اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ کبھی میں ان کے ساتھ پیچھے رہ جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد پھر زندہ ہونے کی تمنا اس لئے فرمائی ہے کہ اس سے مزید شہادت کا موقع ملتا ہے اور شہادت جہاد کرنے پر موقوف ہے تو درحقیقت یہاں جہاد کرنے کی تمنا ہے چونکہ جہاد اشاعت اسلام اور تبلیغ دین کا ذریعہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد غلبہ دین اور اشاعت اسلام تھا اس لئے آپ نے بار بار شہادت اور جہاد کی تمنا فرمائی ہے تاکہ عالم فساد سے خالی ہو جائے اور دین غالب آجائے۔

علامہ ابن ہمام فتح القدیر میں جہاد کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں کہ

”الْجِهَادُ اخْلَاءُ الْعَالَمِ عَنِ الْفَسَادِ وَهُوَ دَعْوَتُهُمْ إِلَى الدِّينِ الْحَقِّ وَقِتَالُهُمْ إِنْ لَمْ يَقْبَلُوا. (مرقات)

یعنی دنیا کو فساد سے خالی کرنے اور کفار کو دین اسلام کی دعوت دینے اور قبول نہ کرنے کی صورت میں ان سے لڑنے کا نام جہاد ہے۔

## اسلامی سرحدات پر پہرہ دینے کے فضائل

﴿۵﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِبَاطٌ يَوْمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”رباط یوم“ یہ ار جہاد سے ہے جو باندھنے کے معنی میں آتا ہے کیونکہ سرحدات اسلامیہ پر پہرہ دینے والا شخص بھی اپنے گھوڑے اور اپنے آپ کو سرحد پر باندھ کر پہرہ دیتا ہے قرآن کی آیت ﴿وَأَعِزُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ اور آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ سے رباط ماخوذ ہے۔ احادیث میں رباط کی بڑی فضیلتیں مذکور ہیں۔

اسلامی ملک کی سرحدات پر پہرہ دینے اور کفار کی سرحدات پر نظر رکھنے کا نام رباط ہے۔ یہاں احادیث میں ایک لفظ ”حراسة“ کا بھی آیا ہے جو چوکیداری کے معنی میں ہے حراسہ اور رباط میں اتنا فرق ہے کہ حراسہ اس چوکیداری کو کہتے ہیں جو اندرون ملک میں ہو اور رباط اس پہرہ کو کہتے ہیں کہ جو کافر ملک کی سرحدات پر نگاہ رکھنے اور اسلامی ملک کی سرحدات کی حفاظت کے لئے ہولہذا دو مسلمان ملکوں کے درمیان سرحدات پر جو پہرہ دیا جاتا ہے رباط کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہے اسی طرح تبلیغی اجتماعات میں چوکیداری کرنے پر رباط کی احادیث کو چسپاں کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے لئے حراسہ کی احادیث کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے لغوی طور پر رباط کا اطلاق کبھی کبھی دیگر اعمال پر بھی ہوا ہے مگر وہ اصطلاحی رباط نہیں ہے رباط کی پوری تفصیل میری کتاب ”دعوت جہاد“ میں موجود ہے وہاں دیکھنا چاہئے۔

”من الدنيا“ اس جملہ کے دو مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں اور اس کے سارے ساز و سامان سے رباط میں ایک دن کا پہرہ بہتر ہے کیونکہ آخرت کا ثواب باقی ہے دنیا کی نعمتیں فانی ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت کو اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور بڑا ثواب مل جائے رباط میں ایک دن کا ثواب اس سے بہتر اور بڑھ کر ہے۔ اس طرح کا جملہ جہاں بھی استعمال ہوا ہو اس کے بھی یہی دو مفہوم بیان کئے جاسکتے ہیں جس طرح آنے والی حدیث میں یہی جملہ آیا ہے۔

## سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟

﴿۶﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا مُعْفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”ایک صبح کے لئے یا ایک شام کے لئے خدا کی راہ میں (شرکت جہاد کی غرض سے) جانا دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”لغدوة“ صبح کے وقت سفر کرنے کو غدوة کہتے ہیں اور شام کے وقت سفر کرنے کو ”روحة“ کہتے ہیں ان دو اوقات کا خصوصی طور پر ذکر اس لئے کیا گیا کہ عام طور پر پہلے زمانے میں جنگ انہیں دو اوقات میں لڑی جاتی تھی کیونکہ ان اوقات میں گرمی کی شدت نہیں ہوتی تھی اور ظہر کے بعد نصرت الہی کی ہوائیں چلتی ہیں اس لئے جہادی معرکوں کے لئے ان دو وقتوں کو منتخب کیا گیا۔ تبلیغی حضرات اس حدیث کو اپنے کشتوں کے لئے بیان کرتے ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہئے گشت کا عمل ابتداء میں حضرت مولانا الیاسؒ کو بھی معلوم نہ تھا بعد میں معلوم ہوا صحابہ کو گشت کا کیا علم؟۔

”فی سبیل اللہ“ اللہ تعالیٰ کی راہ سے جہاد کا راستہ اور جہاد میں شرکت کرنا مراد ہے۔

علامہ ابن حجرؒ فتح الباری میں سبیل اللہ کی شرح میں لکھتے ہیں ”ای الجہاد“۔

قرآن عظیم میں یہ لفظ بار بار آیا ہے قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سبیل اللہ کا لفظ تین طرح استعمال کیا گیا ہے اس کا پہلا اطلاق اور استعمال جہاد کے لئے ہوا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ یہ لفظ خاص ہے جیسے ”یقاتلون فی سبیل اللہ۔ یجاہدون فی سبیل اللہ“ اور اس قسم کی دیگر آیتیں ہیں یہ جہاد کے ساتھ خاص ہیں اور صریح طور پر قرآن میں ”سبیل اللہ“ کا لفظ ۳۶ مقامات میں مذکور ہے۔

اس لفظ کا دوسرا اطلاق اور استعمال عموم کے طور پر مطلق دین کے لئے ہوا ہے جو دین کے تمام شعبوں کے لئے عام ہے کسی شعبہ کے ساتھ خاص نہیں جیسے ”یصدون عن سبیل اللہ“ آیت ہے اور اس کے علاوہ دیگر آیتیں ہیں صریح طور پر قرآن عظیم میں یہ لفظ ۲۵ مقامات میں مذکور ہے۔ اس لفظ کا تیسرا اطلاق مشترک طور پر ہوا ہے کبھی انفاق فی سبیل اللہ میں استعمال ہوا ہے کبھی جہاد میں استعمال ہوا ہے اور کبھی مطلق دین کے لئے استعمال کیا گیا ہے جیسے ”وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا ابایدیکم الی التہلکة“ والی آیت ہے صریح طور پر قرآن میں یہ لفظ سات مقامات میں استعمال ہوا ہے۔

علامہ نووی نے واضح طور پر المجموع میں لکھا ہے کہ سبیل اللہ کا پہلا مصداق جہاد فی سبیل اللہ ہے ابن دقین العید نے بھی اسی طرح لکھا ہے اور ابن حزم اندلسی نے المحلی میں اسی طرح تحقیق فرمائی ہے۔

امام احمد بن حنبل اور امام محمدؒ نے سبیل اللہ کے مفہوم میں ایک حدیث کی وجہ سے حاجیوں اور علم دین کے طلباء کو بھی داخل مانا ہے۔ صاحب ہدایہ نے کتاب الزکوٰۃ میں وفی سبیل اللہ کی تشریح میں لکھا ہے ”ای المنقطع الغزاة لانه المتناہم عند الاطلاق“ یعنی جب فی سبیل اللہ مطلق استعمال ہو جائے تو اس کا پہلا مصداق مجاہدین ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب الجہاد میں یہ لفظ تقریباً (۹۰) نوے بار آیا ہے جو جہاد کے لئے استعمال ہوا ہے لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ لفظ فی سبیل اللہ کے

مفہوم کو نہ زیادہ تنگ رکھے اور نہ زیادہ وسیع کرے۔ سبیل اللہ کو اہل تبلیغ اپنے کام کے ساتھ خاص کرتے ہیں جو غلط ہے۔

## فضائل رباط فی سبیل اللہ کی چند احادیث

﴿۷﴾ وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفِتَانُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت سلمان فارسیؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاد میں ایک دن اور ایک رات چوکیداری کی خدمت انجام دینا ایک مہینے کے روزے اور شب بیداری سے بہتر ہے اور اگر وہ چوکیدار اس خدمت کی انجام دہی کے دوران مر جائے تو وہ جس نیک عمل پر عامل تھا اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ہمیشہ پہنچتا رہے گا اور اس کے لئے (جنت کے طعام و شراب سے اس کا رزق جاری کر دیا جاتا ہے اور وہ شیطان یا دجال کے مکر و فریب اور قبر میں عذاب کے فرشتے کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔) (مسلم)

## توضیح

”وَأَمِنَ الْفِتَانُ“ اس حدیث میں ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک دن اور ایک رات کا پہرہ اللہ کے راستے جہاد میں ایک ماہ کے دن بھر روزہ اور رات بھر تہجد سے افضل ہے دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ رباط کا نیک عمل جو دنیا میں وہ کر رہا تھا مرنے کے بعد اس کا ثواب منقطع نہیں ہوگا بلکہ جاری رہیگا اسی طرح اس کے مرنے کے بعد قبر میں جنت سے نعمتوں کی صورت میں رزق جاری ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ رباط فی سبیل اللہ عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ رہیگا۔ فتنان کے لفظ میں فافرتحہ اور ضمہ دونوں ہے اور تا پر شدہ ہے اس سے عذاب قبر کا فتنہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے اور دجال کا فتنہ بھی لیا جاسکتا ہے اور شیطان کا فتنہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

بعض شارحین نے اس لفظ کو جمع کا صیغہ قرار دیا ہے جس کا مفرد فاتن ہے اور اس سے جہنم کے دار و غہ کا فتنہ مراد لیا ہے۔ بہر حال جب رباط اتنے بڑے فتنوں سے محفوظ رہیگا تو چھوٹے فتنے کچھ نہیں ہونگے۔

## جہاد کے راستے کا غبار

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي عَبَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غَبَرْتُ قَدَمًا عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابو عبسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس بندے کے پاؤں خدا کی راہ (یعنی جہاد) میں

(بخاری)

”گرد آلود ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوٹی۔“

توضیح

”ما اغبرت“ اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد میں ایک مجاہد کا سب سے زیادہ مٹی اور غبار سے واسطہ پڑتا ہے اور یہی چیز مجاہد کی نجات کا ضامن ہے کبھی تو سر سے پیروں تک مجاہد غبار میں اٹا پڑا رہتا ہے اس سے راہ جہاد کی تمام مشقتوں کی طرف بھی اشارہ ہے جب ان مشقتوں پر اتنا ثواب ملتا ہے تو جان کی بازی لگانے اور زخم کھانے یا گرفتار ہونے کا کیا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ! تبلیغ والے اس فضیلت کو اپنے لئے بیان کرتے ہیں ان کو چاہئے کہ پہلے اس کو جہاد کے لئے بیان کریں پھر اپنے آپ کو اس میں داخل کریں مفت میں تحریف نہ کریں۔

### جہاد میں کافر کو مارنے کا ثواب

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کافر اور اس کو مارنے والا (مسلمان) کبھی بھی دوزخ میں یک جا نہیں ہو سکتے ہیں۔“ (مسلم)

توضیح

”لا یجتمع“ جہاد کرنے اور کافروں سے لڑنے اور انہیں قتل کرنے کی ترغیب اس حدیث میں دی گئی ہے کیونکہ جو آدمی جہاد میں جاتا ہے تو کسی کافر کو قتل کرنے کی نوبت بھی آجاتی ہے اگر کسی نے اس طرح کافر کو مار دیا تو کافر دوزخ میں جائے گا اور مجاہد جنت میں جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قتل کی وجہ سے مجاہد دوزخ میں جائے اور دونوں دوزخ میں اکٹھے ہو جائیں۔ قرآن عظیم میں ۷۹ صیغے ایسے استعمال ہوئے ہیں جن میں کافروں سے قتال کرنے کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے قرآن عظیم کے حکم کو دیکھ کر صحابہ کرام نے کافروں کو قتل کرنے کا ثواب کمایا ہے بعض میدانوں میں ایک ایک لاکھ کفار کو واصل جہنم کیا ہے قرآن کریم کے حکم کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے کفار کو قتل کیا ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک کافر کو قتل کیا ہے جس کا نام ابی بن خلف تھا۔ لہذا یہ فلسفہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفار کو قتل نہ کرو کیونکہ وہ دوزخ میں چلے جائیں گے یہ گویا قتل کرنے والے نے اس کو دوزخ میں پہنچا دیا۔ ان سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ رحم کرنے والے نہ بنو خراب ہو جاؤ گے۔ بہر حال اس حدیث میں کافر کو میدان جنگ میں قتل کرنے والے مسلمان کے لئے جنت کی بشارت ہے۔

## مسلمانوں کی بہترین زندگی کونسی ہے؟

﴿۱۰﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمَسِّكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مِطَانَةً أَوْ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنٍ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”انسانی زندگی میں بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو خدا کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہو اور جب کسی کی خوفزدہ آواز یا کسی کے فریاد کرنے کی آواز سنے تو غلٹ کے ساتھ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جائے اور اس خوفزدہ یا فریادرس کی آواز کی طرف دوڑتا ہوا چلا جائے اور اپنی موت کو یا اس جگہ کو تلاش کرتا پھرے جہاں موت کا گمان ہو یا بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو کچھ بکریوں کے ساتھ ان پہاڑوں میں سے کسی ایک پہاڑ کی چوٹی پر یا ان وادیوں میں سے کسی ایک وادی میں اقامت گزین ہے اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے پروردگار کی عبادت و بندگی میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ اسکو موت آجائے اور یہ شخص انسانوں کے بکھیزوں میں شریک نہیں ہے بلکہ صرف بھلائی کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے۔“ (مسلم)

## توضیح

”معاش“ یہ عیش سے ہے جو زندگی کے معنی میں ہے یعنی انسان کی بہترین زندگی ”لہم“ یعنی جو زندگی اس انسان کے فائدہ کے لئے ہو اس کے لئے وبال نہ ہو ”رجل“ ای معاش رجل، مضاف محذوف ہے ”عنان“ لگام کو عنان کہتے ہیں ”یطیر“ اڑنے کو کہتے ہیں یہاں مراد تیز دوڑنا ہے گویا اڑ رہا ہے شاعر حماسی کہتا ہے ۔

قوم اذا الشرا بدي ناجذيه لهم

طاروا زرافات ووحدان

”ہیعة“ گھبراہٹ میں فریاد کی آواز کو ہیعة کہتے ہیں ”او فرعة“ انتہائی خوف کے وقت مدد و نصرت کے لئے بلانے کو فرعة کہتے ہیں ”او“ تنويع کے لئے ہے دونوں کا معنی قریب قریب ہے خوفزدہ فریادرس آدمی مراد ہے۔

”مِطَانَةً“ یہ لفظ موت کے لفظ سے بدل بھی ہو سکتا ہے مگر ”یبتغی“ کے لئے اگر ظرف ہو جائے تو معنی زیادہ واضح ہوگا یعنی جہاں موت کا گمان ہو ایسے مقامات میں موت کو تلاش کر رہا ہے۔ ”مِطَانَةً“ مظنة، کی جمع ہے اور ضمیر مفرد اس لئے لائے ہیں کہ ہر ایک کی طرف راجع ہے یا اقرب کی طرف ضمیر لوثی ہے جو موت ہے۔

”اور جل“ ای او معاش رجل، یعنی دوسرے اس شخص کی زندگی بہترین زندگی ہے۔  
 ”غنیمة“ یہ غنم کی تصغیر ہے تقلیل کے لئے ہے یعنی بکریوں کے ایک ٹکڑے میں ہے۔ ”شعفة“ شین اور عین اور فافتحہ ہے پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔

”یوتی الزکاة“ یعنی اگر مالدار صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے ”الیقین“ اس سے موت مراد ہے۔  
 ”لیس من الناس“ یعنی نہ لوگوں کو خود ایذا دیتا ہے اور نہ لوگوں کے شر میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے۔ اس حدیث سے ایک یہ تعلیم ملتی ہے کہ دشمنان اسلام کے مقابلے کے لئے ہر وقت مؤمن کو تیار رہنا چاہئے اور جہاد کے راستے میں جان کو تھیلی پر رکھنا چاہئے۔ حدیث سے دوسری تعلیم یہ ملی کہ شر و فساد اور فتن و محن کے وقت آدمی کو چاہئے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لئے سہولت والی زندگی کو چھوڑ کر لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر گمنامی اور گوشہ نشینی اور فقر و فاقہ اور مشقت والی زندگی اختیار کرے گوشہ نشینی اور عوام الناس سے الگ زندگی گزارنا اس وقت افضل ہے جب دین و ایمان کا خطرہ لاحق ہو ورنہ عام احوال میں لوگوں کے اندر رہنا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا اور ان کی مشقتوں کو برداشت کرنا افضل ہے تمام انبیاء و اولیاء اور علماء کا یہی معمول رہا ہے۔

### مجاہد کو جہاد پر بھیجنا بھی جہاد ہے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت زید بن خالد کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان درست کیا اس نے گویا جہاد ہی کیا (یعنی وہ بھی جہاد کرنے والوں کے حکم میں داخل ہے اور جہاد کے ثواب میں شریک ہے۔ اور جو شخص کسی غازی و مجاہد کا اس کے اہل و عیال کے لئے نائب و خلیفہ بنا (یعنی جو شخص کسی غازی و مجاہد کے جہاد میں چلے جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کا خدمت گزار اور نگہبان بنا۔ اس نے بھی گویا جہاد کیا۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”جہز“ یہ تجهیز سے ہے کسی کو تیار کر کے جہاد پر روانہ کرنے کے معنی میں ہے۔ تیار کرنا یہ ہے کہ اس کو جہاد کی ترغیب دی پھر اس کو کرایہ دیا اسلحہ دیا راستہ کا خرچہ دیا ”خلف“ یعنی مجاہد جب جہاد پر گیا اور پیچھے اس کے گھر کی نگرانی کسی نے کی اور ان کے اہل و عیال کا خیال رکھا تو ایسے شخص کو بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے۔



## مجاہدین کی عورتوں کا احترام لازم ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيُخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت بريدہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجاہدین کی عورتوں کی عزت و حرمت بیٹھے والوں (یعنی جہاد کے لئے نہ جانے والوں) پر اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ خود ان کی ماؤں کی عزت و حرمت ان پر لازم ہے لہذا (یاد رکھو) بیٹھنے والوں یعنی جہاد میں نہ جانے والوں میں سے جو شخص کسی مجاہد کا اس کا اہل و عیال کیلئے نائب و خلیفہ بنا یعنی ان کا نگران بنا اور پھر اس نے اس (مجاہد) کے اہل و عیال اور مال میں خیانت کی تو اس کو قیامت کے دن اس مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائیگا اور مجاہد اس کے (نیک) اعمال میں سے جتنی چاہے گا لے لیگا، ایسی حالت میں تمہارا کیا خیال ہے؟“ (مسلم)

### توضیح

”الاقوقف لہ“ یعنی اس خیانت کرنے والے کو مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس کی جتنی نیکیاں لینا چاہیگا لے سکے گا ”فما ظنکم“ یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن اس ضرورت کے موقع پر مجاہد اس کی کسی نیکی کو چھوڑیگا؟ نہیں بلکہ سب کچھ لے لے گا یا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ خائن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تمام نیکیاں مجاہد کو دلوائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ ایسا خیال اور شک نہ کرو۔

بہر حال اس حدیث میں مجاہدین کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جس کا دائرہ اس کے خاندان اور کنبہ تک پھیلتا جا رہا ہے کہ مجاہدین کی بیویوں کا احترام عام مسلمانوں پر اس طرح لازم ہے جس طرح اپنی ماؤں کا احترام لازم ہے حدیث کی اس تعلیم کے بعد ہر مسلمان کو سوچنا چاہئے کہ ان کے قول و فعل سے اگر کسی مجاہد کی تحقیر تو ہین ہوگئی تو وہ جرم کتنا سنگین ہوگا جب مجاہدین کی بیویوں کا یہ مقام ہے تو خود مجاہدین کا کیا مقام ہوگا؟

## جہاد میں مالی مدد کرنے کی عظیم فضیلت

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو مسعود انصاریؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن دربار نبوت میں) ایک شخص کیل پڑی ہوئی اونٹنی لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ اللہ کی راہ کے لئے ہے یعنی میں اس اونٹنی کو اللہ کی رضا کے لئے جہاد میں پیش کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا۔ ”(میں تمہاری اس پیشکش کو بہ تحسین قبول کرتا ہوں اور تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ) (اس کے بدلے میں قیامت کے دن تمہیں سات سواونٹیاں ملیں گی اور سب کی تکمیل پڑی ہوگی۔“ (مسلم)

توضیح

”مخطوۃ“ خطام سے ہے جو لگام اور مہار کے معنی میں ہے یعنی لگام پڑی اونٹنی۔

”سبعۃ“ یعنی اس ایک اونٹنی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سات سواونٹیاں عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث اسی حدیث کی طرح ہے جس میں آیا ہے کہ جو شخص گھر میں بیٹھا ہو مگر اس نے جہاد کے میدان کے لئے ایک روپیہ بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سات سو روپیہ کا ثواب عطا کریگا۔

ہر گھر سے ایک مجاہد جہاد پر جائے

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هَذِيلٍ فَقَالَ لِيَنْبِغَتْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ہذیل کی ایک شاخ بنو لہیان کے مقابلہ پر جہاد کے لئے ایک لشکر روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو حکم دیا کہ چاہئے کہ ہر دو شخصوں میں ایک شخص جہاد میں جانے کے لئے نکلے اور جہاد کا ثواب دونوں کو برابر ہوگا۔ (مسلم)

توضیح

”لینبغت“ یہ جہاد پر بھیجنے کی تشکیل کی ایک صورت ہے یعنی ہر گھر سے ایک آدمی جہاد پر جائے اور دوسرا اس کے گھر کی نگرانی کرنے کے لئے پیچھے رہ جائے اور ثواب دونوں میں برابر سراسر ہوگا، مجاہد کو تو جہاد پر جانے کا ثواب ملیگا لیکن اس کے گھریلو نگرانی کرنے والے کو نگرانی میں جہاد کا پورا ثواب ملے گا۔

دین کی حفاظت کے لئے مجاہدین قیامت تک لڑتے رہیں گے

﴿۱۵﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابر بن سمرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لئے قیامت تک لڑتی رہے گی۔ (مسلم)

## توضیح

”لن یسرح“ یعنی جب تک زمین پر ایک ایسی جماعت رہیگی جو جہاد کرتی رہیگی تو یہ دین قائم و دائم رہیگا مجاہدین کی یہ جماعت کبھی دنیا کے ایک کونے میں ہوگی تو کبھی دوسرے کونے میں ہوگی مگر زمین ان سے خالی نہیں رہے گی ہاں قرب قیامت کے وقت یہ جماعت ختم ہو جائے گی۔ اس حدیث کو نصب الرلیۃ ج ۳ ص ۷۷ اور مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۰۶ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے ”الجهاد ماض الی یوم القيامة“ (مرقات ص ۳۴۹ ج ۷)۔ مجمع الاوسط ج ۵ ص ۳۹۰ پر یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ ”والجهاد ماض الی یوم القيامة“ طبرانی کی روایت میں ایک راوی ضعیف ہے بہر حال حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔ یعنی جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ مجاہدین کی یہ جماعت شام میں ہوگی جس کو دوسری حدیث میں طائفۃ منصورۃ کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔

ملا علی قارئی فرماتے ہیں کہ آج کل روم میں یہ طائفہ برسر پیکار ہے پھر فرماتے ہیں کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ اس جماعت سے مراد مجاہدین کی وہ جماعت ہے جو کسی زمان و مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ (یعنی دنیا کے مختلف علاقوں میں ہونگے) بہر حال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ اور آیت ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ میں اسی جماعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

آیت وَلَتَكُنْ الْخ کے تحت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں فرض ہے ایک جماعت قائم رہے جہاد کرنے کو اور دین کا تقید کرنے کو تا خلاف دین کوئی نہ کرے اور جو اس کام پر قائم ہوں وہی کامیاب ہیں اور یہ کہ کوئی کسی سے تعرض نہ کرے موسیٰ بدین خود عیسیٰ بدین خود یہ راہ مسلمانی کی نہیں۔ (ال عمران آیت ۱۰۴)

شاہ عبدالقادرؒ آیت کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ الْخ کے تحت لکھتے ہیں یعنی یہ امت ہر امت سے بہتر ہے اسی دو وصف میں امر معروف یعنی جہاد اور ایمان یعنی توحید کا تقید اس قدر اور دین میں نہیں۔ (ال عمران آیت ۱۱)

## راہ جہاد میں زخم لگنے کی فضیلت

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يُنْعَبُ دَمًا لَلْوُنْ لَوْنُ الدَّمِ وَالرَّيْحُ رِيحُ الْمِسْكِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص خدا کی راہ (یعنی جہاد) میں زخمی کیا جاتا ہے، اور خدا اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے تو وہ مجاہد قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہتا ہوگا اس خون کا رنگ خون کے رنگ کا سا ہوگا اور اس کی بوشمک کی خوشبو کی طرح ہوگی۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”لایکلم“ باب نصر وضرب سے مجہول کا صیغہ ہے زخم لگنے کے معنی میں ہے ”ای لایجرح“۔ ”یتعّب“ یہ فتح یفتح سے ہے زخم سے فوارہ کی طرح خون بہنے کو کہتے ہیں ایک روایت میں یتفجر کا لفظ ہے جو اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ بہر حال مجاہد کے زخم سے قیامت کے روز خون بہنے کی حکمت یہ ہے کہ گویا یہ خون مجاہد کی قربانی پر بطور گواہ موجود ہوگا اور ان کی فضیلت پر علامت ہوگی گویا مجاہد بزبان حال کہہ رہا ہے۔

میرے رستے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا  
ایسے تمنوں کے طلبگار یہاں اور بھی ہیں  
اس حدیث میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ راہ جہاد میں بے ریا مخلص مجاہد کون ہوتا ہے اور ریا کار کون ہوتا ہے۔

### شہادت کی فضیلت و تمنا

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کریگا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور (جنت کی نعمتوں کے عوض دنیا کی تمام) چیزوں کو قبول کرے مگر شہید یہ آرزو کرتا ہے کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور دس بار خدا کی راہ میں شہید ہو جائے کیونکہ وہ شہادت کی عظمت اور اس کے ثواب کو جانتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

### شہداء کی حیات بعد الموت

﴿۱۸﴾ وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ الْآيَةَ قَالَ إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْوَاهُمْ فِي أَجْوَابِ طَيْرٍ خَضِرٍ لَهَا قِنَادِيلٌ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ

حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَىٰ تِلْكَ الْفَنَادِيلِ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اِطْلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَسْتَهْوَونَ شَيْئًا قَالُوا  
أَيَّ شَيْءٍ نَسْتَهْيِي وَنَحْنُ نَسْرُحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ  
لَنْ يَتْرَكُوْا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوْا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِيْ أَجْسَادِنَا حَتَّى نَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً  
أُخْرَىٰ فَلَمَّا رَأَىٰ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تَرَكُوْا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت میسروق (تابعی) کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی جو لوگ خدا کی  
راہ جہاد میں مارے گئے ہیں ان کو تم مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے الخ۔  
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ”ان (شہداء)  
کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں ان کے (رہنے) کے لئے عرش الہی کے نیچے کے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں  
وہ (روحیں) بہشت میں سے جہاں سے ان کا جی چاہتا ہے میوے کھاتی ہیں پھر ان قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں تب  
پروردگار ان (شہداء) کی طرف جھانکتا ہے اور فرماتا ہے کہ ”کیا تم کو کسی چیز کی خواہش ہے؟“ وہ عرض کرتے ہیں ”کہ ہم  
کس چیز کی خواہش کریں درانحالیکہ ہم بہشت میں سے جہاں سے ہمارا جی چاہتا ہے میوے کھاتے ہیں۔“ اللہ تعالیٰ ان  
کے ساتھ تین مرتبہ یہی معاملہ کرتا ہے (یعنی تین بار ان سے یہی سوال کرتا ہے) اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوچھے جانے  
والے سے چھوڑا نہیں جائے گا (یعنی جب وہ جانتے ہیں کہ پروردگار کی مراد یہ ہے کہ ہم کسی خواہش کا اظہار کریں) تو وہ  
عرض کرتے ہیں کہ ”اے ہمارے پروردگار! ہماری بس یہی خواہش ہے کہ تو ہماری روحوں کو جسموں میں واپس کر دے اور  
ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم ایک بار پھر تیری راہ میں مارے جائیں“ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی  
(متعین) خواہش و حاجت نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنا چھوڑ دیتا ہے) (مسلم)

توضیح

”ارواحہم فی اجواف طیر“ اجواف جوف کی جمع ہے پرندہ کے پونے کو کہتے ہیں جہاں ابتدائی طور پر غذا جمع ہو جاتی  
ہے جو پرندہ کے چونچ کے نیچے ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے جس کے لئے دوسری روایات میں حواصل کا لفظ آیا ہے۔  
علماء نے لکھا ہے کہ شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھنا شہداء کے اکرام و احترام کے طور پر ہے اس حدیث کی  
دلالة النص سے حیات شہداء ثابت ہوتی ہے اور اشارۃ النص سے حیات انبیاء ثابت ہوتی ہے کیونکہ شہداء سے انبیاء کا مقام  
بلند و بالا ہے لہذا ان کی حیات کا ثبوت بطریق اولیٰ ہے۔

سماع موتی کا مسئلہ ایک حد تک توضیحات جلد اول میں لکھا گیا ہے اور حیات انبیاء کا مسئلہ بھر پور طریقہ سے توضیحات جلد دوم  
میں لکھا گیا ہے یہاں اس مسئلہ کی تفصیل مقصود نہیں البتہ اس حدیث سے پیدا شدہ ایک سوال اور اس کا جواب لکھا جاتا ہے۔

## سوال

اس حدیث سے ہندو اور چین کے کچھ لوگ عقیدہ تناخ (آواگون) ثابت کرتے ہیں۔ تناخ کا مطلب ان کے ہاں یہ ہے کہ اس دنیا میں جب آدمی مرجاتا ہے تو اس کی روح کسی اور حیوان میں منتقل ہو جاتی ہے اگر مرنے والا نیک اور اچھا آدمی تھا تو اس کی روح بادشاہ یا کسی حاکم کے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے جس کے ذریعہ سے یہ روح مزے اڑاتی ہے اور یہی اس کی جنت ہے اور اگر مرنے والا آدمی برا تھا تو اس کی روح گدھے یا کتے یا کسی ذلیل حیوان میں جاتی ہے لوگ اس کو مارتے ہیں ستاتے ہیں جس سے یہ روح ذلیل ہو جاتی ہے یہی اس کی جہنم اور دوزخ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا اس حدیث سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟

## جواب

ان سب لوگوں کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق آخرت سے ہے کہ آخرت میں یہ ارواح پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں اور جو لوگ تناخ کے قائل ہیں وہ دنیا میں مرنے والے کی روح کو کسی اور کے اندر داخل ہونے کے قائل ہیں آخرت کو تو وہ لوگ مانتے نہیں ہیں پھر آخرت والی حدیث سے استدلال کیسے کرتے ہیں؟

دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ طیر خضر شہدا کی ارواح کے لئے بطور ظرف و صندوق ہیں نہ یہ کہ ان ارواح نے طور کے قالب و جسم میں حلول کیا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے موتی کو صندوق میں رکھ دیا تو یہ صندوق موتی کے لئے ظرف ہے نہ یہ کہ موتی نے صندوق میں حلول کیا ہے۔

تفہیم و تسہیل کے لئے تیسرا جواب یوں سمجھ لیں کہ یہاں طیر خضر کی جو تعبیر ہے یہ جنت کی سواریوں میں سے کسی سواری کی طرف اشارہ ہے مثلاً ہیلی کاپٹر ہے اس میں دنیا میں آدمی بیٹھ کر مختلف اطراف کی طرف اڑ کر جاتا ہے پھر واپس اپنے ٹھکانے پر آتا ہے ہیلی کاپٹر کا سامنے والا حصہ بالکل پرندہ کے پونے کی طرح ہے شیشہ میں سب کچھ سیر و تفریح ہوتی ہے تو یہاں بھی طیر خضر سبز پرندوں سے جنت کے سبز ہیلی کاپٹر مراد ہو سکتے ہیں۔

”فاطلع“ نظر اور تجلی کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جھانک کر انہیں ایسا دیکھا جو اللہ کے شایان شان ہو۔

”رؤا“ یعنی شہداء نے جب دیکھا ”لن یرکوا“ مجہول کا صیغہ ہے یعنی شہداء نے دیکھا کہ انہیں سوال کئے بغیر نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ ”ان یسألوا“ یعنی کہ یہ شہداء اللہ تعالیٰ سے سوال کر کے کچھ مانگیں یہ معلوم کا صیغہ ہے۔

”ترکوا“ مجہول کا صیغہ ہے یعنی جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ کچھ مانگنے والے نہیں ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔

## شہادت سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں

﴿۹۹﴾ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْكَفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْكَفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الَّذِينَ قَالَ لِي ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور (اس خطبہ میں) انکو آگاہ کیا کہ ”اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب سے بہتر اعمال ہیں۔“ (یہ سن کر) ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہاں۔“ بشرطیکہ تم اللہ کی راہ میں اس حال میں مارے گئے کہ تم (ختیوں پر) صبر کرنے والے ہو، ثواب کے طالب ہو اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے نہ ہو بلکہ دشمن کے مقابلے پر جے رہنے والے ہو۔“ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ”تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ ”مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہاں! بشرطیکہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کے طالب ہو اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے نہ ہو بلکہ دشمن کے مقابلے کے پر جتنے والے ہو مگر قرض (یعنی وہ قرض معاف نہیں ہوگا جس کی ادائیگی کی نیت ہی نہ ہو) اور مجھ سے جبرائیلؑ نے یہی فرمایا ہے۔“ (مسلم)

## توضیح

”افضل الاعمال“ ایمان کے بعد افضل عمل کونسا ہے اس کی توضیح و تشریح اس باب کی حدیث نمبر ۱۱ اور حدیث نمبر ۲ میں ہو چکی ہے۔

”محتسب“ صابر سے مراد میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں صبر کرنا مراد ہے کہ بزدلی نہ دکھائے جزع فزع نہ کرے اور محتسب سے ثواب کی امید کرنا مراد ہے جہاد خالص رضائے الہی کے لئے ہو آخرت کا ثواب مطلوب ہو دنیا کی غرض نہ ہو اور دکھاوا اور ریاکاری مقصود نہ ہو، نیز کوئی قومی تعصب و حمایت کا جذبہ نہ ہو۔

”کیف قلت“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کا سوال معلوم تھا مگر دوبارہ سوال اس لئے کیا تا کہ وہ آدمی خوب غور

سے جواب کو سننے اور جواب میں جو اضافہ ہے اس کو سمجھ لے۔

”الا الدین“ اس سے مراد کوئی خاص قرض نہیں بلکہ حقوق العباد مراد ہے وہ جہاد و شہادت سے معاف نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ تمام حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں۔ ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ سمندری جنگ میں جو آدمی شہید ہو جائے اس سے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں بعض روایات میں ہے کہ ابتدا میں حکم اسی طرح تھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرمادی ہے کہ شہید سے حقوق العباد کو بھی اس طرح معاف فرمادے گا کہ صاحب حق کو قیامت میں اس کے عوض ثواب عطا فرمائے گا وہ راضی ہو جائے گا اور شہید معاف ہو جائے گا۔

بہر حال مجاہد کو میدان جہاد میں جانے سے پہلے وصیت کر کے قرض کا انتظام کرنا چاہئے۔ مسلم شریف میں اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں ”یغفر للشہید کل ذنب الا الدین“ معلوم ہوا جہاد اور شہادت گناہوں کے دھونے کی سب سے بڑی واشگک مشین ہے آنے والی روایت کی تشریح و توضیح بھی اسی طرح ہے۔

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكْفِرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدِّينَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت عبد اللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”اللہ کی راہ (یعنی جہاد میں) مارا جانا دین (حقوق العباد) کے علاوہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔“ (مسلم)

### قاتل اور مقتول دونوں جنت میں

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهِدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان دو شخصوں پر ہنستا ہے (یعنی ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان متوجہ ہوتا ہے) ان میں سے ایک تو وہ ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے (یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوتا ہے) پھر اللہ تعالیٰ اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے (اور وہ کفر سے تائب ہو کر ایمان لے آتا ہے) اور پھر خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے (لہذا اس کو بھی جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔) (مسلم)



## توضیح

”یضحک اللہ“ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور خوش ہونا ہے یہ متشابہ الفاظ میں سے ہے اس کی بہترین تاویل یہ ہے کہ ”ای مایلیق بشانہ“ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہو۔

میدان جہاد میں قاتل اور مقتول دونوں کے جنت میں جانے کی صورت میں ہوتی ہے کہ مثلاً کسی کافر نے مسلمان کو شہید کر دیا مسلمان جنت پہنچ گیا پھر اس قاتل نے اسلام قبول کر لیا اور دین کے لئے لڑتے لڑتے خود بھی شہید ہو گیا یہ بھی جنت میں چلا گیا تو اس کا مقتول بھی جنت میں ہے اور یہ خود بھی جنت میں ہے۔ اس طرح واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی بہت دفعہ پیش آیا ہے۔

## شہادت کی سچی تمنا بھی شہادت ہے

﴿۲۲﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت سہلؓ ابن حنیف کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص سچے دل (یعنی طلب صادق کے جذبے سے) اللہ تعالیٰ سے شہادت کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجہ پر پہنچاتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے (یعنی وہ صدق نیت اور طلب صادق کی وجہ سے شہیدوں جیسا ثواب پاتا ہے)“ (مسلم)

## توضیح

”الشہادۃ“ چونکہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اس لئے سچی اور پکی نیت کے ساتھ جو مسلمان جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت چاہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر میں فراش پر مرجائے۔ اس حدیث سے مسلمانوں کو ایک ہمائی جذبہ اور حوصلہ دلانا مقصود ہے کہ ہر مسلمان کے دل و دماغ میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہر وقت موجزن رہنا چاہئے شہادت مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ موت وقت سے پہلے آجائے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو موق قینے وقت پر آنے والی ہے وہ شہادت میں بدل جائے۔

## میدان جہاد میں نامعلوم گولی لگنے سے بھی شہادت ملتی ہے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرُّبَيْعَ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بِنِ سُرَاقَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرُبَ فَإِنْ كَانَ فِي

الْجَنَّةِ صَبْرٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتَ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ فَقَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جَنَّانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفَرُودُوسَ الْأَعْلَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (میری پھوپھی) حضرت ربیع بنت براء جو حضرت حارثہ ابن سراقہ کی ماں ہیں (ایک دن) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ ”یا نبی اللہ! کیا آپ مجھ سے میرے بیٹے حارثہ کا حال بیان نہیں کریں گے اور حارثہ بدر کے دن (یعنی جنگ بدر میں) شہید ہو گئے تھے اور ان کو ایک ایسا تیر لگا تھا جس کا چلانے والا معلوم نہ ہوا کہ کون تھا، اگر وہ جنت میں ہو تو میں صبر کروں اور اگر وہ کسی اور جگہ ہو تو میں رونے کی کوشش کروں (یعنی خوب روؤں جیسا کہ عورتوں کی عادت ہے)“ آنحضرتؐ نے فرمایا ”حارثہ کی ماں! حقیقت یہ ہے کہ جنت میں بہت سے باغ ہیں اور تمہارا بیٹا فردوسِ اعلیٰ میں پہنچا ہوا ہے (جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے)“ (بخاری)

## توضیح

”ام حارثہ“ جنگ بدر میں حضرت حارثہ بن سراقہ ایک کنوئیں کے پاس پانی حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی طرف سے تیر آ کر ان کو لگا جس سے وہ شہید ہو گئے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تیر کس کی طرف سے آ کر ان کو لگا تھا احتمال تھا کہ کسی مسلمان کا تیر آ کر ان کو لگا ہو جس سے ان کی شہادت کو نقصان پہنچا ہو نیز وہ اس وقت جنگ کے میدان سے باہر بھی تھے اور موت واقع ہو گئی تھی انہیں دو باتوں نے حضرت حارثہ کی والدہ کو پریشان کر رکھا تھا کہ نہ معلوم حارثہ کا انجام کیسا ہوا، اسی پریشانی کو دور کرنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر حارثہ کا انجام اچھا رہا ہے تو میں ان کی موت پر صبر کروں ورنہ دوسری صورت میں جزع فزع کر کے خوب رونا دھونا شروع کر دوں آنحضرتؐ نے ان کو تسلی دیدی اور بشارت سنادی کہ جنت ایک نہیں بلکہ مختلف درجات پر مشتمل مختلف جنتیں ہیں اور تیر ایٹا تو اعلیٰ و ارفع مقام جنت فردوس میں ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد کے میدان میں کسی کی بھی گولی لگنے سے اللہ تعالیٰ شہادت عطا کرتا ہے آج کل جہاد میں غلطی سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں ”سہم غرب“ اسی نامعلوم تیر یا گولی کو کہتے ہیں۔

## کھجور پھینک کر جام شہادت نوش کیا

﴿۲۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَذْرِ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَيَّ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ بَخَ بَخَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخَ بَخَ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا قَالَ

فَاُخْرِجَ تَمْرَاتٍ مِّنْ قَرْنِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لِّئِنْ اَنَا حَيِّثُ حَتَّى اَكُلَ تَمْرَاتِي اِنَّهَا لِحَيَاةٍ طَوِيلَةٍ قَالَ فَرَمِي بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (غزوہ بدر کی موقع پر) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ (مدینہ سے) روانہ ہوئے اور مشرکوں سے پہلے بدر (کے میدان جنگ) میں پہنچ گئے پھر (جب اسلامی مجاہدین کے پہنچنے کے بعد) مشرکین کا لشکر آیا اور (مقابلہ کی تیاری شروع ہوئی) تو آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”جنت کے راستے پر کھڑے ہو جاؤ وہ جنت جس کا عرض زمین و آسمان کے عرض کے برابر ہے، (ایک صحابی) حضرت عمیرؓ بن حمام انصاری نے (یہ ارشاد سن کر کہا کہ ”خوب! خوب!“) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے خوب خوب کیوں کہا؟ عمیرؓ نے کہا کہ ”یا رسول اللہ! میں نے یہ الفاظ (اظہار تعجب یا کسی اور مطلب سے نہیں کہے بلکہ میں نے درحقیقت ان الفاظ کے ذریعہ اپنی اس آرزو کا اظہار کیا ہے کہ میں بھی جنتی ہوں“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس میں کوئی شک نہیں تم جنتی ہو۔“ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمیرؓ نے سر کا رو کا عالم کی زبان مبارک سے یہ بشارت سن کر اپنے ترکش سے کچھ کھجوریں نکالیں اور ان کو کھانا شروع کیا اور پھر کہنے لگے کہ اگر میں ان (ساری) کھجوروں کو کھانے تک زندہ رہا تو زندگی طویل ہوگی چنانچہ انہوں نے ان کھجوروں کو جوان کے پاس تھیں پھینک دیا اور کفار سے لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ (مسلم)

## توضیح

”قومو الی جنة“ یعنی جنت کے دروازہ میں داخل ہونے کے لئے کھڑے ہو جاؤ ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے ”فقال عمیر“ یہ نوعمر مجاہد جنگ بدر میں سب سے پہلے شہید ہو گیا تھا۔

”بخ بخ“ بامفتوح اور خ سا کن ہے بطور مبالغہ یہ لفظ مکرر ہے ایک نسخہ میں خ پر تنوین ہے اور خ پر شد بھی پڑھا گیا ہے عرب خوشی و تعجب، فخر اور مدح کے وقت یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں اس کا ترجمہ ”خوب خوب“ اور واہ واہ ہوتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیرؓ سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ آیا اس نے یہ کلمہ ارادہ کیساتھ زبان پر لایا ہے یا ایسے اتفاقی طور پر نکلا ہے حضرت عمیرؓ نے جواب دیا کہ بغیر ارادہ نہیں بلکہ سچا ارادہ ہے کہ یہ جنت مجھے مل جائے اور میری جان قربان ہو جائے جب حضور اکرم کی جانب سے بشارت ملی تو کسی تاخیر کے بغیر حضرت عمیرؓ نے جان کی بازی لگادی اور کھجور چبانے اور کھانے تک دیر کو بھی برداشت نہ کیا اور جان لڑادی۔

علماء نے اس حدیث اور حضرت عمیرؓ کے اس اقدام کو ”خود کش بمبار“ کا روائی کے لئے بطور دلیل پیش کیا ہے۔

یاد رہے کہ کفار پر بمبار حملہ کرنا خود کشی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ درحقیقت دیگر کش حملہ ہوتا ہے لوگ اس کو خود کش حملہ کہتے ہیں ہاں ملک کے اندر اس طرح افراتفری پھیلانا اچھا نہیں ہے۔

نوٹ :- (کتاب الجہاد کی ابتدا سے یہاں تک افریقہ زامبیا کے سفر کے دوران مولانا ایوب بوبات کے ہاں لوسا کا شہر میں لکھا گیا ہے۔ جون ۲۰۰۵)

## شہید کا مطلب اور شہداء کی اقسام

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيَ لَمْ يَمُتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہؓ) سے پوچھا کہ تم اپنے آپ میں سے کس کو شہید شمار کرتے ہو صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جو شخص اللہ کی راہ مارا جائے وہ شہید ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اس صورت میں میری امت کے اندر شہیدوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ تو (حقیقی شہید ہے) لیکن جو شخص اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں (بغیر قتل و قتل کے خود اپنی موت سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص وبا میں مرے وہ بھی شہید ہے اور جو شخص پیٹ کی بیماری میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ (یعنی یہ سب بھی حقیقی شہداء کے درجات و ثواب میں ہیں نیکی ان کے حج احکام میں!) (مسلم)

## توضیح

”الشہید فیکم“ یعنی تم آپس میں کس کو شہید شمار کرتے ہو؟ شہید فاعیل کے وزن پر ہے اور فاعیل کبھی اسم مفعول کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے اگر یہاں شہید کو مشہود اسم مفعول کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اعزاز و اکرام کے لئے اس کے پاس فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔

اور اگر شہید کو شاہد اسم فاعل کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شہید خود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مشاہدہ کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لئے حاضر ہو جاتا ہے یا موت کے وقت جنت میں اپنے درجات کا مشاہدہ کرتا ہے۔

یا شہید کا لفظ شہادت کے معنی میں ہے یعنی شہید خود اپنے عمل سے اپنے اخلاص کی گواہی دیتا ہے۔ یا شہید کو اس لئے شہید کہتے ہیں کہ سارے مسلمان اور فرشتے ان کے لئے جنت کی گواہی دیتے ہیں۔

اسلام میں شہید حقیقت میں وہ شخص ہوتا ہے جو کفار سے مقابلہ کے دوران مارا جائے یا ظلماً تیز دھار آگ سے قتل کیا جائے اور وہ دنیوی اشیاء سے نفع اٹھائے بغیر مر جائے یہ حقیقی شہید ہے اس کے علاوہ چند شہداء کا ذکر زیر بحث حدیث میں آیا ہے یہ ثواب

کے اعتبار سے شہداء ہیں دیگر احکام کے اعتبار سے شہداء نہیں ہے۔ یعنی جو شخص جہاد کے راستے میں طبعی موت مر جائے یا جو شخص طاعون سے مر جائے یا ہیضہ سے مر جائے یا پہاڑ سے گر کر مر جائے یا آگ میں جل کر مر جائے یا پانی میں ڈوب کر مر جائے یا زچگی میں عورت مر جائے یا علم کے حصول میں طالب علم مر جائے یہ سب شہداء ایسے ہیں جو صرف ثواب کے اعتبار سے شہداء شمار ہوتے ہیں کیونکہ شہید کا ایک اصل ثواب ہے اور ایک فضل ثواب ہے یہ لوگ اصل ثواب میں شریک ہیں فضل ثواب میں شریک نہیں ہیں۔

علامہ طبری لکھتے ہیں

”وَمِنْ مَاتَ بِالطَّاعُونَ أَوْ بَوَجَعٍ فِي الْبَطْنِ مُلْحَقٌ بِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمُشَارَكَةِ آيَاهُ فِي بَعْضِ مَا يَنَالُ مِنَ الْكِرَامَةِ بِسَبَبِ مَا كَابَدَهُ مِنَ الشَّدَةِ لَا فِي جَمَلَةِ الْأَحْكَامِ وَالْفَضَائِلِ. طَبِی جلد ۷ ص ۲۸۲۔  
یعنی جو آدمی طاعون یا ہیضہ سے مر جائے وہ مقتول فی سبیل اللہ کے ساتھ بعض فضائل و کرامات میں شریک اور ملحق ہیں کیونکہ اس نے محنت اٹھائی ہے لیکن تمام احکام اور شہید کے تمام فضائل میں شریک نہیں۔  
شہید حقیقی اور شہید حکمی کے درمیان فرق کرتے ہوئے ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں۔

وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ يَشَارُكَونَ فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَثُوبَاتِ الَّتِي يَسْتَحَقُّهَا الشَّهَدَاءُ لَا الْمَسَاوَاتِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِهَا. (مرقات ج ۷ ص ۳۷۶)

یعنی مطلب یہ ہے کہ شہید حکمی شہداء حقیقی کے بعض فضائل میں شریک ہے پورے ثواب میں مساوات نہیں ہے۔  
یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ احکامات کے اعتبار سے شہداء تین قسم پر ہیں۔

(۱) پہلا وہ شہید ہے جو دنیا کے اعتبار سے بھی شہید ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی شہید ہے اس پر شہید کے دنیوی احکام نافذ ہو۔ نگے کہ غسل کے بغیر اپنے کپڑوں میں خون کے ساتھ دفنایا جائے گا یہ کامل مؤمن شہید ہے جس کو آخرت میں درجات ملیں گے۔

(۲) دوسرا وہ شہید ہے جو آخرت کے اعتبار سے شہید نہیں ہے صرف دنیا کے اعتبار سے شہید ہے یہ وہ بد عقیدہ مقتول ہے جو یا منافق ہے یا قادیانی، آغا خانی ہے یا رافضی ہے یا زکری، بہائی وغیرہ ہے ایسے لوگ شہید نہیں ہوتے ہیں ہاں ان پر شہداء کے دنیوی احکام نافذ ہوں گے۔

(۳) تیسرا وہ شہید ہے جو آخرت کا شہید ہے مگر دنیا کا شہید نہیں ہے یہ وہ شخص ہے جو طاعون وغیرہ سے مر گیا ہو ان کو آخرت میں شہید کا ثواب ملیگا لیکن شہید کے دنیوی احکام اس پر نافذ نہیں ہوں گے۔ مزید تفصیلات میری کتاب دعوت جہاد میں

ملاحظہ کریں۔

شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے  
شہید کا جو خون ہے وہ خون کی زکوٰۃ ہے

### مجاہد کے اجر کی تقسیم

﴿۲۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَآ مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمَ وَتَسْلَمَ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلْثَى أَجُورِهِمْ وَمَآ مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخَفِّقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أَجُورُهُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جہاد کرنے والی جس جماعت یا جہاد کرنے والے جس لشکر نے جہاد کیا اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم واپس آ گیا اس کو اس کا دو تہائی اجر جلدی مل گیا اور جہاد کرنے والی جس جماعت یا جہاد کرنے والے جس لشکر نے جہاد کیا اور نہ صرف یہ کہ اسکو مال غنیمت نہیں ملا بلکہ اس جماعت و لشکر کے لوگ زخمی کئے گئے یا شہید کر دیئے گئے تو ان کا اجر پورا باقی رہا۔“ (مسلم)

### توضیح

”غازیۃ“ اس کا موصوف قطعۃ یا جماعت ہے اور یہاں لفظ ”او“ شک کیلئے نہیں ہے یا ممکن ہے کہ کسی راوی کو شک ہو گیا ہو۔ ”ثُلْثَى اجورہم“ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مجاہد کے اجر و ثواب کو تین اثلاث پر تقسیم کیا گیا ہے۔ غنیمت حاصل کرنا ایک ثلث ہے اور صحیح سالم لوٹنا دوسرا ثلث ہے اور جہاد کا اخروی ثواب تیسرا ثلث ہے تو جس شخص نے غنیمت بھی حاصل کی اور صحیح سالم بھی لوٹ آیا اس کے دو ثلث چلے گئے صرف آخرت کا حصہ ایک ثلث رہ گیا اور جس شخص نے ان دونوں ثلثوں کو حاصل نہیں کیا تو اس کا اجر کامل و مکمل رہ گیا جو تین اثلاث ہیں۔

علامہ ابن ملکؒ نے اس حدیث کو سمجھنے کے لئے اس کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ غازی کو جب مال غنیمت بھی حاصل ہو گیا اور صحیح سالم بھی لوٹ آیا تو اس نے اپنے جہاد کے ثمرات میں سے دو ثمرات حاصل کر لئے اور تیسرا ثمرہ دخول جنت ہے جو ابھی باقی ہے۔

اور اگر غازی نہ غنیمت حاصل کر سکا اور نہ صحیح سالم لوٹ سکا تو اس کا کامل مکمل ثواب محفوظ ہو گیا۔ الغرض ایک مجاہد وہ ہے جو صحیح سالم مال غنیمت کے ساتھ لوٹ آیا دوسرا وہ ہے جو صحیح سالم تو لوٹ آیا مگر مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا اور تیسرا وہ جو زخمی یا شہید ہوا مال بھی حاصل نہیں ہوا۔

”تخفّق“ اخفاق سے ہے جو ناکامی و محرومی کے معنی میں ہے یعنی جہاد کیا مگر مال غنیمت حاصل نہیں ہوا۔  
 ”تصاب“ یہ مصیبت پہنچنے کے معنی میں ہے یعنی یا زخمی ہو گیا یا شہید ہو گیا یا کسی اور مصیبت کا سامنا کیا۔

## جس مسلمان کے دل میں جذبہ جہاد نہ ہو وہ نفاق کی موت مرے گا

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو مسلمان شخص مرجائے اور اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال گزرا ہو تو اس کی موت ایک طرح کے نفاق پر ہوگی۔“ (مسلم)

## توضیح

”من مات“ یعنی جس شخص نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کا اس طرح جذبہ رکھا کہ اسے کاش میں بھی جہاد میں شریک ہوتا نہ اس نے جہاد کی تیاری کی نہ اسلحہ سیکھا اور نہ رکھا تو ایسے شخص کی جب موت آئے گی تو نفاق پر آئے گی، نزول قرآن کے وقت جن لوگوں نے جہاد کا انکار کیا یا جہاد پر اعتراضات کئے قرآن نے ان کو منافقین کے نام سے یاد کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جہاد کا شوق رکھے اور اس کے لئے تیاری کرے خواہ جہاد فرض عین ہو یا فرض کفایہ ہو۔  
 اس حدیث سے حضرت عبداللہ بن مبارکؓ، حسن بصریؓ اور سعید بن مسیبؓ نے استدلال کیا ہے کہ جہاد کی صرف ایک ہی قسم ہے جو فرض عین ہے فرض کفایہ کی کوئی قسم نہیں ہے لیکن جمہور امت نے جہاد کی دو قسموں کو قرآن کی آیتوں کی وجہ سے قبول کیا ہے ارشاد عالی ہے ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾۔  
 ”نفسہ“ یہ منصوب بزعم الخافض ہے یعنی ”فی نفسہ“۔

## حقیقی مجاہد کون ہے

﴿۲۸﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلدِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”ایک تو وہ شخص ہے جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے جنگ کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو ذکر (یعنی آوازہ اور شہرت کہ جس کو

سمعہ کہتے ہیں) کے لئے جنگ کرتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو اس لئے جنگ کرتا ہے تاکہ اس کا مرتبہ دیکھا جائے (یعنی اپنی شجاعت و بہادری دکھانے کے لئے جنگ کرتا ہے کہ جس کو ریا کہتے ہیں تو ان (تینوں) میں کون اللہ کی راہ میں جہاد (کرنے والا) ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا ”جو شخص اس لئے جنگ کرے تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو حقیقت میں وہی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔“ (بخاریؒ و مسلمؒ)

### عذر کی بنا پر پیچھے رہنے والے کو جہاد کا ثواب ملتا ہے

﴿۲۹﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَذَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَاسِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (جب) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ ”مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں (جو اس سفر جہاد میں بظاہر تمہارے ساتھ نہیں تھے لیکن) تم نے ایسا کوئی راستہ طے نہیں کیا اور کسی ایسی وادی و جنگل کو عبور نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں (یعنی ان کے جسم تو ان کے گھروں میں تھے لیکن ان کی دعائیں ان کے دل اور ان کی ہمتیں تمہارے ساتھ تھیں)“ اور ایک روایت میں یعنی جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں کے بجائے یہ ہے کہ جس ”اجر و ثواب میں وہ تمہارے شریک نہ ہوں“ صحابہؓ نے یہ سن کر عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! اور وہ لوگ مدینہ ہی میں ہیں؟ (یعنی جبکہ وہ ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں گئے اور اپنے گھروں میں موجود رہے پھر وہ ہمارے ساتھ کیسے رہے اور ہمارے اجر و ثواب میں کیسے شریک ہوئے؟“ آنحضرتؐ نے فرمایا ہاں وہ مدینہ میں ہیں (لیکن اس کے باوجود وہ اجر و ثواب میں تمہارے شریک ہیں) کیونکہ ان کے عذر نے ان کو روکا ہے۔ بخاریؒ اور مسلمؒ نے اس روایت کو حضرت جابرؓ سے نقل کیا ہے۔“ (بخاریؒ و مسلمؒ)

### ماں باپ کی خدمت کا مقام و اہتمام

﴿۳۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ففِيهِمَا فَجَاهِدْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا.

اور حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جہاد پر جانے کی اجازت چاہی تو آپؐ نے اس سے پوچھا کہ ”کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟“ اس نے عرض کیا ”ہاں“ آپؐ نے فرمایا



! پھر تم انہیں کے درمیان رہ کر) جہاد کرو یعنی پوری محنت و تندہی کے ساتھ ان کی خدمت کرو کہ تمہارے حق میں یہی جہاد ہے۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آنحضرتؐ نے اس شخص سے فرمایا کہ تو پھر تم اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور ان کی صحبت کو بہتر بھاؤ یعنی ان کی خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی اچھی طرح کرو۔

## توضیح

”احی والد اک“ یعنی تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو انہیں کی خدمت کرو تمہیں اس میں جہاد کا ثواب ملے گا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے علاوہ ان کے والدین کی خدمت کے لئے کوئی اور نہیں تھا لہذا والدین کی خدمت اس کے ذمہ متعین تھی جو فرض عین کے درجہ میں تھی، ادھر جہاد بھی فرض کفایہ کے درجہ میں تھا اس لئے اس شخص کو والدین کی خدمت کے لئے مقرر کیا گیا یہ ایک خاص مجبوری تھی عام ضابطہ نہیں ہے اور جب جہاد فرض عین ہو جائے تو پھر والدین سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے ملا علی قاری نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو والدین کی خدمت کو جہاد پر مقدم رکھا گیا ہے لہذا والدین کی موجودگی میں جہاد جائز نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام کی اس عظیم جماعت میں صرف یہ ایک شخص تھا جن کے والدین حیات تھے؟ غزوہ تبوک میں تیس ہزار صحابہ کرام شریک ہوئے کیا ان تمام کے والدین مر چکے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی خاص مجبوری تھی جس کی وجہ سے اس شخص کو اجازت ملی۔

بہر حال جو والدین غیر مسلم ہوں یا وہ کفار کے مقابلے میں لڑنے کو جائز نہیں سمجھتے ہوں یا وہ قادیانی ہوں یا آغا خانی ہوں۔ تو ایسے والدین سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے نیز تربیت اور ٹریننگ کے لئے جانے میں بھی والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹریننگ ہر مسلمان پر لازم ہے اور اس میں جان کا خطرہ بھی نہیں کہ والدین پریشان ہوں۔

## فتح مکہ کے بعد ہجرت کی فرضیت ختم ہوگئی

﴿۳۱﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَأَنْفِرُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا ”اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت باقی ہے لہذا جب تم کو (جہاد کے لئے) بلایا جائے تو تم سب فوراً چلے جاؤ۔ (کیونکہ بغیر عام کے موقع پر جہاد میں جانا فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی ہر ایک پر ضروری ہے)۔“ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”لاہجرۃ“ یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف جو خاص ہجرت فرض تھی اس کی فرضیت ختم ہوگئی کیونکہ اب مکہ مکرمہ دارالاسلام بن گیا اب وہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں رہی البتہ دیگر دنیا سے ہجرت کا فریضہ اب بھی باقی ہے۔ یاد رکھو ہجرت بھاگنے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ بیوی بچوں کو محفوظ جگہ میں چھوڑ کر پھر پلٹنے کا نام ہجرت ہے ﴿وَآخِرُ جَوَہِم مِّن حَیْثُ آخِرُ جَوَہِم﴾ اللہ کا حکم ہے ہجرت کی تعریف اس طرح ہے۔

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی رضا کیلئے اور اپنی جان مال اور ایمان کی حفاظت کے لئے اپنے وطن مالوف کو ترک کرنے کا نام ہجرت ہے۔

(۱) ہجرت کی ایک قسم یہ ہے دارکفر سے دارامن کی طرف آدمی ہجرت کرے جیسے مکہ سے حبشہ کی طرف ہوئی۔

(۲) دوسری قسم دارکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا ہے جیسے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔

(۳) ہجرت کی تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی دارالفتن سے دارالتقویٰ کی طرف ہجرت کرے جیسے پاکستان سے لوگ طالبان کی اسلامی خلافت کی طرف ہجرت کرتے تھے۔ آج کل امریکہ وہاں افغانستان پر قابض ہے جس کی وجہ سے وہ ملک دارحرب میں بدل گیا ہے۔

(۴) ہجرت کی چوتھی قسم وہ ہے کہ لوگ مدینہ کے اطراف و قبائل سے علم سیکھنے سکھانے کی غرض سے مدینہ آکر قیام کرتے تھے اس کو ہجرت القبائل کا نام دیا جاتا تھا۔

زیر بحث حدیث میں صرف مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی نفی کی گئی ہے

”ولکن“ چونکہ ہجرت جہاد کے لئے پیش خیمہ ہوتی ہے تو اس کی نفی سے وہم ہو سکتا تھا کہ جب ہجرت ختم ہوگئی تو جہاد بھی ختم ہونا چاہئے اس وہم کو دفع کرنے کے لئے آنحضرتؐ نے لکن کے ساتھ جہاد کا استدراک فرمایا کہ جہاد اور اس کی نیت اب بھی باقی ہے۔

”استنفار“ نفیر عام کو کہتے ہیں یعنی جب وقت کا حاکم یا جہادی امیر تم کو جہاد میں نکلنے کے لئے بلائے تو تم فوراً نکلو۔

## الفصل الثانی

جہاد باقی رہیگا حتیٰ کہ مجاہدین دجال سے لڑیں گے

﴿۳۲﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي

يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
حضرت عمران ابن حصین کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری امت کی کوئی نہ کوئی جماعت ہمیشہ  
حق کی حمایت و حفاظت کے لئے برسرِ جنگ رہے گی اور جو بھی شخص اس جماعت کے ساتھ دشمنی کریگا وہ اس پر غالب  
رہیگی یہاں تک کہ اس جماعت کے آخری لوگ مسیح دجال سے جنگ کریں گے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”ظاہرین“ ای غالبین او معروفین مشہورین۔ ”ناواہم“ مناوات عداوت اور دشمنی کے معنی میں ہے یعنی ان سے  
جو عداوت رکھیں گے یہ ان پر غالب آئیں گے۔ اس جملہ کا مفہوم و مطلب اس طرح ہوا کہ اس امت میں ایک طائفہ منصورہ  
مجاہدین کا ہمیشہ کے لئے قائم رہیگا اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا وہ کبھی بزورِ بازو دنیا پر غالب آئے گا اور کبھی شہرت  
و معرفت کے اعتبار سے قائم رہیگا۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ مجاہدین کا یہ طائفہ کسی خطہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دنیا کے  
مختلف حصوں میں ہوگا اور آخر میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں یہ طائفہ نمودار ہوگا دجال مارا جائیگا  
اور بڑی جنگیں ہوگی قرب قیامت تک یہ طائفہ قائم رہیگا۔

## جہاد نہ کرنے والوں کے لئے شدید وعید

﴿۳۳﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ  
غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
اور حضرت ابو امامہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ”جس شخص نے نہ تو خود جہاد کیا اور نہ کسی مجا  
ہد کا سامان درست کیا اور نہ کسی غازی کے اہل و عیال کے حق میں بھلائی کے ساتھ اس کا نائب بنا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت  
کے دن سے پہلے کسی سخت مصیبت میں مبتلا کرے گا۔“ (ابوداؤد)

## جان مال اور زبان کے ذریعہ سے جہاد کا حکم

﴿۳۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ  
وَأَلْسِنَتِكُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ  
اور حضرت انسؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ”مشرکین یعنی دشمنانِ اسلام سے تم اپنی جان  
اپنے مال اور اپنی زبان کے ذریعہ سے جہاد کرو“ (ابوداؤد، نسائی، دارمی)

## توضیح

”باموالکم“ مال کے ذریعہ سے جہاد کے ذکر کو مقدم کیا کیونکہ مال کے ساتھ جہاد عام ہے جو تمام انواع بشر کو شامل ہے اس لئے کہ مال کے ساتھ جہاد بوڑھے لوگ بچے، مرد عورتیں اور تندرست و بیمار سب کر سکتے ہیں۔ نیز مال کے بغیر ایک مجاہد میدان جہاد تک پہنچ بھی نہیں سکتا اور لڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ کرایہ و خرچہ اور اسلحہ جب تک نہ ہو جہاد کیسے ہو سکے گا یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جہاد بالمال وہ ہوتا ہے کہ کسی کا مال جہاد کے میدان میں لگ جائے کسی کو صدقہ یا خیرات کرنا اچھا اور نیک کام ہو سکتا ہے مگر اس کو جہاد نہیں کہا جاسکتا ہے اسی طرح جان کے ذریعہ جہاد وہ ہے کہ کسی کی جان جہاد کے میدان میں کام آجائے اور جہاد کو اس سے فائدہ پہنچ جائے صرف گھر میں محنت و عبادت کو جہاد بالنفس نہیں کہا جاسکتا ہے اسی طرح جہاد باللسان وہ ہوتا ہے کہ کسی کی تقریر و تحریر اور ترغیب و ترہیب سے جہاد کے میدان کو فائدہ پہنچ جائے صرف پگڑی سے متعلق ایک گھنٹہ تقریر کو جہاد نہیں کہا جاسکتا ہے زبان سے جہاد یہ بھی ہے کہ اس کے فضائل و مسائل بیان کئے جائیں اور ہر وقت مجاہدین کے لئے دعائیں کریں زبان سے جہاد یہ بھی ہے کہ دشمن پر رعب ڈالا جائے اس کو سخت ست جملے کہے جائیں اور جہاد سے متعلق اشعار گائے جائیں اور ترغیب کے لئے نظمیں کہی جائیں حضرت حسانؓ اور دیگر شعراء صحابہ نے اسی طرح کیا ہے۔ تبلیغ والے جو بیان کرتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے وعظ و بیان ہے۔

## کفار کی کھوپڑیاں اڑاؤ جنت کماؤ

﴿۳۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعُمُوا الطَّعَامَ وَاضْرِبُوا لَهُم تَوْرَثُوا الْجَنَانَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سلام کو عام کرو (یعنی ہر آشنا و نا آشنا کو سلام کرو) اور (غریب و محتاج لوگوں) کو کھانا کھلاؤ اور کفار (کے فتنہ و فساد) کا سر پکڑو، جنت کے وارث بنائے جاؤ گے۔“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

## جہاد میں پاسبانی کی فضیلت

﴿۳۶﴾ وَعَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُحْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ فِتْنَةُ الْقَبْرِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

اور حضرت فضالہؓ ابن عبید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ”ہر میت اپنے عمل پر اختتام پذیر ہوتی ہے (یعنی ہر شخص کا عمل اس کی زندگی تک رہتا ہے، مرنے کے بعد اس کا عمل باقی طور باقی نہیں رہتا کہ اس کو نیا ثواب ملتا رہے) لیکن جو شخص اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں پاسبانی کرتا ہوا مر جائے تو اس کے لئے اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھا دیا جاتا ہے اور وہ قبر کے قنبر و عذاب سے مامون رہتا ہے۔“ ترمذی، ابوداؤد اور دارمی نے اس روایت کو عقبہ بن عامر سے نقل کیا ہے۔

## تھوڑی دیر کے لئے جہاد میں شرکت کی فضیلت

﴿۳۷﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقٍ نَاقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ نُكِبَ نُكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرَ مَا كَانَتْ، لَوْ أَنَّهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا الْمِسْكُ وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابِعَ الشُّهَدَاءِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں اونٹنی کے فواق کے بقدر (یعنی تھوڑی دیر کے لئے) بھی لڑا اس کے لئے (ابتداء) ہی جنت واجب ہوگئی، جو شخص اللہ کی راہ (جہاد) میں (دشمنوں کے ہتھیاروں سے) زخمی ہوا یا وہ کسی زخم کی تکلیف میں مبتلا ہوا تو وہ زخم قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا جیسا کہ وہ دنیا میں تھا (یعنی وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا وہ زخم زیادہ تازہ حالت میں ہوگا) اور اس (زخم) کا رنگ زعفران جیسا اور اس کی بومشک جیسی ہوگی اور جس شخص کے (بدن میں) اللہ کی راہ (جہاد) میں پھوڑا نکلا تو (قیامت کے دن) اس پھوڑے پر پیا پھوڑے والے پر شہیدوں کی مہر ہوگی (یعنی اس شخص کے ساتھ شہیدوں کی علامت ہوگی تاکہ جانا جائے کہ اس شخص نے دین کی سربلندی و حفاظت کے لئے جدوجہد کی تھی چنانچہ اس کو وہی اجر و انعام دیا جائے گا جو مجاہدین اسلام کو ملیگا۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

## توضیح

”فواق ناقة“ اونٹنی کا دودھ جب نکالا جاتا ہے تو اس کے بچے کو تھنوں پر چھوڑا جاتا ہے اونٹنی اپنے بچے کے لئے دودھ چھوڑ دیتی ہے آدمی اگر بچے کو ہٹا دیتا ہے اور دودھ خود نکالتا ہے اس پر اونٹنی مزید دودھ کو روک لیتی ہے آدمی چالاک ہوتا ہے وہ اونٹنی کے بچے کو دوبارہ نیچے لا کر تھنوں سے لگا دیتا ہے اونٹنی سمجھتی ہے کہ بچہ آگیا ہے وہ پھر دودھ نیچے پستانوں کی طرف چھوڑ دیتی ہے آدمی پھر آتا ہے اور بچے کو ہٹا کر دودھ خود نکالتا ہے اس طرح معاملہ دو تین مرتبہ ہوتا ہے ایک بار دودھ نکالنے اور دوبارہ

نکالنے کے اس درمیانی وقفہ کو فواق ناقدہ کہتے ہیں جس سے مراد تھوڑا سا وقفہ ہے بعض شارحین نے فواق کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ دودھ نکالنے والا جب اونٹنی کے پستان پر زور ڈالتا ہے اور دودھ کھینچنے کے لئے ہاتھ نیچے کی طرف لاتا ہے پھر اوپر لے جاتا ہے اس کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہے اس کو فواق ناقدہ کہتے ہیں یعنی اتنے معمولی وقت تک بھی اگر کسی نے جہاد کی مقدس جنگ میں حصہ لیا اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔

”جرح جرحا“ دشمن اور کفار کی طرف سے زخم لگنے کے معنی میں ہے ”نکبة“ اس سے عام نصیبت مراد ہے جو راستہ میں کسی حادثاتی طور پر پیش آ جاتی ہے۔

”خراج“ جسم میں دانہ اور پھوڑا نکلنے کے معنی میں ہے ”خ“ پرضمہ اور ”ز“ پرشد ہے۔  
 ”طابع الشهداء“ طالع مہر کو کہتے ہیں مگر یہاں مطلق علامت مراد ہے۔

### جہاد میں ایک روپیہ خرچ کرو سات سو کا ثواب کماؤ

﴿۳۸﴾ وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت خرم بن فاتک کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص خدا کی راہ (یعنی جہاد) میں اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرے گا اس کے لئے سات سو کا ثواب لکھا جائے گا۔“  
 اس حدیث کی توضیح اس باب کی حدیث ۶۹ میں تفصیل سے آئے گی کچھ انتظار کیجئے۔

### بہترین صدقہ

﴿۳۹﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنْحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ طَرُوقَةٌ فَحُلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بہترین صدقہ اس خیمہ کا سایہ ہے جو خدا کی راہ جہاد میں دیا جائے اور بہترین صدقہ اللہ کی راہ میں خادم کا عطیہ کرنا ایسی اونٹنی کا دینا ہے جو زکے جفتی کے قابل ہو (یعنی خدا کی راہ میں ایسی اونٹنی کا دینا افضل ہے جو زکے ساتھ جفتی کی عمر کو پہنچ گئی ہے تاکہ وہ سواروں کے کام آسکے) (ترمذی)

### توضیح

”فسطاط“ بڑے خیمے کو کہتے ہیں یعنی کسی مجاہد کو خیمہ دیا جس سے اس کو سر چھپانے کا موقع ملا، یہ بہترین صدقہ ہے۔

”منحة“ بطور عطیہ یا عاریت کسی مجاہد کو خدمت کے لئے غلام دیا یہ بہترین صدقہ ہے۔  
 ”طروقة فعل“ فحل اونٹ کو کہتے ہیں اور طروقة اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو زاونٹ کی جفتی کے قابل ہو یعنی جوان اونٹنی کسی مجاہد کو دیا یہ بہترین صدقہ ہے۔ معلوم ہوا جہاد کے راستے میں مال خرچ کرنا تمام راستوں سے افضل ہے۔

بفتح مورخ ۱۵ صفر ۱۴۱۸ھ

## مجاہد کی فضیلت

﴿۴۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانٌ جَهَنَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي أُخْرَى فِي مَنْحَرِي مُسْلِمٍ أَبَدًا وَفِي أُخْرَى لَهُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو خدا کے خوف سے رویا ہو یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے اور کسی بندہ میں اللہ کی راہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں ایک جا نہیں ہو سکتے۔ حاصل یہ کہ مجاہد دوزخ میں نہیں جائے گا۔“ (ترمذی) اور نسائی نے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”اور کسی مسلمان (کی ناک کے) دونوں نٹھنوں میں خدا کی راہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں کبھی بھی ایک جا نہیں ہو سکتے“ اور نسائی ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”بندے کے پیٹ میں (خدا کی راہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں کبھی بھی) (یک جا نہیں ہو سکتے)۔“ (ترمذی)

## توضیح

”منحری“ منخر ناک کے نٹھنے کو کہتے ہیں یعنی ناک کا سوراخ۔  
 ”الشح“ یعنی کسی دل میں کنجوسی اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں شح اور بخل میں اتنا فرق ہے کہ بخل عام کنجوسی کو کہتے ہیں اور شح ایک خاص قسم کنجوسی کو کہتے ہیں جس میں آدمی حرام کو کھائے اور واجب الاداء حق زکوٰۃ کو دبائے اور دوسروں کا مال ظلماً کھائے۔

اب سوال یہ ہے کہ کنجوسی اور بخل کی وجہ سے کیا کوئی آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟  
 اس کا جواب علامہ طبری نے دیا ہے فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر تین چیزیں ہیں جس سے انسان مرکب ہے۔ روح، نفس، قلب، لغوی اعتبار سے قلب کو اس لئے قلب کہتے ہیں کہ اس میں حرکت و انقلاب کا معنی پڑا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ

کبھی یہ قلب جب حرکت کرتا ہے تو روح کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے جس سے دل روشن اور منور ہو جاتا ہے اور کبھی یہ قلب جب حرکت کرتا ہے تو نفس کی صفات سے متصف ہو کر آلودہ ہو جاتا ہے نفس کی صفات میں سے ایک شخ اور بخل ہے جب دل شخ اور بخل کی آلودگی میں آلودہ ہو گیا تو یہ تاریک ہو جاتا ہے جب دل تاریک ہو گیا تو ایمان کی روشنی ختم ہو گئی اس لئے فرمایا کہ شخ اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتے۔

”یَعُوذُ اللَّيْنُ فِي الضَّرْعِ“ یہ تعلق بالحال کی ایک مثال ہے کیونکہ تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جاسکتا۔

﴿۴۱﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَانِ لَا تَمْسَهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو (دوزخ کی) آگ چھو بھی نہ سکے گی۔ ایک تو وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئی ہو۔ اور دوسری وہ آنکھ ہے جس نے خدا کی راہ (یعنی جہاد) میں (کفار سے مجاہدین کی) نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری ہو۔ (ترمذی)

## توضیح

اس حدیث میں دو قسم آنکھوں کی فضیلت کا بیان ہے ایک تو عالم و عابد کی آنکھ ہے جو عبادت و علم میں مشقت اٹھاتی ہے دوسری مجاہد کی آنکھ ہے جو چوکیداری میں جاگ رہتی ہے دونوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔

جہاد میں کچھ وقت گزارنا گھر میں ستر سال نماز پڑھنے سے افضل ہے

﴿۴۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشُعْبٍ فِيهِ عَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عُذْبَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَقَالَ لَوْ اِعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشَّعْبِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا أَلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ أَغْرُؤُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُؤَادًا نَاقَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک سفر کے دوران) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیؓ پہاڑی کے درہ سے گزرے جس میں شیریں پانی کا ایک چشمہ تھا تو وہ چشمہ ان کو بہت اچھا لگا، وہ کہنے لگے کہ کاش! میں لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لوں اور درے میں آ کر رہوں!؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا تو آپؐ نے (اُن صحابی سے) فرمایا کہ ”تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ تم میں سے کسی شخص کا اللہ کی راہ (یعنی جہاد میں) قیام کرنا اس کا گھر میں ستر برس



نماز پڑھنے سے بہتر ہے کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے اور تمہیں (ابتداء ہی میں) جنت میں داخل کر دے؟ خدا کی راہ میں جہاد کرو (کیونکہ) جس شخص نے خدا کی راہ میں اونٹنی کے فواق کے بقدر (یعنی تھوڑی دیر کے لئے) بھی جہاد کیا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔“ (ترمذی)

## ہزار دنوں کی عبادت سے افضل عمل جہاد ہے

﴿۴۳﴾ وَعَنْ عُثْمَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ  
اور حضرت عثمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا اللہ کی راہ یعنی (جہاد) میں کفر کی سرحدوں پر ایک دن بھی پاسبانی کی خدمت میں گزارنا گھروں کی عبادتوں میں ہزار دن تک مشغول رہنے سے بہتر ہے۔“ (ترمذی و نسائی)

## جنت میں پہلے داخل ہونے والے لوگ

﴿۴۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَ عَلَى أَوَّلِ ثَلَاثَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ شَهِيدٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَقِّفٌ وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ  
اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے وہ پہلے تین شخص پیش کئے گئے۔ جو (شروع ہی میں) جنت میں داخل ہوں گے ان میں سے ایک شخص تو شہید ہے دوسرا وہ شخص ہے جو حرام سے بچے اور سوال نہ کرے (یعنی فسق و فجور سے بچنے والا اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والا) اور تیسرا شخص وہ غلام ہے جس نے اپنے اللہ کی (بھی) اچھی اطاعت و عبادت کی اور اپنے مالکوں کا بھی خیر خواہ رہا۔“ ترمذی

## توضیح

یہ لوگ انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے اور یہ صرف تین آدمی نہیں بلکہ تین قسم کے لوگ ہوں گے جن میں اول نمبر پر شہداء ہوں گے پھر پاک باز و پاک دامن لوگ ہوں گے جو فسق و فجور اور سوال سے محفوظ رہے ہوں گے تیسرے نمبر پر فرمانبردار غلام ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوگا اور مولیٰ کی اطاعت کی ہوگی۔

## افضل مجاہد اور افضل شہید

﴿۴۵﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَشٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ طَوْلُ

الْقِيَامِ قِيلَ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ قِيلَ فَأَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ أَهْرَيْقَ دَمَهُ وَغَقِرَ جَوَادُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ وَحَاجَةٌ مَبْرُورَةٌ قِيلَ فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طَوْلُ الْقُنُوتِ ثُمَّ اتَّفَقَا فِي الْبَاقِي

اور حضرت عبداللہ بن حبشی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ (نماز کے) اعمال (ارکان) میں سے کونسا عمل (رکن) افضل ہے؟“ آپؐ نے فرمایا ”طویل قیام کرنا“ پوچھا گیا ”کون سا صدقہ افضل ہے۔“ فرمایا ”مفلس و محتاج کا جد و جہد کرنا، یعنی وہ خیرات افضل ہے جو کوئی مفلس و محتاج اپنے فقر و افلاس کے باوجود محنت و مشقت کر کے نکالے۔“ پوچھا گیا ”کون سی ہجرت بہتر ہے؟“ فرمایا ”اس شخص کی ہجرت جو اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یعنی اگرچہ ہجرت کے معنی دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانا ہیں لیکن حرام چیزوں کو چھوڑ کر حلال چیزوں کو اختیار کرنا بھی ”ہجرت ہی کہلاتا ہے بلکہ یہی ہجرت بہتر ہے۔“ پوچھا گیا ”کون سا جہاد بہتر ہے۔“ فرمایا ”اس شخص کا جہاد جو اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعہ مشرکین سے جہاد کرے۔“ پوچھا گیا ”جہاد میں کون سا مارا جانا بہتر ہے یعنی کون سا شہید افضل ہے؟“ فرمایا ”اس شخص کا مارا جانا جس کا خون بہایا جائے اور جس کے گھوڑے کی کوئی کانٹا جائیں یعنی وہ شہید افضل ہے کہ خود بھی مارا جائے اور اس کا گھوڑا بھی مارا جائے۔“ (ابوداؤد)

اور نسائی کی روایت میں یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ”اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟“ آپؐ نے فرمایا ”وہ ایمان جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ وہ جہاد جس میں (حاصل شدہ مال غنیمت کے بارے میں) کسی طرح کی خیانت نہ کی گئی ہو اور حج مقبول۔“ پھر پوچھا گیا کہ ”نماز“ میں کونسی چیز افضل ہے؟ فرمایا ”قیام کو طویل کرنا۔“ اس کے بعد حدیث کے الفاظ (ابوداؤد و نسائی) نے یکساں نقل کئے ہیں۔

توضیح

افضل ایک نوع ہے اس میں صرف ایک عمل نہیں آتا بلکہ اس نوع کے تحت بہت سارے اعمال افضل ہو سکتے ہیں۔ ”جہد المقل“ یعنی بے بس و بیکس غریب مفلس جو صدقہ کرتا ہے وہ بہت عمدہ ہے اہراق دم سے مراد خون گرایا جانا ہے یعنی خود شہید ہو جائے۔ ”عقر جوادہ“ یعنی اس کا عمدہ گھوڑا بھی مارا جائے اس طرح اس شخص نے اپنے تمام سرمایہ کو قربان کر دیا۔ گویا

جو پاس تھا وہ سب لٹا ہی دیا حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی کیا

## شہید کے چھ امتیازی نشان

﴿۴۶﴾ وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقْرَبَائِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه

اور حضرت مقدم ابن معدی کرب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”حق تعالیٰ کے ہاں شہید کے لئے چھ خصلتیں (یعنی چھ امتیازی) انعامات ہیں (۱) اس کی پہلی مرتبہ میں ہی مغفرت کی جاتی ہے (۲) اس کو (جان نکلتے وقت ہی) جنت میں اپنا ٹھکانا دکھادیا جاتا ہے (۳) وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے (۴) وہ بڑی گھبراہٹ (یعنی آگ کے عذاب) سے مامون رہیگا (۵) اس کے سر پر عظمت و وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا یا قوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر و گرانمایہ ہوگا (۶) اس کی زوجیت میں بڑی آنکھوں والی بہتر حوریں دی جائیں گی اور اس کے عزیز و اقارب میں سے ستر آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔“

## توضیح

”اول دفعة“ دال پرز براور پیش دونوں آسکتے ہیں شہید کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جوزمین پر گرتا ہے وہ مراد ہے۔ مطلب یہ کہ اس پہلے قطرہ خون کے گرنے پر شہید معاف ہو جاتا ہے۔

”ویسری“ یعنی جان کنی کے وقت شہید کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ یہ دونوں خصلتیں ایک خصلت میں شمار کرنا چاہئے تاکہ حدیث میں چھ کی تعداد برقرار رہے ورنہ سات خصلتیں ہو جائیں گی۔

”الفزع الاکبر“ بڑی گھبراہٹ سے قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے ”لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ“ اس سے یا قیامت کا فزع اخر مراد ہے یا جہنم کا عذاب مراد ہے یا آگ پر پیش ہونا مراد ہے یا قبر کا عذاب مراد ہے۔

”سبعین“ یعنی اپنے رشتہ داروں میں سے ستر ایسے لوگوں کی شفاعت کریگا جن کے لئے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔

بعض علماء سے میں نے سنا ہے کہ شہید کے اس اعزاز میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ ان کو اختیار ہوگا کہ اس امت کے افراد کی شفاعت کرے یا سابقہ امتوں میں سے کسی کی شفاعت کر کے ستر کی تعداد پوری کرے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔

## جس نے جہاد نہ کیا اس کا ایمان ناقص رہیگا

﴿۴۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ اثَرٍ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس پر جہاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو وہ گویا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا دین ناقص ہوگا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

### توضیح

”بغیر اثر“ اثر سے مراد جسمانی زخم بھی ہو سکتا ہے جو ظاہری اثر ہوگا اور نظر آئے گا اسی طرح اس سے معنوی اثر بھی مراد ہو سکتا ہے جو جہاد کے راستے میں گرد و غبار لگنے سے بن جائے گا یا جہاد میں مال خرچ کرنے سے اور دیگر مشقتوں کے برداشت کرنے سے حاصل ہو جائے گا۔ بہر حال ایک مسلمان پر لازم ہے کہ جہاد کی وجہ سے اس کو جہاد کی ظاہری یا معنوی علامت حاصل ہو جائے جو اس کے ایمان کی تکمیل کی سند بن جائے۔

”ثلمة“ ثا پر ضمہ ہے اور لام ساکن ہے نقصان اور خلل کو کہتے ہیں یعنی قیامت کے دن اگر کسی شخص کے جسم پر جہاد کی ظاہری یا معنوی علامت نہ ہو تو اس شخص کا ایمان ناقص رہیگا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ایمان بناؤ پھر جہاد میں جاؤ حالانکہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جہاد کے بغیر ایمان نہیں بنتا ہے۔

## شہید موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے

﴿۴۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ أَلَمَ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ أَلَمَ الْقُرْصَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”شہید اپنے قتل کی بس اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تکلیف تم میں سے کوئی شخص چیونٹی کے کاٹنے پر محسوس کرتا ہے۔“ (ترمذی، نسائی، دارمی اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

### توضیح

”الَم القرصة“ الَم درد کو کہتے ہیں اور قرصہ چیونٹی کے کاٹنے کو کہتے ہیں یا دوا انگلیوں سے چنڈی مارنے کو کہتے ہیں۔ مطلب

یہ ہے کہ شہید لذت شہادت کی وجہ سے موت کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا ہے یہ احتمال بھی ہے کہ آخرت کی نعمتوں کے مشاہدہ کی وجہ سے وہ موت کی تکلیف کو چیونٹی کے کاٹنے کے برابر تصور کرے گی چیونٹی کاٹنے سے جسم میں میٹھا میٹھا درد محسوس ہوتا ہے۔

## جہاد میں گرنے والا قطرہ خون محبوب تر چیز ہے

﴿۴۹﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةٌ دُمُوعٌ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطْرَةٌ دَمٌ يُهْرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

اور حضرت ابو امامہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا خدا کے نزدیک دو قطرے اور نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے ایک تو خدا کے خوف سے بہا ہوا آنسوؤں کا قطرہ ہے اور دوسرا قطر خون ہے جو خدا کی راہ میں بہایا گیا ہو اور دو نشانوں میں سے ایک نشان تو وہ ہے جو اللہ کی راہ جہاد میں قائم ہوا ہو۔ اور دوسرا نشان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی فرض چیز کے سلسلے میں پیدا ہوا ہو۔ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

توضیح

”انسان“ ایک اثر تو جہاد کے عمل کا ہے جس کی تفصیل گذر گئی ہے دوسرا اثر عبادت فرضیہ کا ہے کہ سردی میں عبادت سے ہاتھ پیر پھٹ جاتے ہیں۔ یا سجدہ کے اعضا پر نشان پڑ جاتے ہیں یا روزہ دار کے منہ سے خوشبو کا اثر ظاہر ہوتا ہے یا حاجی کے جسم پر حج کے دوران گرد و غبار لگنے سے اثر ظاہر ہو جاتا ہے یہ فرائض کا اثر ہے۔

## شدید ضرورت کے بغیر سمندر کا سفر نہ کرو

﴿۵۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم بارادہ حج یا عمرہ اور یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے جانے کے علاوہ دریا میں سفر نہ کرو کیونکہ دریا کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے دریا ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح

”لا تتركب البحر“ یعنی حج و عمرہ اور جہاد کی غرض سے سمندر کا سفر کرو اس کے علاوہ سمندر میں سفر کی کوشش نہ کرو کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے یہ کلام یا حقیقت پر محمول ہے کہ واقعی سمندر کے نیچے آگ ہے جس کی طرف ”والبحر المسجور“ میں

اشارہ موجود ہے اس آگ کے نیچے پھر پانی ہے اور پھر ہوا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قائم ہے یا یہ کلام مجاز پر محمول ہے یعنی سمندر کے اندر سخت خطرات موجود ہیں غرق ہونے کے قوی امکانات ہیں لہذا ضروری سفر کے علاوہ اس کا سفر نہیں کرنا چاہئے۔

بدریائے منافع بیشمار است ☆ اگر خواہی سلامت بر کنار است

﴿۵۱﴾ وَعَنْ أُمِّ حَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْعَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور ام حرام سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریا و سمندر کے سفر میں جس شخص کا سر چکر کر گھومنے لگے اور اس کی وجہ سے اس کو تھوے ہو تو اس کو ایک شہید کا ثواب ملے گا اور جو شخص سفر کے دوران دریا میں ڈوب جائے تو اس کو دو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ (ابوداؤد)

توضیح

”المائد“ ما دیمید سے ”المائد“ اسم فاعل ہے سر چکرانے اور سر گھومنے کے معنی میں ہے سمندر میں ایسا ہوتا ہے سمندری لہروں اور طوفانوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے پھر التیاں ہو جاتی ہیں تے کی جو مقید ہے یہ اتفاق ہے التیاں ہوں یا نہ ہوں مجاہد کو سمندر کے اس سفر میں یہ ثواب ملتا ہے حج اور علم کے سفر میں بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے لیکن تجارت کی غرض سے جو سفر ہوتا ہے اس میں یہ ثواب نہیں ہے۔

جہاد میں ہر طرح کی موت شہادت ہے

﴿۵۲﴾ وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ وَقَصَّهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو مالک اشعریؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ (یعنی جہاد جیسے مقاصد میں گھر سے نکلا) اور زخمی ہو جانے کی وجہ سے (مر گیا یا اس کو جان سے مار ڈالا گیا) یا اس کے گھوڑے یا اس کے اونٹ نے اس کو کچل ڈالا، یا کسی زہریلے جانور (جیسے سانپ وغیرہ) نے اس کو ڈس لیا اور یا (کسی بیماری کی وجہ سے یا چانک یوں ہی) اللہ کی مرضی سے اپنے بستر پر مر گیا تو وہ (ہر صورت میں) شہید ہے (یعنی وہ ابتداء ہی میں شہداء و صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔) (ابوداؤد)

## توضیح

”وقصہ“ یعنی گھوڑے نے گرا کر گردن توڑ دیا۔  
 ”اودلدغ“ ڈسنے اور ڈنگ مارنے کے معنی میں ہے۔ ”ہامة“ زہریلا حیوان مراد ہے جیسے سانپ بچھو وغیرہ حشرات الارض ہیں۔ ”حتف“ طبعی موت کو حنف کہتے ہیں۔

## مجاہد گھر لوٹنے تک جہاد میں شمار ہوتا ہے

﴿۵۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
 اور حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جہاد سے لوٹ کر آنا بھی جہاد پر جانے کی مانند ہے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”قفلة“ جہاد سے لوٹ کر جو آدمی گھر آ رہا ہو اس لوٹنے کو قفلة کہا گیا ہے گویا میدان جہاد سے نکل کر ایک مجاہد جب تک گھر نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ جہاد میں شمار ہوتا ہے ثواب ملتا ہے۔

## کسی مجاہد کو جہاد پر بھیجنے کا ثواب

﴿۵۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جہاد کرنے والے کو اس کا اپنا اجر ملتا ہے (یعنی مجاہد کے لئے جہاد کا جو مخصوص اجر ہے وہ اس کو پورا ملتا ہے) اور جاعل یعنی مال دینے والے کو اس کا اپنا اجر بھی ملتا ہے اور جہاد کرنے والے کا بھی۔“ (ابوداؤد)

## توضیح

”وللجاعل“ جاعل اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی غازی کو مال دیکر جہاد پر روانہ کرتا ہے، اس طرح اس شخص کو دو ہر ثواب ملتا ہے ایک تو مال خرچ کرنے کا اور دوسرا غازی کے جہاد کرنے کا یہ شخص اگر محض معاون ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اس کو دو ہر ثواب ملتا ہے۔ لیکن ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ اس جاعل سے مراد وہ شخص ہے جو کسی کو مزدور رکھ کر جہاد پر روانہ کرتا

ہے اور معاوضہ دیتا ہے۔ اور خود جہاد سے پیچھے رہ جاتا ہے احتلاف کے ہاں اس مزدور کا جہاد بھی صحیح ہے اور بھیجنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن شوافع کے ہاں یہ ناجائز ہے اس مسئلہ کی تفصیل ابھی آ رہی ہے کچھ انتظار کیجئے۔

### اجرتی مجاہد بننا بہت برا ہے

﴿۵۵﴾ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ الْأَمْصَارُ وَتَسْكُنُونَ جُنُودًا مُجَنَّدَةً يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بَعُوثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ الْبُعْثَ فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْزِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ مَنْ أَكْفِيَهُ بَعَثَ كَذَا أَلَا وَذَلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قِطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ایوبؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”عنقریب تمہارے لئے (بڑے بڑے) شہر فتح ہوں گے اور لشکر کے جدا جدا کئی جھنڈے ہوں گے جن میں تمہارے لئے فوجیں معین کی جائیں گی تو جو شخص بلا معاوضہ جہاد پر جانے کو پسند نہیں کریگا تو وہ اپنی قوم سے نکل بھاگے گا اور پھر دوسرے قبیلوں کو تلاش کرتا پھر لے گا اور ان کے سامنے اپنی خدمات پیش کرے گا اور کہے گا کہ کون شخص ہے جس کو میں ایسے لشکر سے کفایت کروں (یعنی وہ کون ہے جو میری خدمات کو اجرت پر حاصل کرے اور مجھے نوکر رکھے تاکہ میں اس کی طرف سے لشکر میں جا کر لڑائی کی محنت و مشقت اپنے ذمہ لوں۔ حاصل یہ کہ وہ شخص بغیر اجرت کے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے جہاد میں جانے کیلئے تیار نہیں ہوگا۔ چنانچہ آنحضرتؐ ایسے شخص کی مذمت فرماتے ہیں کہ) خبردار! وہ شخص اپنے آخری قطرہ خون تک مزدور ہی رہے گا یعنی ایسے شخص کو غازی یا مجاہد مت سمجھنا بلکہ وہ کرایہ کا ٹٹو ہوگا جو دوسروں کی طرف سے میدان جنگ میں لڑے گا یہاں تک کہ مارا بھی جائے گا۔“ (ابوداؤد)

### توضیح

”جنود مجندہ“ یعنی تمہارے الگ الگ جھنڈے اور لشکر کے بڑے بڑے مجموعے ہونگے۔ ”یقطع علیکم“ یعنی امیر الحجیش جب تم میں سے ایک مجموعہ الگ کر کے دشمن کی طرف روانہ کریگا تو ایک شخص اس جانے کو پسند نہیں کریگا بلکہ اجرت و مزدوری کی غرض سے الگ ہو جائے گا اور پھر اپنے آپ کو قبائل پر پیش کریگا کہ مجھے مزدوری و معاوضہ پر بھیجنے کے لئے کون تیار ہے کہ میں ان کی طرف سے کافی ہو جاؤں وہ خیرے گھریلو اخراجات برداشت کرے اور میں ان کی طرف سے جہاد پر جاؤں فرمایا یہ آخری قطرہ خون تک مزدور ہی رہیگا جہاد کا ثواب نہیں ملے گا مالکیہ اور احتلاف کے نزدیک اجرت پر جہاد کرنا جائز ہے مگر شوافع کے نزدیک بالکل منع ہے زیر بحث حدیث شوافع کے حق میں ہے۔



## اجرت پر جہاد میں جانے والے کا حکم

﴿۵۶﴾ وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَدْنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي فَوَجَدْتُ رَجُلًا سَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ فَلَمَّا حَضَرْتُ غَنِيمَةً أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِيَ لَهُ سَهْمَهُ فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ مَا أَجَدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا دَنَانِيرُهُ الَّتِي تُسَمَّى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت یعلیٰ ابن امیہ کہتے ہیں کہ (ایک موقع پر) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد پر جانے کے لئے آگاہ کیا تو چونکہ میں بڑا بوڑھا تھا اور میرے پاس کوئی خادم نہیں تھا اس لئے میں نے کوئی ایسا مزدور تلاش کیا (جو دوران جہاد میری دیکھ بھال کر سکے) چنانچہ مجھ کو ایک شخص مل گیا جس کی اجرت تین دینار میں نے مقرر کر دی پھر (جہاد سے فراغت کے بعد) جب مال غنیمت آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ (اس مال غنیمت میں سے) اس شخص کا بھی حصہ لگاؤں چنانچہ (اس بارے میں مسئلہ دریافت کرنے کے لئے) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے صورت حال بیان کی، آپ نے فرمایا ”مجھے اس شخص کے لئے اس جہاد کے تعلق سے دنیا و آخرت میں علاوہ اس دینار کے جو متعین کئے گئے ہیں اور کوئی چیز نہیں ملتی۔“ (ابوداؤد)

## توضیح

”الادنانیرہ“ یعنی اس اجرتی مجاہد کو متعین دنانیر کے سوا کچھ بھی نہیں ملیگا۔ علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ اس اجرتی غازی کو مال غنیمت میں سے حصہ ملیگا یا نہیں ملیگا۔ امام اوزاعی اور اسحاق بن راہویہ اور ایک قول میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ شخص مزدور ہے یہ میدان جہاد میں لڑے یا نہ لڑے اس کو مال غنیمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملیگا۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس شخص کو ہر حالت میں حصہ دیا جائیگا احناف کے اصول اور قواعد کا بھی یہی تقاضا ہے۔ بعض علماء نے یہ راستہ اختیار کیا ہے کہ اس شخص کو اختیار ہے کہ مزدوری کا پیسہ لے لے یا ایسے چھوڑ کر مال غنیمت کا حصہ لے لے ظاہری احادیث شوافع کے حق میں ہیں۔

## صرف دنیا کے لئے جہاد کرنے والے کو ثواب نہیں ملے گا

﴿۵۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَغَيَّرُ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُجْرَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ

رکتا ہے حالانکہ وہ (اس جہاد کے ذریعہ) دنیا کے مال و اسباب کا خواہشمند ہے؟“ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔“  
اس کے نصیب میں ثواب نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح

”عرضاً“ دنیاوی ساز و سامان کو عرض کہا گیا ہے یعنی جو شخص اخلاص نیت اور اعلاء کلمۃ اللہ کی غرض سے نہیں بلکہ دنیوی اسباب و متاع کے لئے جہاد کرتا ہے تو وہ آخرت کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے ظاہر ہے جب ایک آدمی اتنے بڑے جہاد کو اتنی حقیر دنیا کی بھینٹ چڑھاتا ہے اور خود بھی دل میں ثواب کی نیت نہیں کرتا ہے تو کیا خود بخود اس کے ساتھ ثواب چپک کر لگے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے پیش نظر مسلم ممالک کی افواج اگر صرف مزدوری کی غرض سے فوج میں بھرتی ہوگی تو انکو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔

### حقیقی مجاہد کا تعارف

﴿۵۸﴾ وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَزْوُ غَزْوَانٍ فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَأْسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفُسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبَهُهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فِخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجَعْ بِالْكَفَافِ.  
رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ

اور حضرت معاذ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد دو طرح کا ہوتا ہے۔ چنانچہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لئے جہاد میں شرکت کی اور امام کی اطاعت کی، اپنے پاک مال اور اپنی پاک جان کو خدا کی راہ میں صرف کیا اور اپنے شریک کار سے اچھا معاملہ رکھا اور فتنہ و فساد کرنے سے بچتا رہا (یعنی لوٹ مار کرنے، ویرانی پھیلانے اور خیانت کرنے کے ذریعہ حدود شریعت سے تجاوز نہیں کیا) تو اس کا سونا اور اس کا جاگنا سب کچھ اجر و ثواب کا موجب ہے اور جس شخص نے بطریق فخر (یعنی ناموری) اور دکھانے سنانے کے لئے جہاد کیا، امام کی نافرمانی کی اور روئے زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا تو وہ کوئی بدلہ لیکر واپس نہیں آئے گا یعنی اس طرح کے جہاد سے نہ تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے اور نہ اس کو کوئی ثواب ملے گا۔“

توضیح

”انفق الکریمة“ یعنی جہاد میں اپنا عمدہ مال خرچ کیا ”یأسر“ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا ”عصى الامام“ یعنی وقت کے امیر المؤمنین کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اپنے جہادی امیر کی بھی نافرمانی کرتا ہے ہر وقت فساد

برپا کرتا ہے پروپیگنڈے کرتا ہے۔

”بالکفاف“ کفاف برابری کو کہتے ہیں یعنی یہ شخص برابر سراہیں لو گے کہ نہ گناہ ہو اور نہ ثواب ہو بلکہ یہ گناہ کے ساتھ لوٹ کر آئے گا اور اگر کفاف سے ثواب مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص ثواب کم کر واپس نہیں آئے گا۔

﴿۵۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍو إِنَّ قَاتِلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللَّهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا وَإِنْ قَاتِلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللَّهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا يَا عَبْدَ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍو وَعَلَى أَيِّ حَالٍ قَاتِلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبداللہ! ابن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! مجھے جہاد کے بارے میں بتائیے (کہ کس طرح کا جہاد موجب ثواب ہے؟) آنحضرتؐ نے فرمایا! اے عبداللہ ابن عمرو! اگر تم اس حال میں لڑو کہ صبر کرنے والے اور ثواب چاہنے والے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں (قیامت کے دن) صبر کرنے والا اور ثواب چاہنے والا ہی اٹھائے گا (یعنی تم جس طرح ان صفات کے ساتھ جہاد کرو گے اور ان صفات پر مرو گے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں ان صفات کے ساتھ اٹھائے گا اور تمہیں ان کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔ ”کما تعشون تموتون وکما تموتون تحشرون“ یعنی تم جس حالت پر جیتے ہو اسی حالت پر مرو گے اور جس حالت پر مرو گے اسی حالت پر اٹھائے جاؤ گے) اور اگر تم نمائش کی نیت سے اور اپنا زور جتلانے کے لئے لڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں (قیامت کے دن) نمائش کرنے والا زور جتلانے والا اٹھائے گا (یعنی میدان حشر میں تمہارے بارے میں اعلان کیا جائے گا کہ یہ شخص وہ ہے جو نمائش کی نیت سے اور فخر کرنے اور زیادہ مال و منال حاصل کرنے کے لئے لڑا تھا۔ اے عبداللہ ابن عمرو! یاد رکھو) تم جس حال میں لڑو گے یا جس حال میں مارے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حال میں اٹھائے گا۔“ (ابوداؤد)

توضیح

”محتسباً“ ثواب کی نیت سے کام کرنے کو کہتے ہیں ”بعثک اللہ“ قیامت میں اٹھانے کے معنی میں ہے۔ ”مرائیا“ ریاکاری اور نمائش کو کہتے ہیں۔ ”مکاثراً“ شنی جتلانے کی غرض سے جو کام کیا جائے اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے جو کام کیا جائے اس پر مکاثراً کا لفظ بولا جاتا ہے شارحین حدیث نے مکاثراً کا مطلب مال بڑھانا بھی لیا ہے کہ صرف مال جمع کرنے کے لئے لڑتا ہے یہ مطلب زیادہ واضح ہے۔

## نافرمان امیر کو معزول کیا جاسکتا ہے

﴿۶۰﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْجَزْتُمْ إِذَا بَعَثْتُ رَجُلًا فَلَمْ يَمُضْ لِأَمْرِي أَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمُضِي لِأَمْرِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثُ فَضَالَةَ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ.

اور حضرت عقبہؓ ابن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ”کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ جب میں کسی شخص کو (تمہارا امیر و حاکم بنا کر) بھیجوں اور وہ میرے حکم کی فرمانبرداری نہ کرے (یعنی وہ میرے کسی حکم یا میری کسی ممانعت کی مخالفت کرے) تو تم اس کو معزول کر دو اور اس کی جگہ کسی ایسے شخص کو مقرر کر دو جو میرے مفوضہ کام کو انجام دے۔“ (ابوداؤد)

## توضیح

”فلم یمض لامری“ یعنی میرے حکم کی بجا آوری نہ کرے تو تم اس امیر کو معزول کر دو اور ایسے امیر کو مقرر کر لو جو میرے حکم کو نافذ کرتا ہو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے مثلاً ایک امیر کو مقرر کیا مگر وہ آگے جا کر خود سر ہو گیا اور مجموعہ شر ہو گیا میرے بتائے ہوئے قوانین کی جگہ اپنا راستہ متعین کرتا ہے اپنا قانون بنا کر چلتا ہے تو تم اس کو معزول کر دو۔ علماء کرام نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی حاکم رعیت پر ظلم کرتا ہے عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا اور اسلامی نظام کو نافذ بھی نہیں کرتا بلکہ غیروں کے قوانین چلاتا ہے اور اس پر مسلمانوں کو ڈالتا ہے تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو معزول کر کے دوسرے کو حاکم بنائے۔

ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حاکم رعیت کے اموال پر تجاوز کرتا ہے مگر اس کے ہٹائے جانے میں خوزیزی اور فتنہ کا خطرہ ہے تو ایسے حاکم کو نہ چھیڑا جائے بلکہ چھوڑا جائے لیکن اگر کوئی حاکم لوگوں کی جانوں کو لیتا ہے عوام و خواص کو قتل کرتا ہے تو اگر اس کے معزول کرنے اور قتل کرنے میں زیادہ خوزیزی کا خطرہ ہے تو اس کو چھوڑا جائے اور اگر معزول کرنے اور قتل کرنے میں کم خوزیزی کا خطرہ اور باقی رکھنے میں زیادہ ہلاکتوں کا خطرہ ہے تو پھر اس کو اور اس کی پارٹی کے لوگوں کا قتل کرنا جائز ہے۔

(مرقات ج ۷ ص ۳۰۹)

## الفصل الثالث

### اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں

﴿۶۱﴾ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ وَبَقِلٍ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِأَنْ يَقِيمَ فِيهِ وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا فَاسْتَاذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَعْدُوَّةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَمَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الصِّفِّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ سِتِّينَ سَنَةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ

حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لشکر میں نکلے تو دوران سفر جب (ہم میں سے) ایک شخص ایک ایسے غار (وادی) کے درمیان سے گزرا جس میں کچھ پانی اور سبزہ تھا تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ وہ اسی غار میں رہ جائے اور دنیا سے کنارہ کشی کر لے۔ چنانچہ اس نے اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، آپؐ نے فرمایا ”یا درکھو!“ نہ تو میں دین یہودیت دے کر (اس دنیا میں) بھیجا گیا ہوں اور نہ دین عیسائیت دے کر (کہ میں تم لوگوں کو رہبانیت کی تعلیم دوں، بیجا مشقت و تکلیف میں مبتلا کروں اور لوگوں کے ساتھ رہن بہن اور لذات دنیا سے مطلقاً کنارہ کشی کی اجازت دوں بلکہ میں تو دین حنیفیہ لے کر بھیجا گیا ہوں جو ایک آسان دین ہے جس میں نہ تو انسانیت عامہ کے لئے بیجا تکلیف و حرج ہے اور نہ زائد از ضرورت مشقت و محنت ہے قسم ہے اس ذاک پاک کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے! ان کے (صرف ابتدائی یا آخری حصے میں یعنی صبح و شام کو خدا کی راہ (جہاد) میں چلے جانا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور تم میں سے کسی کا میدان جنگ کی صف میں کھڑا ہونا اس کی ساٹھ سال کی (تہا پڑھی جانے والی) نماز سے بہتر ہے۔“ (احمد)

توضیح

”اليهودية“ یعنی جہاد کو چھوڑ کر غاروں میں بیٹھنا اور رہبانیت اختیار کر کے عبادت میں لگنا اور عام معاشرہ سے الگ تھلگ ہو کر درویش بننے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ اس دین کی بڑی عبادت میدان کارزار میں ہے اس کے پیروکار رات کے راہب اور دن کے شہسوار ہوتے ہیں۔

سکھایا ہے ہمیں اے دوست طیبہ کے والی نے  
کہ جو جہلوں سے نکل کر ابھرنا عین ایمان ہے

جہاں باطل مقابل ہو وہاں ٹوک سنان سے بھی  
برائے دین اسلام رقص کرنا عین ایمان ہے  
”الحنیفیۃ“ یہ خفاء کی طرف منسوب ہے دین تو حید مراد ہے ”السمحۃ“ یہ آسان اور واضح کے معنی میں ہے یعنی میرے  
رب نے مجھے دین تو حید پر بھیجا ہے جو آسان تر دین ہے جس میں یہود و نصاریٰ کی طرح بے جا تشدد نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی  
مشقت ہے جو ناقابل برداشت ہو۔

### جہاد میں اخلاص نیت ضروری ہے

﴿۶۲﴾ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَلَمْ يَنْوِ إِلَّا عَقْلًا فَلَهُ مَانَوِي رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

اور حضرت عبادہ ابن صامتؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص نے ایک رسی کے بھی حصول کی  
نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو اس کو وہی چیز حاصل ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے۔“ (نسائی)

### مجاہدین کے اونچے درجے

﴿۶۳﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ  
دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجَبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعْدَهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعَادَهَا  
عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ  
وَالْأَرْضِ قَالَ وَمَاهِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے  
دین برحق ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا (یعنی دل سے ان سب کو مانا) تو اس کے لئے جنت  
واجب ہوگئی۔“ ابوسعیدؓ نے یہ ارشاد سنا تو ان کو اس پر بڑا تعجب ہوا انہوں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ!! ان کلمات کو ایک  
مرتبہ پھر میرے سامنے ارشاد فرمائیے۔“ آنحضرتؐ نے ان کے سامنے پھر یہی کلمات ارشاد فرمائے اور پھر فرمایا کہ ”ایک  
چیز اور ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کو سو درجے کی بلندی پر پہنچاتا ہے اور ان میں ہر دو درجوں کے درمیان  
اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان وزمین کے درمیان ہے۔“ ابوسعیدؓ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! وہ کیا چیز ہے؟ آپؐ نے فرمایا وہ  
اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ (مسلم)

## توضیح

”عقلاً“ رسی کو عربی میں عقال کہتے ہیں یعنی جہاد میں اگر کسی نے ایک رسی کی نیت بھی کی تو وہی رسی ملے گی ثواب نہیں ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جہاد میں اخلاص کی آخری حد اور تقویٰ کے آخری مقام کو بتایا گیا ہے کہ حقیر سے حقیر چیز کی نیت بھی جہاد کے پاکیزہ عمل کے ساتھ شامل نہ ہو۔ لیکن اگر ایک شخص جہاد کے ساتھ ساتھ مال کی نیت بھی رکھتا ہے تو اس سے جہاد کا ثواب باطل نہیں ہوگا اور شرعاً اس طرح نیت جائز ہے بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص ریاکاری کے ساتھ جہاد کرتا ہے اس میں بھی جہاد کا سارا عمل ضائع نہیں ہوگا اگرچہ ریاکاری بے کار ہے۔ بہر حال ایک تقویٰ کا مقام ہے دوسرا فتویٰ کا مقام ہے فرق کو ٹھوکر کھنا چاہئے۔

## جنت تلواروں کے سائے تلے ہے

﴿۶۳﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَكَّ الْهَيْئَةَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضْرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے (ایک مجلس میں) یہ بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں“ (یہ سن کر) ایک خستہ حال شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ”ابو موسیٰ! کیا تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یعنی آنحضرتؐ سے تمہارا یہ سننا جزم و یقین کے طور پر ہے؟ انہوں نے کہا ”ہاں!“ (یہ سنتے ہی) وہ شخص اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا اور کہا کہ ”میں تمہیں (آخری) سلام کرتا ہوں اور پھر اس نے اپنی تلوار کا نیام توڑ کر پھینک دیا (یعنی اس کے ذریعہ اس نے اپنے اس ارادہ کا اظہار کیا کہ اب میں لوٹ کر نہیں آؤں گا) یعنی اپنی تلوار لے کر دشمنوں کی طرف روانہ ہوا اور ان سے لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔“ (مسلم)

## توضیح

”تحت ظلال السیوف“ اس جملہ کے دو مفہوم ہیں پہلا مفہوم یہ ہے کہ مجاہد جب کسی کافر کے سر پر مارنے کے لئے تلوار اٹھاتا ہے اور سایہ کافر پر پڑتا ہے تو اس کے نیچے جنت ہے کیونکہ کافر کے مارنے سے ثواب حاصل ہوگا جو موجب جنت بنے گا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی کافر کسی مسلمان کے سر پر مارنے کے لئے تلوار اٹھاتا ہے اور تلوار کا سایہ مسلمان پر پڑتا ہے

تو اس سایہ کے نیچے جنت ہے کیونکہ مسلمان کو شہادت ملے گی جو باعث جنت ہے یہاں ابواب کے لفظ سے اشارہ ہوتا ہے کہ مجاہد جہاں بھی ہوگا جنت کے راستے پر ہوگا۔

”رث الہیۃ“ یعنی پھٹے پرانے کپڑے اور پرانندہ بال خستہ حال صورت کا مالک کوئی تابعی شخص تھا۔

”جفن“ تلوار کے پر تلے اور نیام کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ دین کے حکم کے سننے کے بعد اس پر عمل کی ضرورت ہے اس شخص کو دیکھئے حدیث سنی اور عمل کیا آج کل عوام اور خواص کی مثال ربڑ کی طرح ہے کہ کھینچ کھینچ کر جب چھوڑا جائے تو جہاں سے کھینچا تھا وہیں پر چلا جاتا ہے۔ پھر تبلیغی جماعت کے بعض حضرات نے بھی جہاد میں تشویش پیدا کی ہے۔

### شہداء احد کے بارے میں بشارت

﴿۶۵﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّهُ لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ يَوْمَ أُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خَضِرٍ تَرُدُّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلٍ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طَيْبَ مَا كُلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّنَا أَحْيَاءُ فِي الْجَنَّةِ لِنَلَّا يَرْهَدُوا فِي الْجَنَّةِ وَلَا يَنْكَلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہؓ سے فرمایا ”جب تمہارے بھائی غزوہ احد میں شہید کئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو ہزر رنگ کے پرندوں کے قالب میں مقفل کر دیا، چنانچہ وہ روحیں (ان پرندوں کے قالب میں) جنت کی نہروں پر آتی ہیں، وہاں کے میوے کھاتی ہیں اور پھر ان سونے کی قدیلوں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں جو عرش کے سایہ میں لٹکی ہوئی ہیں۔ تو جب ان روحوں نے اپنے کھانے پینے اور اپنے بسیرے کی لطف اندوزی کو پایا تو کہنے لگیں کہ ”کون ہے جو ہماری طرف سے ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور حق تعالیٰ کی ایسی ایسی عظیم نعمتوں سے لطف اندوز ہیں تاکہ وہ جنت کو حاصل کرنے میں بے رغبتی کو تباہی نہ کریں (بلکہ جنت کے درجات کو حاصل کرنے میں راغب ہوں) اور لڑائی کے وقت سستی نہ کریں۔“ اللہ تعالیٰ نے (ان کی یہ بات سن کر) فرمایا (گھبراؤ نہیں) تمہاری طرف سے میں ان کو یہ پیغام پہنچاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ (ابوداؤد)

### تین قسم کے مسلمان

﴿۶۶﴾ وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ فِي الدُّنْيَا



عَلَى ثَلَاثَةِ أَجْزَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي يَأْمَنُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ الَّذِي إِذَا أَشْرَفَ عَلَى طَمَعٍ تَرَكَهُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”دنیا میں تین طرح کے مومن ہیں ایک تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے، نیز انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا (یعنی مومنین کی یہ وہ جماعت ہے جس نے اپنے ایمان کو کامل اور اپنے نفس کو مہذب (پاکیزہ بنایا اور اس کے ساتھ ہی مخلوق خدا کی فلاح و بہودی اور ان کی پاکیزگی کے لئے بھی جدوجہد کی اور یہی وہ جماعت ہے جو مرتبہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و اشرف ہے) دوسرا مومن وہ شخص ہے جس سے لوگوں کے مال اور ان کی جان محفوظ ہیں (یعنی اگرچہ اس نے مخلوق خدا کی فلاح و بہودی کے لئے جدوجہد نہیں کی لیکن اس کے ذریعہ لوگوں کو کسی طرح نقصان و ضرر بھی نہیں پہنچا نیز نہ تو اس نے احتلاط رکھا اور نہ طمع و حرص میں مبتلا ہوا) اور پھر تیسرا مومن وہ شخص ہے کہ جب اس کے دل میں طمع پیدا ہو جائے تو اللہ کے خوف سے اس طمع کو چھوڑ دے۔“ (احمد)

### شہید کی تمنا

﴿۶۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمِيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَتْبُعُهَا رَبُّهَا تُحِبُّ أَنْ تَرْجَعَ إِلَيْكُمْ وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا غَيْرَ الشَّهِيدِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمِيرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونُوا لِي أَهْلُ الْوَبَرِ وَالْمَدَرِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

اور حضرت عبدالرحمن بن ابی عمیرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے علاوہ اور ایسا کوئی مسلمان شخص نہیں ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے اپنی روح قبض کئے جانے کے بعد اس بات کو پسند کرے کہ وہ لوٹ کر تمہارے پاس آئے اور دنیا و مافیہا کی چیزوں کو حاصل کرے۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی عمیرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ (بھی) فرمایا کہ خدا کی قسم! میرا خدا کی راہ میں مارا جانا میرے نزدیک اس چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ خیمے والے اور حویلیوں والے میرے مملوک و محکوم ہوں۔ (نسائی)

### توضیح

”اہل الوبر“ وبراونٹ کے بال اور پشم کو کہتے ہیں مراد خیمے ہیں اور خیموں والے لوگ خانہ بدوش اور صحرائی لوگ ہوتے

ہیں مطلب آبادی سے دور خانہ بدوش لوگوں کے علاقے ہیں اور ”المدّر“ اس سے مراد مٹی اور پکے مکانات کے لوگ ہیں مطلب یہ کہ مجھے جہاد اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان تمام لوگوں کا حاکم بن جاؤں اور حکومت کروں۔

### چار قسم کے لوگ جنت میں ہوں گے

﴿۶۸﴾ وَعَنْ حَسَنَاءَ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ قَالَتْ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ، النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوَتِيدُ فِي الْجَنَّةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ اور حضرت حناء بنت معاویہ (ابن سلیم) کہتی ہیں کہ مجھ سے میرے چچا حضرت اسلم بن سلیم نے بیان کیا کہ (ایک دن) میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ”جنت میں کون کون لوگ ہوں گے؟ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جنت میں نبی ہوں گے، شہید ہوں گے، جنت میں بچے ہوں گے اور جنت میں وہ ہوں گے جن کو جیتے جی گاڑ دیا گیا ہے۔“ (ابوداؤد)

”المولود“ چھوٹے بچے کو مولود کہتے ہیں ”الوئید“ زندہ درگور بچے کو وئید بمعنی مودہ کہتے ہیں۔

### جہاد میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور انتحاس کروڑ کی بات

﴿۶۹﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرْسَلَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ آيَةَ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

اور حضرت علیؓ، حضرت ابودرداءؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابوامامہؓ، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ، حضرت عبداللہ ابن عمروؓ، حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت عمران ابن حصین رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ”جس شخص نے اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں روپیہ پیسہ اور سامان و اسباب بھیجا اور خود اپنے گھر میں بیٹھا رہا (یعنی جہاد میں خود شریک نہیں ہوا بلکہ روپے پیسے اور سامان سے جہاد میں مدد کی تو اس کو ہر درہم کے بدلے سات سو درہم کا ثواب ملے گا اور جس شخص نے خود جہاد بھی کیا اور جہاد میں روپیہ پیسہ اور مال بھی خرچ کیا (یعنی لڑائی میں خود شریک بھی ہوا اور مالی مدد بھی پہنچائی) تو اس کو ہر درہم کے بدلے سات لاکھ درہم کا ثواب ملے گا (کیونکہ اس نے اپنے نفس کو بھی مشقت و دکھ میں مبتلا کیا اور اپنا مال بھی خرچ کیا) پھر آنحضرتؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے اس کے ثواب میں مزید اضافہ کرتا ہے۔“ (ابن ماجہ)

## توضیح

اس سے پہلے حدیث ۱۱۳ اور حدیث ۳۸ میں یہ بات مذکور ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں ایک اونٹنی کے بدلے سات سو اونٹنیاں ملیں گی اور دنیا میں ایک درہم خرچ کرنے کے عوض قیامت میں سات سو درہم ملیں گے زیر بحث حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے لیکن یہاں دو قسم کے لوگ ہیں اور دونوں کا ثواب الگ الگ ہے ایک وہ شخص ہے جو مجاہدین کے لئے پیسہ بھیج دیتا ہے مگر خود گھر میں بیٹھا ہوا ہے جہاد میں شریک نہیں ہے اس کو ایک درہم کے بدلے سات سو درہم ملیں گے دوسرا وہ شخص ہے کہ خود بھی جہاد میں شریک ہے اور اس راستے میں پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے تو زیر بحث حدیث میں ہے کہ اس کو ایک درہم کے عوض سات لاکھ درہم ملیں گے اب یہاں دونوں آدمی بھی الگ ہیں دونوں کے عمل میں بھی فرق ہے دونوں کے ثواب اور اجر میں بھی فرق ہے لہذا دونوں کو الگ الگ رکھنا چاہئے۔ تبلیغی حضرات یہاں اس حدیث سے اونچاس کروڑ کا ثواب نکالتے ہیں اور طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ سات سو درہم والی حدیث سے سات لاکھ والی حدیث میں ضرب دیتے ہیں مثلاً ۷۰۰۰۰۰ × ۷ = ۴۹۰۰۰۰۰۰۔ اس خطیر رقم کو حاصل کرنے کے بعد یہ حضرات اس فضیلت کو اپنے مخصوص اعمال کے ساتھ خاص کرتے ہیں یہاں سوال یہ ہے کہ سبیل اللہ عام ہے یا خاص ہے اگر عام ہے تو یہ ثواب طلباء، علماء، خطباء، فقہاء، حجاج کرام، اہل تبلیغ اور مجاہدین سب کو ملنا چاہئے کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں اور اگر سبیل اللہ خاص ہے تو پھر انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ فضیلت صرف مجاہدین کو حاصل ہو کیونکہ سبیل اللہ جب مطلق ذکر ہو جائے تو اس سے جہاد کا راستہ مراد ہوتا ہے نیز حدیث بھی کتاب الجہاد میں مذکور ہے جو مجاہدین کے ساتھ خاص ہے نہ کہ اہل تبلیغ کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اونچاس کروڑ نکالنے کی آخر ضرورت کیا ہے اور کوئی مجبوری ہے؟ کیا حدیث سمجھنے کے لئے اس طرح ضرب دینے کی ضرورت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو الگ الگ قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے تو دو کو ایک بنانے کا جواز کہاں سے آیا؟ پھر چلو اگر دو قسم لوگوں کا ثواب ایک قسم کو دینا ہے تو جب سات سو والے کا ثواب سات لاکھ والے کو دیدیا تو اس کے پاس سات لاکھ سات سو عدد کا ثواب آگیا یہ اونچاس کروڑ کہاں سے آگیا؟

اگر کوئی شخص ”بضعف“ کے الفاظ سے استدلال کرنا چاہتا ہے کہ اس میں دو گنا کرنے کا ذکر ہے تو عرض یہ ہے کہ دو چند اور دو گنا کرنے کی حد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمادی کہ ایک کا ثواب سات سو تک اور دوسرے کا سات لاکھ تک بڑھ جاتا ہے۔ آنحضرتؐ نے تضعیف اور دو چند کرنے کی حد بتادی ہے آپ اس سے آگے کیوں جاتے ہو؟ اگر قیامت میں لوگ اونچاس کروڑ مانگنا شروع کر دیں تو یہ حضرات کہاں سے دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ تعین نہیں ہے یہ تو ان حضرات کا اپنا مفروضہ ہے حالانکہ اونچاس کروڑ عدد کے لئے عربی کے الفاظ بتانا بھی ان حضرات کو نہیں آتا تھتہ الاحوذی

میں لکھا ہے کہ ”والفضائل لا تؤخذ بالقياس“ یعنی فضائل کو قیاس کر کے بیان نہیں کیا جاسکتا ہے یہاں تو تعین ہوتا ہے قیاس نہیں چلتا۔

باقی ایک ضابطہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ شریعت میں ثواب بڑھنے اور زیادہ ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے ”والله يصاعف لمن يشاء“ قرآن کی آیت ہے اونچاس کروڑ کیا اونچاس ارب ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن شریعت نے جہاں تعین کیا ہے ہم کریں گے اور جہاں شریعت نے بہم چھوڑ کر تعین نہیں کیا ہے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تعین کرے، آج کل بیشتر لوگ بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ بیت اللہ میں ایک نیکی ایک لاکھ کی ہے اور دعوت و تبلیغ میں اونچاس کروڑ کی ہے۔ ماہنامہ البلاغ میں ایک دفعہ زیر بحث ابن ماجہ کی حدیث کے متعلق ایک فتویٰ آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ابن ماجہ کی یہ حدیث ضعیف ہے لہذا جو شخص بھی اس حدیث کو بیان کرے گا اس پر لازم ہوگا کہ وہ عوام کو یہ بھی بتائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

### مجاہد کے بلند درجات کو دیکھ کر سر سے ٹوپی گر گئی

﴿۷۰﴾ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدٌ الْإِيمَانُ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهُ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَغْنِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى سَقَطَتْ قَلَنْسُوتُهُ فَمَا أَدْرِي أَقَلَنْسُوتَهُ عُمَرُ أَرَادَ أَمْ قَلَنْسُوتَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدٌ الْإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ كَانَمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكٍ طُلِحَ مِنَ الْجُنَيْنِ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرَبَ فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهُ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَّقَ اللَّهُ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

اور حضرت فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطابؓ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”شہید چار طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ شخص ہے جو کامل الایمان مسلمان تھا اور جب دشمن سے اس کی ٹڈ بھڑ ہوئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو سچ کر دکھایا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا گیا، تو یہ وہ شخص ہے جس کی طرف قیامت کے دن لوگ اس طرح سراٹھا اٹھا کر دیکھیں گے (یہ کہہ کر) انہوں نے اپنا سراٹھایا یہاں تک کہ ان کی ٹوپی گر پڑی۔“ حدیث کے وہ راوی جنہوں نے اس روایت کو حضرت فضالہؓ سے نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت فضالہؓ کی

مراد کس کی ٹوپی تھی (یعنی انہوں نے یہ واضح نہیں کیا) کہ حضرت عمرؓ (نے حدیث بیان کرتے وقت آنحضرتؐ کی طرح سر اٹھا کر دکھلایا تو ان) کی ٹوپی گری تھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی گری تھی (بہر کیف حاصل یہ کہ قیامت کے دن یہ شخص اتنا عالی مرتبہ ہوگا کہ لوگ اس کی طرف اچک اچک کر دیکھیں گے) پھر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اور دوسرا وہ شخص جو جید الایمان مومن تھا اور جب دشمن سے اس کی مڈ بھیڑ ہوئی تو وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے ایسا نظر آنے لگا جیسے اس کے بدن میں خار دار درخت کے کانٹے ہوں (یعنی یہ اس شخص کے خوف کی وجہ سے تھر تھرا کاٹنے اور دہشت سے اس کے بدن کے روٹکنے کھڑے ہو جانے کی کیفیت کو کنایہ بیان کیا گیا ہے) اور پھر ایک تیرا کر اس کو لگا جس کو چلانے والا نامعلوم تھا اور اس تیر نے اس کو موت کی آغوش میں پہنچا دیا تو یہ شخص (پہلے شخص کی بہ نسبت) دوسرے درجہ کا ہے اور تیسرا شخص وہ مومن تھا جس نے کچھ اچھے اور کچھ برے اعمال کئے تھے اور جب دشمن سے اس کی مڈ بھیڑ ہوئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو سچ کر دکھایا یہاں تک کہ (لڑتے لڑتے مارا گیا تو یہ شخص تیسرے درجہ کا ہے اور چوتھا شخص وہ مسلمان ہے جس نے اپنی جان پر بہت اسراف کیا تھا (یعنی جس نے بہت زیادہ گناہ کئے تھے) اور جب دشمن سے اس کی مڈ بھیڑ ہوئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کو سچ کر دکھایا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا گیا تو یہ شخص چوتھے درجہ کا ہے۔“ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

## توضیح

”الشهداء اربعة“ یعنی شہدائ کی چار انواع ہیں صرف چار آدمی مراد نہیں ”العدو“ یعنی کفار سے مڈ بھیڑ ہوئی۔  
 ”فصدق الله“ یہ صیغہ تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے جو مشہور ہے اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مجاہد نے اپنی جرأت و شجاعت کے ساتھ اس وعدہ کو پورا کیا جو وعدہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیئے گئے۔  
 قال الله تعالى ﴿وَرَجَالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾

علامہ طبریؒ نے اس جملہ کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کی صفت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے لڑنے والے ہوتے ہیں۔ جب اس شخص نے اپنے فعل سے اپنی ثابت قدمی اور اخلاص کے ساتھ لڑنے کو ثابت کیا تو گویا اس نے اپنے کردار سے اللہ تعالیٰ کے قول کو سچ کر دکھا دیا ”صدق الله حتى قتل“ کا یہی مطلب ہے۔

”قلنسوتہ“ یعنی حضرت عمرؓ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بلند درجات کو بتانے کے لئے آسمان کی طرف اتنا سر اٹھایا کہ آپ کی ٹوپی پیچھے کی طرف گر گئی اس حدیث سے شہید کے بلند درجات کا جہاں ثبوت ملتا ہے وہیں پر آنحضرت کا ٹوپی زیب تن کرنا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ ”فما ادری“ یہ راوی کا قول ہے جو حضرت فضالہ سے روایت کرتے ہیں

”اراد“ یعنی حضرت فضالہ نے حضرت عمر کی ٹوپی گرنے کا کہا یا نبی مکرم کی ٹوپی گرنے کی بات کی، بظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مراد ہے کیونکہ متبادر یہی ہے۔

”بشوک طلح“ شوک کانٹے کو کہتے ہیں اور طلح کیکر وغیرہ خاردار درخت کو کہتے ہیں جس میں بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں یعنی بزدلی کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں گویا اس میں کانٹے چھ رہے ہیں چار قسم آدمیوں میں اول جید الایمان بہادر ہے دوسرا جید الایمان بزدل ہے تیسرا کچھ گناہ گار ہے چوتھا مکمل گناہ گار ہے سب شہید ہیں معلوم ہوا گناہ گار آدمی بھی جہاد میں حصہ لے سکتا ہے۔ تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ پہلے فرشتہ بنو پھر جہاد ہو گا یا در کھونہ ان کا کوئی آدمی فرشتہ بنے گا نہ جہاد ہو گا۔

### منافق شہید نہیں ہوتا

﴿۱۷﴾ وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فذلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِي خِيَمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ لَا يُفْضَلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النَّبُوَّةِ وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مُمْصِمَةٌ مَحَتْ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ إِنَّ السَّيْفَ مَحَاءٌ لِلْخَطَايَا وَأَدْخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ فَذَاكَ فِي النَّارِ إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

اور حضرت عتبہ بن عبد السلامی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو لوگ جہاد میں مارے جاتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کامل مومن جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعہ جہاد کیا چنانچہ جب دشمن سے اس کی مڈ بھڑ ہوئی (تو وہ پوری بہادری اور شجاعت) کے ساتھ لڑا یہاں تک کہ مارا گیا۔“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ ”یہ وہ شہید ہے جس کو جہاد کی مشقتوں اور آزمائش میں مبتلا کیا گیا، یہ شہید (آخرت میں) عرش الہی کے نیچے اللہ کے خیمے میں ہو گا اور انبیاء اس سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے۔ اور دوسرا شخص وہ مومن ہے جس کے اعمال ملے جلے ہوں کہ اس نے کچھ نیک عمل کئے ہوں اور کچھ برے عمل، چنانچہ اس نے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعہ خدا کی راہ میں جہاد کیا اور جب دشمن سے اس کی مڈ بھڑ ہوئی تو پوری بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑا یہاں تک کہ مارا گیا۔“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا ”کہ یہ شہادت یا خصلت، پاک

کرنے والی ہے کہ اس کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تلوار خطاؤں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے، یہ وہ شہید ہے کہ جس دروازے سے جانا چاہے گا جنت میں داخل کیا جائے گا۔“ اور تیسرا شخص منافق ہے کہ (اگرچہ) اس نے (بھی) اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعہ جہاد کیا اور جب دشمن سے اس کی مدد بھیڑ ہوئی تو (خوب) لڑا یہاں تک کہ مارا گیا (لیکن) یہ شخص دوزخ میں جائے گا، کیونکہ تلوار نفاق کو نہیں مٹاتی۔“ (دارمی)

## توضیح

”الممتحن“ اسم مفعول کا صیغہ ہے امتحان و آزمائش میں ڈالے ہوئے کے معنی میں ہے لیکن یہاں اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شہید کے دل کو ایمان و تقویٰ کے لئے کھول دیا اور ایمان و تقویٰ پر اس کا شرح صدر ہو گیا جیسے آیت میں ہے ﴿اولئک الذین امتحنہم اللہ فخرجہم للتقویٰ﴾ یہ لوگ عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کے مہیا کردہ خیمے میں ہونگے۔ ”ممصصة“ مدحرجۃ کے وزن پر یہ آیت ہے اس کا موصوف یا لفظ ”شہادة“ ہے اور یہ اسلئے ہے اسی شہادۃ ممصصة او خصلۃ ممصصة، ممصصة مضمة کے وزن پر صفائی اور طہارت و پاکیزگی کی معنی میں ہے یعنی یہ شہادت گناہوں سے آدمی کو پاک و صاف کرنے والی ہے۔

”ذاک فی النار“ یعنی منافق اگرچہ جہاد کرے خوب لڑے اور دنیوی شہید بھی بنے اپنے کپڑوں میں بغیر غسل کے شہید کی طرح دفن بھی ہو جائے پھر بھی جنت کے بجائے دوزخ میں جایگا کیونکہ تلوار گناہوں کو دھو ڈالتی ہے مگر غلط عقیدہ کو بدل نہیں سکتی ہے جیسے قادیانی، آغا خانی، رافضی ملحد ذکری وغیرہ ہیں جو پاکستانی فوج میں سروس کیلئے لڑتے ہیں اور مرتے ہیں مگر یہ شہید نہیں ہوتے ہیں کیونکہ منافق شہید نہیں ہوتے ہیں۔

## صرف ایک نیکی پر جنت، عجیب قصہ

﴿۷۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عَائِدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَرَسَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَتَّى عَلَيْهِ التُّرَابَ وَقَالَ أَصْحَابُكَ يَظُنُّونَ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَقَالَ يَا عُمَرُ إِنَّكَ لَا تُسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِ النَّاسِ وَلَكِنْ تُسْأَلُ عَنِ الْفِطْرَةِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

اور حضرت ابن عائد کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے جنازے کے ساتھ چلے (تا کہ اس

کی نماز پڑھیں) جب جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر ابن خطابؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ اس جنازے کی نماز نہ پڑھئے کیونکہ یہ ایک فاسق شخص تھا۔“ (یہ سن کر) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ”کیا تم میں سے کسی نے اس کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کرتے دیکھا ہے جو حقیقی اسلام پر دلالت کرے تو وہ ہمیں بتائیے ایک شخص نے عرض کیا ”ہاں، یا رسول اللہ! اس شخص نے ایک رات اللہ کی راہ میں پاسبانی کی خدمت انجام دی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازہ کی نماز پڑھی اور (تدفین کے وقت اس کی قبر پر) مٹی ڈالی اور (گویا میت کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ ”تیرے ساتھیوں کا تو یہ گمان ہے کہ تو دوزخی ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔“ اور پھر (حضرت عمرؓ سے فرمایا) ”عمر! تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ تم سے دین اسلام کی بابت پوچھا جائیگا۔ (اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے)

## توضیح

”علی عمل الاسلام“ یعنی کسی نے اس شخص کو ایسے عمل پر دیکھا ہے جو اس کے حقیقی اسلام پر دلالت کرتا ہو ایک شخص نے کہا کہ میں نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ میں ایک دفعہ چوکیداری کرتے دیکھا تھا یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھادی کیونکہ ایمان و اسلام پر جہاد کے ایک عمل نے دلالت کی، غیب کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ ہے مردے کو مرنے کے بعد اچھے القاب سے یاد کرنا چاہئے حکم لگانا بندے کا کام نہیں ہے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو تنبیہ فرمائی اور غیب کے معاملہ پر حکم لگانے سے منع فرما دیا کہ نفس اسلام کو دیکھا کرو قیامت میں فطرت اسلام کا سوال ہوگا پوشیدہ اعمال کے ٹٹولنے میں نہ پڑو پھر حضور اکرم نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگ تجھے دوزخی خیال کرتے ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، ایک تو اسلام کی وجہ ہے کہ تم مسلمان ہو، دوسرا جہاد کا عمل ہے جو ایک عظیم عمل ہے۔ سبحان اللہ جہاد کتنا بڑا عمل ہے کہ بے عمل بھی یہاں باعمل ہے۔

یہاں ان حضرات کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں جو دن رات یہی گن گاتے ہیں کہ پہلے ایمان بناؤ پھر جہاد میں جاؤ گویا جب تک فرشتہ نہیں بنو گے جہاد کے قریب جانا حرام ہے ”لاحول ولا قوۃ الا باللہ“۔



## باب اعداد الہ الجہاد

## سامان جہاد کی تیاری کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

## الفصل الاول

بقدر استطاعت جہاد کے لئے طاقت فراہم کرنے کا حکم

﴿عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اور تم کافروں سے جنگ کرنے کے لئے (اپنی) طاقت و قوت کی جو (بھی) چیز تیار و فراہم کر سکتے ہو کرو۔ یاد رکھو! تیرا اندازی قوت ہے یاد رکھو! تیرا اندازی قوت ہے، یاد رکھو! تیرا اندازی قوت ہے۔“ (مسلم)

## توضیح

”وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ“ اعداد سامان وغیرہ کی تیاری کے معنی میں ہے صاحب مشکوٰۃ نے یہ عنوان اسی آیت کے پیش نظر قائم کر رکھا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وَأَعِدُوا میں امر کا جو صیغہ ہے تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں اور ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے کہ وہ ذاتی طور پر جہاد کی تیاری کرے اور اپنی ایک قوت پیدا کرے یہ قوت اگرچہ پوری دنیا کی قوت کے برابر نہ ہو پھر بھی اپنی طاقت کے مطابق قوت پیدا کرنا ضروری ہے۔

”مَا اسْتَطَعْتُمْ“ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ تم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو۔

شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اعداد آلات جہاد پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ”اسلام اور ہتھیار“ رکھا ہے اس میں آپ نے قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اسلحہ سیکھ بھی لے اور گھر میں رکھ بھی لے اور کفار پر استعمال بھی کرے اس کتاب کے لکھنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کی طرف سے عام پروپیگنڈہ ہو گیا کہ اسلام میں ہتھیار اور تلوار کا کوئی مقام نہیں یہاں تک کہ اخبارات میں مضامین شائع

ہونے لگے اس پر کچھ مسلمانوں نے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ مانگا کہ آیا اسلام میں تلوار کا کوئی مقام ہے یا نہیں، علماء دیوبند نے حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کو جواب دینے کے لئے منتخب کیا آپ نے یہ کتاب لکھی جس پر سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ کے دستخط موجود ہیں روزنامہ انقلاب مورخہ ۳ ستمبر ۱۹۳۵ء میں یہ فتویٰ جاری کر دیا گیا، میں نے اس کتاب کو دعوت جہاد ۲۵۰ پر پورا نقل کر دیا ہے۔ اعدادالہ جہاد اور اسلحہ سازی کا اہتمام و انتظام خود نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترجیحی بنیادوں پر کیا تھا۔ چنانچہ جب طائف کے قلعہ کا محاصرہ طویل ہو گیا تو آپ نے قلعہ شکن اسلحہ کی ضرورت کی طرف اشارہ کیا اس پر حضرت سلمان فارسیؓ نے بنخینق تیار کی، پھر آنحضرت نے اسی طائف سے دو صحابہ کو دمشق کے علاقہ جرش کی طرف روانہ فرمایا کیونکہ جرش میں اس وقت دو قسم کے نئے اسلحے تیار ہو رہے تھے ایک کا نام دبابہ یعنی ٹینک تھا اور دوسرے کا نام ضبور تھا یہ ایک قسم کی گاڑی تھی جس طرح آج کل بکتر بند گاڑی ہوتی ہے۔

آنحضرت نے چاہا کہ مسلمان صرف ٹینک خرید کر نہ لائیں بلکہ اسلحہ سازی کی ٹیکنالوجی سیکھ کر آئیں چنانچہ حضرت عروہ بن مسعودؓ اور غیلان بن مسلمہ نے جا کر اس کو سیکھا اور واپس آ گئے۔

جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ کو جب شکست ہو گئی اور ان کی عورتیں لونڈیاں بنائی گئیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بازاروں میں ان عورتوں کو اسلحہ کے بدلے فروخت کیا اور اسلحہ حاصل کیا۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسلحہ سازی کی بے انتہاء ترغیب دی ہے احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ سیکھنے سکھانے، رکھنے اور چلانے کی بے حد ترغیب دی ہے کیونکہ کفار مادی قوت سے ڈرتے ہیں روحانی قوت کی وہ کوئی پروا نہیں کرتے عرفات میں ۶۰ لاکھ حجاج کرام حج حج کر کفار کے لئے بددعا کرتے ہیں مگر کسی بھی جگہ کافر پیچھے نہیں ہٹتے لیکن اگر پستل کی معمولی گولی ان پر کشمیر وغیرہ میں چلائی جائے تو ان کی فوج کی فوج بھاگ جاتی ہے۔

لہذا اسلحہ کی اس مادی قوت کو معطل کرنا یا اس کی جگہ روحانی قوت کی بات کرنا شریعت کی تعطیل اور احکام الہی کی تبطل کے مترادف ہے مسلمانوں کو اس طرح کی باتوں سے احتراز کرنا چاہئے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گھوڑوں کی سواری، شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی وغیرہ سامان جہاد اور مروج اسلحہ ہوتا تھا آج بدوق توپ راکٹ لانچر ہوائی جہاز جیٹ طیارے ٹینک تو ہیں بکتر بند گاڑیاں آبدوز کشتیاں بم ایٹم بم آہن پوش اور کروڑ میزائل وغیرہ کا زمانہ ہے لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان تمام مروج اسلحہ کو خوب سے خوب تر تیار کریں فتح و ظفر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے خود ان اسباب کے استعمال کا حکم مسلمانوں کو دیا ہے اسباب پر اتکال ناجائز ہے اسباب کا استعمال تو اسلام کا حکم ہے ورنہ اسباب کو یکسر مسترد کرنے سے آدمی فرقہ ضالہ جبریہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

سورت حدید میں آیت ہے ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ﴾ اس میں واضح طور پر حکم ہے کہ اپنے دین کی مدد اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شریعت کی حفاظت کے لئے لوہے سے جہاد کا کام لو، دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک خصوصیت رکھی ہے اس خصوصیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے مثلاً ایک آدمی کو پیاس لگی ہے پیاس بجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا ہے اور اس میں پیاس بجھانے کی خاصیت رکھی ہے اب اگر کوئی شخص متوکل بنتا ہے اور پانی پینے کے بجائے وہ مسجد کا رخ کرتا ہے اور نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو یہ خودکشی کے مترادف ہو گا یا تو اس شخص پر خرق عادات اور کرامات کا بھوت سوار ہے یا اس شخص کے دماغ میں خلل ہے۔

بالکل اسی طرح کفار کے مقابلے کے لئے اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا ہے اور اس سے بنے ہوئے ہتھیاروں میں دفاع کی خاصیت رکھی ہے اسی کے استعمال سے کافر مغلوب ہو گئے اور بھاگ جائیں گے اگر کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ کفار کو بھگانے کے لئے روحانیت پیدا کرو نیک بنو اعمال پر آ جاؤ اور اسلحہ کو ہاتھ نہ لگاؤ کفار کی عکرمیں خود بخود ڈوٹ جائیں گی تو یہ فلسفہ اور یہ ذہنیت قرآن وحدیث کے بھی منافی ہے اور حضور اکرم وصحابہ کرام کی دس سالہ مسلح جنگ کے بھی منافی ہے اور سلف صالحین کی پوری تاریخ کے بھی منافی ہے اسی ذہنیت کو دور کرنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایست اعداد الہ جہاد کی تفسیر میں دو مرتبہ فرمایا ”الان القوة الرمی الان القوة الرمی“ یعنی مار پھینکنا قوت ہے تیر چلانا قوت ہے روحانی قوتوں میں الجھ کر کہیں اپنا نقصان نہ کر لو، بیشک مسلمان بنونیک بنو مگر اسلحہ استعمال کرو اسلحہ پر اتکا نہ کرو اس کا استعمال کرو اور شاہین بن کراپنے دین کی مدد کرو، منت سماجت سے اور معذرت خواہانہ لہجہ سے کافر سر پر چڑھ کر سب کچھ تباہ کر دیں گے شاعر مشرق نے خوب کہا۔

افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو ☆ دیکھئے تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ☆ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات

ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اسلحہ پر کافروں کے اعتراضات کا جواب دیں۔

ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے

مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر

حق سے اگر غرض ہے تو جائز ہے کیا یہ بات

اسلام کا محاسبہ مغرب سے درگزر

”الرمی“ کا لفظ عجیب جامع لفظ ہے اس میں تلوار کا دار بھی داخل ہے پھر مارنا تیر مارنا نیزہ مارنا توپ کا گولہ پھینکنا بم گرانہ

راکت داغنا سب رمی کے مفہوم میں داخل ہے۔

## خطرہ نہ بھی ہو پھر بھی اسلحہ کا شغل جاری رکھو

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الرُّومُ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْهَوْ بِأَسْهُمِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت عقبہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”غنقریب تمہارے لئے روم کو فتح کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں (اہل روم کی شرانگیزیوں سے کفایت کرے گا لہذا خبردار! تم میں سے کوئی شخص اپنے تیروں کے ساتھ کھیلنے میں سستی نہ کرے۔“ (مسلم)

## توضیح

یعنی شام اور روم کے لوگ تیر اندازی کے بڑے ماہر ہیں تم ان کا مقابلہ تیر اندازی سے کرو گے لہذا تیر اندازی کو خوب سیکھ لو اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں پر فتح عطا کی تو ایسا نہ کرو کہ اسلحہ کا مشغلہ اس وجہ سے چھوڑ دو کہ اب تو شام فتح ہو گیا ہے اب اسلحہ کی کیا ضرورت۔ ہے بلکہ اسلحہ کا شغل ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایسا جاری رکھو کہ گویا یہ تمہارے کھیل کا حصہ ہے۔ کیونکہ کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے مسلمانوں کو سوچنا چاہئے کہ وہ آج کل جہاد کے حوالہ سے کس طرح غفلت میں پڑے ہیں تلوار غائب کر دی گئی ایر ہاتھ میں ذلت کا بلا لے لیا۔

توڑ دی تلوار ہاتھ میں لیا بٹا ہم نے بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے

## اسلحہ سیکھ کر بھول جانا بڑا گناہ ہے

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت عقبہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جس شخص نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اسکو چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہمارے طریقے پر چلنے والوں میں شامل نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ اس نے نافرمانی کی۔“ (مسلم)

## تیر اندازی کرو میں سب کے ساتھ ہوں

﴿۴﴾ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضِلُونَ بِالسُّوقِ فَقَالَ ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَأَنَا مَعَ بَنِي فَلَانَ لِأَحَدٍ

الْفَرِیقَیْنِ فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسلم کے ایک قبیلہ میں تشریف لائے اور وہ لوگ اس وقت بازار میں آپس میں تیر اندازی (کی مشق) کر رہے تھے آنحضرتؐ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے اولاد اسلم! (یعنی اے عربو) تیر اندازی کرو، کیونکہ تمہارے (باپ حضرت اسماعیلؑ) تیر انداز تھے اور میں (بھی) فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں (یعنی اس وقت بنی اسلم کے جو دو فریق آپس میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے آپؐ نے ان میں سے ایک کا نام لے کر فرمایا کہ اس مشق میں میں اس فریق کی طرف ہوں) لیکن دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لئے (یعنی جب آنحضرتؐ ایک فریق کی طرف ہو گئے تو مقابل فریق نے تیر اندازی سے اپنے ہاتھ کھینچ لئے) آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”تمہیں کیا ہوا؟ یعنی تم نے تیر پھینکنے کیوں بند کر دیئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس صورت میں کیسے تیر اندازی کر سکتے ہیں جبکہ آپ فلاں (فریق) کے ساتھ ہیں (یعنی ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ آپؐ ہمیں چھوڑ کر دوسرے فریق کی طرف ہو جائیں) آنحضرتؐ نے فرمایا ”(اچھا) تم تیر اندازی کرو میں تم سب کے ساتھ ہوں۔“ (بخاری)

﴿۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَتَرَسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتْرُسٍ وَاحِدٍ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ فَكَانَ إِذَا رَمَى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ابو طلحہؓ (میدان جنگ میں) ایک ڈھال کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کر رہے تھے، ابو طلحہؓ ایک بہترین تیر انداز تھے چنانچہ (وہ دشمنوں پر بڑی مہارت اور چابکدستی کے ساتھ تیر اندازی بھی کر رہے تھے اور آنحضرتؐ کی حفاظت بھی) جب وہ تیر پھینکتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھانک کر دیکھتے کہ تیر کہاں لگا ہے اور کس کو لگا ہے“ (بخاری)

توضیح

”بترس“ یعنی ایک ڈھال کے ذریعہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے تھے دو ڈھال نہیں تھے یہ نہایت قرب کی طرف اشارہ ہے کہ ساتھ ساتھ تھے ”تشرف“ جھانک کر دیکھنے کو کہتے ہیں۔

## جہادی گھوڑوں کی فضیلت

﴿۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت ہے (بخاری و مسلم)

﴿۷﴾ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسُ نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِأَصْبَعِهِ وَهُوَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جریر ابن عبد اللہ بجلي کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو اپنی انگلی سے بل دیتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ گھوڑے (وہ جانور ہیں) جن کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لئے خیر و بھلائی بندھی ہوئی ہے (کیونکہ گھوڑوں کے ذریعہ جہاد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے جس میں دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی ہے جیسا کہ ایک موقع پر فرمایا گیا کہ جہاد میں آخرت کا ثواب ملتا ہے اور دنیا کا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے) (مسلم)

توضیح

”یلوی“ موڑنے اور بل دینے کے معنی میں ہے ”معقود“ عقد سے باندھنے کے معنی میں ہے۔ ”نواصی“ یہ ناصیہ کی جمع ہے پیشانی کے بالوں کو کہتے ہیں مگر مراد گھوڑوں کی ذات ہے گھوڑے کی پیشانی میں خیر و برکت قیامت تک اس لئے باندھی گئی ہے کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا اور جہاد کا بڑا ذریعہ گھوڑے ہیں تو گھوڑوں میں جہاد ہے اور جہاد میں قیامت تک دین اور دنیا کی بھلائی ہے لہذا گھوڑوں میں یہ بھلائی ہے۔

جہادی گھوڑے کا چارہ پانی پیشاب اور لید بھی نیک اعمال میں ہونگے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِّيقًا بَوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کے وعدے کو سچ جاننے کی وجہ سے خدا کی راہ میں (کام لینے کے لئے اپنے گھر) گھوڑا باندھا تو اس گھوڑے کی سیری و سیرابی (یعنی اس نے دنیا میں جو کچھ کھایا اور پیا ہے وہ) اور اس کی لید اور اس کا پیشاب قیامت کے دن اس شخص کے اعمال کی ترازو میں تولے جائیں گے۔“ (بخاری)

توضیح

”شبعہ“ کھانے کی اشیاء ”ریہ“ پینے کی اشیاء۔ جس طرح جہادی گھوڑے کے پالنے میں اتنا ثواب ہے اسی طرح آج کل جہاد کے لئے اسلحہ رکھنے میں بھی ثواب ملے گا اور جب گھوڑے کی یہ شان ہے تو اس پر سوار ہو کر جہاد کرنے والے مجاہد کی کیا شان ہوگی؟

## اشکل گھوڑا نا پسندیدہ ہے

﴿۹﴾ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشَّكَالَ فِي الْخَيْلِ وَالشَّكَالَ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے میں شکال کو نا پسند کرتے تھے، اور شکال یہ ہے کہ گھوڑے کے دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ پر سفیدی ہو یا دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں پر سفیدی ہو۔“ (مسلم)

## توضیح

”الشکال“ راوی نے حدیث میں شکال گھوڑے کا مکمل تعارف کیا ہے لیکن عام اہل لغت اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں صاحب قاموس وغیرہ اہل لغت نے لکھا ہے کہ شکال گھوڑا وہ ہوتا ہے جس کے تین پاؤں سفید ہوں اور ایک پاؤں باقی بدن کے ہم شکل ہو یا اس کا عکس سمجھ لیجئے کہ ایک پاؤں سفید ہو اور باقی تین پاؤں بدن کے ہم رنگ ہوں۔

## گھوڑوں میں مسابقت جہادی ٹریننگ کا حصہ ہے

﴿۱۰﴾ رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أَصْبَرَتْ مِنَ الْحَفِيَاءِ وَأَمْدَهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَبَيْنَهُمَا مِيلٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گھوڑوں کے درمیان مسابقت (گھوڑ دوڑ کرائی جو اضمار کئے گئے تھے اور یہ مسابقت حفیاء سے شروع ہوئی اور ثنیۃ الوداع پر ختم ہوئی اور ان دونوں مقامات کے درمیان چھ میل کا فاصلہ تھا، اور جن گھوڑوں کا اضمار نہیں کیا گیا تھا ان کے درمیان ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک مسابقت کرائی اور ان دونوں مقامات (یعنی ثنیۃ الوداع اور مسجد بنی زریق) کا درمیانی فاصلہ ایک میل تھا۔“ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”سابق“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو قسم کے گھوڑوں نے مسابقت میں حصہ لیا ہے ایک قسم سد ہائے ہوئے ٹریننگ یافتہ گھوڑے تھے ان کی مسابقت چھ میل کے فاصلہ تک دوڑنے میں تھی۔ دوسری قسم وہ گھوڑے تھے جو سد ہائے ہوئے نہیں تھے تربیت یافتہ نہیں تھے ان کی مسابقت کا فاصلہ تین میل تک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ٹریننگ کی ہے

اور دوسروں کو بھی کرائی ہے گھڑ دوڑ میں خود بھی حصہ لیا ہے اور دوسروں کو بھی آمادہ کیا ہے جیسے حدیث نمبر ۱۱ میں آرہا ہے۔  
 ”اضمرت“ گھوڑوں کو سدھانے کی غرض سے دوڑایا جاتا ہے، اس عمل کو تضمیر کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھوڑے کو کھلا پلا کر خوب فرہ کیا جاتا ہے پھر چالیس دن تک صبح نہار منہ اس کو دوڑایا جاتا ہے اور بہت کم خوراک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ چالیس دن میں گھوڑے کا پیٹ اس کی پیٹھ کے ساتھ لگ جاتا ہے یہ تضمیر شدہ گھوڑا ہوتا ہے جو ہوا کی طرح دوڑتا ہے۔

## ایک دیہاتی مقابلے میں آگے نکلا

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعُضْبَاءُ وَكَانَتْ لَا تُسَبِّقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَاشْتَبَدَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفَعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  
 اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام عضباء تھا اور وہ کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی (یعنی اس کا جس اونٹ سے بھی دوڑ میں مقابلہ ہوتا اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتی تھی) لیکن (ایک دن) ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر آیا اور جب اس نے عضباء سے اپنے اونٹ کو دوڑایا تو اس کا اونٹ آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں پر سخت گزری تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”حق تعالیٰ کا یہ ایک ثابت شدہ فیصلہ ہے کہ دنیا کی جو بھی چیز سر بلند ہو جاتی ہے خدا اس کو پست کر دیتا ہے۔“ (بخاری)

## توضیح

”العضباء“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی کا نام عضباء تھا دراصل جس اونٹنی کے کان پیدائشی طور پر نہ ہوں یا کان کٹے ہوئے ہوں اس کو عضباء کہتے ہیں یہاں اس اونٹنی کے کان موجود تھے لیکن چھوٹے تھے۔ اس لئے اس کو عضباء کا نام دیا گیا تھا۔

”لا تسبق“ یعنی کوئی اونٹ اس سے آگے نکل کر اس کو پیچھے نہیں کیا جاسکتا تھا مجہول کا صیغہ ہے۔ عضباء کا عام طور پر مقابلہ کے لئے تیار رکھا جاتا تھا اس نے تمام اونٹوں سے آگے نکلنے کا ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔

”اعرابی“ دیہاتی کو کہتے ہیں ”قعود“ دو سال سے لیکر چھ سال تک کی عمر میں اونٹ کو قعود کہتے ہیں چھ سال کے بعد کے اونٹ کو جمل کہتے ہیں گویا قعود وہ جوان اونٹ ہوتا ہے جو ابھی سواری کے لئے تیار کیا گیا ہو۔

”فاشتد ذلک“ یعنی صحابہ کرام پر دیہاتی کے اونٹ کا آگے نکل جانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا ریکارڈ ٹوٹ



جانا سخت ناگوار گذرا، کیونکہ عرب معاشرہ میں مسابقت میں پیچھے رہ جانا عار کا سبب تھا۔ اس پر حضور اکرم نے صحابہ کو تسلی دی کہ دنیا کے معاملات میں جو کوئی سراٹھا کر آگے نکل جاتا ہے اور نامور ہو جاتا ہے تو کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے گراتا ہے تاکہ دنیا کا فخر ختم ہو جائے لہذا اس اونٹنی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

## الفصل الثانی

### ایک تیر کے ذریعہ تین آدمی جنت جاتے ہیں

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ فَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا كُلُّ شَيْءٍ يُلْهَوُ بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيَتِهِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتَهُ أَمْرَاتُهُ فَإِنَّهُمْ مِنَ الْحَقِّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ

وَالذَّارِمِيُّ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا

اور حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”اللہ تعالیٰ (کفار پر چلائے جانے والے) ایک تیر کے بدلے میں تین آدمیوں کو جنت میں داخل کرتا ہے ایک تو اس تیر کے بنانے والے کو جبکہ وہ اپنے روزگار کے ساتھ ثواب کی بھی امید رکھے (یعنی جب وہ تیر بنائے تو اپنے روزگار کے ساتھ نیت بھی رکھے کہ میں یہ تیر جہاد میں کام آنے کے لئے بنا رہا ہوں) دوسرے جہاد میں تیر چلانے والے کو اور تیسرے تیر دینے والے کو (یعنی وہ شخص جو تیر انداز کے ہاتھ میں اپنا یا اسی کا تیر دے اور خواہ پہلے ہی دے یا نشانے پر سے اٹھا کر دے) لہذا تم تیر اندازی کرو اور گھوڑوں پر سواری کرو اور تمہاری تیر اندازی میرے نزدیک سواری کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔! اور یاد رکھو انسان جس چیز کو لہو و لعب (یعنی محض کھیل اور تفریح) کے طور پر اختیار کرے وہ باطل اور ناروا ہے مگر اپنی کمان سے تیر اندازی کرنا، اپنے گھوڑے کو سدھارنا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیل و تفریح کرنا، یہ سب چیزیں حق ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد اور دارمی نے (اپنی روایت میں) یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”اور جو شخص تیر اندازی سیکھنے کے بعد اس کو بے نیازی اور بیزاری کے جذبہ سے چھوڑ دے تو وہ تیر اندازی ایک نعمت ہے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ یا یہ فرمایا کہ اس نے اس نعمت کا کفران کیا۔

توضیح

”ثلاثة نفر“ یعنی جہاد میں استعمال ہونے والے ایک تیر کے ذریعہ اچھی نیت کی وجہ سے تین آدمی جنت میں داخل ہو جاتے

ہیں ایک وہ بنانے والا جو جہاد کی نیت سے تیر یا بندوق وغیرہ اپنے کارخانہ میں بناتا ہے دوسرا مارنے والا مجاہد اور تیسرا ”منبل“ مجاہد کے ساتھ مورچہ میں کھڑا آدمی جو تیر چلانے والے مجاہد کے ہاتھ میں تیر دیتا ہے اسکو ”منبل“ کہتے ہیں۔

”نبال“ تیر اندازی کو کہتے ہیں اور ”نبل“ تیر کو کہتے ہیں۔

”وارموا وار کبوا“ اس جملہ کا ایک آسان مفہوم یہ ہے کہ تیر اندازی بھی سیکھو اور گھڑ سواری بھی سیکھو، دونوں کام جہادی ٹریننگ کا حصہ ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تیر اندازی بھی کرو اور گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ بھی استعمال کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نیزہ بازی سے تیر اندازی زیادہ پسند ہے کیونکہ تیر اندازی میں خود اعتمادی زیادہ ہے اور یہ خالص زمینی جنگ ہے جس سے جنگ کا نتیجہ ہاتھ آتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر قسم کی مشق اچھی ہے لیکن تیر اندازی کی مشق دیگر مشقوں سے مجھے زیادہ پسند ہے چنانچہ احادیث میں تیر چلانے کو مقدم رکھا گیا ہے۔ بہر حال مشق کر کے بھولنا گناہ ہے ”کفرہا“ یعنی ایک نعمت کی ناقدری اور ناشکری کی۔

### میدان جہاد میں تیر مارنے کا ثواب

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَلَغَ بِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ رَمَى بِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الْفَضْلُ الْأَوَّلُ وَالنَّسَائِيُّ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَالتِّرْمِذِيُّ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَفِي رَوَايَتِهِمَا مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَدَلٌ فِي الْإِسْلَامِ

اور حضرت ابو نَجِيح سلمیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا۔ ”تو اس کیلئے جنت میں ایک بڑا درجہ ہے اور جس شخص نے اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد) میں تیر پھینکا (خواہ وہ کافر کو لگایا نہ لگا) تو وہ اس کے لئے ایک بردہ (غلام یا لونڈی آزاد کرنے کے برابر ہے اور جو شخص اسلام (کی حالت) میں بوڑھا ہو گیا (یعنی خدا نے اس کو اسلام کی حالت پر برقرار رکھا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا اور مر گیا) تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگا۔“ (اس روایت کو بیہقی نے سبع الایمان میں نقل کیا ہے) ابو داؤد نے (روایت کا صرف) پہلا جزو یعنی نسائی نے پہلا اور دوسرا جزو (کہ جن میں تیر اندازی کی فضیلت بیان کی گئی ہے) نقل کیا ہے اور ترمذی نے دوسرا اور تیسرا جزو نقل کیا ہے! نیز بیہقی اور ترمذی کی روایت میں ”فی الاسلام“ یعنی اسلام کی حالت میں کے بجائے ”فی سبیل اللہ“ یعنی کی راہ میں“ ہے۔

## توضیح

”بلغ“ یعنی ایک تیر نشانہ پر پہنچا دیا جو کافر کو جالگا ”ومن رمی“ یعنی کفار کی طرف تیر پھینکا خواہ لگایا نہ لگا۔ ”عدل“ برابر اور مساوی کے معنی میں ہے ”محور“ یعنی غلام یا لونڈی کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔

”الفصل الاول“ اس حدیث کے تین حصے ہیں انہیں حصوں کو فصل اول و ثانی و ثالث کہا گیا ہے۔

من بلغ سے ومن رمی تک ایک حصہ ہے اس کو فصل اول کہا گیا ہے ابوداؤد نے اتنا ہی نقل کیا ہے ومن رمی سے ومن شاب تک دوسرا حصہ ہے امام نسائی نے پہلا اور دوسرا حصہ نقل کیا ہے اور ترمذی نے دوسرا اور تیسرا حصہ نقل کیا ہے تیسرا حصہ ومن شاب سے آخر تک ہے فصل سے مراد حصہ اور جزء ہے۔

”وفی روایتھما“ بظاہر تشبیہ کی یہ ضمیر نسائی اور ترمذی کی طرف لوٹنی چاہئے کیونکہ دونوں پاس ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ نسائی نے تیسرا جز نقل نہیں کیا ہے لہذا تشبیہ کی یہ ضمیر ترمذی اور بیہقی کی طرف لوٹی ہے کیونکہ بیہقی نے پوری حدیث کو نقل کیا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ بیہقی نے شبیۃ فی الاسلام کا لفظ استعمال کیا ہے جیسا کہ اوپر حدیث میں ہے تو بیہقی کے بارہ میں کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے پھر یہ اس صاحب مشکوٰۃ نے کیسے کہہ دیا کہ ”وفی روایتھما فی سبیل اللہ الخ“۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بیہقی سے دو روایتیں منقول ہیں ایک میں فی الاسلام کا لفظ ہے جو ترمذی میں نہیں ہے دوسری روایت میں فی سبیل اللہ کا لفظ ہے جو ترمذی میں بھی ہے اور بیہقی میں بھی ہے۔ لہذا وہی روایت تھما کا جملہ درست ہوا۔ (تدبر و تشکر)

## جہادی ٹریننگ میں شرط لگانا جائز ہے

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خُفِّ أَوْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ حَافِرٍ.

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مسابقت کی شرط کا مال لینا صرف تین چیزوں (یعنی)

تیر چلانے، اونٹ دوڑانے، اور گھوڑ دوڑ میں جائز ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

## توضیح

”لا سبق“ آگے نکلنے میں شرط لگانے کو سبق اور سباق کہا گیا ہے یعنی بازی لیجانے میں انعام کی شرط لگانا جہادی ٹریننگ میں

جائز ہے اس کے علاوہ ناجائز ہے کیونکہ یہ جو چیزیں جہاد کے وسائل و ذرائع میں شامل ہیں ان کی مسابقت میں شرط باندھنا اور بازی لگانا اور شرط کی رقم لینا دراصل جہاد کی ترغیب دینے کے پیش نظر ہوتا ہے اور اعداد آلہ جہاد اور اس کی تشویق و ترغیب کے حکم میں آتا ہے اس لئے اس کو جائز قرار دیا گیا جہاد عجیب عبادت ہے اور اس کے عجیب نرالے احکام ہیں کئی چیزیں دوسری جگہ ناجائز ہوتی ہیں لیکن جہاد میں جائز ہوتی ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

تفرد بالاحکام فی اہلہ الہوی

فانت جمیل الخلف مستحسن الکذب

”نصل“ ای ذو نصل، نصل بھالے کو کہتے ہیں جو نیزہ اور تیر میں ہوتا ہے ”او خف“ ای ذو خف، اونٹ کو کہتے ہیں ”حافر“ ای ذو حافر، گھوڑے کو کہتے ہیں حدیث میں ان تین چیزوں کو خاص کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی چیز میں شرط لگا کر رقم حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

لیکن فقہاء کرام نے ان تین چیزوں کے حکم میں ان اشیاء کو بھی شامل کیا ہے جو اعداد آلہ جہاد میں استعمال ہوتی ہیں مثلاً خنجر گدھا اور ہاتھی ہے یا پیدل دوڑ کر مقابلہ کرنا ہے یا بندوق وغیرہ کا نشانہ ٹھیک کرنا ہے جب یہ چیزیں محض جہادی ٹریننگ کی غرض سے ہوں تو اس میں بھی شرط لگا کر رقم وصول کی جاسکتی ہے کیونکہ علت مشترک ہے۔ میں نے فقہاء کی یہ بات نقل کی ہے۔ (کنزانی المرقات)

### مسابقت میں مجمل کے شامل ہونے کا حکم

﴿۱۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ فَإِنْ كَانَ يُؤْمِنُ أَنْ يُسَبِّقَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يُسَبِّقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِي وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسَبِّقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسَبِّقَ فَهُوَ قِمَارٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”جو شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرے تو اگر وہ گھوڑا ایسا ہے کہ (جس کے تیز رو ہونے کی وجہ سے) اس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ (ان دونوں گھوڑوں سے) آگے نکل جائے گا تو اس میں بھلائی نہیں ہے اور اگر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو پھر اس میں مضائقہ نہیں۔“

(شرح السنۃ)

اور ابوداؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا (اگر کوئی شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا شامل کرے

جس کے بارے میں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو یہ قمار (جوا) نہیں ہے اور اگر کوئی شخص دو گھوڑوں کے درمیان اپنا (ایسا) گھوڑا شامل کرے جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ آگے نکل جائے گا تو یہ قمار ہے۔

## توضیح

”ادخل فرسا بین فرسین“ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقابلہ جہادی ٹریننگ میں نہیں ہے بلکہ عام گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہے اسی لئے اس کے جواز کے لئے ایک خاص صورت بتائی گئی ہے حالانکہ جہادی معاملہ میں کوئی صورت ناجائز نہیں ہے جیسا پہلے گذر گیا میں نے اس حدیث سے یہی سمجھا ہے واللہ اعلم۔ بہر حال اس حدیث کا پس منظر اور جائز و ناجائز صورتوں کا نقشہ اس طرح ہے کہ مثلاً دو آدمیوں میں گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہے اگر کسی کمپنی یا کسی حاکم نے ان میں سے آگے نکلنے والے کے لئے بطور انعام کوئی شرط رکھ دی ہے تو یہ جائز ہے اسی طرح دونوں گھوڑوں کے مالکوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہہ دیا کہ اگر آپ آگے نکل گئے تو میں اتنی رقم دوں گا اور اگر میں آگے نکلا تو کچھ بھی نہیں لوں گا یہ صورت بھی جائز ہے اور اگر دونوں طرف سے دونوں نے شرط رکھ دی تو یہ معاملہ جوا ہے جو ناجائز ہے ہاں اگر اس میں محلل آگیا تو پھر طرفین کا معاملہ جائز ہوگا۔ محلل اس تیسرے آدمی کو کہتے ہیں جو اپنا گھوڑا لاکر شرط لگانے والوں کے ساتھ شامل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں تم دونوں سے آگے نکل گیا تو تم دونوں سے اتنی رقم لوں گا اور اگر میں پیچھے رہ گیا تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا مجھ سے کچھ نہیں لو گے اب اس محلل کے داخل ہونے سے گھڑ دوڑ کے پہلے شرط باندھنے والے دونوں آدمیوں کے لئے شرط کی رقم حلال ہوگئی اسی وجہ سے اس کو محلل کہتے ہیں اب اگر محلل آگے نہیں نکلا اور ان دونوں میں سے کوئی آگے نکل گیا تو وہ اپنے ساتھی سے مقررہ شرط وصول کریگا اور اگر دونوں ایک ساتھ پہنچ گئے تو کسی کو رقم نہیں ملے گی۔ ہاں حدیث میں اس محلل کے لئے ایک قید لگائی گئی ہے وہ یہ کہ اس کے گھوڑے کا ان دونوں کے گھوڑوں سے آگے نکلنا یقینی نہ ہو، بلکہ احتمال ہو کہ آگے نکل جائے یا پیچھے رہ جائے اگر سب لوگوں کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ محلل کا گھوڑا آگے ہی نکلے گا تو پھر یہ آدمی محلل نہیں بن سکتا بلکہ پورا معاملہ ناجائز ہو جائے گا۔

## گھوڑوں میں جلب، اور جنب منع ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ زَادَ

يَحْيَىٰ فِي الرَّهَانِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ فِي بَابِ الْغَضَبِ

اور حضرت عمران ابن حصینؓ کہتے ہیں کہ ”نہ جلب (جائز) ہے اور نہ جنب اور (ایک راوی) ”یحییٰ نے اپنی روایت میں لفظ ”فی الرہان“ بھی نقل کیا ہے (یعنی ان کی روایت میں یہ ہے کہ رہان یعنی گھوڑوں کی شرط و مسابقت میں نہ جلب جائز ہے

اور نہ جنب اس روایت کو ابو داؤد و نسائی نے نقل کیا ہے۔ نیز ترمذی نے بھی اس روایت کو کچھ زند الفاظ و معانی کے ساتھ باب الغصب میں نقل کیا ہے۔“

## توضیح

جلب اور جنب کی یہ اصطلاح کتاب الزکوٰۃ میں بھی استعمال کی گئی ہے اور کتاب الجہاد میں بھی استعمال کی گئی ہے اور کتاب البیوع میں اس کا صرف ایک لفظ جلب استعمال کیا گیا ہے کتاب الزکوٰۃ اور بیوع میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے وہاں دیکھنا چاہئے۔ یہاں اس اصطلاح کا مفہوم یہ ہے کہ گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں ایک آدمی اپنے گھوڑے کے پیچھے ایک اور سوار کو رکھتا ہے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے مگر مقابلے والے شخص کے گھوڑے کو پیچھے سے جھڑکتا ہے آوازیں دے کر اس کو تیز کرتا رہتا ہے یہ ناجائز ہے جیسے گدھے کو بھگانے کے لئے اس کا سوار لوٹا وغیرہ بجاتا ہے یا اونٹوں کے مقابلہ میں ظالم عرب معصوم بچے کو سوار کرتا ہے بچہ ڈر کی وجہ سے چلتا ہے تو اونٹ ڈر کر تیز دوڑتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ٹھکانے لگا دے۔

”ولا جنب“ جب یہ ہے کہ مقابلہ کرنے والے نے ساتھ ساتھ ایک فارغ گھوڑا پہلو میں رکھا ہے تاکہ جب اپنی سواری تھک جائے تو اس تازہ دم گھوڑے پر سوار ہو جائے جو پہلو میں ہے یہ بھی ناجائز ہے۔

”فی الرهان“ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ اور شرط لگانے کو رھان کہتے ہیں۔

## عمدہ گھوڑے کی علامت

﴿وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَذْهَمُ الْأَفْرَحُ الْأَرْثَمُ ثُمَّ الْأَفْرَحُ الْمُحْجَلُ طُلُقُ الْيَمِينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذْهَمُ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشَّيْءِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ﴾

اور حضرت ابو قتادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بہترین گھوڑا سیاہ گھوڑا ہے۔ جس کی پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو اور ناک کی جانب سفیدی ہو پھر وہ گھوڑا بہتر ہے جس کی پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں لیکن دایاں ہاتھ سفید نہ ہو اور اگر سیاہ گھوڑا نہ ہو تو پھر اسی قسم کا کیمت (بھی بہتر گھوڑا ہے۔ (ترمذی، دارمی)

## توضیح

”الاذھم“ بہت زیادہ سیاہ گھوڑے کو اذھم کہتے ہیں اس سیاہ گھوڑے کی کچھ صفات بھی اس حدیث میں مذکور ہیں پہلی صفت ”افرح“ ہے یعنی جس کی پیشانی پر سفید داغ ہو جو غرہ سے کم ہو۔

”الارثم“ یہ دوسری صفت ہے یعنی اوپر والے ہونٹ کا حصہ ناک کی طرف سے سفید ہو۔

”ثم الاقروح المحجل“ یعنی ادھم کی اوپر والی صفات اگر ادھم میں نہ ہوں تو ادھم میں دوسرے نمبر پر وہ گھوڑا سب سے عمدہ ہے جس کی پیشانی کے سفید داغ کے ساتھ اس کے پاؤں بھی ایک حد تک سفید ہوں خواہ سب سفید ہوں یا دو سفید ہوں یا تین سفید ہوں۔

”طلق الیمین“ یعنی اگر پاؤں میں کچھ سفید ہو تو اس میں یہ شرط ہے کہ صرف دایاں پاؤں سفید نہ ہو بلکہ یہ پاؤں آزاد ہو۔  
 ”فکمیت“ یعنی اگر سیاہ گھوڑا نہ ہو تو اس کے بعد کمیت گھوڑا عمدہ ہے کمیت وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کے ایال اور دم کے بال سیاہ ہوں باقی گھوڑا سرخ ہو، ”علیٰ هذه الشیة“ شیت کی جمع شیات ہے یہ اس داغ کو کہتے ہیں جو جسم کے عام رنگ کے خلاف ہو شاعر ساحر نے ادھم اور شیت کو ایک شعر میں اس طرح جمع کیا ہے۔

افاعیل الوری من قبل دھم ☆ وفعلک فی فعالہم شیات

اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیاہ گھوڑا نہ ہو تو پھر کمیت بھی عمدہ ہے لیکن ادھم کی صفت پر ہو کہ اقروح وارثم ومحجل ہو۔

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي وَهَبِ الْجَشَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَعْرَ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرٍ أَعْرَ مُحَجَّلٍ أَوْ أَذْهَمٍ أَعْرَ مُحَجَّلٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابو وہب جشی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ

پاؤں والا کمیت گھوڑا ضروری ہے پھر اشقر گھوڑا ہونا چاہئے جس کی پیشانی بھی سفید ہو اور ہاتھ پاؤں بھی سفید ہوں یا سیاہ

گھوڑا ہو جو سفید پیشانی والا ہو اور سفید ہاتھ پاؤں ہوں۔ (ابوداؤد، ترمذی)

سرخ گھوڑوں میں برکت ہوتی ہے

﴿۱۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْنُ الْخَيْلُ فِي الشُّقْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی برکت سرخ رنگ کے گھوڑوں میں ہوتی

ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح

”اغر“ غرہ سے ہے پیشانی کے سفید داغ کو کہتے ہیں۔ ”اشقر“ سرخ رنگ کے گھوڑے کو کہتے ہیں جو مکمل سرخ ہوتا ہے اور کمیت بھی سرخ ہوتا ہے لیکن اس کی دم اور ایال کے بال سیاہ ہوتے ہیں اتنا ہی فرق ہے اور شقر سرخ رنگ کو کہتے ہیں۔

## گھوڑوں کی پیشانی، ایال اور دم کے بال نہ کاٹو

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْصُوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ وَلَا مَعَارِفَهَا وَلَا أَذْنَابَهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابِهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاءُهَا وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْرُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عتبہ بن عبد السلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”گھوڑوں کی پیشانی کے بال ان کی ایال اور ان کی دمیں کو نہ کاٹو کیونکہ ان کی دیمیں، ان کے مورچل ہیں (کہ جن کو وہ ہلا کر رکھیں اور کیزوں کو اڑاتے ہیں) اور ان کی ایالیں ان کو گرمی پہنچانے کی چیزیں ہیں اور ان کی پیشانی کے بالوں میں بھلائی بندھی ہوئی ہے۔“ (ابوداؤد)

توضیح

”لا تقصوا“ قص کاٹنے کے معنی میں ہے۔ ”نواصی ناصیہ“ کی جمع ہے پیشانی کے بالوں کو کہتے ہیں۔ ”معارف“ اس کا مفرد عرف ہے یا معرفت ہے گھوڑے کی گردن پر جو بال اوپر کی طرف کھڑے رہتے ہیں وہ مراد ہیں جس کو ایال کہتے ہیں ”اذنابھا“ اس کا مفرد ”ذنب“ ہے دم کو کہتے ہیں مراد دم کے بال ہیں۔ حدیث کے بقیہ حصہ میں اس ممانعت کی علت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ”مذابھا“ یہ ذب سے ہے دفع کرنے کے معنی میں ہے یعنی دم کے بالوں سے گھوڑا کھیاں وغیرہ دفع کرتا ہے یہ اس کا پنکھا ہے۔ ”دفاعھا“ دفاع گرمی کو کہتے ہیں یعنی ایال کے بال سے گھوڑا گرمی حاصل کرتا ہے تاکہ گردن ٹھنڈک وغیرہ سے محفوظ رہے۔ ”معقود“ یعنی پیشانی کے بالوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔

## جہادی گھوڑوں کی دیکھ بال کرو

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي وَهَبٍ الْجُشَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَبَطُوا الْخَيْلَ وَأَمْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا أَوْ قَالَ أَكْفَالِهَا وَقَلِّدُواهَا وَلَا تَقْلِدُواهَا الْأَوْتَارَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت وہب جشمی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کو باندھ کر رکھو۔ ان کی پیشانیوں اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کرو۔ یا (اعجاز ہا کی جگہ) اکفالہا فرمایا اور ان دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں پیٹھ مراد ہے اور ان کی گردن میں کنڈا (پٹا) باندھو لیکن ان کی گردن میں کمان کی تانت نہ باندھو۔ (ابوداؤد، نسائی)



## توضیح

”ارتبطوا“ باندھ رکھو یعنی اس کی اچھی دیکھ بھال کرو ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ تاکہ خوب موٹے تازے ہوں اور بوقت جہاد جنگ میں خوب جوہر دکھائیں ”اعجاز“ عجز کی جمع ہے ”اکفال“ کفل کی جمع ہے دونوں کا ترجمہ پچھلا حصہ ہے یعنی انس و محبت اور صفائی و خدمت کی غرض سے گھوڑے کی پیٹھ اور پچھلے حصہ پر ہاتھ پھیرا کرو ”وقلہا“ یعنی گھوڑے کے گلے میں قلابہ ڈالا کرو تاکہ دشمنان اسلام سے لڑنے کے لئے اور دین کی سربلندی کے لئے ہر وقت تیار ہو ”الوتار“ یہ وتر کی جمع ہے کمان کے تانت اور تسمہ کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ تسمہ گھوڑے کے گلے میں نہ ڈالو اس کے ساتھ گھوڑا ٹانگ کر لٹک جائے گا، یا وتر سے مراد وہ شریک تانت و تسمہ ہے جس کو عرب دفع ضرر کے لئے جانوروں کے گلوں میں باندھتے تھے اور شرک کا عقیدہ رکھتے تھے اسلام نے اس کو روک دیا ہے۔

## اہل بیت کی تین خصوصیات

﴿۲۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا مَأْمُورًا مَا اخْتَصَصْنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ أَمَرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لَا نُنْزِي حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مامور بندے تھے آپ نے ہم کو (یعنی اپنے اہل بیت کو) اور دوسرے لوگوں سے الگ کر کے تین باتوں کے علاوہ اور کسی بات کا مخصوص طور پر حکم نہیں دیا اور وہ (تین باتیں جن کا خاص طور پر اہل بیت کو حکم دیا تھا) یہ ہیں کہ (۱) ہم وضو کو پورا کریں۔ (۲) ہم صدقہ کا مال نہ کھائیں۔ (۳) ہم گھوڑوں پر گدھے نہ چھوڑیں۔ (ترمذی، نسائی)

## توضیح

”عبد مأموراً“ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند بندے تھے جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا تھا وہ عوام الناس میں برابر جاری فرماتے تھے ایسا نہیں تھا کہ اپنے کسی قرابت دار کو خصوصی حکم سے نواز اور دوسروں کو نظر انداز کیا اسی طرح احکام میں آپ کسی امتیاز اور خصوصیت کو روا نہیں رکھتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ یہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم نے ہم اہل بیت کو بھی کسی چیز کا خصوصی حکم نہیں دیا ہاں تین چیزوں کا ہم کو بطور خاص تاکید حکم کیا اگرچہ امت ان میں سے بھی دو چیزوں میں ہمارے ساتھ شریک ہے مگر ہم کو بطور خاص حکم دیا گیا ہے وہ تین وصیتیں مکمل

وضو بنانا ہے صدقہ نہ کھانا ہے اور گدھے کو گھوڑے پر نہ چڑھانا ہے۔ گدھے کو گھوڑے پر چڑھانے سے گھوڑی کی نسل خراب ہو جاتی ہے اور اعلیٰ چیز کے بجائے گھٹیا چیز ہاتھ میں آ جاتی ہے کیونکہ خچر گھوڑے سے ادنیٰ ہے اس وصیت میں اور کامل و مکمل وضو بنانے کی وصیت میں باقی امت بھی شریک ہے البتہ صدقہ نہ کھانا اہل بیت کی خصوصیات میں سے ہے اس حدیث سے روافض پر واضح رد ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی وصیتیں کی تھیں روافض اذان میں اس کا اظہار و وصی رسول اللہ کے الفاظ سے کرتے ہیں، حضرت علی اور اہل بیت نے بار بار اس نظریہ کی تردید کی ہے مگر روافض بہت غلط لوگ ہیں۔

### گھوڑی پر گدھا چھوڑنا منع ہے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً فَرَكِبَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ (ایک موقع پر) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خچر بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ اس پر سوار ہوئے حضرت علیؑ نے عرض کیا کہ اگر ہم گھوڑیوں پر گدھے چھوڑیں تو ہمیں (بھی) ایسے خچر مل جائیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ (سن کر) فرمایا کہ یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو ناواقف ہیں۔ (ابوداؤد، نسائی)

### توضیح

”لا یعلمون“ یعنی گدھے کو گھوڑی پر چھوڑنا، نامعقول لوگوں کا کام ہے اگر یہ لوگ دانشمند ہوتے تو گھوڑی پر گھوڑے کو چھوڑتے تاکہ عمدہ نسل والے گھوڑے پیدا ہوں گدھے کی نسل سے بیکار خچر پیدا ہونگے یہ لوگ صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹ گئے اور صحیح راستہ سے بھٹک گئے ہیں جو اس مکروہ کام میں مشغول ہو گئے۔

### حضور اکرم کی تلوار

﴿۲۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْذَاَرِمِيُّ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے کی ٹوپی چاندی کی تھی۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، دارمی)

”قبيعة سيف“ تلوار کی ٹوپی کو کہتے ہیں جو دستہ کے پیچھے ہوتی ہے تلوار کی زینت کے لئے معمولی سا سونا استعمال کرنا جائز

ہے چاندی بھی جائز ہے مگر زیادہ نہ ہو۔

﴿۲۵﴾ وَعَنْ هُوْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيْدَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِصَّةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ  
اور حضرت ہود بن عبد اللہ ابن سعد اپنے دادا سے کہ جن کا نام مزیدہ تھا نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے دن (مکہ میں) داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس جو تلوار تھی اس پر سونے اور چاندی کا کام تھا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

احد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزر ہیں پہنیں

﴿۲۶﴾ وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه  
اور حضرت سائب ابن یزید سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (کے جسم مبارک) پر دوزر ہیں تھیں آپ نے ایک کو دوسرے پر پہن رکھا تھا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح

”قد ظاہر“ یعنی ایک دوسرے پر اوپر نیچے پہن رکھے تھے معلوم ہوا زیادہ سے زیادہ اسلحہ استعمال کرنا تو کل کے منافی نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنگ لڑی ہے اور بھرپور انداز سے لڑی ہے جو لوگ اس کو عیب یا عار سمجھتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی جھنڈا

﴿۲۷﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ رَايَةُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ وَلَوَاوُهُ أَبْيَضَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه  
اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا۔ اور چھوٹا جھنڈا سفید رنگ کا۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح

”رایۃ“ ملکی قومی بڑے جھنڈے کو رایۃ کہتے ہیں یہ جھنڈا سیاہ تھا سیاہ کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کالا تھا بلکہ دور سے کالا نظر

آتا تھا اور اگر قریب سے کوئی اس کو دیکھتا تو اس میں سفید پٹیاں نظر آتی تھیں اور اسی کو نمرہ چتکبرا کہا جاتا ہے۔  
”ولو انه ابیض“ یعنی آپ کا جنگی چھوٹا جھنڈا سفید ہوتا تھا جو اس کی طرف اشارہ ہے۔

﴿۲۸﴾ وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمْرَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت موسیٰ ابن عبیدہ جو حضرت محمد ابن قاسم (تابعی) کے آزاد کردہ غلام تھے کہتے ہیں کہ حضرت محمد ابن قاسم نے مجھے حضرت براء ابن عازب کے پاس بھیجا تا کہ یہ دریافت ہو سکے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا کیسا تھا، چنانچہ حضرت براء نے فرمایا کہ جھنڈا سیاہ رنگ کا تھا اس کا کپڑا چوکور اور نمرہ کی طرح تھا۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

”مربعة“ یعنی اس کا طول و عرض چوکور تھا۔ ”نمرۃ“ چیتے کے رنگ پر تھا  
﴿۲۹﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَلَوْاءُهُ أَبْيَضُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ.

اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (فتح مکہ کے دن) مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے ساتھ سفید جھنڈا تھا۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

### الفصل الثالث

﴿۳۰﴾ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عورتوں کے بعد (جہاد کے مقاصد کے لئے) گھوڑوں سے زیادہ محبوب و پسندیدہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ (نسائی)

### اپنا قومی اسلحہ بناؤ اور اسی کو اپناؤ

﴿۳۱﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَأَى رَجُلًا بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ قَالَ مَا هَذِهِ أَلْقَيْهَا عَلَيْكُمْ بِهِذِهِ وَأَشْبَاهُهَا وَرِمَاحَ الْقَنَا فَإِنَّهَا يُؤَيِّدُ اللَّهُ لَكُمْ بِهَا فِي الدِّينِ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

اور حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہؓ کہتے ہیں (کسی میدان میں یا ویسے ہی کسی موقع پر) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں

عربی کمان تھی۔ جب آپ نے ایک شخص (صحابی) کے ہاتھ میں فارسی (ایرانی) کمان دیکھی تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس کو پھینک دو، تمہیں (یعنی عربی) کمان رکھنی چاہیے اور اس طرح (یعنی اس وضع کی) رکھنی چاہیے۔ نیز تمہیں کامل نیزے رکھنے چاہئیں۔ یقیناً ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دین (کو سر بلند کرنے) میں تمہاری مدد کرے گا۔ اور (دشمنوں کے) شہروں میں تمہیں جمادے گا۔ (ابن ماجہ)

## توضیح

عورتوں کے بعد گھوڑوں سے آنحضرت کی محبت جہاد سے محبت کی طرف اشارہ ہے اس وقت گھوڑا جیٹ طیارہ کا کام کرتا تھا حدیث میں اعداد کی حوصلہ افزائی ہے۔

”قوس فارسیہ“ ایک عربی کمان ہوتی ہے ایک فارسی کمان ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عربی کمان تھی اور کسی صحابی کے ہاتھ میں فارسی ایرانی کمان تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ اس کو پھینک دو اور عربی کمان کو ہاتھ میں لیکر استعمال کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی کمان پر عربی کمان کو کیوں ترجیح دی؟ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ عربی کمان ٹوٹنے کے بعد بھی لڑائی میں کام آتی تھی مگر فارسی کمان میں یہ صفت نہیں تھی اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کمان کی عمدگی کے پیش نظر اسے اختیار کرنے کا حکم دیدیا یہ بہت اچھی توجیہ ہے کاش کہیں کسی نے کتاب میں لکھا ہوتا۔

دوسری توجیہ جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقائی اور قومی اسلحہ کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ عربی کمان ہماری مصنوعات میں سے ہے ہمیں اس پر بھرپور اعتماد کرنا چاہئے اور دوسروں کے بنائے ہوئے اسلحہ پر اپنی قومی بنیاد نہیں رکھنا چاہئے حضرت خالد بھی عام جنگوں میں اپنے ہی قومی اسلحہ کو ترجیح دیا کرتے تھے خواہ غیر کا اسلحہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوتا حدیث کا سیاق و سباق ان دونوں توجیہات کے ساتھ بالکل موافق ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی اسلحہ کی وجہ سے اور جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین میں تمہاری مدد کرتا ہے اور ملکوں میں تمہیں جماتا ہے۔ ایک تیسری توجیہ بھی ہے جس کو تمام شارحین نے لیا ہے۔ ملا علی قاری علامہ طبیبی و دیگر شارحین نے اسی کو اختیار کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی کا خیال تھا کہ فارسی کمان مضبوط ہوتی ہے اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فتوحات حاصل ہوگی اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خیال صحیح نہیں ہے آلات حرب و ضرب سے فتوحات حاصل نہیں ہوتی ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد سے حاصل ہوتی ہیں یہ نصیحت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے لیکن زیر بحث حدیث کا سیاق و سباق اس توجیہ سے بہت دور ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”انہـ“ سے آخر تک اسلحہ استعمال کرنے اور آلات حرب و ضرب

اختیار کرنے کو دین کی ترقی کا ذریعہ بتایا ہے ”فانھا“ میں ضمیر قصہ ہے۔ یعنی قصہ یہ ہے کہ ان کمانون اور نیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے دین کی تائید کرتا ہے اور تمہارے قدموں کو دنیا میں مضبوط بناتا ہے۔

ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ جہاد اور جہاد کے اسلحہ کو مضبوط کرے جتنا اسلحہ اور ایمان مضبوط ہوگا مسلمانوں کا جہاد مضبوط ہوگا لوگوں کا ذہن جہادی ہوگا تو دین بھی ترقی کریگا مسلمان حکومتیں بھی مضبوط ہوں گی دنیا بھی آباد ہوگی امن بھی قائم ہوگا عزتیں و عظمتیں بھی محفوظ ہوں گی معاشرہ بھی پاکیزہ ہوگا اور ملک بھی خوشحال ہوگا ورنہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا اور ذلت مسلط ہوگی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کافروں کو مغلوب کرنے کا جو نسخہ دیا ہے وہ جہاد اور جہادی اسلحہ ہے ترک اسلحہ نہیں ہے۔ جو لوگ اسلحہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ قرآن وحدیث کی توہین کرتے ہیں اور غیر شعوری طور پر جہاد کے منکر ہو جاتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ اسلحہ فساد کا ذریعہ نہیں بلکہ امن وامان کا ذریعہ ہے اس دعویٰ پر قبائل کے لوگوں کے ہاں امن و آمان کا ہونا واضح دلیل ہے جن کے پاس اسلحہ کے ڈھیر لگے رہتے ہیں مگر ناحق اتنے قتل نہیں ہوتے ہیں جتنے قتل ان شہری علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں ڈاکو مسلح ہوتے ہیں اور شرفاء کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں کسی نے جہاد کے اسلحہ کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔

سکھایا ہے ہمیں انے دوست طیبہ کے والی نے  
کہ بوجہلوں سے ٹکرا کر ابھرنا عین ایمان ہے  
جہاں باطل مقابل ہو وہاں نوک سان سے بھی  
برائے دین اسلام رقص کرنا عین ایمان ہے

## باب آداب السفر

### سفر کے آداب کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَلَا يَطْغُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَا إِلَّا كَمَا يَنْصَرِفُ﴾<sup>(۱)</sup> آداب جمع ہے اس کا مفرد ادب ہے خصائل حمیدہ کے اپنانے اور خصائل رذیلہ سے بچنے کا نام ادب ہے یعنی ہر چیز کو اس کا جائز مقام اور مناسب حق دینے کا نام ادب ہے۔

سفر سے مراد عام اور مطلق سفر ہے مگر یہاں زیادہ تر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی اسفار اور اس کے آداب کا بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے تیرہ سال کی عمر میں شام کی طرف ایک سفر کیا تھا جو ناقص رہ گیا تھا اور آپ مکہ واپس آ گئے تھے پھر آپ نے ۲۵ سال کی عمر میں شام کی طرف تجارت کی غرض سے دوسرا سفر کیا تھا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کا ایک سفر مکہ سے طائف کی طرف ہوا تھا اس کا مقصد طائف والوں کو دعوت اسلام بھی دینا تھا اور اپنے ساتھیوں کے لئے امن اور پناہ کی جگہ تلاش کرنا بھی مقصود تھا، پھر مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے ۵۳ سال کی عمر میں ہجرت کا ایک عظیم الشان سفر کیا مدینہ منورہ سے چھ ہجری میں آپ کا ایک سفر عمرہ کے لئے ہوا جو حدیبیہ پر ختم ہوا اور آپ بغیر عمرہ واپس مدینہ چلے گئے پھر آئندہ سال عمرۃ القضاء کا ایک سفر ہوا تھا پھر دس ہجری میں آپ نے حج کے ارادہ سے سوالا کہ یاکم و بیش صحابہ کے ساتھ حجتہ الوداع کا سفر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سات اسفار کے علاوہ باقی تمام اسفار جہاد کے لئے ہوئے ہیں جو جزیرہ عرب کے اندر اندر تھے جزیرہ عرب سے باہر آپ کا ایک جہادی سفر ہوا تھا جو غزوہ تبوک کے لئے ارض شام کی طرف ہوا تھا، علماء و طلباء اور صلحاء عوام پر لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جس مقصد کے لئے ہوا تھا اس سفر کو اسی مقصد کے لئے بیان کریں جہاد کے سفر کو تشکیل کا نام دینا کونسا انصاف ہے؟ جبکہ آج کل عوام الناس کے دل و دماغ میں تشکیل کا ایک خاص تصور ہے جس میں جہاد کا تصور شامل کرنا حرام سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال جہاد کے سفر کے چند آداب بھی لکھے جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔

- (۱) اعلاء کلمۃ اللہ کی خالص نیت ہو۔ (۲) بغیر کسی تکبر کے نہایت عاجزی سے آئے اور جائے۔ (۳) آپس کا جھگڑا اور ٹکراؤ نہ ہو بلکہ تعاون ہو۔ (۴) سفر حضور اکرم کے طریقوں کے مطابق ہو۔ (۵) دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کی جائے لیکن جب لڑائی ہو تو ثابت قدم رہ کر خوب صبر کرے۔ (۶) عدد و عدد پر نظر نہ جائے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو اور تعلق مع اللہ خوب

مضبوط ہو۔ (۷) بلندی اور نشیبی پر آنے جانے کے وقت زبان ذکر اللہ اور اللہ اکبر کے نعروں سے لبریز ہو۔ (۸) فتح کے بعد نہ تکبر کرے نہ ظلم کرے بلکہ عاجزی کرے۔

## الفصل الاول

### جہاد کے لئے یوم الخمیس کا انتخاب

﴿۱﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت کعب بن مالک راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لئے جمعرات کے دن روانہ ہوئے اور آنحضرت اس کو پسند فرماتے تھے کہ جہاد کے سفر کی ابتداء جمعرات کے دن سے کریں۔ (بخاری)

### توضیح

”یوم الخمیس“ جمعرات کے دن کو خمیس کہتے ہیں آنحضرت کے عمومی اسفار خمیس میں ہوئے تھے کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوا ہے خمیس کے انتخاب کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہفتہ بھر کے اعمال خمیس کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں جہاد کا بڑا عمل بھی اس میں ہو تو کیا خوب ہو دوسری وجہ یہ کہ خمیس اور خمس میں مناسبت لفظی ہے خمس مال غنیمت کے حصہ کو کہتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ آنحضرت کے لشکر کا نام الخمیس تھا جس کے پانچ حصے ہوتے تھے یعنی مقدمة الجیش، ساقه الجیش، میمنه الجیش، میسرة الجیش اور قلب الجیش۔ اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خمیس کے دن سفر فرماتے تھے یہود نے خیبر میں آنحضرت کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے اس موقع پر کہا ”محمدو الخمیس واللہ“ اس لئے تقاول کے طور پر آپ نے خمیس کا دن عموماً سفر کے لئے منتخب کیا۔

### تنہا سفر کرنے کی ممانعت

﴿۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا عْلَمُوا مَسَارَ رَاكِبٍ بَلِيلٍ وَحْدَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اس چیز کو جو تنہا سفر کرنے سے پیش آتی ہے اتنا جان لیں جتنا میں جانتا ہوں تو کوئی سواریاں میں کبھی سفر (کرنے کی ہمت) نہ کرے۔ (بخاری)



## توضیح

یعنی تنہا سفر کرنے کے جو دنیوی اور اخروی نقصانات مجھے معلوم ہیں اگر وہ کسی کو معلوم ہو جائیں تو کوئی سوار کسی وقت تنہا سفر نہیں کرے گا دینی نقصان تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تنہا آدمی کو نصیب نہیں ہوتی اور دنیوی نقصان یہ ہے کہ کسی حادثہ کے وقت یا سامان کی حفاظت کے وقت اس کی مدد کے لئے کوئی نہیں ہوگا اور خاص کر جب جہاد کا زمانہ ہو تو تنہا آدمی کے لئے جان کا کتنا خطرہ ہوگا۔ بہر حال آج کل اجتماعی اسفار کی ترتیب ہوتی ہے کوئی آدمی کہیں بھی تنہا نہیں ہوتا شاید اس سفر میں اور پرانے زمانے کے سفر میں فرق ہو۔

اگر قافلہ میں کتا اور ریکارڈنگ ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں ہونگے

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قافلہ کیساتھ فرشتے نہیں ہوتے جس میں کتا اور گھنٹال ہو۔ (مسلم)

## توضیح

”الملائکۃ“ رحمت کے فرشتے مراد ہیں وہ ساتھ نہیں ہونگے زحمت کے فرشتے اور کراما کا تین تو ساتھ ہوتے ہیں جس سے مراد گھنگر و اور گھنٹیاں ہیں جو بجاتے ہیں اس سے ریکارڈنگ کی حرمت آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے کتے سے شوقیہ کتا مراد ہے کلب صید یا کلب حراسہ مراد نہیں ہے۔

﴿۴﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس (یعنی گھنگر و اور گھنٹی) مزامیر شیطان (یعنی شیطانی باجہ) ہے۔ (مسلم)

﴿۵﴾ وَعَنْ أَبِي بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا لَا تَبْقِيَنَّ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابو بشیر انصاریؓ سے روایت ہے کہ وہ کسی سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو (وہ بیان کرتے

ہیں کہ اس سفر کے موقع پر (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قافلہ کے اندر اس حکم کے اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں کمان کی تانت کے قلابے (پٹے) کو باقی نہ رکھا جائے۔ یا یہ فرمایا کہ قلابے کو باقی نہ رکھا جائے بلکہ کاٹ ڈالا جائے۔ (بخاری، مسلم)

”قلاۃ“ قلابہ کی ممانعت اس لئے آئی کہ اس میں بجنے والے گھنگرہ ہوتے ہیں اگر گھنگرہ نہ ہوں اور کوئی شریک پٹانہ ہو تو محض قلابہ کی ممانعت نہیں ہے۔

### جانوروں پر سواری سے متعلق ہدایت

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهُوَامِ بِاللَّيْلِ وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نَفْيَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ارزانی کے زمانے میں (اونٹوں پر) سفر کرو تو ان اونٹوں کو ان کا زمین (سے کھانے) کا حق دو (یعنی ان کو گھاس کھانے کا موقع دو) یاں طور کہ سفر کے دوران ان کو تھوڑی دیر کے بعد چرنے کے لئے چھوڑ دیا کرو تا کہ وہ پیٹ بھر کر چریں۔ اور تیز چلیں) اور جب تم قحط سالی کے زمانے میں سفر کرو تو ان پر جلدی سفر کرو (یعنی سفر کے دوران راستہ میں تاخیر نہ کرو تا کہ اونٹ پوری خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ضعف و نقاہت میں مبتلا ہونے سے پہلے تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دیں) نیز جب تم کہیں رات میں پڑاؤ ڈالو تو راستے پر پڑاؤ نہ ڈالو کیونکہ ان پر چوپائے چلتے ہیں اور وہ موذی (زہریلے) جانوروں (جیسے سانپ و بچھو وغیرہ) کا مسکن اور ان کی گزر گاہیں ہیں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تم قحط سالی کے زمانے میں (اونٹوں پر) سفر کرو تو تیزی کے ساتھ سفر طے کرو جبکہ اونٹوں میں گودا (یعنی بدن کی طاقت) موجود ہو۔ (مسلم)

### توضیح

”الخصب“ سرسبز و شادابی اور ارزانی و آسانی کے زمانے میں سفر کو اخصب کہتے ہیں۔

”حقها“ یعنی گھاس چرنے کا حق دید و ”السنة“ خشک سالی اور قحط کو کہتے ہیں یعنی ایسے موقع پر بہت تیز چلو تا کہ قحط کی وجہ سے ہلاکت سے پہلے پہلے بچ کر نکل جاؤ ”عرستم“ تعریس آخری رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کو کہتے ہیں۔ ”الطريق“ یعنی راستہ میں قیام نہ کرو بلکہ راستہ سے ہٹ کر رات گزارو تا کہ درندوں اور حشرات الارض اور جنات سے بچ جاؤ کیونکہ رات کو

یہ اشیاء راستوں پر آتی ہیں ”ماویٰ“ ٹھکانہ بنانے کے معنی میں ہے ”الہوام“ حشرات الارض اور موذی اشیاء کو کہتے ہیں۔  
”نفیہا“ یعنی گودا ختم ہونے اور لاغر ہو کر بے بس ہو جانے سے پہلے پہلے جانوروں کو بچا کر نکال لو۔

### ضرورت مند رفیق سفر کی مدد کرو

﴿وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيُعْذِ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

اور حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ ایک موقع پر جبکہ ہم ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اچانک ایک شخص آنحضرت کے پاس اونٹ پر آیا اور اونٹ کو دائیں بائیں پھیرنے موڑنے لگا چنانچہ یہ (دیکھ کر) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس (اپنی ضرورت سے) زائد سواری ہو اس کو چاہیے کہ وہ سواری اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانے پینے کا سامان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے کا سامان اس شخص کو دیدے جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آنحضرت نے مال اور چیزوں کی اقسام کو ذکر کیا (یعنی آپ نے چیزوں کا نام لے کر فرمایا کہ جس شخص کے پاس فلاں چیز اور فلاں چیز جیسے کپڑا وغیرہ اپنی حاجت سے زائد ہو تو اس کو اس شخص پر خرچ کیا جانا چاہیے جس کے پاس وہ چیز نہ ہو) یہاں تک کہ (آپ کی ترغیب و نصیحت سے) احساس ہو گیا کہ ہم میں سے کسی کا اپنی اس چیز پر کوئی حق نہیں ہے جو اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ (بلکہ اس چیز کا حقیقی مستحق وہ شخص ہے جو اس وقت اس چیز سے محروم ہے۔) (مسلم)

### توضیح

”یَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا“ یعنی ضرب موڑنے اور گھمانے کے معنی میں ہے چنانچہ مسلم کی ایک روایت میں ہے۔ یصرف کا لفظ موجود ہے جو پھیرنے کے معنی میں ہے، مسلم کی اس روایت میں یصرف کے بعد بصرہ کا لفظ بھی موجود ہے اس سے مطلب زیادہ واضح ہو گیا کہ اس شخص کی سواری چونکہ زیادہ تھک چکی تھی اور اس کے پاس سامان سفر بھی نہیں تھا اس لئے وہ دائیں بائیں نظر گھما رہا تھا کہ کوئی مسلمان ان کی مدد کرے اس توجیہ کے ساتھ پوری حدیث کا سمجھنا آسان ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ مدد کرنے کی ترغیب دیدی ہے۔ شارحین نے اس حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اس شخص کی سواری اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اس وجہ سے وہ دائیں بائیں جھول

کھاتی ہوئی پریشان تھی اور وہ شخص اس کو دائیں بائیں موڑتا تھا یہ توجہ بعید ہے۔

”فضل زاد“ یعنی کسی کے پاس اگر زائد سواری ہو یا زائد سامان اور خوراک ہو تو وہ اس سے اپنے بھائی کی مدد کرے۔

”فلیعذبہ“ یہ صیغہ عادیعود نصرینصر سے ہے اساس البلاغہ میں علامہ زحشریؒ نے اس کا معنی رفیق و نرمی بتایا ہے ’ای فلیرفق بہ، يقال هذا الامر اعود عليك، ای ارفق بک، لیکن منجد میں لکھا ہے کہ عادیعود لوٹانے اور احسان کرنے کے معنی میں ہے ”يقال عاد السائل ای ردّة و صرفه، عاد فلاناً بالمعروف صنعہ معه، یعنی اس کے ساتھ احسان کیا زیر بحث حدیث کے مناسب یہی معنی ہے اگرچہ علامہ طیبیؒ نے پہلا معنی لکھا ہے مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس جو کچھ زائد سواری یا سامان ہو یا خوراک ہو وہ اپنے محتاج بھائی پر احسان کر کے دیدے حضور نے اتنی ترغیب دیدی کہ صحابہ نے خیال کیا کہ زائد سامان پران کا کوئی حق نہیں ہے۔

### مقصد سفر پورا ہو جانے پر فوراً گھر آؤ

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَىٰ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعْجِلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ جو تمہیں نہ تو (آرام و راحت سے) سونے دیتا ہے اور نہ (ڈھنگ سے) کھانے پینے دیتا ہے۔ لہذا جب تم میں سے کوئی شخص (کہیں سفر میں جائے اور) اپنے سفر کی غرض کو پورا کرے۔ (یعنی جس مقصد کے لئے سفر کیا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے) تو اس کو چاہئے کہ اپنے گھروالوں کے پاس واپس آجانے میں جلدی کرے۔ (بخاری، مسلم)

### توضیح

”نہمتہ“ مقصد اور حاجت و ضرورت کے معنی میں ہے۔ ”من وجہہ“ یعنی جس طرف مسافر متوجہ ہو کر مقصد برآری کے لئے گیا ہے وہاں سے جب مقصد پورا ہو جائے تو فوراً لوٹ کر گھر آجائے یہ حکم اسفار غیر واجبہ کے لئے ہے اگر سفر واجب ہو جیسے حج اور جہاد وغیرہ تو اس کا یہ حکم نہیں ہے اگرچہ حدیث اس کو بھی شامل ہو سکتی ہے۔

سفر کو عذاب کا ٹکڑا اس لئے قرار دیا ہے کہ انسان تمام سہولیات سے محروم رہ جاتا ہے اگر سہولت مہیا بھی ہو پھر بھی گھر سے الگ ہونا وطن اور خاندان سے الگ ہونا کیا کوئی کم پریشانی ہے؟ بے مقصد اسفار میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ بسوں کے حادثے ہو جاتے ہیں جیسے مزارات کے لئے سفر میلوں اور ٹورسٹ کے لئے اسفار اکثر مصائب سے دوچار ہو جاتے ہیں۔

## معزز مہمان یا مسافر کی آمد پر استقبال جائز ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تَلَقَّى بِصَبِيَّانِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَبَقَ بِي إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جِئْتُ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ فَأَرَدَفَهُ خَلْفَهُ قَالَ فَأَدْخَلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةَ عَلَيَّ دَابَّةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت عبداللہ ابن جعفرؓ کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کے اہل بیت کے بچوں کے ذریعہ آپ کا استقبال کیا جاتا (یعنی آپ کے اہل بیت اپنے بچوں کو آپ کی خدمت میں لے جاتے) چنانچہ (ایک روز) آنحضرت جب سفر سے واپس تشریف لائے (اور مدینہ کے قریب پہنچے) تو مجھ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے مجھے اٹھایا اور اپنے آگے سوار کر لیا پھر حضرت فاطمہؓ کے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے حسن یا حسین کو لایا گیا تو آپ نے ان کو اپنے پیچھے بٹھایا اور پھر (اس طرح ہم تینوں ایک جانور پر (سوار) مدینہ میں داخل ہوئے۔) (مسلم)

## توضیح

”تلقى بالصبيان“ مطلب یہ ہے کہ بچوں کے ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جاتا تھا یعنی اہل بیت کے بچے آنحضرت کی ملاقات کے لئے لیجائے جاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا استقبال اہل مدینہ نے اسلحہ لہراتے ہوئے اس وقت کیا تھا جب آنحضرت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے پھر غزوات کے اسفار سے واپسی پر موقع بموقع صحابہ نے آپ کا استقبال کیا ہے اس لئے معزز مہمان کی آمد پر اور اسی طرح علمی شخصیت کی آمد پر اگر عوام الناس استقبال کرتے ہیں تو یہ ناجائز نہیں ہوگا تاہم شرعی منکرات سے پاک ہونا چاہئے کچھ خشک مزاج لوگ استقبال کو ناجائز کہتے ہیں۔

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةٌ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ وہ (انسؓ) اور حضرت طلحہؓ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (خیبر کے سفر سے) واپس آئے تو اس موقع پر حضرت صفیہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور آپ نے ان کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ (بخاری)

## سفر سے گھر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت

﴿۱۱﴾ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غَدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس (سفر سے) رات کے وقت واپس نہیں آیا کرتے تھے بلکہ دن کے ابتدائی حصہ میں یعنی صبح کے وقت، یا آخری حصہ میں یعنی شام کے وقت (گھر میں) داخل ہوا کرتے تھے۔ (بخاری)

### توضیح

حضرت انسؓ کی اس حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ سفر سے جب آدمی گھر آتا ہے تو اس کو چاہئے کہ دن کے وقت آئے اس کے ساتھ والی حضرت جابر کی حدیث نمبر ۱۲ میں واضح طور پر منع کیا گیا ہے کہ طویل سفر کے بعد رات کے وقت گھر میں داخل نہیں ہونا چاہئے ان دونوں حدیثوں کے ساتھ آئندہ آنے والی حضرت جابر کی حدیث ۳۰ کا تعارض ہے جس میں رات کے وقت گھر میں آنے کو بہتر اور اچھا قرار دیا گیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جب سفر لمبا ہو اور شوہر طویل عرصہ تک گھر سے غائب رہا ہو تو ایسی صورت میں رات کے وقت اچانک گھر میں نہیں آنا چاہئے بلکہ دن کو پہلے مسجد میں دو رکعت پڑھنی چاہئیں اور لوگوں سے ملاقات کے بعد گھر جانا چاہئے تاکہ گھر میں بیوی اپنا بناؤ سنگھار کر سکے اور اگر سفر دور کا نہ ہو بلکہ قریب کا ہو تو رات کے اول حصہ میں آنا بہتر ہے جس طرح کہ آئندہ حدیث نمبر ۳۰ میں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے پہلے حصہ میں آنے سے خود اس مسافر کو بھی اطمینان ہوگا اور دیر سے آمد کی وجہ سے گھر کے لوگ بھی پریشان نہیں ہونگے، نیز اول شب میں شوہر بیوی سے ہمبستری کر کے رات بھر آرام کر لیگا۔

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں رات کے وقت آنے کی ممانعت ہے ان احادیث کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ سفر لمبا ہو اور شوہر کی آمد کا کچھ پتہ نہ ہو اگر شوہر اچانک داخل ہوگا اور بیوی چٹیل کی طرح بیٹھی ہوگی تو گھریلو تعلقات خراب ہو جائیں گے مختصر سفر میں یہ صورت نہیں ہوگی، نیز اگر سفر لمبا ہو اور شوہر نے اپنے آنے سے پہلے اطلاع کر دی ہو تو اس صورت میں بھی شوہر گھر میں ہر وقت آ سکتا ہے اسلام چاہتا ہے کہ گھریلو نظام مضبوط سے مضبوط تر ہو مگر یہود و نصاریٰ اور ان کے ایجنٹ این جی اوز عالمی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ والی حدیث کی بھی یہی تشریح ہے۔

﴿۱۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی غیر حاضری کا عرصہ طویل ہو جائے۔ (یعنی اس کو سفر میں زیادہ دن لگ جائیں) تو وہ (سفر سے واپسی کے وقت) اپنے گھر میں رات کے وقت داخل نہ ہو۔ (بخاری، مسلم)

﴿۱۳﴾ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ وَتَمْتَشِطَ الشَّعْثَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم (سفر سے واپسی پر اپنے شہر و آبادی میں) رات کے وقت پہنچو تو اپنے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ شوہر غائب بیوی زیر ناف بالوں کو صاف نہ کر لے۔ اور وہ بیوی کہ جس کے بال پراگندہ ہوں کنگھی چوٹی نہ کر لے۔ (بخاری، مسلم)

توضیح

”تستحد“ حدید استعمال کرنے کو کہا جاتا ہے مراد زیر ناف بالوں کا ازالہ ہے تو مرد کے لئے لوہا استعمال کرنا طبی لحاظ سے مفید ہے اور عورت کے لئے لوبہ کے بجائے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا بہتر ہے مثلاً نوچنا یا نورہ استعمال کرنا یا بال صاف سے ازالہ کرنا مناسب ہے۔

”تمتشط“ امتشاط کنگھی استعمال کرنے کو کہتے ہیں ”الشعثة“ پراگندہ بال عورت کو الشعثة کہا گیا ہے اس قسم کی حدیثوں کی پوری تفصیل توضیحات جلد پنجم کتاب النکاح میں گزر چکی ہے۔

سفر سے واپسی پر دعوت کرنا منسوں ہے

﴿۱۴﴾ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اونٹ یا گائے ذبح کی۔ (بخاری، مسلم)

سفر سے واپسی پر مسجد میں بیٹھنا اور نفل پڑھنا منسوں ہے

﴿۱۵﴾ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ لِلنَّاسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت کعبؓ ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت کے علاوہ اور کسی وقت سفر سے واپس نہیں آیا کرتے تھے چنانچہ جب آپ (سفر سے) واپس آتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں بیٹھنے سے پہلے تحیہ

المسجد یا چاشت کی دو رکعت نماز پڑھتے اور پھر لوگوں سے ملاقات کرنے کے لئے وہاں بیٹھتے۔ (بخاری و مسلم)

﴿۱۶﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں (ایک) سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا چنانچہ جب ہم مدینہ واپس آئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد میں جاؤ اور وہاں دو رکعت نماز پڑھو۔ (بخاری)

### الفصل الثانی

#### صبح سویرے کام پر جانے والے کے لئے برکت کی دعا

﴿۱۷﴾ عَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَامْتِنِيْ فِيْ بُكُورِهَا وَكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرًا تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ اَوَّلَ النَّهَارِ فَاتَّوَى وَكَثُرَ مَالُهُ: رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

حضرت صخر بن وداعہ غامدی کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا (یعنی یوں دعا فرمائی اے اللہ میری امت کے لئے دن کے ابتدائی حصہ میں برکت عطا فرما۔ چنانچہ آنحضرت جب کوئی چھوٹا بڑا لشکر روانہ فرماتے تو اس کو دن کے ابتدائی حصہ میں روانہ فرماتے۔ اور صخر جو ایک تاجر (سوداگر) تھے (اس دعا کی برکت حاصل کرنے کے پیش نظر) اپنا تجارتی مال دن کے ابتدائی حصہ ہی میں روانہ کرتے تھے۔ چنانچہ وہ مال دار ہوئے اور ان کے مال میں بہت اضافہ ہوا۔ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

#### توضیح

”بکودھا“ یعنی صبح سویرے جہاد کے سفر پر جانے والے کے لئے یا تجارت کے سفر کرنے والے کے لئے آنحضرت نے برکت کی دعا فرمائی ہے ”صخر“ ایک تاجر صحابی کا نام ہے جو اس حدیث پر عمل کرتے تھے اور سویرے سویرے تجارتی سامان روانہ کرتے تھے ”فاتویٰ“ یعنی خوب مالدار ہو گیا، کثرت مال یہ اثری کی تشریح ہے۔

آج کل کافروں کی طرح مسلمان امت اس حدیث کے خلاف چل رہی ہے دن کے گیارہ یا بارہ بجے دکان پر آتے ہیں اس میں کیا خاک برکت آئے گی۔



## دن کے سفر کے ساتھ کچھ رات بھی ملایا کرو

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِاللُّجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطَوَّى بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رات کے وقت چلنا اپنے لئے ضروری سمجھو کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

### توضیح

”علیکم“ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ دن کو سفر نہ کرو دن کے سفر کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سویرے سفر کرو۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ دن کے سفر کے ساتھ کچھ حصہ رات کا بھی شامل کیا کرو کیونکہ رات کے سفر میں ایک تو گرمی اور دھوپ نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ کچھ نظر نہیں آتا اس لئے سفر میں یکسوئی اور برکت رہتی ہے اسی کو حدیث میں فرمایا کہ گویا اس کے لئے زمین سیٹی جاتی ہے۔ ”اللجة“ رات کے ابتدائی حصہ میں سفر کو دہلے کہتے ہیں۔

## سفر میں کم سے کم تین آدمی ساتھ ہوں

﴿۱۹﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاَكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاَكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوار ایک شیطان ہے اور دو سوار دو شیطان ہیں۔ اور تین سوار، سوار ہیں۔ (مالک، ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

### توضیح

”الثلاثة ركب“ یعنی تین سوار جماعت ہے ایک سوار یا دو سوار شیطان ہیں اس لئے کہ ایک اور دو ساتھیوں کو جب پریشانی لاحق ہوگی شیطان بہت خوش ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک یا دو ساتھیوں کو شیطان آسانی سے گمراہ کر سکے گا اس لئے اس کو سفری شیطان کہا گیا۔ خلاصہ یہ کہ سفر میں کم سے کم تین آدمی ہونے چاہئیں۔ تاکہ نماز ادا کرتے وقت صحیح طریقہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دوسرا فائدہ یہ کہ اگر ایک ساتھی کسی کام سے چلا گیا تو باقی دو آپس میں تسلی سے رہیں گے اور اگر اس کے آنے میں تاخیر ہو جائے تو دوسرا اطلاع کے لئے جائے گا اور تیسرا پیچھے سامان کی حفاظت کرے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اسفار کا معاملہ اتنی خطرناک ہوتا تھا عرب کے صحراؤں کی دشواریاں الگ

تھیں اور دشمن کے خطرات الگ تھے اس لئے تین کی جماعت کا ہونا ادنیٰ درجہ کا انتظام تھا آج کل وہ صورت تو نہیں ہے مگر پھر بھی ظاہر حدیث پر عمل میں بیشمار فائدے ہیں۔

### تین کی جماعت ایک کو امیر بنائے

﴿۲۰﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر (مثلاً سفر میں) تین شخص ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنالینا چاہیے۔ (ابوداؤد)

### توضیح

تین یا تین سے زیادہ آدمیوں کو چاہئے کہ وہ سفر میں اپنے کسی اچھے ساتھی کو اپنا امیر بنائے تاکہ وہ سفر کے تمام انتظام کی نگرانی کرے اور اختلاف و تنازعہ کی صورت میں صحیح فیصلہ کرے اس کے لئے ہوشیار سمجھ دار غمخوار آدمی چاہئے وہ اپنے آپ کو ساتھیوں کا خادم تصور کرے نہ کہ مخدوم اپنے آپ کو سب سے چھوٹا تصور کرے، ساتھیوں کو بھی چاہئے کہ وہ جائز امور میں اس کی اطاعت کریں۔

### عمدہ فوج اور عمدہ سریہ

﴿۲۱﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قَلَّةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

اور حضرت ابن عباسؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بہترین ساتھی اور رفقاء وہ ہیں جو (کم سے کم) چار کی تعداد میں ہوں۔ چھوٹے لشکروں میں بہترین لشکر وہ ہے جس میں چار سو (مجاہد ہوں) اور بڑے لشکروں میں بہترین لشکر وہ ہے جس میں بارہ ہزار (مجاہد) ہوں اور بارہ ہزار (مجاہد) کم ہونے کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی) نیز ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

### توضیح

”اربعۃ“ یعنی بہترین ساتھی چار ہیں کیونکہ تین ادنیٰ درجہ ہے اور اس سے کم منع ہے چار کی جماعت میں اگر ایک امام ہو جائے

تو تین کامل جماعت ہے اور اگر ایک بیمار ہو جائے اور دوسرے کو وصی بنائے تو باقی دو بطور گواہ ہو جائیں گے۔

سرایا جمع ہے اس کا مفرد سریہ ہے یہ چھاپہ مار فوجی دستے کو کہتے ہیں سریہ وہ ہوتا ہے جو چار سو سے زیادہ نہ ہو اگر زیادہ ہو گیا تو پھر وہ فوج میں داخل ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں اسلام میں کل سرایا چھپن ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی غزوہ موتہ کا جو سریہ تھا وہ تین ہزار صحابہ پر مشتمل تھا اس لئے وہ سریہ کی تعریف سے نکل کر جیش کے حکم میں آگیا اگرچہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے جیش اسامہ کا بھی یہی معاملہ تھا ان کے ساتھ تین ہزار لشکر تھا چار ہزار لشکر بڑی تعداد ہے اس لئے اس کو بہترین لشکر کہا گیا جس طرح سریہ کے لئے چار سو بڑی تعداد ہے جس کو بہترین قرار دیا گیا ہے۔

”اثناعشر“ یعنی بارہ ہزار کا لشکر اس وجہ سے شکست نہیں کھاتا کہ وہ تھوڑے ہیں انہوں نے جو شکست کھائی ہے اس کی وجہ کوئی اور ہو سکتی ہے کیونکہ بارہ ہزار کا لشکر ایک ڈویژن فوج ہے یہ بڑی تعداد ہے تو تعداد کی وجہ سے شکست نہیں ہوئی شاید کسی نافرمانی یا غرور و تکبر کی وجہ سے شکست ہو گئی ہوگی، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک بارہ ہزار فوج نہ ہو جہاد نہیں ہوگا جیسے تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ اب تک بارہ ہزار کہاں ہیں بارہ ہزار ہونگے تو ہم مغلوب نہیں ہونگے جب بارہ ہزار نہیں ہونگے تو جہاد نہیں ہوگا۔

﴿۲۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم (سفر کے دوران) چلتے وقت (تواضع و انکساری کی وجہ سے اور دوسروں کی مدد و خبر گیری کے پیش نظر قافلے سے) پیچھے رہا کرتے تھے چنانچہ آپ کمزور (کی سواری) کو ہانکا کرتے تھے تاکہ وہ ہمراہیوں کے ساتھ مل جائے اور جو کمزور و ضعیف شخص سواری سے محروم ہونے کی وجہ سے پیدل چلتا ہو تو اس کو اپنے پیچھے سوار کر لیتے اور ان (قافلہ والوں) کے لئے دعا کرتے رہتے۔ (ابوداؤد)

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَفَرَّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْصَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالَ لَوْ بَسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ثعلبہ خشنی کہتے ہیں کہ (پہلے عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ (یعنی صحابہ) جب کسی منزل پر اترتے تو الگ الگ ہو کر پہاڑ کے رول اور وادیوں میں پھیل جاتے تھے (یعنی کوئی کہیں اترتا تھا اور کہیں) چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

(اس طریقے کو ختم کرنے کے لئے بایں طور فرمایا) کہ سمجھ لو تمہارا اس طرح ان دزدوں اور وادیوں میں الگ الگ ہو کر اترنا محض شیطان کی طرف سے ہے (یعنی یہ شیطان کے فریب کے سبب سے ہے کہ وہ تمہیں اس لئے الگ الگ کر دینا چاہتا ہے تاکہ دشمن تم پر قابو پالے اور تمہیں نقصان اور آزار پہنچائے) اس ارشاد کے بعد لوگ جب بھی کسی منزل پر اترتے تو آپس میں اتنے پاس پاس ٹھہرتے کہ کہا جانے لگا کہ اگر ان سب پر ایک ہی کپڑا پھیلا دیا جائے تو وہ سب کو ڈھانک لے۔ (ابوداؤد)

توضیح

چونکہ اس زمانہ میں صف بندی کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو ساتھیوں کا اکٹھا ہونا انتہائی ضروری ہوتا تھا کیونکہ تنہا ساتھی کو پا کر دشمن دبا دیتا مگر آج کل چونکہ ہوائی بمباری ہوتی ہے نیز راکٹ اور گولے گرتے ہیں تو اس کے لئے حکمت عملی وہ ہوگی جو بچاؤ کے لئے مفید تر ہوگی۔

اسلام نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیدیا ہے مگر اس کو کسی بیعت اور کیفیات کا پابند نہیں بنایا ہے جس طرح دعوت و تبلیغ کا حکم دیا ہے مگر کسی خاص شکل بنانے اور اپنانے کا پابند نہیں بنایا ہے لہذا جہاد اور دعوت کی جو صورت آسان اور مفید ہو وہ اپنائی جائیگی کسی خاص صورت کا التزام کرنا بدعت ہوگی۔

### جہادی سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم نمونہ

﴿۲۴﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ وَعَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ زَمِيلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَتْ إِذَا جَاءَتْ غُفَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَا نَحْنُ نَمُشِي عَنْكَ قَالَ مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَمِي مِنِّي وَمَا أَنَا بِأَغْنِي عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بدر کے دن (یعنی جنگ بدر کے موقع پر) ہماری یہ حالت تھی کہ ہم میں سے ہر تین آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ (یعنی تین آدمیوں میں ایک اونٹ تھا کہ وہ تینوں باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور ابولہبہ اور حضرت علیؓ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ میں شریک سفر تھے حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ صورت حال یہ تھی کہ جب (اس اونٹ پر) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی باری آتی تو ابولہبہ اور حضرت علیؓ عرض کرتے کہ آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے (آپ اونٹ پر ہی سوار رہیں) لیکن آنحضرت فرماتے کہ نہ تو تم (اس دنیا کی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتے ہو) کہ بس تم پیدل چلنے کی طاقت رکھتے ہو اور میں پیدل نہیں چل سکتا) اور نہ میں (آخرت کا) زیادہ ثواب حاصل کرنے میں تم سے بے پرواہ ہوں (شرح السنۃ)

## توضیح

”ماانا باغنی“ جنگ بدر میں جانے والے تین سو تیرہ صحابہ کے پاس صرف ۷۰ اونٹ تھے اس لئے ایک اونٹ پر کئی کئی ساتھی سفر کرتے تھے مثلاً تین آدمیوں کو ایک اونٹ ملتا تو دوسوا ہوتے اور ایک مہار پکڑ کر پیدل چلتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا آپ کے ساتھ حضرت علیؓ اور حضرت ابولبابہؓ ایک اونٹ میں شریک تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے اور اونٹ کے مہار پکڑنے کی باری آتی تو دونوں ساتھی فرماتے کہ یا رسول اللہ! ہم آپ کی طرف سے پیدل چلیں گے آنحضرت فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہو اور نہ میں پیدل چلنے کے ثواب سے بے نیاز ہوں لہذا مقرر ترتیب پر جائیں گے۔ اس حدیث سے جہادی سفر کی فضیلت اور عظیم ثواب کا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی تواضع اور انکساری تھی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لئے کتنے مہربان تھے کسی نے سچ کہا ہے۔

لَمْ يَخْلُقِ الرَّحْمَنُ مِثْلَ مُحَمَّدٍ اَبَدًا وَعِلْمِي اَنَّهُ لَا يَخْلُقُ

جہاں تک آپ کی تقلید ہے اسی حد تک سلیقہ بشریت بشر کو ملتا ہے

## سواری کے جانوروں پر رحم کرو

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا سَخَّرَ لَكُمْ لِيُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَاتِكُمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جانوروں کی پشت کو منبر نہ بناؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو محض اس لئے تمہارے تابع کیا ہے کہ وہ تمہیں ان شہروں اور علاقوں میں پہنچا دیں جہاں تم (پیدل چلنے کے ذریعہ) جانی مشقت و محنت کے ساتھ ہی پہنچ سکتے تھے یعنی جانوروں سے مقصود ان پر سواری کرنا اور ان کے ذریعہ اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے لہذا ان کو ایذا پہنچانا روا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لئے (اسی غرض سے) پیدا کیا ہے لہذا تم اس پر اپنے کاموں اور اپنی حاجتوں کو پورا کرو۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”منابر“ یعنی سواری کے جانوروں کی پیٹھوں کو بیٹھنے اور خطبہ دینے کے لئے منبر نہ بناؤ کہ بغیر ضرورت اور بغیر سفر ان کی

پیٹھوں کو اپنے گپ شپ کے لئے قیام گاہ بناؤ آخر وہ بھی جاندار ہیں ان کو بھی استراحت و آرام کا موقع دیا کرو ان کی پشتوں سے اتر کر زمین پر اپنی مجلسیں جماؤ اس سے وہ صورت مستثنیٰ ہے کہ کسی خاص ضرورت کے تحت سواری کی پشت پر بیٹھ کر خطبہ دیا جائے تاکہ آواز دور تک پہنچ جائے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ میں کیا تھا۔

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جب ہم (دوران سفر یا سفر کے بعد) کسی منزل پر اترتے تو اس وقت تک نفل نماز نہ پڑھتے تھے

جبکہ جانوروں پر سے سامان نہ کھول کیا جاتا۔ (ابوداؤد)

”لانسبح“ اس سے نفل نماز پڑھنا مراد ہے یعنی نفل پڑھنے سے پہلے سوار یوں کے کجاوے کھول دیئے جاتے۔

### گاڑی کا مالک فرنٹ سیٹ کا حقدار ہے

﴿۲۷﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْكَبْ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا، أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَ لِي قَالَ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت بريدہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم (ایک سفر میں) پیدل راستہ طے کر رہے تھے کہ اس دوران اچانک ایک شخص اپنے گدھے کے ساتھ یعنی اس پر سوار (آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ (میرے گدھے پر سوار ہو جائے اور (یہ کہہ کر) وہ شخص (گدھے کی پشت پر) بیچھے سرک گیا تاکہ آنحضرت آگے بیٹھ جائیں لیکن آپ نے فرمایا کہ میں آگے نہیں بیٹھوں گا کیونکہ اپنی سواری کے جانور پر آگے بیٹھنے کے تم ہی مستحق ہو الا یہ کہ تم مجھے اس کا حقدار بنا دو (یعنی اگرچہ اس شخص کا بیچھے سرکنا اسی لئے تھا کہ گویا اس نے آپ کو آگے بیٹھے رہنے کا حقدار بنا دیا تھا مگر آنحضرت نے کمال احتیاط کے پیش نظر اس پر واضح کیا کہ میں تمہاری سواری پر آگے اسی وقت بیٹھ سکتا ہوں جب کہ تم صریح الفاظ میں مجھ سے آگے بیٹھنے کے لئے کہو اس شخص نے کہا کہ میں صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو میں نے اس کا حقدار بنا دیا۔ اس کے بعد آنحضرت اس کے آگے بیٹھ گئے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

### شیطانی اونٹ اور شیطانی گھر

﴿۲۸﴾ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ إِبِلٌ لِلشَّيَاطِينِ وَبُيُوتٌ لِلشَّيَاطِينِ فَأَمَّا إِبِلُ الشَّيَاطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ بِسَجِيَّاتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَهَا فَلَا يَغْلُوا بِعِزِّهَا مِنْهَا وَيَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدْ انْقَطَعَ بِهِ فَلَا يَحْمِلُهُ وَأَمَّا بُيُوتُ الشَّيَاطِينِ فَلَمْ أَرَهَا كَانَ

سَعِيدٌ يَقُولُ لَا أَرَاهَا إِلَّا هَذِهِ الْأَقْفَاصَ الَّتِي يَسْتُرُ النَّاسُ بِالْذِّيَّاجِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت سعید ابن ابوہند (تابعی) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (کچھ) اونٹ شیطانوں کے لئے ہو جاتے ہیں۔ اور (کچھ) گھر شیطانوں کے لئے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جو اونٹ شیطانوں کے لئے ہو جاتے ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے جیسے تم سے کوئی شخص عمدہ قسم کی اونٹیوں کو لیکر نکلتا ہے جن کو اس نے خوب فربہ کیا لیکن ان میں سے کسی اونٹ پر سوار نہیں ہوتا ہے اور جب (کسی سفر میں) اپنے اس مسلمان بھائی کے ساتھ راستہ طے کرتا ہے جو (اپنی کمزوری اور سواری سے محرومی کی وجہ سے) چلتے چلتے تھک گیا ہے تو اس کو بھی وہ اونٹ پر سوار نہیں کرتا اور جو گھر شیطانوں کے لئے ہو جاتے ہیں۔ ان کو میں نے نہیں دیکھا ہے حدیث کے راوی حضرت سعیدؓ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ گھر (جو شیطانوں کے لئے ہو جاتے ہیں) وہ پنجرے ہیں جن کو لوگ ریشمی کپڑوں (کے پردوں سے) ڈھانکتے ہیں۔ (ابوداؤد)

توضیح

”بنجیات“ نجیات عمدہ اونٹیوں کو کہتے ہیں ”فلا یعلوا“ یعنی اونٹ کو خالی چھوڑ کر ہنکاتا ہے نہ کسی اور کو اس پر سوار کرتا ہے نہ خود سوار ہوتا ہے کیونکہ اس کو ضرورت نہیں بلکہ کبھی اپنے مجبور بھائی پر گزر بھی ہوتا ہے مگر اس کو سوار نہیں کرتا یہ شیطانی اونٹ ہیں کہ اس کی پشت میں کسی غریب اور مجبور کا حق نہیں ہے۔

”الاقفاص“ یہ قفص کی جمع ہے قفص پنجرے کو کہتے ہیں یہاں مراد کجاوے ہیں لیکن وہ کجاوے جن پر ریشمی کپڑے ڈالے گئے ہوں تو ریشم کی وجہ سے یہ کجاوے شیطان کے پنجرے اور گھونسلے بن گئے۔

راستہ تنگ کر کے جہاد کا ثواب خراب نہ کرو

﴿۲۹﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ إِنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنَزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت سہل ابن معاذ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں گئے۔ (اور منزل پر قیام کیا) تو لوگوں نے اس منزل کی ساری جگہوں کو تنگ کر دیا اور راستہ کو کاٹ دیا (یعنی بعض لوگوں نے بلا ضرورت یا ضرورت سے زیادہ جگہوں پر قبضہ کر لیا جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو جگہ کی تنگی ہو گئی اس طرح راستہ بھی تنگ ہو گیا جس سے آنے جانے والوں کو پریشانی ہونے لگی چنانچہ (یہ دیکھ کر) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ایک منادی کرنے والے کو لوگوں کے درمیان بھیج کر یہ اعلان کرایا کہ جس شخص نے منزل کی جگہوں کو تنگ کیا یا راستے کو کاٹا تو لوگوں کو ضرر و تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ (ابوداؤد)

﴿۳۰﴾ وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلُ اللَّيْلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت جابرؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سفر سے واپس آئیوالے مرد کے لئے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے۔ (ابوداؤد)

### الفصل الثالث

﴿۳۱﴾ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَسَ قُبِيلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو (کسی پڑاؤ پر) رات کے آخری حصہ میں (یعنی طلوع محرت) پہلے اترتے اور دائیں کروٹ پر لیٹ رہتے اور جب صبح سے کچھ پہلے اترتے تو اپنا داہنا ہاتھ کھڑا کر کے اس کی تھیلی پر اپنا سر رکھ کر لیٹتے (یعنی کچھ دیر کے لئے اس انداز میں آرام فرماتے تاکہ نیند غالب نہ آجائے)۔ (مسلم)

### توضیح

”بلیل“ یعنی رات کے آخری حصہ میں جب آنحضرت پڑاؤ ڈالتے تو اگر صبح صادق میں کچھ وقت ہوتا تو آپ سیدھے پہلو پر کروٹ لگا کر آرام فرماتے کیونکہ وقت زیادہ ہوتا تھا لیکن اگر وقت بہت کم ہوتا تو آپ داہنا ہاتھ کھڑا کر کے اسکی تھیلی پر آرام فرماتے تاکہ فجر کی نماز نہ نکل جائے۔

### جہادی سفر میں تاخیر باعث نقصان ہوتا ہے

﴿۳۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَدَا أَصْحَابَهُ وَقَالَ اتَّخَلَّفُ وَأُصَلِّيُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ فَلَمَّا صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَاهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَعُدُّوْا مَعَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ فَقَالَ لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا دَرَكْتُ فَضْلَ عَذْوَتِهِمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن رواحہ کو (جہاد) کے لئے ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ



روانہ کیا اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا جس میں آنحضرت نے ان کو جہاد کے لئے جانیکا حکم دیا تھا چنانچہ ان کے ساتھی یعنی لشکر کے لوگ صبح کے وقت روانہ ہو گئے لیکن عبداللہ بن رواحہ نے اپنے دل میں سوچا یا کسی ساتھی سے کہا کہ میں بعد میں روانہ ہوں گا۔ میں پہلے یہاں مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جمعہ کی نماز پڑھوں گا پھر لشکر والوں سے جاملوں گا جب عبداللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جمعہ کی نماز پڑھ چکے اور آنحضرت نے ان کو دیکھا (کہ وہ ابھی یہاں ہی موجود ہیں) تو فرمایا کہ تمہیں صبح کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ لوں اور پھر اپنے ساتھیوں سے جاملوں گا آنحضرت نے یہ سن کر فرمایا تم روئے زمین پر ساری چیزوں کو بھی خرچ کرو تو صبح کے وقت جانے والے اپنے ساتھیوں کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکو گے۔ (ترمذی)

## توضیح

”فسی سرية“ ۸ ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً تین ہزار صحابہ کرام کو روم و ماسطنت سے جہاد کے لئے روانہ فرمایا تھا حضرت زید اور ان کے بعد حضرت جعفر اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ تینوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے ترتیب کے ساتھ امیر بنایا تھا جب مدینہ سے یہ حضرات نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی غرض سے مدینہ میں رک گئے آپ کے دونوں ساتھی لشکر اسلام کے ساتھ چلے گئے جمعہ کا دن تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سوچا کہ شاید یہ زندگی کا آخری جمعہ ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زیارت ہو مسجد نبوی کی آخری نماز ہو اس غرض سے جمعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کے لئے رک گئے جمعہ پڑھا جب آنحضرت نے ان کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ کس وجہ سے تاخیر کی آپ نے عذر بتا دیا کہ ساتھیوں کے ساتھ جا کر ملنا کوئی مشکل نہیں ہے ابھی چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو گئی اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے اس سب کو بھی خرچ کر لو پھر بھی جہاد کے سفر میں صبح نکلنے والوں کی فضیلت نہیں پاؤ گے معلوم ہوا کہ جہاد کا عمل بہت اونچا عمل ہے اور یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اس حدیث کو تبلیغی جماعت کے ساتھی اپنے سہ روزوں چلوں اور گشت میں نکلنے کے لئے بیان کرتے ہیں اور واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس میں جہاد کا نام تک نہیں آتا یہ ان حضرات کی طرف سے اس حدیث میں واضح تحریف ہے خدا کا خوف کرنا چاہئے۔

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُفْقَةً فِيهَا جَلْدٌ نَمِيرٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قافلے کیساتھ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے جس میں چیتے کی کھال ہو۔ یعنی چیتے کی کھال پر سوار کو بیٹھنا یا اس کو استعمال کرنا ممنوع ہے کیونکہ اس سے تکبر

کی شان پیدا ہوتی ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح

”جسد نمرة“ یعنی چیتے کی کھال کو سواری پر بچھا کر سفر کرتے ہیں یا زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں چونکہ اس سے دل و دماغ میں تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں چیتے پر بیٹھا ہوں اس تکبر کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔

جو خادم ہوتا ہے وہی سردار ہوتا ہے

﴿۳۴﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

اور حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں جماعت کا امیر اور سردار، ان کا خادم ہے لہذا جو شخص ان (سفر کرنے والوں کی) خدمت میں سبقت لے گیا اس کے مقابلہ میں کوئی شخص شہادت کے علاوہ اور کسی عمل کے ذریعہ سبقت نہیں لے جاسکتا۔ (بیہقی)

توضیح

”سید القوم“ حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتا ہے وہ اصل میں سب کا سردار بن جاتا ہے کیونکہ وہ خدمت کی وجہ سے سب کے دلوں کو جیت لیتا ہے نیز ہر کام میں لوگ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں اس طرح وہ سب کا سردار بن جاتا ہے اگرچہ غریب آدمی ہوتا ہے۔

حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے ساتھیوں کا امیر بنا تو ساتھیوں کا خادم وہی ہے پھر ان کو چاہئے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتا رہے اس طرح نہ ہو کہ خود بڑا بن کر بیٹھا رہے اور دوسروں پر حکومت چلاتا رہے اسی لئے حدیث کے آخری الفاظ میں ارشاد ہے کہ خادم جب خدمت کے ذریعہ سے آگے بڑھتا ہے تو اس کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے الا وہ شخص جو شہادت کا مقام پالے۔

مورخہ ۱۹ صفر ۱۴۲۶ھ

## باب الكتاب الى الكفار ودعائهم الى الاسلام

## کفار کو خطوط کے ذریعہ دعوت دینے کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾  
کفار کو جنگ سے پہلے دعوت دینا واجب ہے بشرطیکہ ان تک دعوت نہیں پہنچی ہو اگر دعوت پہنچ گئی ہو تو پھر دوبارہ دعوت دینا مستحب ہے اس پر کتاب الجہاد کی ابتدا میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے دعوت کے بہت سارے طریقے ہیں خود جا کر دعوت دینا یا کسی نشریاتی ادارہ سے اعلان کرنا یا کسی مشہور واقعہ سے کفار کو معلوم ہو جانا کہ مسلمان بھی کوئی قوم ہے جو اپنے پاس آسانی کتاب اور مذہب رکھتے ہیں انہیں طریقوں میں سے دعوت کا ایک طریقہ کفار کو خط لکھنا بھی ہے اسلام میں دعوت ایک شعبہ تو ہے لیکن اس کی کوئی مخصوص متعین شکل نہیں ہے زمانے کے احوال کے مطابق جس جائز صورت کو کوئی اختیار کرتا ہے دعوت کا کام ہو جاتا ہے۔ بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ سے دس سال کے لئے حدیبیہ میں جنگ بندی پر صلح کر لی تو اس صلح کے بہت سارے فائدے حاصل ہو گئے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کفار نے قریب سے مسلمانوں کو دیکھا اور آپس میں میل جول کے ذریعے سے کفار نے بہتر طور پر اسلام کو سمجھ لیا اور پھر اچھی خاصی تعداد نے اسلام کو قبول کر لیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جزیرہ عرب کے اندر کے دشمنوں سے مطمئن ہو کر فارغ ہو گئے تو آپ نے جزیرہ عرب سے باہر دنیا کے تمام کفار کو بذریعہ خطوط اسلام کی دعوت دیدی آپ اگر جزیرہ عرب سے باہر خود نہیں گئے مگر خطوط کے ذریعہ سے آپ نے دعوت پہنچادی اور اشی دعوت ضروری اور جہاد کے لئے کافی تھی۔

اس وقت دنیا پر دو بڑی قوتیں حکمرانی کرتی تھیں (جس طرح ہمارے دور میں روس اور امریکہ ہوتا تھا روس تو ٹوٹ گیا اب انشاء اللہ امریکہ کی باری ہے) ایک قوت کا نام فارس تھا دوسری قوت کا نام روم تھا لوگ فارس کے بڑے کو کسریٰ اور روم کے بڑے کو قیصر کے نام سے پکارتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ دونوں کو خطوط بھیجے ہیں چنانچہ وہ لوگ مہر کے بغیر کسی خط کو قبول نہیں کرتے تھے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور اس میں یہ عبارت کندہ کروائی ”محمد رسول اللہ“ اس کے لکھنے کا طریقہ اس طرح تھا کہ لفظ اللہ سب سے اوپر تھا اس کے بعد لفظ رسول اور اس کے بعد سب سے نیچے محمد کا لفظ ہوتا تھا۔

اللہ

رسول

محمد

## الفصل الاول

## قیصر روم کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب

﴿۱﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ دَحِيَّةَ الْكَلْبِيِّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمَ تَسْلَمَ وَأَسْلِمَ يُوثِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِيَّاهُ الْإِرْسِيِّينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ إِيَّاهُ الْإِرْسِيِّينَ

وَقَالَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر یعنی روم کے بادشاہ کو ایک گرامی نامہ لکھا جس میں اس کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی اور آپؐ نے اپنا وہ گرامی نامہ دحیہ کلبیؓ (صحابی) کے ہاتھ روانہ فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ حاکم بصریؓ اس کو قیصر کے پاس پہنچا دے اس گرامی نامہ میں یہ لکھا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمدؐ کی جانب سے جو خدا کا بندہ خاص اور رسول ہے۔ ہر قل کے نام جو روم کا حکمران اعلیٰ ہے اس پر سلامتی ہو جو (قبولیت اسلام اور اپنے نیک کردار اور اعمال کے ذریعہ) ہدایت کا پیرو ہے بعد ازاں میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں آپ اسلام قبول کر لیجئے دنیا کے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ و مامون رہے گا آپ مسلمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دو ہزار اجر عطا فرمائے گا اور اگر آپ منہ پھیریں گے یعنی اسلام قبول نہیں کریں گے تو آپ کو واضح رہنا چاہیئے۔ کہ اس انکار و اعراض کی وجہ سے آپ پر صرف اپنے ہی گناہ کا وبال نہیں ہوگا بلکہ آپ کے ملک والوں اور آپ کی رعیت کا گناہ بھی آپ پر ہوگا کیونکہ آپ کے اسلام نہ لانے سے وہ بھی کفر میں مبتلا رہیں گے اس لئے ان کی گمراہی کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی اے اہل کتاب ایسے کلمے اور دین کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں اور مشترک ہے یعنی اس کلمہ اور دین میں ہمارے تمہارے رسولوں اور کتابوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ کلمہ و دین یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا رب نہ بنائے جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰؑ کو رب بنالیا ہے پس اگر اہل کتاب اس بات کو قبول کرنے سے اعراض و انکار کریں تو اے مومنو تم یہ اعلان کر دو کہ اے کافر و گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ (بخاری، مسلم)

## توضیح

”دحیہ“ یہ صحابی انتہائی خوبصورت اور وجہہ و ثقلیل تھے یوسف ہذہ الامۃ کے لقب سے مشہور تھے اسی لئے بطور سفیر آنحضرت ان کو روانہ فرماتے تھے اور جبرئیل امین بھی انہیں کی شکل میں وحی لیکر آتے تھے ”ہرقل“ ہا پر کسرہ ہے راپر فتح ہے اور قاف پر سکون ہے نیز راپر سکون اور قاف پر فتح بھی پڑھا جاسکتا ہے روم کے فرمان روا کا نام ہے اس زمانہ میں دنیا کی بڑی طاقتوں میں ایک طاقت روم تھی جس کا دار الخلافہ قسطنطنیہ تھا اور یورپ کے مختلف ممالک کے علاوہ مصر شام اور فلسطین کے علاقے بھی اس کے زیر اثر تھے روم کے بادشاہ کا لقب قیصر ہوتا تھا جیسا کہ فارس کے بادشاہ کا لقب خسرو ہوتا تھا جس کو عربی میں کسریٰ کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا ترکوں کے بادشاہ کا لقب خاقان ہوتا تھا حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی اور یمن کے بادشاہ کا لقب تیج ہوتا تھا ہندوستان کے بادشاہ کا لقب راجہ ہوتا تھا اور چین کے بادشاہ کا لقب غفور ہوتا تھا۔ بہر حال ہرقل کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب ارسال فرمایا حضرت دحیہ کلبی کے واسطے سے بصری شام کے گورنر تک یہ خط پہنچا اور اس نے ہرقل تک پہنچا دیا ہرقل نے پڑھا اور نہایت احترام کے ساتھ رکھا۔

”عظیم الروم“ اس لفظ سے معلوم ہو گیا کہ دیوی لحاظ سے کسی بڑے منصب والے آدمی کے مقام کا خیال رکھنا جائز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو عظیم الروم کے نام سے یاد فرمایا ہے، غیر مسلم کے لئے سلام کا طریقہ والسلام علی من اتبع الهدی ہوتا ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم نہیں فرمایا۔

”داعیۃ الاسلام“ داعیہ عافیۃ اور عاقبۃ کی طرح مصدر ہے جو الدعوة کے معنی میں ہے ایک روایت میں دعایۃ بھی ہے وہ بھی دعوت کے معنی میں ہے۔

”اسلم“ یعنی اسلام قبول کرلو ”تسلم“ یعنی عقائد فاسدہ شرکیہ اور اخلاق ردیہ قبیحہ اور ہلاکتوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ لفظ ”ت“ کے فتح اور سین کے سکون اور لام کے فتح اور یم کے سکون کے ساتھ ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی نے سب سے زیادہ زور دار اور مختصر خط لکھا ہے وہ حضرت سلیمان کا خط ہے جو قرآن میں مذکور ہے لیکن اس خط سے آنحضرت کا یہ خط زیادہ مختصر اور زور دار ہے۔ ”اجرک مرتین“ یہود و نصاریٰ میں سے جو شخص اپنے بنی پر ایمان لائے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لے تو اس کو دو اجر ملتے ہیں۔

”الاریسین“ یہ لفظ ”اریسیین“ ہے ہمزہ مفتوح ہے اس کے بعد راپر کسرہ ہے اور پھر یا ساکن ہے پھر سین پر کسرہ پھر یا پر شدہ ہے اور پھر یا ساکن اور آخر میں نون ہے یہ لفظ یریسین بھی آیا ہے ہمزہ کی جگہ ”ی“ مفتوح ہے باقی کلمہ اسی انداز پر ہے یہ لفظ اریسین بھی آیا ہے ہمزہ پر کسرہ ہے راپر شدہ ہے پھر یا ساکن ہے صحیح قول کے مطابق ملک کے چوہدری اور بڑے

کسانوں پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا تھا چنانچہ بعض روایات میں ”اَکْثَرِیْنَ“ کا لفظ بھی آیا ہے جو مزارع اور کسان کے معنی میں ہے حدیث میں اس لفظ سے عام رعایا مراد لیا گیا ہے۔

”اربا با من دون الله“ کسی شخص کو حلال کے حرام کرنے اور حرام کے حلال کرنے کا اختیار دینا اس کو رب بنانا ہے عیسائی لوگ یہ اختیار اپنے بڑوں کو دیتے تھے حضرت عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تو اس نے حضور اکرم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے کبھی بھی اپنے پادریوں کو رب نہیں بنایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان کو حلال و حرام کی تبدیلی کا اختیار دیتے تھے یا نہیں اس نے کہا یہ اختیار تو دیتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہے۔

ہرقل نے آنحضرت کے مکتوب کا بہت احترام کیا اور اپنے ملک کے بڑوں سے ایمان لانے کی درخواست بھی کی لیکن لوگ اس پر بگڑ گئے لہذا اس نے اسلام قبول نہیں کیا اگرچہ قبول کرنے کی بار بار خواہش کی، امام بخاری نے بخاری میں اشارہ کیا ہے کہ ہرقل کفر پر مرا ہے۔ عام طور پر مذہب کے اعتبار سے روم کے لوگ عیسائی تھے۔

جب صحابہ انطاکیہ پر قابض ہو گئے تو ہرقل بیوی بچوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر سرزمین شام پر نظر ڈال کر بولا ”السلام علیک یا ارض الشام لا اراک الی یوم القیامۃ“ یہ کہہ کر اپنے بیٹے قسطنطین کے پاس چلا گیا اور پھر مر گیا۔

### شاہ فارس پرویز کے نام حضور کا خط

﴿۲﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَ مَرْقَهُ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلُّ مُمَزَّقٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے نام اپنا نامہ مبارک عبد اللہ ابن حذافہؓ کے ہاتھ روانہ کیا جو تقریباً اسی مضمون پر مشتمل تھا جو قیصر وغیرہ کو بھیجا گیا تھا۔ اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس نامہ مبارک کو بحرین کے حاکم کے پاس لے جائیں (تاکہ وہ اس کو کسریٰ تک پہنچا دے) چنانچہ عبد اللہ ابن حذافہؓ وہ نامہ مبارک بحرین کے حاکم کے پاس لے گئے اور بحرین کے حاکم نے اس کو کسریٰ کے پاس پہنچا دیا جب کسریٰ نے وہ نامہ مبارک پڑھا تو (بجائے اس پر عمل کرنے) اس کو پھاڑ ڈالا (حدیث کے ایک راوی) ابن مسیب کہتے ہیں کہ آنحضرت نے کسریٰ اور اس کی رعایا کیلئے یہ بددعا فرمائی کہ وہ پارہ پارہ کر دیئے جائیں بالکل پارہ پارہ۔ (بخاری)

توضیح

”الی کسریٰ“ روم کی طرح فارس بھی ساسانیوں ایرانیوں کی عظیم طاقتور سلطنت تھی ایک طرف سے اس کی حدود سندھ تک

پھیلی ہوئی تھی اور دوسری طرف سے عراق اور عرب کے کچھ علاقے مثلاً یمن و بحرین اور عمان بھی اس کے ماتحت تھے یہ ایشیاء کی عظیم مملکت اور دنیا کی دوسری سپر پاور تھی بادشاہ کا لقب خسرو ہوتا تھا جس کو عربی میں کسری کہا جاتا تھا۔ اس وقت اس بد بخت بادشاہ کا نام پرویز تھا جس طرح آج کل پاکستان کے بد بخت صدر کا نام پرویز ہے خدا کرے دونوں کا انجام ایک ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ہاتھ کسری کے نام مکتوب ارسال فرمایا تھا پرویز بڑا مغرور تھا وہ غصہ ہوا کہ میرا نام بعد میں لکھا ہے اپنا نام پہلے لکھا ہے اس پر اس نے حضور کے مکتوب کو پھاڑ کر پھینک دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد عادی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس بد بخت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لئے دو آدمی مدینہ روانہ کیئے، یہ قاصد مدینہ آئے آنحضرت نے فرمایا کل تک انتظار کرو دوسرے کل آنحضرت نے ان سے فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا اور پرویز کے بیٹے شرویہ نے اس کو قتل کر دیا ہے پھر شرویہ نے باپ کے خزانہ میں زہر سے بھری ہوئی ایک شیشی دیکھی جس پر لکھا تھا ”دواء نافع للباہ“ اس نے قوت باہ کی دوا سمجھ کر زہر کو پی لیا اور مر گیا چھ ماہ کے اندر دونوں کا خاتمہ ہو گیا پھر لوگوں نے بنت کسری (آرمیدخت) کو اپنا سربراہ بنایا آنحضرت نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں رہ سکتی جن کی سربراہی عورت کے ہاتھ میں ہو۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں صحابہ اس طرف متوجہ ہوئے اور فارس کا آخری فرمان روا یزدجرد کو ہمیشہ کے لئے مٹی میں سلا دیا اور قیامت تک قیصر و کسری کا نام و نشان مٹ گیا۔

﴿۳۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس یعنی ایران کے بادشاہ، کسری روم کے بادشاہ، قیصر اور حبشہ کے بادشاہ، نجاشی، اور ہر متکبر و مقتدر بادشاہ کو خطوط لکھے جن میں انہیں اللہ (یعنی دین اسلام) کی طرف بلایا گیا تھا۔ اور یہ نجاشی کہ جس کو آپ نے یہ خط بھیجا تھا وہ نجاشی نہیں ہے جس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ (مسلم)

توضیح

”نجاشی“ یہ لفظ اصل میں نجوس تھا حبشہ کے بادشاہ کو وہ لوگ نجوس کہتے تھے عرب نے اس لفظ کو نجاشی بنا دیا آج کل حبشہ کا نام کافروں نے ایتھوپیا رکھا ہے تاکہ مسلمانوں کی تاریخ مٹ جائے۔ زیر بحث حدیث میں یہ تنبیہ ہے کہ آنحضرت نے

جہشہ کے جس نجاشی کو خط لکھا تھا یہ وہ نجاشی ہے جس نے اسلام قبول کیا تھا اور حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔

## دعوت اسلام کا طریقہ اور جہاد کے آداب

﴿۳﴾ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ امِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْ صَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا فَلَا تَعْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثَلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيُّتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَأَقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلِّهِمُ الْجَزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَأَقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد (حضرت بریدہ) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی چھوٹے یا بڑے لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو خاص طور پر اس کی ذات سے متعلق تو اس کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی اور اس کے ساتھ (جہاد میں) جانے والے مسلمانوں کے متعلق اس کو نیکی و بھلائی کرنے کی نصیحت فرماتے (کہ مجاہدین کا جو لشکر تمہاری کمان میں جا رہا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا اور ان کے حق میں حسن سلوک و احسان اور نرمی و ملامت کا رویہ اختیار کرنا) اور اس کے بعد یہ فرماتے کہ جاؤ خدا کا نام لے کر خدا کی راہ میں جہاد کرو (یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے اور اس کے دین کا جہنڈا سر بلند کرنے کی غرض سے اسلام دشمن طاقتوں سے جنگ کرو) اس شخص کے خلاف جہاد کرو جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے جہاد کرو غنیمت کے مال میں خیانت نہ کرنا۔ عہد شکنی نہ کرنا



مثلاً نہ کرنا (یعنی کسی کے اعضاء جسم جیسے ناک، کان وغیرہ نہ کاٹنا) اور (اے امیر لشکر) جب تم اپنے مشرک دشمنوں کے سامنے پہنچو تو پہلے ان کو تین چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینے کی دعوت دو (حدیث کے راوی اپنے شک کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے ثلاث خصال کے بجائے ثلاث خلال فرمایا۔ (خصال اور خلال دونوں کے ایک ہی معنی ہیں) ان تین چیزوں میں سے وہ مشرک جس چیز کو تم سے اختیار کریں۔ اور اپنے لئے پسند کریں تم اس کو منظور کر لو اور ان کو اس سے زیادہ کسی اور چیز پر مجبور کرنے سے باز رہو۔ پھر یعنی ان تین چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دو اگر وہ سب دعوت قبول کریں تو تم بھی اس کو منظور کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے باز رہو۔ پھر وہ اسلام قبول کریں تو ان کے اپنے ملک یعنی دارالحراب سے مہاجرین کے ملک یعنی دارالاسلام کو منتقل ہو جانے یعنی ہجرت کرنے کی دعوت دو اور ان کو یہ بتادو کہ اگر وہ ایسا کریں گے (یعنی ہجرت کر کے دارالاسلام آجائیں گے تو ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں اور ان پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مہاجرین پر عائد ہیں اگر وہ ترک سکونت اختیار کرنے پر تیار نہ ہوں تو ان کو بتادو کہ ایسی صورت میں وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے اور ان پر خدا کا ایسا حکم نافذ کیا جائے گا جو تمام مسلمانوں پر نافذ ہوتا ہے یعنی نماز و زکوٰۃ وغیرہ کا واجب ہونا اور قصاص و دیت جیسے احکام نافذ ہونا اور غنیمت فنی کے مال میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا البتہ اس کو اس وقت حصہ ملے گا جبکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر جہاد کریں اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو پھر ان سے جزیہ دینے کا مطالبہ کرو۔ اور اگر وہ جزیہ دینا قبول کریں تو تم بھی اس کو منظور کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے باز رہو اور اگر وہ جزیہ دینا بھی قبول نہ کریں تو تیسری چیز یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ شروع کر دو اور جب تم کسی قلعہ یا بستی کے لوگوں یعنی دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ قلعہ یا بستی والے تم سے اللہ اور اس کے نبی کا عہد و امان لینا چاہیں تو تم ان کو اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے امان دینے کا عہد نہ کرنا البتہ اپنے رفقاء جہاد کی طرف سے عہد و امان دے دینا کیونکہ اگر تم اپنے اور اپنے رفقاء کے دیئے ہوئے عہد و امان کو توڑ دو گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و امان کو توڑ دینے سے زیادہ سہل ہوگا اور جب تم کسی قلعہ کے لوگوں کا محاصرہ کرو اور وہ (قلعہ والے) تم سے اللہ کے حکم پر اپنا محاصرہ اٹھالینے کی درخواست کریں تو تم اللہ کے حکم پر ان کا محاصرہ نہ اٹھانا بلکہ اپنے حکم پر ان کا محاصرہ اٹھانا کیونکہ تمہیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اللہ کے حکم تک پہنچ گئے ہو یا نہیں (یعنی تمہیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تم نے ان کا محاصرہ اٹھالینے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ خدا کے نزدیک صحیح بھی ہے یا نہیں اور اس کے حکم کے مطابق بھی ہے یا نہیں اور ہو سکتا ہے کہ تم سے چوک ہو جائے جیسا کہ مجتہد کی شان ہے کہ وہ صحیح حکم تک بھی پہنچ جاتا ہے اور خطا میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ (مسلم)

توضیح

”ثم ادعهم الى الاسلام“ دعوت اسلام کی تین خصلتوں میں سے یہ پہلی خصلت ہے کہ ایمان کی دعوت دو یہاں بعض

نسخوں میں ”نم“ کا لفظ نہیں ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے جس طرح ابوداؤد کی روایت میں ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے بعد اگر لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو پھر ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان شہروں میں آ جاؤ جہاں مسلمان آباد ہیں اگر وہ لوگ ہجرت کر کے دیہاتوں سے شہروں میں آ گئے تو مہاجرین کے سارے حقوق ان کو ملیں گے اور اگر وہ لوگ شہروں میں نہیں آئے تو پھر ان کا معاملہ دیہاتیوں کی طرح ہوگا کہ اگر جہاد میں شریک ہو گئے تو مال غنیمت میں حصہ ملیگا ورنہ نہیں ملیگا البتہ اسلام کے قوانین ان پر نافذ ہونگے۔

”فسلہم الجزیة“ یعنی اگر کفار نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو دعوت اسلام کی دوسری خصلت یہ ہے کہ ان کے سامنے جزیہ دینے کی بات رکھو۔ ”فاستعن باللہ“ یعنی اگر جزیہ دینے سے بھی ان لوگوں نے انکار کیا تو پھر دعوت اسلام کی تیسری خصلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیکر ان لوگوں سے جنگ لڑو۔

جہاد کی مقدس جنگ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب تم کسی قلعہ کا محاصرہ کر لو اور قلعہ والے تم سے اللہ تعالیٰ کے نام کی ذمہ داری پر عہد و امان لینا چاہیں تو تم اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر معاہدہ نہ کرو بلکہ اپنی صوابدید پر معاہدہ کرو کیونکہ اگر معاہدہ کسی مجبوری سے توڑنا پڑے تو یہ بہتر ہوگا کہ تمہارے حوالہ سے جو عہد و امان دیا گیا تھا وہ ٹوٹ جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اسی طرح جنگ کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر کسی قلعہ کے محاصرین قلعہ سے اس شرط پر اترنا چاہیں کہ ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وہ ان پر نافذ ہوگا ایسا معاہدہ بھی نہ کرو بلکہ ان سے کہو کہ ہمارے حکم کے مطابق اتر جاؤ جو فیصلہ ہم کریں گے وہ نافذ ہوگا یہ اس لئے کہ تم کو کیا معلوم کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور کہاں پر ہے وہ لوگ کچھ اور کہیں گے تم کچھ اور کہو گے اس طرح تم ایک الجھن میں پھنس جاؤ گے اس لئے ان سے صاف کہہ دو کہ ہمارا کمانڈر جو فیصلہ کریگا اسی کا اعتبار ہوگا ظاہر ہے کہ مسلمان کمانڈر شریعت کے خلاف فیصلہ نہیں کریگا جو فیصلہ ہوگا وہ انصاف اور حکمت پر مبنی ہوگا۔

### جنگ کی تمنا نہ کرو جب سر پر آئے تو جم کر لڑو

﴿۵﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ النَّبِيُّ لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ أَنْتَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنوں میں سے ایک دن جبکہ آپ دشمن کے

مقابلہ پر تھے (یعنی جہاد کے موقع پر میدان جنگ میں تھے) سورج ڈھلنے تک جنگ شروع کرنے کا انتظار کرتے رہے پھر جب سورج ڈھل گیا تو آپ لوگوں کے سامنے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو! تم اپنے دشمن سے مقابلہ کی آرزو نہ کرو یعنی یہ نہ چاہو کہ کفار سے قتل و قتال کا بازار گرم ہو کیونکہ یہ چاہنا گویا ابتلاء و مصیبت کی خواہش کرنا ہے جو ممنوع ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت کے طالب رہو جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پھر پوری بہادری کے ساتھ ڈٹ جاؤ اور صبر و استقامت سے کام لو اور اس بات کو جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے یعنی تم جنت کے بالکل قریب ہو اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ کتاب کو نازل فرمانے والے بادلوں کو چلانے والے اور کفار کی جماعت کو شکست دینے والے ان دشمنوں کو شکست دے اور ہم کو ان پر فتح عطا فرما۔ (بخاری و مسلم)

## جنگ خیبر میں اللہ اکبر کا نعرہ

﴿۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ إِلَيْهِمْ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنْ قَدِمِي لَتَمَسَّ قَدَمَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ فَلَجُّوا إِلَى الْحِصْنِ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبْتُ خَيْبَرَ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُتَنَدِّرِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی دشمن قوم سے جہاد کرتے یعنی جب جہاد کے موقع پر کسی ایسی دشمن آبادی پر حملہ آور ہونے کا ارادہ فرماتے جس کے حالات کا علم نہیں ہوتا اور ہم لوگ آپ کے ہمراہ شریک جہاد ہوتے تو صبح ہونے سے پہلے ہمارے ساتھ ان پر حملہ آور نہیں ہوتے پھر جب صبح ہو جاتی تو ان دشمنوں کی آبادی اور ان کے ٹھکانوں پر نظر ڈالتے تاکہ مشاہدہ یا قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں اگر ان کی طرف سے اذان کی آواز سنتے تو ان سے جنگ کرنے سے باز رہتے اور اگر اذان کی آواز نہیں سنتے اور اس قرینہ سے یہ ثابت ہو جاتا کہ ان لوگوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ تو ان پر حملہ کر دیتے حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جب ہم آنحضرت کے ہمراہ جہاد کے لئے خیبر روانہ ہوئے تو ان کی سرحدوں پر رات کے وقت پہنچے جب صبح ہو گئی اور ان کی طرف سے اذان سنائی نہ دی تو آنحضرت سواری پر سوار ہوئے اور میں ابو طلحہؓ کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا اور ہماری سواری آنحضرت کی سواری کے اتنے قریب تھی کہ میرے پاؤں آنحضرت کے قدم مبارک سے لگتے تھے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جب صبح ہونے پر خیبر والے ہماری آمد سے بے خبر اپنے کھیتوں میں جانے کے لئے اپنے پھاوڑے تھیلے (یعنی کھیتی باڑی کا سامان) لئے ہوئے اپنے گھروں سے

نکلے اور ہماری طرف آئے اور انہوں نے آنحضرت کو دیکھا تو چیخ چیخ کر کہنے لگے محمد آگئے خدا کی قسم محمد اور ان کا خمیس لشکر آگیا یہ کہتے ہوئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعہ میں پناہ گزیں ہو گئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو گویا اس کو ان کی شکست سے تعبیر کرتے ہوئے ازراہ تقاؤل فرمایا اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے خیبر برباد ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں ہم مسلمانوں کی جماعت یا انبیاء جب کسی قوم کے میدان میں جنگ کے لئے اترتے ہیں تو اس ڈرائی گئی قوم کی صبح بڑی خراب ہو جاتی ہے۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”مکاتل“ مکمل کی جمع ہے بڑے تھیلے کو مکمل کہتے ہیں۔ ”مساحی“ کا مفرد مسحات ہے پھاؤڑے کو کہتے ہیں۔ ”الخمیس“ پانچ پڑے کے لشکر کو خمیس کہتے ہیں۔ کسی کافر علاقے پر حملہ کرنے سے پہلے اگر اذان ہو جائے تو پھر احتیاط سے جنگ کی کارروائی کرنی پڑتی ہے تاکہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو لیکن اگر اذان نہ ہو تو پھر بھرپور انداز سے حملہ ہوتا ہے اسی لئے حضور اکرمؐ نے احتیاط فرمائی۔

﴿وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَضَرُ حَتَّى تَهْبِ الْأُرُوحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَاةُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾

اور حضرت نعمان بن مقرنؓ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا ہوں چنانچہ جب کسی دن آپ صبح کے وقت جنگ شروع نہ کرتے تو اس وقت کا انتظار فرماتے جبکہ ہوا چل پڑے اور ظہر کی نماز کا وقت آجائے۔ (بخاری)

## توضیح

جہاد مقدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو اوقات میں ہوتا تھا صبح سے لیکر دھوپ تیز ہونے تک پھر رک جاتا تھا اس کے بعد سہ پہر میں ہوتا تھا جب دھوپ کم ہو جاتی تھی زیر بحث حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر آنحضرت صبح کے وقت جہاد میں لڑنے کے لئے نہ نکلتے تو آپ انتظار فرماتے تاکہ ظہر کے بعد نصرت و مدد کی ہوائیں چلنے لگ جائیں ہوائیں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہو جائے اس کی ایک ظاہری صورت بھی ہوتی تھی وہ یہ کہ ظہر کی نماز کے بعد عام مسلمان نمازوں میں اور نمازوں کے بعد مجاہدین کے لئے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کی نصرت و مدد فرمائے معلوم ہوا مجاہدین کے لئے مساجد میں دعائیں ہونے چاہئے۔

## الفصل الثانی

﴿۸﴾ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّنٍ قَالَ شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهْبُ الرِّيحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت نعمان بن مقرن کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (لڑائیوں میں) شریک ہوا چنانچہ آنحضرت جب دن کے ابتدائی حصہ میں یعنی صبح کے وقت جنگ نہ چھیڑتے تو اس وقت تک جنگ کی ابتداء کرنے کا انتظار کرتے جب تک کہ سورج نہ ڈھل جاتا ہو نہ چلے لگتی۔ اور نصرت یعنی فتح کی ہوا نازل نہ ہو جاتی یا نصرت نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ ظہر کی نماز کے بعد مجاہدین اسلام کے لئے مسلمانوں کی دعاء کی برکت سے فتح کے آثار ظاہر نہ ہو جاتے۔ (ابوداؤد)

زوال شمس کے بعد ایک تو نصرت کی ہوائیں چلے لگتی ہیں اور دوسرا یہ کہ عام مسلمان ظہر کی نماز میں مجاہدین کے لئے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے ہیں معلوم ہوا کہ مجاہدین کے لئے دعائیں مانگنا عام مسلمانوں پر لازم ہیں۔

﴿۹﴾ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أُمْسِكَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَاتِلَ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ أُمْسِكَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَاتِلَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ أُمْسِكَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرُ ثُمَّ يُقَاتِلُ قَالَ قَتَادَةُ كَانَ يُقَالُ عِنْدَ ذَلِكَ تَهَيُّجُ رِيَّاحِ النَّصْرِ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ لِحَيُوشِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت قتادہ، حضرت نعمان بن مقرن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیا ہے چنانچہ آپ فجر کے بعد اس وقت تک جنگ شروع کرنے سے رکے رہتے جب تک کہ آپ فجر کی نماز سے فارغ نہ ہو جاتے اور سورج نہ نکل آتا پھر جب سورج نکل آتا تو جنگ شروع کر دیتے اور جب دوپہر ہو جاتی تو دوپہر ڈھلنے تک کے لئے جنگ سے رک جاتے پھر جب دوپہر ڈھل جاتی اور ظہر کی نماز پڑھ لیتے تو عصر تک جنگ کرتے اور پھر رک جاتے یہاں تک کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جنگ میں مشغول ہو جاتے قتادہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا (یعنی صحابہؓ) آنحضرت کے اس جنگی نظام الاوقات کی حکمت کے بارے میں میں کہا کرتے تھے کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ ان اوقات میں نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور مسلمان اپنی نماز میں اپنے لشکروں کے لئے فتح و کامرانی کی دعائیں کرتے ہیں یعنی نماز کے بعد دعائیں مانگتے ہیں یا نماز کے دوران ہی دعائیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ قنوت پڑھنے کے سلسلہ میں احادیث منقول ہیں۔ (ترمذی)

﴿۱۰﴾ وَعَنْ عِصَامِ الْمُزَنِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت عصام مزنیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کے لئے ایک چھوٹے لشکر میں روانہ کیا اور فرمایا کہ جب کسی جگہ تم کوئی مسجد دیکھو یا مؤذن کو اذان دیتے سنو تو وہاں کسی کو قتل نہ کرنا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح

”مسجد“، یعنی اگر کوئی اسلامی شعار مثلاً اذان و مسجد تمہیں مل جائے تو پھر لڑنے میں احتیاط کرو صرف کافروں کو مارو وہاں اگر داحرب میں مسلمان قیام پذیر ہیں اور وہ اعلان و اطلاع کے باوجود کفار سے الگ نہیں ہوئے تو پھر ان کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا لڑائی لڑی جائے گی اگرچہ کفار مسلمانوں کو بطور ڈھال استعمال کرے اس وقت کافر کی نیت کر کے مارنا چاہئے ایسے مسلمان کا خون ہدر ہے۔

### الفصل الثالث

کفار کے نام حضرت خالد بن ولیدؓ کا ایک عظیم مکتوب

﴿۱۱﴾ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَتَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ فَارِسَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى رُسْتَمَ وَمُهْرَانَ فِي مَلَأَةِ فَارِسَ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الْجَزِيَّةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنْ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا يُحِبُّ فَارِسُ الْخُمْرِ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

حضرت ابو وائلؓ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولیدؓ نے فارس یعنی ایران کے لوگوں یعنی ان کے زعماء اور سرداروں کو یہ مکتوب بھیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم

خالد بن ولیدؓ کی طرف سے رستم و مهران کے نام جو زعماء ایران میں سے ہیں اس شخص پر سلامتی ہو جو حق و ہدایت کی پیروی کرے بعد ازاں واضح ہو کہ ہم تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو ذلت و خواری کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرو اور اگر تم اس جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کرو گے تو تمہیں آگاہ ہو جانا چاہیے کہ ہلاکت و پشیمانی تمہارا مقدر بن چکی ہے کیونکہ بلا شک و شبہ میرے ساتھ ایسے لوگوں کی جماعت ہے جو خون بہانے کو یا خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کو اسی طرح پسند کرتے ہیں جس طرح ایران کے لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں یعنی جس طرح تم ایران والوں کو شراب کے نشہ میں کیف و سرور حاصل ہوتا ہے اسی طرح میری جماعت کے لوگوں کو قتل و قتل میں سرمتی

وسرشاری حاصل ہوتی ہے یا ان کو جان لینے اور جان دینے میں وہی خوشی اور وہی لذت حاصل ہوتی ہے جو تم شراب میں محسوس کرتے ہو اور سلامتی ہو اس پر جو حق و ہدایت کی پیروی کرے۔ (شرح السنۃ)

## توضیح

”القتل“ یعنی یہ خیال دماغ سے نکال دو کہ ہم موت سے ڈرنے والے ہیں ہمیں میدان کارزار میں لڑنے اور جام شہادت نوش کرنے میں وہی مستی اور مزہ حاصل ہوتا ہے جس طرح تم کو شراب پینے میں لذت حاصل ہوتی ہے ایسی قوم کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو لہذا ہمارا راستہ خواہ مخواہ نہ روکو۔ سبحان اللہ یہ بھی ایک دور تھا جس پر اسلام آج تک ناز کرتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے۔

مصلحت در دین ما جنگ و شکوہ مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ

یعنی ہمارے دین کی مصلحت تو جہاد اور رعب و داب میں ہے اور عیسائی مذہب کی مصلحت پادری بن کر غاروں میں رہنا ہے حضرت خالد کا یہ خط فارس والوں کے نام آپ نے اس وقت لکھا تھا جب آپ جہاد کے ابتدائی دور میں عراق میں تھے پھر حضرت صدیق نے آپ کو عراق سے شام کی طرف بلالیا اور امیر الحیث بنایا شام کو فتح کرتے ہوئے آپ براستہ مصر صعید مصر پہنچے ہیں اور وہاں عظیم جہاد کیا ہے۔

## باب القتال فی الجہاد

### جہاد میں لڑائی کی ترتیب کا بیان

قال الله تعالى ﴿فَاذِلِّمُوا الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ﴾  
 فقہ کی تمام کتابوں میں اس باب کے ساتھ کیفیۃ القتال کا لفظ لگا دیا گیا ہے احادیث میں بھی کیفیت قتال بیان کرنا مقصود ہے کیونکہ اس باب میں جتنی احادیث مذکور ہیں تقریباً سب میں قتال کی کوئی نہ کوئی کیفیت کا ذکر ہے۔  
 ملا علی قاری فرماتے ہیں ”ای فی حث القتال وترغیبه وثوابه“ یعنی اس باب میں کفار سے لڑنے کی ترغیب کا بیان ہے اس کے ثواب کا بیان ہے اور کفار سے لڑنے پر ابھارنے اور برا بیچنے کرنے کا بیان ہے۔  
 کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعی طور پر جہاد کو مکروہ سمجھتے ہیں وہ یہاں خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جہاد اور چیز ہے اور لڑنا اور چیز ہے ہم اگر چہ لڑتے نہیں ہیں مگر جہاد میں برابر لگے ہوئے ہیں اور جہاد میں لڑنا ایک جزدی معاملہ ہے جو بدرجہ مجبوری ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے جہاد کے باب میں لڑنے کی احادیث کیوں آئی ہیں اگر جہاد اور چیز ہے تو جہاد کے باب میں لڑنے کی احادیث کا ذکر تک نہیں ہونا چاہئے تھا حالانکہ پورا باب لڑائی کی احادیث اور فضائل سے بھرا پڑا ہے، جب یہ طے شدہ امر ہے کہ جہاد میں لڑنا پڑتا ہے اور لڑنا جہاد کا حصہ ہے تو اس کی کیفیت اور ترتیب و طریقہ بیان کرنا ضروری تھا اس لئے جہاد کے عمومی باب سے اس کی کیفیت کو الگ کر کے مستقل باب میں رکھ دیا۔

### مشروعیت جہاد کی حکمت

اسلام میں مشروعیت جہاد کی بڑی حکمتیں ہیں (۱) جہاد سے دین کے راستے کھلتے ہیں (۲) فساد ختم ہو کر امن آتا ہے (۳) اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جاتا ہے کفر و ظلم کی کمر ٹوٹ جاتی ہے (۴) ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جب سارے انسان اللہ تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں رہنا چاہئے مگر بعض بندے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سول نافرمانی کرتے ہیں اور بغاوت پر اتر آتے ہیں اور دوسرے پُر امن انسانوں کے لئے باعث مصیبت بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے وفادار بندوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ اب ان کو قتل کرو یہ اب جانور بن چکے ہیں اس لئے ان جانوروں کو میدان جہاد میں مارنا بھی جائز ہے اور پکڑ کر ذبح کرنا بھی جائز ہے اور ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے اور ان کو غلام و لونڈی بنانا بھی جائز ہے مثال کے طور پر ایک حکومت ہے ان کی فوج ہے اس فوج میں بغاوت ہو گئی اور فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک وفادار فوج ہے ایک



باغی فوج ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق دنیا کی تمام حکومتیں یہ بات ضروری سمجھتی ہیں کہ وفادار فوج اس باغی فوج سے لڑائی لڑے اور اس کو ختم کرے بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں کو حکم دیتا ہے کہ مجھ سے بغاوت کرنے والی فوج سے خوب لڑو اور ان کو مار دو۔ (۵) جہاد کی حکمت آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جسم میں جب کینسر ہو جاتا ہے تو اس حصہ کے آپریشن کو ہر عقلمند انسان اور ڈاکٹر ضروری سمجھتے ہیں تاکہ اس کینسر کے لپیٹ میں باقی جسم نہ آئے اسی طرح کافروں کا وجود انسان کے صالح جسم کے اندر بمنزلہ کینسر ہے اس کو کاٹنا اس لئے ضروری ہے تاکہ پوری انسانیت کا جسم اس مہلک مرض سے محفوظ رہ جائے۔ علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے سورت توبہ کی آیت نمبر ۴ کی تفسیر میں جہاد کی چھ حکمتوں کو اسی طرح بیان کیا ہے۔

## الفصل الاول

### شوق شہادت

﴿۱﴾ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيُّنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمْرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ احد کی جنگ کے دن (میدان جنگ میں) ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ بتائیے! اگر میں مارا جاؤں (یعنی دشمنان اسلام سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں) تو میں کہاں ہوں گا یعنی جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جنت میں“ (یہ سنتے ہی) اس شخص نے (جنت میں پہنچ جانے کی تمنا میں مرتبہ شہادت جلد سے جلد سے حاصل کرنے کے لئے) وہ کھجوریں پھینک دیں جو (کھانے کے لئے) اس کے ہاتھ میں تھیں اور لڑائی میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ (بخاری و مسلم)

### جہاد پر نکلنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی

﴿۲﴾ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ يُعْنَى غَزْوَةُ تَبُوكَ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيرًا فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةً غَزَوْهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

اور حضرت کعب ابن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ (یعنی جہاد کرنے) کا ارادہ کرتے تو اس کے بجائے دوسرے کا تو ریفہر ماتے یہاں تک کہ یہ غزوہ یعنی غزوہ تبوک واقع ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سخت ترین گرمی کے زمانے میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دو دروازے کا سفر فرمایا اور بے آب و گیاہ

جنگلات کو طے کیا۔ نیز اس میں دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس غزوے کا ارادہ فرمایا تو اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان صاف صاف اعلان کیا۔ (اور اس غزوے کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا) تاکہ وہ لوگ (جنگ کے لئے) اچھی طرح تیار ہو جائیں۔ اور اپنے سامان جہاد کو درست کر لیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان راستوں اور مقامات کے بارے میں بھی بتا دیا تھا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم (تبوک پہنچنے کے لئے) اختیار کرنا چاہتے تھے۔ (بخاری)

## توضیح

”وَرَدَى“ یہ لفظ تور یہ سے ہے جو باب تفعیل سے ہے تو ریعریض اور کنایہ کو کہتے ہیں کہ دشمن سے اصل حقیقت کو چھپایا جائے اور دوسری بات کو ظاہر کیا جائے مثلاً جانا کسی ایک طرف ہے اور تفتیش و تدکرے کسی دوسری طرف کے شروع کئے جائیں مثال کے طور پر آنحضرت کا ارادہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ جانے کا تھا لیکن آپ نے خیبر کے احوال کی جستجو اور تدکرے شروع کئے اس حکمت عملی میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دشمن بے خبری میں ہوتا ہے اور وہ جنگ کی تیاری سے غافل رہ کر اس پر حملہ ہو جاتا ہے اسی کو ”الحرب خدعة“ کہا گیا ہے اس میں تصریح نہیں ہوتی ہے اگر صراحت کے ساتھ یہ کہا جائے کہ میں لکھنؤ شہر جا رہا ہوں اور دل میں چھپا رکھا ہے کہ میں فیروز آباد جاؤں گا تو یہ تور یہ نہیں ہے بلکہ یہ صریح جھوٹ ہے جس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ ”غزوہ تبوک“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں کنایہ اور تعریض سے کام نہیں لیا بلکہ واضح الفاظ میں اعلان فرمایا کہ جہاد کے لئے تبوک جانا ہے اس تصریح کی وجہ یہ تھی کہ یہ مشقتوں سے بھرا ہوا سفر تھا راستہ انتہائی دور تھا کیونکہ مدینہ سے تبوک قریباً ایک ہزار کلومیٹر ہے غذائی اشیاء کی سخت قلت تھی اور شدید گرمی تھی تو مکمل تیاری کی ضرورت تھی اس لئے آنحضرت نے واضح اعلان فرمایا یہ غزوہ ۹ھ میں پیش آیا تھا آنحضرت کے ساتھ تیس ہزار کا لشکر تھا مقابلے میں رومی عیسائی لاکھوں کی تعداد میں تھے مدینہ سے براستہ خیبر جا کر آگے عللاً کا علاقہ آتا ہے اس کے بعد مدائن صالح اور وادی ثمود آتا ہے اس کے بعد تبوک کا علاقہ ہے۔

## جنگ چال اور تدبیر کا نام ہے

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾ اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ مکرو فریب (کا نام) ہے۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”الخدعة“ یہ لفظ خا کے ضمہ کے ساتھ ہے دال ساکن ہے مگر اہل لغت کے نزدیک خا پر فتح اور دال پر سکون زیادہ فصیح اور بہتر

ہے چال، تدبیر، مکر و حیلہ اور فریب کا نام خدعہ ہے جو جہاد میں جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ میں کثرت تعداد اتنی مفید نہیں جتنا کہ چال اور تدبیر و فریب مفید ہوتی ہے آج کل اس تدبیر کو حکمت عملی کہتے ہیں چنانچہ کامیاب کمانڈرو ہی ہوتا ہے جو جنگی حکمت عملی اور داؤ پیچ سے زیادہ کام لیتا ہو اور دشمن کی بڑی فوج کو پسپائی پر مجبور کرتا ہو اس جنگی حکمت عملی میں ہر تدبیر اور مکر و حیلہ جائز ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ اس حکمت عملی سے طے شدہ معاہدہ کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اور نہ وہ طے شدہ معاہدہ ٹوٹ جائے جو معاہدہ دشمن کے ساتھ کیا گیا ہو۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ جہاد کے معاملہ اور اس کے فائدہ میں صریح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے مگر تعریض زیادہ بہتر ہے اس لئے صریح جھوٹ سے بچنا چاہئے۔

## جہاد میں عورتوں کے شریک ہونے کا حکم

﴿۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأَمِّ سَلِيمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا يَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہؓ کے ہمراہ جہاد میں تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ ام سلیمؓ اور انصار کی دوسری عورتوں کو بھی لے جاتے وہ عورتیں غازیوں کو پانی پلاتیں اور زخمیوں کو مرہم پٹی اور دیکھ بھال کرتیں (مسلم)

## توضیح

”یغزو بام سلیم“ عورتوں پر عام حالات میں جہاد فرض نہیں ہے الا یہ کہ جہاد فرض عین ہو جائے اور گھروں کے دروازوں تک پہنچ جائے پھر ہر عورت پر اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لئے لڑنا فرض ہے ہاں اگر عام حالت میں عورتیں جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہیں تو جوان عورتوں کو لے جانا جائز نہیں ہے عمر رسیدہ عورتیں زخمیوں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی کے لئے اور پانی پلانے کھانا پکانے کی غرض سے جاسکتی ہے۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں بالکل آخری مورچوں میں بوقت ضرورت پردہ کے ساتھ عورتیں لڑائی میں شرکت بھی کر سکتی ہیں، اگر شوہر اپنی خدمت یا ضرورت مباشرت کے لئے عورت کو لے جانا چاہتا ہے تو آزاد عورت کے بجائے اپنی لونڈی کو اس خدمت کے لئے لے جانا زیادہ بہتر ہے۔

زخمیوں کی خدمت میں عورت زنجی کے جسم کے اس حصہ پر دوائی لگا سکتی ہے جہاں زخم لگا ہے اور اس حصہ کو چھو بھی سکتی ہے اس کے علاوہ عام جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے اس زمانہ میں عورتوں کو جنگ میں لے جانے میں ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کی وجہ سے مرد بے جگری سے لڑتے تھے اور بھاگنے کا نام نہیں لیتے تھے دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ عورتیں مردوں کو بھاگنے سے عار دلا دلا کر روکتی تھیں اس وجہ سے مرد جم کر لڑا کرتے تھے، ام سلیم، ام عمارہ، ام عطیہ ام ابان، خولہ وغیرہن وہ بہادر عورتیں ہیں

جنہوں نے کئی جنگوں میں باقاعدہ حصہ لیا ہے اور کفار کو مار بھگا دیا ہے۔

﴿۵﴾ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلَفَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجُرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات غزوؤں میں شریک ہوئی ہوں۔ میں (میدان جنگ میں) ان (مجاہدین) کے پیچھے ان کے ڈیروں میں رہا کرتی تھی۔ جہاں میں ان کے لئے کھانا پکاتی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی اور دوا دارو کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ (مسلم)

## جہاد میں عورتوں اور بچوں کا قتل کرنا منع ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور لڑکوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

عورتوں بچوں اور پادریوں کے قتل کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تاہم اگر پادری اور عورت کفار کو جنگی مشورے دیتے ہوں یا لڑنے میں شرکت کرتے ہوں یا مالی معاونت کرتے ہوں یا پادری نے شادی کر لی اور بچوں کو پیدا کرنا شروع کیا تو پھر ان لوگوں کو مارنا جائز ہوگا۔ بچہ بھی اگر لڑنے کے لئے میدان میں آئے گا اور کچھ نہ کچھ لڑائی میں حصہ لے گا تو اس کو بھی قتل کیا جاسکتا ہے اسی طرح وہ بچہ جو سردار اور بادشاہ کا بچہ ہو جس پر سب لوگ متفق ہو کر مجتمع ہو جاتے ہوں اس بچے کا قتل کرنا بھی جائز ہے اسی طرح اگر مسلمان رات کو کفار پر بلہ بول دیں اور گھروں میں عورتیں اور بچے مارے جائیں تو یہ بھی بوجہ مجبوری جائز ہے کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے شیخ فانی سے بوڑھا کھوسٹ مراد ہے ان کو نہ مارو ہاں اگر وہ جنگی تدبیر یا مشورہ دیتا ہو تو مارنا جائز ہے حضور نے درید بن صمہ کے مارنے کا حکم دیا تھا جبکہ ان کی عمر ۱۲۰ سال تھی جنگ حنین میں ایسا ہوا تھا، کیونکہ درید انتہائی سمجھدار اور مشورہ کار آدمی تھا۔

## شب خون میں عورتیں اور بچے مارے جاسکتے ہیں

﴿۷﴾ وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الدِّيَارِ يَسْتُونُ مِنْ

الْمُشْرِكِينَ فَيَصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ، وَفِي رَوَايَةٍ هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  
اور حضرت صعب ابن جثامہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مشرکین کے بارے میں پوچھا گیا جو گھروں  
والے ہیں (یعنی جو آبادیوں میں رہتے ہیں) کہ اگر ان پر شیخون مارا جائے اور اس کے نتیجے میں ان کی عورتیں اور بچے  
مارے جائیں تو کیا حکم ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ بھی انھیں میں سے ہیں۔ اور  
ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ اپنے باپوں کے تابع ہیں۔ (بخاری و مسلم)

## دشمن کے باغات کے کاٹنے اور جلانے کا مسئلہ

﴿۸﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ وَلَهَا يَقُولُ  
حَسَنًا :

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُؤَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ  
وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  
اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی النضیر کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا حکم فرمایا۔  
اسی کے بارے میں (در بار رسالت کے صحابی شاعر) حضرت حسان ابن ثابت انصاریؓ نے یہ شعر کہا۔  
یعنی بنی لوی کے سرداروں کے لئے پھیلے ہوئے بویرہ کو جلا ڈالنا آسان ہو گیا۔ نیز اسی کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔  
﴿تم نے کھجور کے درخت پر سے جو کچھ کاٹا یا جو کچھ اس کی جڑ پر کھڑا ہوا چھوڑ دیا (یعنی جو کچھ نہیں کاٹا) یہ سب خدا کے حکم  
سے ہے۔﴾ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”وہان“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ میں آپ کا واسطہ یہود سے پڑا ان کے تین  
بڑے قبائل تھے بنو قریظہ بنو نضیر اور بنو قریظہ اول الذکر نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تو مسلمانوں نے ابتدا ہی سے ان کو مدینہ سے  
نکال دیا ثانی الذکر بنو نضیر نے معاہدہ کیا مگر پھر غداری کی، یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کی سازش کی اس  
پر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا وہ قلعہ بند ہو گئے آنحضرت نے ان کے باغات کو آگ لگانے کا حکم دیا اس پر یہود نے کہا کہ  
یہ تو محض فساد ہے اس پر قرآن کی آیتیں اتریں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے اب مسئلہ یہ نکلا کہ اگر باغات  
اور کھیتوں کے جلانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو جلانا جائز ہے لیکن بغیر مجبوری نہیں جلانا چاہئے ”بویرہ“ بنو نضیر کے علاقے  
کا نام ہے جہاں ان کے باغات تھے ان باغات کو جب آگ لگائی گئی تو اس پر حضرت حسان نے بطور طنز چند اشعار کہے جن

میں سے ایک شعر اس حدیث میں ہے یعنی قریش پر نہایت آسان گزری وہ آگ جو ہم نے بوریہ مقام میں لگائی تھی جو بھڑک کر بلند ہو رہی تھی۔

”بنی لونی“ سے مراد صحابہ بھی لئے جاسکتے ہیں کہ ان کے سامنے آگ لگانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی یعنی کوئی شخص مزاحمت نہ کر سکا اور بنو لوی سے مراد قریش مکہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ زیادہ واضح ہے مطلب یہ کہ بوریہ مقام میں بھڑکتی آگ کفار کے لئے آسان ہو گئی وہ مزاحمت نہ کر سکے اور آسانی سے اس ذلت کو قبول کر لیا ابوسفیان بن حارث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا اس نے اس شعر کا جواب یوں دیا۔

أَدَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مَنْ صَنِيعٍ      وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ  
سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزِهِ      وَتَعْلَمُ أَيُّ أَرْضَيْنَا نَضِيرُ  
یعنی اللہ تعالیٰ اس آگ کے شعلوں کو مدینہ کی اطراف تک پھیلا کر دوام دے۔ عنقریب تم جان لو گے کہ اس آگ سے ہم کتنے دور ہو گئے اور تم یہ بھی جان لو گے کہ یہ ہم میں سے کس کی زمین کا نقصان ہے۔

### غفلت کی حالت میں دشمن پر حملہ جائز ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ أَنَّ نَافِعًا كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ غَارَيْنِ فِي نَعِيمِهِم بِالْمُرَيْسِيعِ فَهَقَّتِ الْمَقَاتِلَةُ وَسَبَى الدَّرِيَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عبد اللہ بن عونؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافعؓ نے ان عبد اللہ بن عون کو ایک مکتوب بھیجا جس میں حضرت نافعؓ نے ان کو مطلع کیا کہ حضرت ابن عمرؓ نے ان (نافعؓ) سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی مصطلق پر اس وقت ٹوٹ پڑے تھے جب وہ مرسیع میں اپنے مویثیوں کے درمیان غافل پڑے تھے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر لے آئے۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

بنو المصطلق: بنو خزاعہ کی ایک شاخ ہے اور مرسیع ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے تقریباً ۸۰ میل کے فاصلہ پر ہے پانچ جہری میں اس مقام پر جنگ ہوئی تھی اور کفار مارے گئے تھے اسی سفر میں حضرت عائشہؓ پر بہتان لگایا تھا۔

”غارین“ یعنی وہ لوگ بالکل بے خبر تھے اس سے معلوم ہوا کہ جب دعوت ایک دفعہ پہنچ جائے تو پھر بغیر دعوت کے کفار پر حملہ ہو سکتا ہے اگر دعوت نہ بھی پہنچی ہو اور کارروائی کرنے میں مصلحت ہو تو بھی حملہ ہو سکتا ہے اگر چہ منع ہے۔

”المقاتلہ“ یعنی لڑنے کے قابل لوگوں کو قتل کر دیا اور چھوٹے بچوں کو گرفتار کر لیا اور غلام بنایا گیا۔

## جنگ سے متعلق ایک حکمت

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا. إِذَا أَكْبَوُكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ، وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا أَكْبَوُكُمْ فَأَرْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَحَدِيثُ سَعْدِ هَلْ تُنْصَرُونَ سَنَذْكُرُ فِي بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا فِي بَابِ الْمُعْجَزَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

اور حضرت ابواسیدؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن (میدان جنگ) میں جبکہ ہم قریش کے خلاف اور قریش مکہ ہمارے خلاف صف آراء ہو گئے تو ہمیں یہ حکم دیا کہ جب وہ دشمن یعنی قریش مکہ تمہارے اتنے قریب آجائیں کہ تمہارے تیران تک پہنچ سکیں تو ان پر تیر مارو ایک اور روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا ان دشمنوں پر اس وقت تیر چلاؤ جب وہ تمہارے قریب آجائیں اور اپنے تیروں کو باقی رکھو یعنی اپنے سب تیر ختم نہ کر ڈالو بلکہ ان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کر کے کچھ باقی بھی رکھو تاکہ دشمن تمہارے نہتے ہونے کا فائدہ اٹھا کر تم پر غالب نہ آجائے۔ (بخاری)

توضیح

”اکبواکم“ یعنی جب کفار خوب قریب ہو جائیں پھر ان پر تیر برساؤ تاکہ ایک تیر بھی ضائع نہ جائے۔  
”استبقوا“ یعنی تیروں کو فضول ضائع نہ کرو بلکہ ضرورت کے موقع کے لئے بچا کر رکھو۔

## الفصل الثانی

﴿۱۱﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ عَبَّأَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ لَيْلًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ہمیں رات کو تعبیه کیا۔ (ترمذی)

توضیح

”عبانا“ یہ تعبیه سے ہے جو تیار کرنے اور بھرنے کے معنی میں ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع میں رات کے وقت ہماری صف بندی فرمائی تھی اور یہ ہدایت فرمائی کہ جب تک دشمن قریب نہیں آتا اس سے پہلے تیر خراب نہ کرو، بلکہ جب دشمن قریب آجائے پھر تیر مارو۔

## جنگی شعار اور کوڈ ورڈ

﴿۱۲﴾ وَعَنِ الْمُهَلَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بَيَّتَكُمْ الْعَدُوُّ فَلْيُكُنْ شِعَارُكُمْ

حَمَّ لَا يُنْصَرُونَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت مہلبؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں ہم سے فرمایا کہ اگر دشمن تم پر شیخون مارے تو تمہاری (یعنی مسلمانوں کی) علامت حم لا ینصرون کے الفاظ ہونے چاہئیں۔ (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح

”حم لا ینصرون“ یعنی اے حم نازل کرنے والے اللہ کفار کی مدد نہ کی جائے۔ فوجی اور جنگی اصطلاح میں ایسے مختصر الفاظ کو کوڈ ورڈ کہتے ہیں تاکہ اپنے ساتھیوں کی پہچان کے لئے میدان میں ایک علامت ہو۔

﴿۱۳﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِينَ عَبْدُ اللَّهِ وَشِعَارُ الْأَنْصَارِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت سرہ ابن جندبؓ کہتے ہیں کہ غزوات میں عموماً لفظ عبد اللہ مہاجرین کی علامت تھی اور لفظ عبد الرحمن انصار کی علامت تھی۔ (ابوداؤد)

﴿۱۴﴾ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيَّنَّا لَهُمْ نَقْتَلُهُمْ وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةُ أَمْتُ أُمْتُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت سلمہ ابن اکوعؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ہمراہ (یعنی ان کی سربراہی میں) جہاد کیا چنانچہ ہم نے ان دشمنوں پر شیخون مارا اور ان کو قتل کیا اور اس رات میں ہماری شناختی علامت امت امت کے الفاظ تھے (ان الفاظ کے معنی ہیں اے اللہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دے) (ابوداؤد)

”امت امت“ یعنی اے اللہ اس دشمن کو ہلاک کر دے ہلاک کر دے۔

جنگ کے وقت شور و شغب منع ہے

﴿۱۵﴾ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْقِتَالِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت قیس ابن عبادؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان جنگ میں لڑائی کے وقت اللہ کا نام لینے کے علاوہ آواز کے شور و شغب کو ناپسند کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

﴿۱۶﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرَحَهُمْ أَيْ صَبَّانَهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ



اور حضرت سمرہ ابن جندبؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا مشرکین (یعنی دشمنوں) کے بڑی عمروا لے لوگوں کو قتل کرو اور چھوٹی عمروالوں یعنی ان دشمنوں کے بچوں کو زندہ رہنے دو (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح

”شیوخ المشرکین“ شیوخ کا مفرد شیخ ہے یہاں شیخ سے مراد بوڑھا نہیں بلکہ بچوں کے مقابلہ میں مرد اور رجال مراد ہیں۔

”شرح“ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں ”ای صبیانہم“ یہ کسی راوی کی طرف سے تفسیر ہے۔

دشمن کے شہر اور کھیتوں کو بوقت ضرورت جلاؤ الو

﴿۱۷﴾ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهْدَ إِلَيْهِ قَالَ اغْرُ عَلَى ابْنِي صَبَاحًا وَحَرِيقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عروہؓ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہؓ نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر جہاد کے لئے بھیجا تو یہ ہدایت و تاکید کی کہ تم اپنا پر صبح کے وقت دھاوا بول دینا اور (دشمن کے گھریار، کھیت کھلیان اور درخت و باغات کو) جلاؤ الو۔ (ابوداؤد)

توضیح

”اُبنّا“ یہ شام میں ایک جگہ کا نام ہے یہاں آنحضرت نے تاخت و تاراج کا حکم دیا ”اغسر“ یعنی کفار پر غارت اور تباہی ڈال دو۔

جب کفار قابو میں آجائیں تو مارو

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا أَكْثَبُواكُمْ فَأَرْمُوهُمْ وَلَا تَسْلُوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابواسیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن (مجاہدین اسلام سے) فرمایا کہ میدان جنگ میں جب کفار یعنی دشمن تمہارے بالکل قریب آجائیں تو ان پر تیر چلانا اور تلوار اس وقت تک نیام سے نہ کھینچنا جب تک کہ وہ تمہارے بالکل قریب نہ پہنچ جائیں۔ (ابوداؤد)

## عورت اور غلام کو نہ مارو

﴿۱۹﴾ وَعَنْ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ انْظُرْ عَلَيَّ مَا اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ فَبَجَاءَ فَقَالَ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتَقَاتِلَ وَعَلَى الْمُقَدَّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ قُلْ لِحَالِدٍ لَا تَقْتُلِ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت رباح ابن ربیع کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میدان جنگ میں تھے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ کسی چیز کے پاس جمع ہو رہے ہیں چنانچہ آپ نے ایک شخص کو بھیجا اور فرمایا کہ وہاں جا کر دیکھو لوگ کس چیز کے پاس جمع ہو رہے ہیں اس شخص نے واپس آ کر عرض کیا کہ ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے لوگ اس کی نعش کے پاس جمع ہیں آپ نے فرمایا وہ عورت تو نہیں لڑ رہی تھی پھر اس کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ لشکر کی اگلی صفوں کی کمان حضرت خالد بن ولید کے سپرد تھی آپ نے پھر اس شخص کو ان کے پاس بھیجا کہ وہ جا کر خالد سے یہ کہہ دے کہ کسی عورت اور مرد کو قتل نہ کرو۔ (ابوداؤد)

”عسیفا“ عسیف خادم اور غلام کو کہتے ہیں یعنی غلام اور عورت کو جہاد میں قتل نہ کرو۔

## مجاہدین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں

﴿۲۰﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انْطَلِقُوا بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا قَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا تَغْلُوا وَضَمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلَحُوا وَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو جہاد کے لئے روانہ کرتے وقت یہ ہدایات دیں کہ جاؤ اللہ کا نام لے کر اللہ کی تائید و توفیق کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے دین پر یہاں سے کوچ کرو (یا درکھو) شیخ فانی (یعنی بڑھے کھوسٹ) کی جان نہ مارنا، نہ چھوٹے لڑکے اور عورت کو قتل کرنا، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا، مال غنیمت کو جمع کرنا، آپس میں صلح صفائی رکھنا (اصلحو) کے ایک معنی تو یہی ہیں کہ تم مجاہدین اپنے آپس کے تنازعات کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہنا یا یہ معنی ہیں کہ اگر تم مصلحت دیکھو تو دشمن سے صلح کر لینا اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کو ٹھیک ٹھاک رکھنا (اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی و بھلائی کرتے رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی اور بھلائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔) (ابوداؤد)

## بدر کے میدان میں تین کا تین سے مقابلہ

﴿۲۱﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ تَقَدَّمَ عُتْبَةُ ابْنُ رَبِيعَةَ وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوهُ فَنَادَى مَنْ يُبَارِزُ فَاِنْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ فَأُخْبِرُوهُ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ يَا حَمْزَةُ قُمْ يَا عَلِيُّ قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ وَاحْتَلَفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ فَأَتَخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ مَلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ جب معرکہ بدر کا دن آیا اور میدان جنگ میں مجاہدین اسلام اور کفار مکہ ایک دوسرے کے سامنے صف آراء ہو گئے تو کفار مکہ میں سے عتبہ ابن ربیعہ لڑنے کے لئے صف میں سے نکل کر آگے بڑھا اس کے پیچھے اس کا بیٹا یعنی ولید ابن عتبہ اور اس کا بھائی یعنی شیبہ ابن ربیعہ بھی آیا عتبہ نے پکار کر کہا کون ہے جو ہمارے مقابلہ پر لڑنے کے لئے میدان میں آئے؟ مجاہدین اسلام کی جانب سے اس کا جواب انصار کے کئی جوانوں نے دیا یعنی وہ عتبہ اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے کے لئے صف میں سے نکل کر میدان میں آئے عتبہ نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان جوانوں نے عتبہ کو بتایا کہ ہم مدینہ کے انصار ہیں عتبہ نے کہا کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی ہم تمہارے ساتھ لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے بلکہ ہم تو اپنے چچا کے بیٹوں یعنی مکہ سے ہجرت کر کے چلے جانے والے قریشی مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صف کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا حمزہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ علی تم کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ ابن حارث تم کھڑے ہو جاؤ اور آگے بڑھ کر ان نشہ طاقت کے سرمستوں کا سر اور غرور تکبر کو کچل دو چنانچہ حمزہ عتبہ کے مقابلہ پر گئے اور اس کو مار ڈالا میں یعنی علی شیبہ کے مقابلہ پر گیا اور اس کو مار ڈالا عبیدہ اور ولید کے درمیان دو سخت وار ہوئے اور ان میں سے ایک نے اپنے مقابل کو زخمی اور ٹنڈا کر دیا پھر ہم نے ولید پر حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا اور عبیدہ کو جو ولید کے وار سے سخت زخمی ہو گئے تھے معرکہ کے میدان سے اٹھالائے۔ (احمد، ابوداؤد)

## توضیح

بدر میں پہلا حملہ کفار نے کیا عتبہ اور شیبہ دو بھائی اور عتبہ کا بیٹا ولید تینوں مقابلے پر آئے اور مقابل کے خواہاں ہوئے گلشن نبوی سے تین جوان مقابلے پر آئے جن کا تعلق انصار سے تھا کفار نے ان کو مقابلہ میں قبول نہیں کیا بلکہ قریش کے جوانوں میں سے کسی کو طلب کیا تا کہ بہادری کا خوب جوہر دکھائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی، اور عبید بن حارث کو مقابلہ پر روانہ فرمایا دو بدو لڑائی تھی حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا تو اس کو جہنم رسید کیا حضرت علی نے بھی اپنے مقابل شیبہ

کو مہلت نہ دی، لیکن حضرت عبید بن حارث اور ولید کا مقابلہ کچھ دیر تک رہا اور ہر ایک نے دوسرے کو زخمی کیا پھر حضرت حمزہ علی پلٹے اور ولید کا کام تمام کیا حضرت عبید زخموں کی تاب نہ لا کر راستے میں شہید ہو گئے۔

## جنگ موتہ کا واقعہ

﴿۲۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةَ فَاتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَاخْتَفَيْنَا بِهَا وَقُلْنَا هَلَكْنَا ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ الْفَرَارُونَ قَالَ بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ وَأَنَا فِتْنُكُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ نَحْوَهُ وَقَالَ لَا بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ قَالَ فَدَنَوْنَا فَقَبَّلَنَا يَدَهُ فَقَالَ أَنَا فِتْنَةُ الْمُسْلِمِينَ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أُمِّيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَسْتَفْتِيهِ وَحَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ ابْنُ عُمَرَ فِي بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ جہاد کرنے کے لئے ہمارا ایک لشکر بھیجا وہاں پہنچ کر ہمارے لشکر کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے چنانچہ ہم مدینہ واپس آئے تو مارے شرم و ندامت کے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے اور ہم نے آپس میں اپنے دل میں کہا کہ دشمنوں کے مقابلہ سے بھاگ کر ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے گویا ہم تو ہلاک ہو گئے۔ پھر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو میدان چھوڑ کر بھاگ آنے والے لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو اور میں تمہاری جماعت ہوں۔ (ترمذی)

اور ابو داؤد نے ایسی روایت نقل کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ”نہیں“ بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو، حضرت عمرؓ کہتے ہیں (جب ہم نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی جواب طلب کرنے یا کوئی سرزنش کرنے کے بجائے اس شفقت آمیز انداز میں ہماری ہمت بڑھائی ہے تو فرط عقیدت و محبت سے) ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور آپ کے دست مبارک کا بوسہ لیا۔ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا میں مسلمانوں کی جماعت ہوں۔

## توضیح

اس حدیث میں جنگ موتہ کی طرف اشارہ ہے اس سے پہلے اس واقعہ کی طرف میں نے اجمالی اشارہ کیا ہے ”فحاص الناس حيصه“ دشمن کے مقابلے سے بھاگنے کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اگرچہ اس کا معنی حملہ کرنا بھی آتا ہے ”فاختفينا“ یعنی مدینہ میں اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ جاسکے۔

”الفرارون“ فرار مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی ہم تو بہت زیادہ بھاگنے والے ہیں۔

”الکراون“ کرا بھی مبالغہ کا صیغہ ہے دشمن پر بار بار حملہ کرنے کے معنی میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو بلکہ بار بار جنگ کی طرف لوٹنے والے اور حملہ کرنے والے ہو ”وانافتکم“ دشمن سے بھاگنے کی ایک صورت جائز ہے وہ اس طرح ہے کہ آدمی اپنے مرکزی لشکر کی طرف بھاگ جائے تاکہ مضبوط ہو کر پھر حملہ کر سکے، جس کمپ اور مرکزی لشکر کی طرف آدمی جاتا ہے وہ کمپ اس کے لئے فتنہ ہے ”انافتکم“ کا مطلب یہی ہے کہ تم دشمن سے بھاگے نہیں ہو بلکہ اپنے مرکز کے پاس آئے ہو، صحابہ نے خیال کیا کہ ہم بھاگ آئے ہیں حقیقت ایسی نہیں تھی بلکہ حضرت خالد بن ولید نے انتہائی ہوشیاری سے صحابہ کو تنگ مقام سے پیچھے لایا اور پھر کھلے میدان میں لڑے تو دشمن بھاگ گئے صحابہ واپس آ گئے حضرت خالد نے فوج کو جو حکمت عملی کے تحت پیچھے کیا تھا اسی کو صحابہ نے بھاگنا خیال کیا۔

### الفصل الثالث

#### غزوہ طائف میں منجنيق کا استعمال

﴿۲۳﴾ عَنْ ثَوْبَانَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمُنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا .

اور حضرت ثوبان ابن یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے مقابلہ پر منجنيق نصب کی اس روایت کو ترمذی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

#### توضیح

”منجنيق“ یہ اصل میں فارسی لفظ ہے یعنی ”من چہ نیک“ میں کتنا اچھا ہوں یہ ایک جنگی آلہ ہوتا تھا جو ہاتھ سے استعمال ہوتا تھا اور آج کل کی راکٹوں کا کام کرتا تھا۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک بڑا پتھر اس آلہ میں رکھ کر کھینچ لیا جاتا اور پھر چھوڑا جاتا تھا وہ پتھر زور سے جا کر قلعہ پر لگتا تھا جس سے دیوار ٹوٹ جاتی تھی پھر صحابہ اندر داخل ہوتے تھے طائف کا قلعہ چونکہ بہت مضبوط تھا اس میں مالک بن عوف کفار کی کمان کر رہا تھا ۲۵ دن تک قلعہ فتح نہیں ہوا اس لئے اس پر منجنيق استعمال کرنا پڑا اسلام میں یہ پہلا موقع ہے کہ صحابہ نے منجنيق استعمال کیا اس جنگ کے دوران حضرت طفیل بن عمروؓ منجنيق اور ٹینک مل گئے تھے ”یا جرش“ مقام سے دو صحابی ٹینک لائے تھے اور یہاں استعمال بھی ہوئے تھے نیز آنحضرت نے قلعہ کے ارد گرد حسک کانٹے بچھائے تھے تاکہ اندر سے کوئی بھاگ کر نہ جائے اس سے مائن بچھانے کی تعلیم مسلمانوں کو حاصل ہوگئی مگر مسلمان اسلحہ

سے غافل ہو گئے کفار نے اسلحہ لے لیا تو مسلمان غلام بن کر رہ گئے جنگ حنین پر میری ایک کتاب ہے اس کو دیکھنا چاہئے۔ طائف آج بھی حجاز کا بڑا شہر ہے مکہ سے ۳۶ یا ۴۵ میل کے فاصلہ پر واقع ہے جو ۹۰ کلومیٹر ہے آج کل جس جگہ کو مشنات کہتے ہیں اسی جگہ میں اصل طائف آباد تھا۔ اس وقت طائف میں دو باغ ہیں جہاں دو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہیں ایک مسجد کا نام مسجد علی ہے اور دوسری کا نام مسجد الجعفی ہے ان دو مسجدوں کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام ”وج“ ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ اسی مقام سے آل حضرت نے طائف کا محاصرہ کیا تھا اور غالباً اسی جگہ آپ نے منجیق نصب کیا تھا۔ آج کل طائف کی جامع مسجد جہاں بنی ہے اسی جگہ میں آنحضرت نے طائف میں قیام فرمایا تھا۔

## باب حکم الاسراء

### قیدیوں کے احکامات کا بیان

قال الله تعالى ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ اسراء اسیر کی جمع ہے اسیر قیدی اور گرفتار شخص کو کہتے ہیں میدان جہاد میں جس طرح مقابلہ ہوتا ہے اور لوگ مارے جاتے ہیں وہیں پر لوگ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں گرفتار دونوں طرف سے ہوتے ہیں مسلمانوں کے بھی اور کفار کے بھی ہوتے ہیں پھر ان قیدیوں کی رہائی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کبھی تو قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور کبھی تاوان بھر کر چھڑایا جاتا ہے اور کبھی ویسے احسان کر کے چھوڑا جاتا ہے اور کبھی قتل بھی کیا جاتا ہے اسلام میں قیدیوں کے مکمل قوانین موجود ہیں لہذا ہمارا مقدس اسلام اقوام متحدہ یا جینوا کنونشن کے قواعد کا محتاج نہیں ہے جن قواعد پر خود اس کے بنانے والے بھی عمل نہیں کرتے ہیں مندرجہ بالا تمام صورتوں پر مسلمان عمل کر سکتے ہیں اگرچہ کفار جلتے رہیں گے مذکورہ باب میں ان قیدیوں کا بیان ہے جو غیر مسلم ہوتے تھے اور مسلمانوں کے پاس تھے مسلمانوں نے انتہائی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ان کا اکرام کیا آنحضرت نے صحابہ کو حسن سلوک کا حکم دیا تھا آنحضرت کے زمانے میں کافروں کے علاوہ کوئی مسلمان قیدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا اور نہ اس وقت باقاعدہ کوئی جیل تھی۔

### الفصل الاول

#### کفار کی گردنوں میں زنجیر ڈال کر اسلام کی طرف لاؤ

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ وَفِي رِوَايَةٍ يُقَادُّونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾

حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم پر تعجب کرتا ہے یعنی ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو زنجیروں میں بندھے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر جنت کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ (بخاری)

توضیح

”عجب اللہ“ اللہ تعجب کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ”فی السلاسل“ ”سلسلہ“ زنجیر کے معنی میں

ہے یعنی زنجیروں میں پکڑا ہوا لایا گیا اس نے اسلام قبول کر لیا اور جنت کا مستحق بنا، یہ حدیث یہاں مفصل نہیں بلکہ مجمل ہے اس حدیث کی تفصیل ان احادیث میں ہے جن کو مفسرین نے آیت ﴿کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ کے تحت ذکر کیا ہے۔

(۱) قال ابن کثیر قال البخاری بسندہ عن ابی ہریرۃ کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قال خیر الناس للناس تأتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم حتی یدخلوا فی الاسلام۔ (ابن کثیر ج ۱ ص ۹۱)

(۲) قال القرطبی قال ابو ہریرۃ نحن خیر الناس للناس نسوقہم بالسلاسل الی الاسلام۔ (رواہ الترمذی) ان احادیث سے اس آیت کی تفسیر معلوم ہو گئی تبلیغی حضرات اس کی تفسیر میں اس طرف اشارہ بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ خود ساختہ تفسیر بیان کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جہاد بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں ابتدا میں کفار اسلام قبول کرنے سے خوش نہیں ہوتے آخر میں خوش ہو جاتے ہیں ﴿ورابست الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا﴾ جہاد سے دین کے راستے کھلتے ہیں بند نہیں ہوتے ہیں۔

جو لوگ جہاد کو دین کی اشاعت کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں انہوں نے دین کو بالکل نہیں سمجھا ہے یا اپنے مزاج کا دین بنایا ہے۔

## جاسوس کو قتل کرو

﴿۲﴾ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اظْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلْتُهُ فَنَفَلَنِي سَلْبَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین کا ایک جاسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ سفر کے دوران تھے چنانچہ اس جاسوس نے (ٹوہ لینے کے لئے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کے پاس بیٹھ کر باتیں کیں اور پھر چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اس کو تلاش کرو اور قتل کر ڈالو۔ چنانچہ میں نے اس کو ڈھونڈ نکالا اور قتل کر ڈالا آنحضرت نے اس کا سامان و اسباب مجھے مرحمت فرمایا۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”فقئلته“ یہ شخص چونکہ جاسوس تھا اس لئے اس کا قتل نہ نا ضروری تھا اسی طرح اس کافر کو بھی قتل کیا جاسکتا ہے جو حربی ہو اور امان لئے بغیر مسلمانوں کے علاقہ میں داخل ہوا ہو۔ ”فنفلنی“ یعنی بطور انعام مجھے اس کے جسم کا سامان دیدیا۔

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَصَحَّى مَعَ رَسُولِ



اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاحَهُ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ مِنَ الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ فَأَتَانِي جَمَلُهُ فَأَنَارَهُ فَأَشْتَدُّ بِهِ الْجَمَلَ فَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنْخَضْتُهُ ثُمَّ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ ثُمَّ جِئْتُ بِالْجَمَلِ أَقْوَدُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسَلَاخُهُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ قَالُوا ابْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ لَهُ سَلْبُهُ أَجْمَعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ قیس کی ایک شاخ ہوازن کے خلاف جہاد میں شریک تھے ایک دن اس وقت جبکہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دو پہر کا کھانا کھا رہے تھے اچانک ایک شخص جو دشمن کا جاسوس تھا اور سرخ اونٹ پر سوار تھا آیا اس نے اونٹ کو بٹھادیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا یعنی وہ ہماری حالت و کیفیت کی نوہ لینے لگا اس وقت ہم اپنی خستہ حالی اور پیادہ پائی کی وجہ سے بہت غمگین تھے ہمارے پاس سوار یوں کی کمی تھی اور ہم میں سے بعض لوگ پیدل تھے چنانچہ جب اس شخص نے ہماری اس کمزوری کا اندازہ لگالیا کہ ہم سوار یوں کی کمی اور اپنی خستہ حالی کی وجہ سے سخت پریشان اور غمگین ہیں تو دشمن کو اس کی اطلاع دینے کے لئے وہ اچانک ہمارے درمیان سے دوڑتا ہوا نکلا اور اپنے اونٹ کے پاس پہنچ کر اس پر سوار ہونے کے بعد اس کو کھڑا کیا اور وہ اونٹ اس کو لیکر تیزی سے دوڑنے لگا میں نے جب یہ صورت حال دیکھی تو میں بھی اپنے لوگوں کے درمیان سے نکلا اور اس شخص کے پیچھے دوڑا یہاں تک کہ میں نے اس کو جالیا اور اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اس کو بٹھادیا اور پھر اپنی تلوار سونت کر اس شخص کے سر پر بھر پور وار کیا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا اس کے بعد اونٹ کو جس پر اس شخص کا سامان اور اس کے ہتھیار تھے کھینچتا ہوا لایا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ میرے سامنے آئے تو آنحضرت نے ارشاد فرمایا اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے؟ صحابہؓ نے کہا کہ سلمہ ابن اکوع نے آپؐ نے فرمایا اس سارے سامان کے حقدار یہی (سلمہؓ) ہیں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”ہوازن“ یہ ایک مشہور قبیلہ کا نام ہے جو تبراندازی میں اپنی نظیر آپؐ تھا جنہیں اور اوٹاس میں ہوازن کے ساتھ بڑا معرکہ ہوا عرفات اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام حنین ہے۔

”نشد نحی“ یہ لفظ تضحیہ سے ہے اصل میں سفر کے دوران گھاس و اناج جگہ اترنے اور اونٹوں کو گھاس چرانے اور آرام دلانے کے لئے استعمال ہوتا تھا پھر نرمی کے لئے استعمال ہوا پھر چاشت کی نماز کے لئے استعمال ہوا پھر چاشت کے وقت کھانے کے لئے استعمال ہوا یہاں یہی معنی مراد ہے ”رقۃ من الظہر“ یعنی سوار یوں کی کمی کی وجہ سے ہم میں کمزوری تھی پیدل چل چل کر تھکے ہوئے تھے ”وبعضنا مشاة“ یہ جملہ رقة من الظہر کے لئے عطف بیان اور تفسیر ہے ”اخترطت سیفی“

تلوار سونٹنے کو کہتے ہیں ”اشتد“ دوڑنے کے معنی میں ہے ”خطام“ مہار کو کہتے ہیں۔

### بنو قریظہ میں حضرت سعد کا فیصلہ

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَيَّ سَيِّدُكُمْ فَجَاءَ فَجَلَسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَيَّ حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسَبَى الذَّرِيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ وَفِي رِوَايَةٍ بِحُكْمِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ جب مدینہ میں آباد بنو قریظہ کے یہود حضرت سعد ابن معاذ کو حکم تسلیم کر لینے پر اتر آئے یعنی وہ اس پر آمادہ ہوئے کہ سعد ابن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعدؓ کو بلانے کے لئے ایک آدمی بھیجا سعد ابن معاذؓ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے اور جب وہ قریب پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ تم لوگ اپنے سردار کی تعظیم یا ان کی مدد کے لئے کھڑے ہو جاؤ سعد ابن معاذؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ یعنی بنو قریظہ کے یہودی تمہیں حکم ماننے پر راضی ہو گئے ہیں۔ سعد ابن معاذؓ نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان یہودیوں میں سے جو لوگ لڑنے کی صلاحیت رکھنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے آنحضرتؐ نے یہ سن کر فرمایا تم نے ان کے بارے میں بادشاہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے یعنی تم نے ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”قوموا الی سیدکم“ حضرت سعد انصار کے سردار تھے جنگ خندق میں ان کو گہرا زخم لگا تھا انہوں نے یہود بنو قریظہ کی غداری پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہود سے اپنا دل ٹھنڈا نہ کروں ادھر جنگ خندق کے بعد فوراً مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا ۲۵ دن سے زیادہ محاصرہ رہا تب یہود اپنے قلعوں سے اترنے پر راضی ہو گئے مگر ان بد بختوں نے کہا ہمارا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے بلکہ سعد بن معاذؓ کرے حضرت سعدؓ کے ان لوگوں سے پرانے مراسم بھی تھے اور یہ لوگ ایک دوسرے کے حلیف بھی تھے یہود کا خیال تھا کہ سعد ہمارے حق میں فیصلہ کر دیگا۔ حضرت سعد چونکہ زخمی تھے اس لئے مسجد نبوی کے پاس سے گدھے پر سوار کر کے لائے گئے جب محلہ بنو قریظہ میں پہنچ گئے

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قوموا الی سیدکم“ چونکہ ان کی مدد کی ضرورت تھی اس لئے حضور نے فرمایا کہ اپنے سردار کی مدد کے لئے کھڑے ہو جاؤ ان کو گدھے سے اتارو لہذا اس حدیث کا اس حدیث سے تعارض نہیں ہے جس میں آیا ہے کہ ”من سره ان یتمثل له الرجال قیاماً فلیتبو مقعدہ من النار“ کیونکہ یہاں مجبوری تھی شوقیہ کسی کے لئے دست بستہ کھڑا ہونا منع ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ یہاں صرف استقبال کے طور پر احترام و اکرام کے لئے کھڑا ہونا تھا اس سے صرف استقبال ثابت ہوتا ہے۔ اعاجم کے ممنوع قیام سے اس کا کوئی تعلق نہیں جس کا ذکر من سرہ والی حدیث میں ہے۔ بہر حال حضرت سعد نے فیصلہ فرمادیا کہ قابل جنگ یہود کو قتل کیا جائے اور عورتوں بچوں کو غلام بنایا جائے یہی فیصلہ تورات کا بھی تھا آنحضرت نے فرمایا کہ سعد کا فیصلہ عرش والے بادشاہ کا فیصلہ ہے۔

### سردار یمامہ ثمامہ کا عجیب قصہ

﴿۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دِمٍّ وَإِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ فَقَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دِمٍّ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمُ تُنْعِمُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دِمٍّ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَأَنْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهَكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّهَا إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ دِينٍ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ إِلَيَّ وَإِنْ خِيَلَكَ أَخَذْتَنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتِمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ

مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ أَصَبْتُ فَقَالَ لَا وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا تَأْتِيَكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاخْتَصَرَهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو جہاد کرنے کے لئے نجد کی طرف روانہ کیا لشکر کے لوگ قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ کر مدینہ لائے جس کا نام ثمامہ ابن اثال تھا اور جو شہر یمامہ کے لوگوں کا سردار تھا اس شخص کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے پوچھا کہ کہو ثمامہ تمہارے پاس کہنے سننے کو کیا ہے؟ یعنی بتاؤ تمہارا کیا حال ہے یا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک کروں گا؟ ثمامہ نے کہا کہ میرے پاس بھلائی ہی بھلائی ہے یا میرے پاس بہت مال ہے اگر آپ مجھ کو قتل کریں گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کریں گے جو قتل ہی کئے جانے کا مستحق ہے ان الفاظ کے ذریعہ گویا ثمامہ نے اپنی تقصیر کا اعتراف و اقرار کیا یا اس کے ان الفاظ کا یہ مطلب تھا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کا خون رائیگاں نہیں جائے گا کیونکہ میری قوم میرا خون معاف نہیں کرے گی بلکہ آپ سے بدلہ لے گی اس صورت میں اس نے گویا اپنی امارت اور اپنی ریاست و وجاہت کا دعویٰ کیا اور اگر آپ مجھے باعزت رہائی دے کر میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو شکر گزار و قدر دان ہے یعنی میں بھی اس اچھے سلوک کا آپ کو بدلہ دوں گا اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مانگیں جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا یہ باتیں سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو (اسکے حال پر) چھوڑ دیا جب دوسرا دن آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ کہو ثمامہ تمہارے پاس کہنے سننے کو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس وہی چیز ہے جو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو ایک ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو شکر گزار و قدر دان ہے اگر آپ قتل کریں گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کریں گے اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مانگیں جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی یہ سن کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور جب تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ کہو ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس وہی چیز ہے جو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو ایک ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو شکر گزار و قدر دان ہے اگر قتل کریں گے تو ایک خون والے شخص کو قتل کریں گے اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مانگیں جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حکم دیا کہ ثمامہ کو رہا کر دیا جائے چنانچہ رہائی پانے کے بعد کچھ کہے سے بغیر کھجوروں کے ان درختوں کے جھنڈ میں چلا گیا جو مسجد نبوی کے قریب تھے اور وہاں سے نہادھو کر پھر مسجد نبوی میں آیا اور آنحضرت کے سامنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله یعنی میں سچے دل کے اعتراف و اقرار کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ

کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور پھر کہنے لگا کہ اے محمد خدا کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ نفرت انگیز کوئی چہرہ نہیں تھا (یعنی مجھے آپ کی ذات سے جتنی زیادہ نفرت تھی اتنی نفرت اور کسی ذات سے نہیں تھی) لیکن اب آپ کا چہرہ مبارک میرے نزدیک دنیا کے سارے چہروں سے زیادہ پیارا ہے خدا کی قسم میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ نفرت انگیز کوئی دین نہیں تھا لیکن اب آپ کا دین میرے نزدیک سارے دینوں سے زیادہ پیارا ہے اور خدا کی قسم میرے نزدیک آپ کے شہر سے زیادہ نفرت انگیز کوئی شہر نہیں تھا لیکن اب میرے نزدیک آپ کا شہر دنیا کے سارے شہروں سے زیادہ پیارا ہے پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لشکر نے مجھے اس وقت گرفتار کیا تھا جبکہ میں عمرہ کرنے کے لئے مکہ جانے کا ارادہ کر رہا تھا تو اب آپ مجھ کو کیا حکم دیتے ہیں آیا میں عمرہ کے لئے مکہ جاؤں یا نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس کو بشارت دی کہ اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے تمہیں شرف و عظمت انسانیت حاصل ہوگئی ہے اور تمہارے پہلے سارے گناہ بخش دیئے گئے ہیں اور پھر ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ثمامہ جب (عمرہ کرنے کیلئے) مکہ پہنچے تو کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ تم تو بے دین ہو گئے ہو، ثمامہ نے جواب دیا کہ نہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے میرے دین نہیں ہوا ہوں اور (یاد رکھو) خدا کی قسم اب ثمامہ سے تم کو گئیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں بھیجا جائیگا جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں۔ (مسلم) اس روایت کو بخاری نے بھی اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔

## توضیح

”خیال“، شہسواروں کا ایک دستہ بغرض جہاد و نجد کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا انہوں نے ثمامہ کو گرفتار کیا جو قوم کا سردار تھا اس کو مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھا گیا ”ماعدک“ یعنی تیرا کیا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ ”عندی خیر“ یعنی تیرے بارہ میں اچھا گمان ہے کیونکہ آپ ظلم نہیں کریں گے۔ ”ان تقتل تقتل ذادم“ یعنی اگر مجھے قتل کرو گے تو میرا بدلہ لیا جائے گا میرا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ کہ میں نے خون کیا ہے مجرم ہوں آپ ایک مجرم کو قتل کر دو گے۔

”وان تنعم“ یعنی اگر احسان کیا اور مجھے معاف کر دیا تو ایک شریف زادے قدردان شکر شناس اور شکر گزار شخص پر احسان ہوگا تین دن تک اسی طرح سوال و جواب چلتا رہا پھر تیسرے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احسان اس کو رہا کر دیا کیونکہ خلیفہ اور انیر کی صوابدید پر اس طرح رہا کرنا جائز ہے۔

”اصبوت“ کیا آپ صابی اور بد دین ہو گئے؟ اس نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اب محمد عربی کی سفارش کے بغیر یمامہ سے غلے کا ایک دانہ بھی اہل مکہ کے پاس نہیں آئے گا۔

## احسان کا بدلہ احسان ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِي حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت جبیر ابن مطعمؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے ان ناپاک قیدیوں کے حق میں سفارش کرتے تو میں ان قیدیوں کو مطعم کی سفارش پر رہا کر دیتا۔ (بخاری)

## توضیح

حضرت جبیر اس حدیث کے راوی ہیں مگر جس وقت اس نے یہ حدیث سنی ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ جنگ بدر میں دیگر کفار کے ساتھ گرفتار ہو گئے تھے حدیث تو حالت کفر میں سنی مگر بیان حالت اسلام میں کر رہا ہے ان کے والد کا نام مطعم بن عدی تھا وہ کفر کی حالت میں مر گئے تھے مطعم بن عدی وہ شخص ہے جس نے آنحضرت کو طائف سے واپسی پر پناہ دی تھی اور آپ کو مکہ مکرمہ میں اپنے ساتھ داخل کرایا تھا چونکہ اس نے بڑا احسان کیا تھا اس لئے حضور نے ”ہل جزاء الاحسان الا الاحسان“ کے طور پر فرمایا کہ آج اگر مطعم زندہ ہوتے اور بدر کے ان بدبودار مشرک قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے تو ان کی خاطر میں سب کو رہا کر دیتا۔

## حدیبیہ کے موقع پر ۸۰ مشرک گرفتار پھر رہا

﴿۷﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبَلِ النَّعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ سِلَاحًا فَاسْتَحْيَاهُمْ، وَفِي رِوَايَةٍ فَأَعْتَقَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کے اسی آدمی ہتھیاروں سے لیس ہو کر تعظیم کے پہاڑ سے اتر آئے جن کا ارادہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ پر اچانک حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچائیں لیکن آنحضرت نے لڑے بھڑے بغیر ان سب کو بے بس اور ذلیل کر کے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پھر ان کو رہا کر دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے نواح مکہ میں ان کفار کا ہاتھ تہارے خلاف اور تہارہا تھ ان کے خلاف بند رکھا۔ (مسلم)

”غرة النبی“ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے خبری میں حملہ کر کے شہید کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں پکڑ دیا۔

## قلب بدر میں صنادید قریش سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام

﴿۸﴾ وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقَذَفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعُرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّلَاثِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشَدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ أَيْسَرُكُمْ أَنْكُمْ أَطْعَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكْلِمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، وَفِي رِوَايَةٍ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ قَالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمُ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنِقْمَةً وَحَسْرَةً وَنَدْمًا

اور حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ بن مالک نے حضرت ابوطالحہؓ کے حوالہ سے ہمارے سامنے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن مکہ کے کفار قریش کے چوبیس مقتولین سرداروں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو ٹھکانے لگا دیا جائے چنانچہ ان کی نعشوں کو بدر کے ایک ایسے کنوئیں میں ڈال دیا گیا جو ناپاک تھا اور ناپاک کرنے والا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی جب آپ جنگ میں کسی قوم پر غلبہ اور فتح پالیتے تھے تو اس میدان جنگ میں تین راتیں قیام فرماتے تھے چنانچہ اسی عادت کے مطابق آپ جنگ جیت لینے کے بعد بدر کے میدان جنگ میں بھی تین راتیں قیام فرما رہے تھے اور جب تین دن گزر گئے تو آپ نے اپنی سواری کے اونٹ پر کجاوہ باندھنے کا حکم دیا چنانچہ کجاوہ باندھ دیا گیا اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے پیچھے ہو لئے جب اس کنوئیں پر پہنچے جس میں سرداران قریش کی نعشیں ڈالی گئی تھیں تو آپ اس کنوئیں کے کنارے کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کو ان کے باپوں کا نام لے کر پکارنا شروع کیا کہ اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں ابن فلاں اور پھر گویا ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا اب تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ بلاشبہ ہمیں تو وہ چیز حاصل ہوگئی جس کا ہم سے ہمارے رب نے قطعی وعدہ کیا تھا اور کیا تم نے بھی وہ چیز پالی جس کا تم سے تمہارے پروردگار نے قطعی وعدہ کیا تھا یعنی تمہارے عذاب کا مطلب یہ کہ ہم کو تو خدا کے وعدے کے مطابق فتح و کامیابی حاصل ہوگئی کیا تم کو بھی عذاب ملا جس سے تمہارے پروردگار

نے تمہیں ڈرایا تھا؟ گویا آنحضرت کا یہ سوال ازراہ توحیح تھا حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ایسے جسموں کو مخاطب کر رہے ہیں جن میں روحيں نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ان جسموں سے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم اس کو زیادہ سننے والے نہیں ہو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تم جواب دینے پر قادر ہو اور یہ جواب نہیں دے سکتے۔ (بخاری و مسلم) بخاری نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت قتادہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے وقت زندہ کر دیا تھا تا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیں جس سے ان کو سرزنش ہو اور وہ ذلت و خواری، عذاب اور افسوس و پشیمانی کو محسوس کریں۔

توضیح

”صنادید“ صندی کی جمع ہے اشراف و سردار کے معنی میں ہے۔ ”طوی“ جس کنوئیں کے ارد گرد خوب مضبوط پتھروں کی منڈیر ہو اس کو طوی کہتے ہیں شاعر نے کہا ہے ۔

فان الماء ماء ابی وجدی و یسری ذو حفرت و ذو طویت  
 ”طوی“ آباد کنواں ہوتا ہے اور قلیب اس کنوئیں کو کہتے ہیں جو ویران اور خراب ہو، راویوں نے زیادہ خیال نہیں کیا تو طوی کا لفظ بھی بعض راویوں نے ذکر کیا اور بعض نے قلیب کا لفظ استعمال کیا تھوڑا سا فرق ہے کسی نے خیال نہیں کیا، بدر کا کنواں ویران اور خراب تھا۔

”خبیث مخبث“ یعنی خود بھی گندہ تھا اور جو صنادید قریش اس میں ڈالے گئے وہ بھی خبیث ہو گئے یعنی خود بھی فاسد دوسرے کو بھی فاسد کرنے والا تھا۔

”فجعل ینادیہم“ تبکیت و تذلیل و توہین و تحقیر و تخسیر کی غرض سے آنحضرت نے سرداران قریش سے یہ گفتگو فرمائی ہے حضرت حسان نے اپنے اشعار میں اس پس منظر کو یوں بیان کیا ہے ۔

فغادرنا باجہل صریعا و عتبا قد ترکنا بالحبوب  
 و شية قد ترکنا فی رجال ذوی حسب اذ انسبوا النسیب  
 ینادیہم رسول اللہ لما قد فناہم کباکب فی القلب  
 الم تجدوا کلامی کان حقا و امر اللہ یاخذ بالقلوب  
 فما نطقوا و لو نطقوا لقالوا اصبت و کنت ذارای مصیب



ترجمہ: ہم نے ابو جہل کو منہ کے بل گرا کر چھوڑا اور عتبہ کو بھی ہم نے سنگ لارخ زمین پر چھوڑا۔

اور شیبہ کو ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ قتل کر کے چھوڑا جو بڑے نسب حسب والے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکو اس وقت آواز دے رہے تھے جبکہ ہم نے انکو گندے کنوئیں میں اور پر نیچے ڈال کر چھوڑا تھا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے میری بات کو سچا نہیں پایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم دلوں میں اترتا ہے۔

کفار قریش نے بات نہیں کی اگر وہ جواب دیتے تو یہ کہتے کہ آپ نے سچ کہا تھا اور آپ کی رائے درست تھی۔

اس حدیث کے تحت سماع موتی کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے مگر میں نے توضیحات جلد اول ص ۳۵۴ پر یہ مسئلہ لکھا ہے خوب تفصیل ہے۔

## جنگ حنین کے چھ ہزار قیدی

﴿۹﴾ وَعَنْ مَرْوَانَ وَالْمُسَوْرِبِينَ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدَّ هَوَازَنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُوا تَالِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُرَدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيُهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِي اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَبَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا نَذَرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذُنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَبَّبُوا وَأَذِنُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت مروانؓ اور حضرت مسورابن مخرمہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد کرنے کے لئے کھڑے ہوئے جب قبیلہ ہوازن کے لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے یہ درخواست کی کہ ان کا مال اور ان کے قیدی واپس کر دیئے جائیں آپ نے ان سے فرمایا کہ دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لو یعنی یا تو قیدیوں کو رہا کرالے جاؤ یا مال واپس لے لو؟ انھوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے قیدیوں کو رہا کرانا پسند کرتے ہیں تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جس کا وہ مستحق ہے اور پھر فرمایا کہ بعد ازاں! یہ قبیلہ ہوازن کے لوگ جو تمہارے دینی یا نبی بھائی ہیں اپنے کفر و شرک سے توبہ کر کے اور مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں میں نے اس چیز کو مناسب سمجھا ہے کہ ان کو ان کے قیدی واپس کر دوں لہذا تم میں سے جو شخص خوشی کے ساتھ قیدیوں کو واپس کرنا چاہے تو وہ ایسا ہی کرے (یعنی اسکے پاس جو قیدی

ہے اس کو واپس کر دے) اور جو شخص اپنے حصہ پر قائم رہنا چاہتا ہے تا وقتیکہ ہم ان کو اس کا عوض اس پہلے آنے والے مال میں سے دے دیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں غنیمت کے طور پر عطا کرے تو وہ ایسا ہی کرے لوگوں نے (یعنی بعض صحابہؓ یا بلا امتیاز تمام صحابہؓ نے) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم اس پر یعنی قیدیوں کو واپس کر دینے پر خوشی کے ساتھ آمادہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اس مجمع میں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے کون شخص راضی ہے اور کون شخص راضی نہیں ہے اس کا امتیاز نہیں کیا جاسکتا لہذا تم سب لوگ اپنے اپنے گھر لوٹ جاؤ اور اپنے خاندان و قبیلہ کے سرداروں سے اس بارے میں مشورہ کر لو تا آن کہ تمہارے وہ سردار تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے تمہارا فیصلہ پیش کریں چنانچہ سب لوگ لوٹ کر چلے گئے اور جب ان کے سرداروں نے ان سے گفتگو کر لی تو وہ لوگ آنحضرت کی خدمت میں واپس آئے اور آپ کو بتایا کہ وہ قیدیوں کو واپس کر دینے پر راضی ہیں اور انھوں نے اس امر کی اجازت دے دی ہے۔ (بخاری)

### توضیح

”اموالہم و سبیہم“ جنگ حنین میں چھ ہزار انسان گرفتار ہوئے تھے جن میں بچے بھی تھے عورتیں بھی تھیں اور بوڑھے بھی تھے جو ان بھی تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم غنائم میں کافی تاخیر کی تاکہ ہوازن کے لوگ مذاکرات کے لئے آجائیں وہ لوگ کافی تاخیر سے آگئے لیکن ایسے قصائد پڑھے کہ لوگوں کو رلا دیا آنحضرت نے فرمایا کہ اب اموال غنائم تقسیم ہو چکے ہیں اب تم دو باتوں میں ایک پسند کر لو یا مال واپس لے لو یا مال چھوڑ کر اپنے قیدی واپس کر لو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے انسانوں کو واپس کرنا چاہتے ہیں آنحضرت نے اپنے صحابہ کے سامنے ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ ہوازن کے لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں اب ان کے قیدیوں کو جو بخوشی واپس کرنا چاہے واپس کر دے اور جو واپس نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی قیدی واپس کر دے مگر وہ اپنے قیدی کے بدلے آئندہ ہم سے غلام لے لے صحابہ نے فرمایا کہ ہم واپس کرنے پر راضی ہیں آنحضرت نے فرمایا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کون خوش ہیں کون خوش نہیں تم اپنے قبیلے کے سرداروں سے بات کر لو سرداروں نے بھی خوشی کا اظہار کیا تب سارے قیدی واپس کر دئے گئے اور اموال تقسیم ہو گئے جن میں چالیس ہزار بکریاں تھیں چوبیس ہزار اونٹ تھے اور چار ہزار اوقیہ ہاتھ لگے تھے۔

### قیدیوں کا تبادلہ جائز ہے

(۱۰) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ ثَقِيفٌ حَلِيفًا لِبَنِي عُقَيْلٍ فَأَسْرَتْ ثَقِيفٌ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ فَأَوْثَقُوهُ فَطَرَحُوهُ فِي الْحَرَّةِ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ

يَا مُحَمَّدُ فِيمَ أُحِذْتُ قَالَ بِجَرِيرَةٍ خُلَفَائِكُمْ ثَقِيفٌ فَتَرَكَهُ وَمَضَىٰ فَنَادَاهُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَرَحِمَهُ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ قَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ  
أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ قَالَ فَقَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجُلَيْنِ الَّذِينَ أَسَرْتُهُمَا  
ثَقِيفٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اور حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف، بنو عقیل کا حلیف تھا چنانچہ جب قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نے بنو عقیل کے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا اور اس کو مضبوطی سے باندھ کر حرہ میں ڈال دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گذرے تو اس قیدی نے پکارا، اے محمد! مجھے کس جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اپنے حلیف قبیلہ ثقیف کے لوگوں کے جرم میں یعنی قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ہمارے دو مسلمانوں کو پکڑ لیا ہے ان کے بدلے میں تمہیں پکڑ لیا گیا ہے یہ کہہ کر آپ نے اس کو اس کے حال پر اسی جگہ چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے اس نے آنحضرتؐ کو پھر پکارا، اے محمد! اے محمد! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر جرم آگیا اور اس کے پاس واپس آئے اور فرمایا کہ تم کس حال میں ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں آپ نے فرمایا کاش! تم یہ بات اس وقت کہتے جب تم خود اپنے اختیار کے مالک تھے (یعنی جب کہ تم قید ہونے سے پہلے اپنے اوپر اختیار رکھتے تھے اور تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا اگر اس وقت بطریق رغبت کے یہ کہتے کہ میں مسلمان ہوں) تو تم نجات پا جاتے کامل نجات یعنی دنیا میں تو یہ نجات ملتی کہ قید نہ ہوتے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا پاتے راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان دونوں آدمیوں کے بدلے میں جن کو ثقیف نے گرفتار کیا تھا چھوڑ دیا۔ (مسلم)

## توضیح

”بجریرة حلفائکم“ معاہدہ معائدہ اور مخالفہ میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے برے بھلے میں دونوں برابر کے شریک ہوتے تھے بنو ثقیف اور بنو عقیل ایک دوسرے کے معاہدہ تھے بنو ثقیف نے صحابہؓ میں سے دو آدمیوں کو قید کر رکھا تھا صحابہ کرام نے بنو عقیل کے ایک آدمی کو پکڑ لیا اور باندھ کر گرم بیت پر ڈال دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گذر ہوا تو اس نے آواز دی کہ مجھے کس جرم میں گرفتار کر لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تمہارے معاہدہ بنو ثقیف کے جرم میں تم کو پکڑا ہے کہ انہوں نے ہمارے دو آدمیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسرے دن اس شخص نے پھر آواز دی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسلام لاتے تو ایک بات تھی اب تو تم بطور نفاق بھی کہہ سکتے ہو کہ میں مسلمان ہوں تاکہ تم کو آزادی ملے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کے بدلے اس شخص کو رہا کر دیا،

اس حدیث سے قیدیوں کے تبادلے کی تعلیم مل گئی۔

## الفصل الثانی

### بدر کے قیدیوں میں آنحضرت کا داماد تھا

﴿۱۱﴾ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أُسْرَائِهِمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقَّ لَهَا رَقَّةً شَدِيدَةً وَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَقَالُوا نَعَمْ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ يُخْلِيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كُونَا بَيْطُنَ يَاجِجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو کفار مکہ پر غلبہ اور فتح عطا فرمائی اور ان میں سے کچھ قتل کر دیئے گئے اور کچھ قیدی بنا کر مدینہ لائے گئے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی کے بدلے میں مال طلب کیا تو اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کا معاوضہ روانہ کیا آنحضرت کی صاحبزادی حضرت زینبؓ نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کی رہائی کے بدلے میں کچھ مال بھیجا جس میں ان کا وہ ہار بھی تھا جو پہلے حضرت خدیجہؓ کے پاس تھا اور اس کو انہوں نے ابو العاص کے ساتھ زینبؓ کے نکاح کے وقت ان کو جہیز میں دیا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو زینبؓ کے لئے آپ پر سخت رقت طاری ہو گئی۔ یعنی اس وقت اپنی بیٹی حضرت زینبؓ کی غربت و تنہائی کا احساس کر کے اور حضرت خدیجہؓ کی رفاقت کی یاد تازہ ہو جانے کی وجہ سے جن کے گلے میں وہ ہار رہتا تھا آپ کا دل امنڈ آیا اور آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو زینبؓ کی خاطر اس کے قیدی ابو العاص کو بلا معاوضہ رہا کر دو اور زینبؓ کو اس کی وہ سب چیزیں جو اس نے ابو العاص کی رہائی کے لئے بھیجی ہیں واپس کر دو۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ بہتر ہے ہم زینبؓ کا مال واپس کر کے ابو العاص کو بلا معاوضہ رہا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو العاص کو رہا کر دیا گیا۔ اور رہائی کے وقت آنحضرتؐ نے ابو العاص سے یہ عہد اور وعدہ لیا کہ وہ آپ کے پاس زینبؓ کے آنے کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ یعنی آپ نے ابو العاص کو رہا کرتے وقت ان سے کہا یہ پختہ وعدہ کرو کہ مکہ پہنچ کر زینبؓ کو میرے پاس مدینہ آنے دو گے اور اس کا راستہ نہیں روکو گے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہؓ اور انصار میں سے ایک شخص کو مکہ روانہ کیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ لطن یا نج میں ٹھہر جانا جب زینبؓ مکہ سے روانہ ہو کر وہاں تمہارے پاس آجائے تو تم اس کے ساتھ ہو جانا اور مدینہ لے آئے (احمد، ابو داؤد)

## توضیح

”فداء ابی العاص“ ابو العاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ان کے نکاح میں حضرت زینبؓ تھیں۔ حضرت ابو العاص ایک دفعہ بدر کی جنگ میں قید ہو گئے تھے جب فدیہ کے ذریعہ سے قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع ہو گیا تو حضرت زینبؓ نے اپنے شوہر کی رہائی کے لئے وہ ہار بھیجا جو ہار بوقت رخصتی حضرت خدیجہؓ نے ان کو دیا تھا آنحضرتؐ نے جب یہ ہار دیکھا تو پرانا دور یاد آ گیا آپ پر رقت کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر میری بیٹی کے ہار کو بھی واپس کر لو اور قیدی بھی چھوڑ دو تو اچھا ہو گا صحابہ نے اس کو پسند فرمایا آنحضرتؐ نے ابو العاص سے یہ شرط لگائی کہ میری بیٹی کو مدینہ روانہ کر دو چنانچہ ابو العاص نے وفاداری کی اور وطن یا حج مقام پر حضرت زینبؓ کو دو صحابہ کے حوالہ کر دیا اور صحابہ اس کو مدینہ لے گئے ان میں سے ایک حضور کا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین ایک مضبوط نظام ہے اور اس کی آیاری کے لئے بڑی قربانیاں دیدی گئی ہیں۔

## قیدی کو قتل کرنا بھی جائز ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُسِرَ أَهْلُ بَدْرٍ قَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَالنَّضَرَ بْنَ الْحَارِثِ وَمَنْ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْجُمُعِيِّ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

اور حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ میں مجاہدین اسلام کے خلاف لڑنے والوں میں سے جن کفار کو قید کیا تھا ان میں سے عقبہ بن ابومعیط اور نضر بن حارث کو قتل کر دیا اور ابو عزة کو بلا معاوضہ رہا کر کے ممنون کیا۔ (شرح السنہ)

## توضیح

”قتل عقبہ بن ابی معیط“ عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث وہ دو بد بخت تھے جنہوں نے آنحضرتؐ کو مکہ مکرمہ میں سخت ایذا پہنچائی تھی عقبہ پر لے درجہ کا بیوقوف اور ابو جھل کا خاص اہل کار چمپہ تھا اس نے کئی دفعہ آنحضرتؐ پر ہاتھ اٹھایا اور جسم پر گندگی ڈالی۔ آج یہ بدر کے قیدیوں میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ محمدؐ کی آنکھوں میں موت نظر آرہی ہے نضر بن حارث قرآن کا دشمن تھا اور اس کا مذاق اڑاتا تھا دونوں کو گرفتاری کے بعد قتل کر دیا گیا اور تیسرا شخص ابو عزنہ جمحی شاعر تھا حضور اکرمؐ نے ان کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف نہ ہاتھ استعمال کرو گے اور نہ زبان استعمال کرو گے یہ بد بخت پھر احد کے میدان میں آ گیا اور بعد میں راستے میں پکڑا گیا اور گرفتاری کے بعد حضور اکرمؐ نے قتل کا حکم دیدیا اور فرمایا کہ مسلمان ایک

سورخ سے دوبار نہیں ڈسا جاسکتا۔

﴿۱۳﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ قَالَ مَنْ لِلصَّبِيَةِ قَالَ النَّارُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقبہ ابن ابومعیط کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ میرے بچوں کو کون پالے گا؟ آپ ﷺ فرمایا ”آگ“۔ (ابوداؤد)

بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی

﴿۱۴﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جَبْرِيلَ هَبَطَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خَيْرُهُمْ يَعْزِي أَصْحَابَكَ فِي أُسَارَى بَدْرِ الْقَتْلِ أَوِ الْفِدَاءِ عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ قَابِلًا مِثْلَهُمْ قَالُوا الْفِدَاءُ وَيُقْتَلُ مِنَّا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آپ اپنے صحابہ کو جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیجئے کہ خواہ وہ ان قیدیوں کو قتل کر دیں یا فدیہ لے لیں یعنی مال لے کر ان کو چھوڑ دیں لیکن فدیہ لینے کی صورت میں آئندہ سال ان صحابہ کے اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے صحابہؓ نے اس اختیار کو سن کر عرض کیا کہ ہم فدیہ لینے کو اور اپنے ستر آدمیوں کے مارے جانے کو اختیار کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح

”القتل أو الفداء“ بدر میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ اہل مکہ کے ستر آدمی تھے جن میں بڑے نامور اشخاص بھی تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو یا فدیہ لیلو لیکن فدیہ کی صورت میں آئندہ تمہارے ستر آدمی مارے جائیں گے اس فیصلہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت حال کو صحابہ کے سامنے رکھا اور اپنی رائے یہ ظاہر فرمادی کہ فدیہ لینا اچھا ہے۔ صدیق اکبر نے بھی فدیہ لینے کو بہتر قرار دیا تا کہ فی الحال فدیہ کے مال سے جہاد کا میدان مستحکم ہو جائے باقی ہم شہادت کے متلاشی ہیں اگر ہمارے آدمی آئندہ سال شہید ہو جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں عام صحابہ کی بھی یہی رائے تھی۔ صرف حضرت عمرؓ اور حضرت سعد بن معاذؓ دونوں کی رائے تھی کہ یہ صنادید قریش ہیں فدیہ نہیں لینا چاہئے بلکہ قتل کر دینا چاہئے بہر حال فیصلہ حضور اکرم اور عام صحابہ کی رائے کے مطابق ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید آئی حضور اکرم نے فرمایا کہ اس درخت تک عذاب پہنچ گیا تھا اگر عذاب الہی آتا تو عمر و سعد کے سوا دوسرا کوئی نہ بچتا

اب سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے کا اختیار تھا تو پھر یہ وعید اور سرزنش کیوں آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اختیار بھی امتحان کے طور پر تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں فدیہ نہ لینا تھا کہ سب کا قتل ہو جائے اس وجہ سے سرزنش آئی۔

## قیدیوں کی عمر میں تحقیق و تفتیش

﴿۵﴾ وَعَنْ عَطِيَّةِ الْقُرْظِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ غُرَضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكَشَفُوا عَائِي فَوَجَدُوا هَا لَمْ تُنْبِتْ فَجَعَلُونِي فِي السَّبْيِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ

اور حضرت عطیہ قرظی کہتے ہیں کہ بنو قریظہ کے جو لوگ قیدی بنا کر لائے گئے تھے ان میں میں بھی تھا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت صحابہؓ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ قیدیوں میں جو چھوٹی عمر والے تھے ان کے زیر ناف حصے کو کھول کھول کر دیکھ رہے تھے جس کے زیر ناف حصے پر بال اگ آئے تھے اس کو قتل کر دیا جاتا۔ کیونکہ زیر ناف حصے پر بال اگ آنا بلوغ کی علامت ہے لہذا ایسے شخص مسلمانوں سے لڑنے والا شمار کیا جاتا تھا۔ اور جس کے بال نہ اگے ہوئے تھے اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ کیونکہ اس کو ذریت یعنی بچوں میں شمار کیا جاتا تھا چنانچہ میرے زیر ناف حصے کو بھی کھولا گیا اور جب وہاں اگے ہوئے بال نہیں پائے گئے تو مجھ کو قیدیوں ہی میں زندہ رکھا گیا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

توضیح

”القرظی“ یہ بنو قریظہ کی طرف نسبت ہے حضرت عطیہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی اور اب وہ آخرت میں مزے لوٹ رہے ہیں اور دنیا میں مسلمانوں کے لئے شیخ الحدیث بن گئے صحابہؓ نے زیر ناف بال کو بلوغ کی علامت قرار دیا۔ فقہاء نے بھی اس کو بلوغ کی نشانی قرار دیا ہے۔

## کسی مسلمان کو کافروں کے حوالہ کرنا حرام ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجَ عَبْدَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ صَلَاحٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيَهُمْ قَالُوا يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ وَإِنَّمَا خَرَجُوا رَبًّا مِنَ الرِّقِّ فَقَالَ نَاسٌ صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدُّهُمْ إِلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَا أَرَأَكُمْ تَنْتَهُونَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا

وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ هُمْ عِتْقَاءُ اللَّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان معاہدہ لکھے جانے سے پہلے کچھ غلام مکہ سے آکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے ان کے مالکوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ اے محمد! خدا کی قسم یہ غلام تمہارے پاس اس لئے نہیں پہنچے ہیں کہ وہ تمہارے دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ بلکہ یہ لوگ غلامی سے نجات پانے کی غرض سے بھاگ کر گئے ہیں۔ جب صحابہ میں سے چند لوگوں نے یہ مکتوب دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کے مالکوں نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ آپ ان غلاموں کو ان کے مالکوں کے پاس واپس بھیج دیجئے یہ نہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہو گئے اور فرمایا کہ قریش والو! میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنی سرکشی اور نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ تم پر اس شخص کو مسلط نہ کر دے جو تمہارے اس فیصلے کی بناء پر تمہاری گردن اڑا دے۔ پھر آپ نے ان غلاموں کی واپسی کے مطالبہ کو رد کر دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں۔ (ابوداؤد)

”فغضب“ آنحضرت اس لئے غصہ ہوئے کہ یہ غلام خالص مسلمان تھے اور لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو اپنے پرانے آقاؤں کی طرف لوٹا دیا اور آزادی کے بعد پھر ان کو غلام بنایا جائے۔

### الفصل الثالث

#### ایک کی بے احتیاطی سے سب کی مصیبت

﴿عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَدِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَانًا صَبَانًا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنَّا أَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَاهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک قبیلہ بنی جدیمہ میں بھیجا خالدؓ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی وہ لوگ اضطراب و سرسبکی کے عالم میں یہ اچھی طرح سے نہیں کہہ سکے کہ ہم اسلام لائے یعنی وہ اپنی زبانوں سے اسلام کا کلمہ پوری طرح ادا نہیں کر سکے بلکہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ صباننا صباننا یعنی ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا اپنا دین چھوڑ دیا خالدؓ نے جب ان کی زبان سے یہ سنا تو ان کے بعض لوگوں کو قتل کرنا اور بعض کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور پھر ہم لوگ جو ان کے ساتھ تھے ان میں سے ہر شخص کو اس کا قیدی سپرد کر دیا یعنی جو لوگ قیدی بنائے گئے انکو ہمارے درمیان تقسیم کر کے ایک ایک قیدی ہر ایک کے سپرد کر دیا اور یہ حکم دیا کہ ہم ان قیدیوں کی اس وقت تک حفاظت



وگرائی کریں جب تک کہ ہمیں ان کو قتل کر دینے کا حکم نہ دیا جائے چنانچہ جب ایک وہ دن آیا جس میں خالدؓ نے ان قیدیوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے قید کو قتل کر دے یہ حکم سن کر میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی شخص اپنے قیدی کو قتل کرے گا بلکہ ہم لوگ اپنے قیدیوں کو اس وقت تک اپنی حفاظت میں رکھیں گے جب تک کہ ہم دربار رسالت میں نہ پہنچ جائیں اور اس بارے میں کوئی آخری حکم حاصل نہ کریں۔ چنانچہ ہم نے اپنے قیدیوں کو اپنی حفاظت میں رکھا یہاں تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا آنحضرتؐ نے واقعہ کی تفصیل سن کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہا کہ اے اللہ میں تیرے حضور میں خالد کے عمل سے اپنی بیزاری و بے رضائی کا اظہار کرتا ہوں۔ آپؐ نے یہ

الفاظ دوسرے تبارشاد فرمائے۔ (بخاری)

### توضیح

”صَبْنَا صَبْنَا“ یہ اسلام قبول کرنے کی ایک تعبیر تھی اس بارہ میں صحابہ کرام اور حضرت خالدؓ نے یہ خیال نہ کیا کہ یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے کی غرض سے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے بعض صحابہ نے اپنے قیدیوں کو رہا کرنے کے بجائے قتل کر دیا اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر حضرت خالد کے اس فعل سے براءت کا اعلان کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ خون گرانے کے سلسلہ میں مبہم الفاظ پر کبھی بھی عمل نہیں کرنا چاہئے۔

## باب الامان

## امان دینے کا بیان

قال الله تعالى ﴿وان احدمن المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمناً﴾  
امان اور امن خوف کا ضد ہے کسی کو جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ دینا امن کہلاتا ہے۔ امان کی مشہور تین صورتیں ہیں۔ (۱) کوئی کافر حربی دار اسلام میں آکر امن طلب کرے اور مسلمانوں میں رہے یہ مبتا من کہلاتا ہے ان کی جان و مال دونوں کی حفاظت ضروری ہے اور یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔

(۲) امان کی دوسری صورت یہ ہے کہ معاہدہ و حلیف یعنی جن لوگوں یا ملکوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا خصوصی حکم دیا گیا ہو اور خلیفہ وقت نے ان سے عدم قتال پر معاہدہ کیا ہو تمام مسلمانوں پر اس کی پاسداری لازم ہے یا درہے کفار کے ساتھ دس سال سے زیادہ جنگ بندی کا معاہدہ جائز نہیں ہے۔ (۳) جو شخص کسی قوم و ملک یا کسی قبیلہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہو ان کی حفاظت لازم ہے لفظ امان ان تینوں صورتوں کو شامل ہے۔

## فتح مکہ کے دن امان کی ایک صورت

﴿۱﴾ عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا يَا هَانِئِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّیَ عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فَلَانَ بْنِ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يَا هَانِئِ قَالَتْ أُمُّ هَانِئِ وَذَلِكَ ضَحَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِّلْإِسْرَمِذِيِّ قَالَتْ أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتَ .

حضرت ام ہانی بنت ابوطالب کہتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال یعنی فتح مکہ موقع پر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آنحضرت اُس وقت غسل فرما رہے تھے اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؑ کپڑے سے آپ کو پردہ کئے ہوئے تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں ہوں ام ہانی بنت ابوطالب آپ نے

فرمایا ام ہانی کو خوش آمدید! پھر جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو جسم پر کپڑا لپیٹے ہوئے آپ کھڑے ہوئے اور نماز چاشت کی آٹھ رکعتیں پڑھیں اور جب نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے بیٹے یعنی حضرت علیؑ نے بتایا ہے کہ وہ اس شخص کو قتل کرنے والے ہیں جس کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے یعنی فلاں شخص کو جو ہیرہ کا بیٹا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جس کو تم نے پناہ دی ہے گویا اس کو ہم نے پناہ دی حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ یہ واقعہ چاشت کے وقت کا ہے۔

اور ترمذی کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ام ہانیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے دو آدمیوں کو پناہ دی ہے جو میرے خاوند کے رشتہ دار ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری طرف سے اس شخص کے لئے امان ہے جس کو تم نے امان دی ہے۔

## توضیح

”یغتسل“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر وادی محصب کے پاس ایک جگہ پر اپنے رہنے کے لئے ایک خیمہ نصب کرایا تھا اور وہیں پر اپنا جھنڈا گاڑا تھا اس جگہ میں آج کل ایک مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد رایہ ہے جو چھپرہ بازار کے آخر میں واقع ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ میں غسل فرما رہے تھے کہ ام ہانی وہاں آئی ام ہانی کا اصل نام فاختہ یا عاتکہ تھا آنحضرت کی چچا زاد بہن ابوطالب کی بیٹی تھی ان کے شوہر کا نام ہبیرہ تھا فتح مکہ کے دن آنحضرت نے امن کا عام اعلان کیا تھا مگر یہ شرط رکھی تھی کہ جو اسلحہ ڈال دے یا گھر کا دروازہ بند کر دے یا حرم میں یا مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا ابوسفیان کے گھر میں آجائے وہ امن میں ہے۔ حضرت علیؑ جب اپنی بہن ام ہانی کے گھر میں داخل ہوئے تو وہاں ایک آدمی ملا حضرت علیؑ نے خیال کیا کہ اس شخص کو امن حاصل نہیں لہذا ان کو قتل کرنا چاہئے حضرت ام ہانی آڑے آئی مگر حضرت علیؑ سخت غصہ میں تھے ام ہانی دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور امن حاصل کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دیدیا ام ہانی نے حضرت علیؑ کو ابن امی بطور شفقت کہا ہے کیونکہ ماں کا ماتا زیادہ ہوتا ہے فلان بن ہبیرہ سے یہی شخص مراد ہے جو ہبیرہ کا بیٹا تھا تفصیلی روایت میں ہے کہ یہ دو شخص تھے جو ہبیرہ کے رشتہ دار تھے شاید ایک بیٹا ہو دوسرا کوئی اور ہو۔

## الفصل الثانی

عورت کے عہد و امان کی پاسداری مسلمانوں پر لازم ہے

﴿۲﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذَ لِلْقَوْمِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کسی قوم کے لئے عہد لیتی ہے یعنی وہ مسلمانوں کی طرف سے پناہ دے سکتی ہے۔ (ترمذی)

## توضیح

یعنی ادنیٰ سے ادنیٰ گناہ آدمی حتیٰ کہ عورت بھی اگر جنگ کے دوران کسی کافر کو پناہ دیدے تو سارے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس عورت کے عہد و امان کی حفاظت و پاسداری کریں اور غداری نہ کریں، مسلمانوں کو سوچنا چاہئے یہ اسلام کا حکم ہے اس پر مسلمان عمل کیوں نہیں کرتے ہیں وزیرستان میں آج کل ہزاروں مسلمانوں نے ملکر چند مجاہدین کو امن دیا ہے جو خالص مسلمان ہیں مگر پاکستان کی متحد حکومت ان پر بمباری کر رہی ہے اور اس امن کو توڑ رہی ہے اور غداری کی مرتکب ہو رہی ہے۔

## عہد و امان توڑنے والے کے لئے وعید

﴿۳﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ أُعْطِيَ لَوَاءَ الْعَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

اور حضرت عمرو بن حمق کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی کو اس کی جان کی

امان دے اور پھر اس کو مار ڈالے تو قیامت کے دن اس کو بد عہدی کا نشان دیا جائے گا۔ (شرح السنہ)

یعنی عرصات قیامت میں مشہور کر دیا جائے گا کہ فلاں شخص نے غداری کی تھی اس شہرت سے اس شخص کی تذلیل و تحقیر ہوگی لوگوں سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ شخص کس قدر ذلیل ہے۔

## حضرت معاویہؓ نے حدیث سن کر فوج واپس کر دی

﴿۴﴾ وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرَدَوْنٍ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَاءَ لَا غَدْرَ فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحِلُّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمُضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ قَالَ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالْبَنَاسِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت سلیم بن عامر (تلمیعی) کہتے ہیں کہ امیر معاویہؓ اور رومیوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اتنے دنوں تک ایک

دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے اور حضرت معاویہؓ اس معاہدے کے زمانہ میں رومیوں کے شہروں میں گشت کر کے

حالات کا اندازہ لگایا کرتے تھے تاکہ جب معاہدہ کی مدت گزر جائے تو وہ ان رومیوں پر یکبارگی سے ٹوٹ پڑیں اور ان کے ٹھکانوں کو تاخت و تاراج کر دیں۔ پھر انہی دنوں میں جبکہ امیر معاویہؓ اپنے لشکر والوں کے ساتھ رومیوں کے شہر میں پھر رہے تھے ایک شخص عربی یا ترکی گھوڑے پر سواریہ کہتے ہوئے آئے کہ اللہ اکبر اللہ کبر! وفاق کو ملحوظ رکھو نہ کہ بعدہدی کو جب لوگوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ شخص ایک صحابیؓ حضرت عمرو ابن عبسہؓ ہیں حضرت امیر معاویہؓ نے ان سے اس بات کو پوچھا کہ رومیوں کے شہروں میں ہمارا پھر نا عہد شکنی کے مرادف کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص اور کسی قوم کے درمیان معاہدہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عہد کو توڑے اور نہ باندھے تاکہ اس معاہدہ کی مدت گزر جائے یا وہ ان کو مطلع کر کے برابری کی بنیاد پر اپنا عہد توڑ دے (یعنی اس معاہدہ کے خلاف کرنا یا تو اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس معاہدہ کی مدت ختم ہوگئی ہو یا اس صورت میں جائز ہے جبکہ کسی مجبوری یا مصلحت کی بناء پر مدت کے دوران ہی معاہدہ توڑنا ضروری ہو گیا ہو اور فریق مخالف کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا ہم اس کو توڑتے ہیں۔ اب ہم اور تم دونوں برابر ہیں کہ جس کی جو مرضی ہو کرے) حدیث کے راوی حضرت سلیمؓ ابن عامر کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہؓ حضرت ابن عبسہؓ کی یہ بات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن کر اپنے لوگوں کے ساتھ رومیوں کے شہر سے اپنے کیمپ میں واپس چلے آئے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

## توضیح

”سیسر“ حضرت معاویہؓ نے معاہدہ کے دوران حملہ کرنا نہیں چاہا بلکہ آپ نے یہ سوچا کہ جب معاہدہ کی مدت ختم ہو جائے گی تو حملہ کرنے کے لئے فوج تیار ہو جائے گی اس غرض سے اسلامی افواج کو روم کی سرحد کے قریب پہنچانا چاہا حضرت معاویہؓ یہ تیاری کر رہے تھے کہ ایک صحابی عربی گھوڑے یا ترکی گھوڑے پر آئے اور فرمایا وفاداری کرو غدار ی نہ کرو یعنی یا مدت کے ختم ہونے کے بعد فوج روانہ کرو اور یا بوجہ مصلحت معاہدہ ختم کرنے کا واضح اعلان کر دو تاکہ دشمن بے خبر نہ رہے ”یَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ“ کا یہی مطلب ہے حضرت معاویہؓ نے یہ حدیث سن کر افواج کو واپس کر دیا سبحان اللہ دین کی ایک بات کی کتنی پاسداری تھی؟ اس حدیث کا ترجمہ و مطلب صاحب مظاہر حق جدید نے صحیح نہیں لکھا ہے خیال کرنا چاہئے۔

”فَلَا يَحِلُّنَ“ یعنی معاہدہ نہ توڑے اور غدار ی نہ کرے ”وَلَا يَشُدُّنَهُ“ مطلب یہ کہ معاہدہ میں کوئی تغیر نہ کرے خواہ نئے معاہدہ کے ساتھ کیوں نہ ہو یہ بطور مبالغہ فرمایا کہ معاہدہ میں کوئی تغیر نہ کرے ورنہ تجدید معاہدہ کی ممانعت نہیں ہے ”فَرَسٌ“ عربی گھوڑا ”بِرْذَوْنٌ“ ترکی گھوڑا۔

﴿۵﴾ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ بَعَثَنِي قُرَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا

قَالَ اِنِّیْ لَا اَخِیْسُ بِالْعَهْدِ وَلَا اَخِیْسُ الْبُرْدَ وَلٰكِنْ اَرْجِعْ فَاِنْ كَانَ فِیْ نَفْسِکَ الَّذِیْ فِیْ نَفْسِکَ  
الْآنَ فَاَرْجِعْ قَالَ فَذَهَبْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمْتُ . رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش نے مجھے اپنا قاصد بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جب میری نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو بے اختیار میرے دل میں اسلام کی صداقت و حقانیت نے گھر کر لیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم میں اب کبھی بھی ان کفار قریش کے پاس واپس نہیں جاؤں گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ تو عہد کو توڑا کرتا ہوں اور نہ قاصدوں کو روکا کرتا ہوں۔ البتہ تم اب تو واپس چلے جاؤ۔ اگر تمہارے دل میں وہ چیز یعنی اسلام قائم رہے جو اس وقت موجود ہے تو پھر میرے پاس چلے آنا، حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں مکہ واپس ہو گیا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور اسلام قبول کر لیا یعنی اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”لا اخیس“ خاص تخفیس معاہدہ توڑنے کے معنی میں ہے ”ای لا انقض العہد“۔ ”البرد“ یہ برید کی جمع ہے ڈاک اور پیغام لانے لیجانے والے قاصد کو کہتے ہیں۔

علامہ طبری لکھتے ہیں کہ برید اصل میں خچر کو کہا جاتا تھا یہ لفظ اصل میں بریدہ دم تھا جو فارسی لفظ ہے یعنی وہ خچر جس کی دم کے بال کاٹ دیئے گئے ہوں ایسے خچروں کی دموں سے لمبے بال کاٹ دیا کرتے تھے پھر عرب نے اس کو مخفف کر کے برید کر دیا پھر اس کا اطلاق خچر کے شہسوار پر ہوا، پھر برید اس مسافت پر بولا جانے لگا جو گھوڑے کی دوڑ کی مقدار تھی جو بارہ میل تک ہوتی تھی قدیم زمانہ میں ڈاک اور پیغام لانے لیجانے کا ایک عجیب سرلیج حرکت نظام قائم تھا وہ اس طرح تھا کہ ہر برید پر تازہ دم گھوڑے کھڑے رہتے تھے مثلاً لاہور سے دہلی تک مغول بادشاہوں کے زمانہ میں ہر برید پر گھوڑے ہوتے تھے بارہ میل تک گھوڑا تیز گاڑی کی طرح دوڑتا رہے پھر تھک جاتا ہے ایک برید تک جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ایک برید کے بعد یہ گھوڑا رہ جاتا تھا اور وہاں سے تازہ دم گھوڑا سامان لیکر چلتا تھا اور دوسرے برید پر جا کر رکتا تھا وہاں سے اور گھوڑا چلتا تھا چنانچہ صبح کے وقت کے ٹماٹر لاہور سے شام ہونے سے پہلے دہلی پہنچ جاتا تھا اور وہاں سے لاہور تک سامان آتا تھا ڈاک کا نظام بھی اسی طرح چلتا تھا۔

## قاصد کو قتل نہیں کیا جاسکتا

﴿وَعَنْ نَعِيمِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلَيْنِ جَاءَا مِنْ عِنْدِ مُسَيْلِمَةَ أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ لَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ﴾

اور حضرت نعیم ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے فرمایا جو مسیلہ کے پاس سے آئے تھے کہ یاد رکھو! خدا کی قسم اگر قاصد کو مارنا شرعی طور پر ممنوع نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ (احمد، ابوداؤد)

## توضیح

”لرجلین“ یہ دو قاصد تھے ایک کا نام عبداللہ بن نواح تھا اور دوسرے کا نام ابن اثال تھا جیسا کہ حدیث ۸ میں آ رہا ہے۔ ”مسیلہ“ یہ شخص مسیلہ کذاب تھا جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں دعویٰ کر چکا تھا آنحضرت کے پاس ایک وفد میں یہ آیا بھی تھا مگر ملاقات نہیں کی، اس نے حضور کو ایک خط لکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ”الی مسیلہ الکذاب“ لکھا تھا اسی سے کذاب مشہور ہو گیا حضرت صدیق اکبرؓ نے مرتدین کے خلاف جو جنگیں لڑیں اس میں زیادہ تر جنگیں مسیلہ کذاب سے ہوئیں حضرت خالد نے ان پر چڑھائی کی مسیلہ کذاب کے پاس چالیس ہزار طاقتور فوج تھی یمامہ کی جنگ میں ایک قلعہ کے اندر گھسان کی جنگ ہوئی بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے وحشی بن حرب نے مسیلہ کذاب پر حملہ کر دیا اور قتل کر دیا اس وقت مسیلہ کذاب کی عمر ۱۲۰ سال تھی جہاں یہ معرکہ ہوا کثرت اموت کی وجہ سے اس جگہ کا نام حدیقة الموت مشہور ہو گیا تھا۔ ”الرسال“ قاصد جس طرح پیغام لاتا ہے اسی طرح واپس پیغام لیجاتا ہے اس لئے یہ آپس کے روابط اور مذاکرات کا واحد ذریعہ ہے جو طرفین کے مفاد میں ہے اس لئے بین الاقوامی طور پر قاصدوں کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کو قتل نہیں کیا جاتا اسلام کا قانون بھی یہی ہے لیکن آج کل جو سفیر ہوتے ہیں یہ محض جاسوس ہوتے ہیں مگر نام قاصد و سفیر ہے۔ ”اعناقکما“ یعنی آنحضرت کے سامنے ان دو قاصدوں نے مسیلہ کذاب کی نبوت کی گواہی دی اس لئے واجب القتل تھے اگر قاصد نہ ہوتے۔

## اسلام کا ضابطہ مکمل اور کافی ہے

﴿وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ يَغْنِي الْإِسْلَامَ الْأَشَدَّةَ وَلَا تُخَدِّثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ﴾

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عُمَرَ وَدَقَالَ حَسَنٌ ذَكَرَ حَدِيثَ عَلِيِّ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَائُهُمْ فِي كِتَابِ الْقِصَاصِ.

اور حضرت عمر وابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبہ کے دوران یہ فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت کی قسم کو پورا کرو کیونکہ وہ یعنی اسلام اس قسم کو زیادہ ہی مضبوط کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی قسم اور اپنے عہد کو پورا کرنا اسلام میں کہیں زیادہ ضروری ہے اس اعتبار سے اسلامی احکام اور ایفاء عہد و حلف میں کوئی تضاد نہیں ہے اور اسلام میں حلف یعنی قسم قسمی کو رواج نہ دو امام ترمذی نے اس حدیث کو حسین ابن ذکوان کی سند سے برایت حضرت عمرؓ نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

## توضیح

”اوفوا“ یعنی جاہلیت کے زمانہ میں جو معاہدہ ہو گیا ہے اس کی پاسداری کرو اسلام اس کو توڑتا نہیں بلکہ مزید مستحکم کرتا ہے لیکن اس میں ان تمام قواعد کو دیکھا جائے گا جو اسلام کے قواعد کے مطابق ہوں اسلام کے مخالف قواعد کو برقرار نہیں رکھا جائے گا۔ ”ولا تحذثوا“ یعنی میراث کے احکامات کے نفاذ کے بعد کسی جدید معاہدہ کی ضرورت نہیں کہ کوئی کسی کو اپنا وارث بنانے کا معاہدہ کرے کیونکہ جو حقوق اسلام نے دیے ہیں میراث نے اس کو متعین کر دیا ہے۔

## الفصل الثالث

### مسلمہ کذاب کے دو قاصد

﴿۸﴾ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ ابْنُ النَّوَاحَةِ وَابْنُ أَثَالٍ رَسُولًا مُسْلِمَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا أَتَشْهَدَانِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّ مُسْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَمَضَتْ السَّنَةُ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يُقْتَلُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ مسلمہ کذاب کے دو قاصد ابن نواحہ اور ابن اثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اس حقیقت کی گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ ان دونوں نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ خدا کا رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا! اگر میں قاصدوں اور ایلیچوں کو قتل کرنے والا ہوتا تو یقیناً میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت کے اس ارشاد گرامی کے پیش نظر پھر یہ سنت جاری ہو گئی (یعنی یہ ضابطہ قرار پایا کہ



کسی قاصدا پلچی کو قتل نہ کیا جائے خواہ وہ کتنی ہی غیر مناسب بات کیوں نہ کرے اور قتل ہی کا سزاوار کیوں نہ ہو۔ (احمد)

توضیح

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلہ کے دو قاصدوں سے اپنی نبوت و رسالت کی گواہی مانگی تو انہوں نے جواب میں کہہ دیا کہ ہم تو صرف مسیلہ کو رسول مانتے ہیں اس لئے آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دے سکتے اس کے جواب میں آنحضرت نے ایک اعلیٰ منصف کی حیثیت سے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو مانتا ہوں مسیلہ کذاب رسول نہیں ہے بلکہ کذاب اور ملعون ہے اور تمہاری ناشائستہ گفتگو کے پیش نظر تم واجب القتل ہو لیکن میں قاصدوں کو قتل نہیں کرتا ہوں اس لئے تم بچ گئے راوی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آنحضرت کے کلام سے بین الاقوامی طور پر یہ ضابطہ چل پڑا کی کسی پلچی کو قتل نہیں کیا جاتا ہے۔

## باب قسمة الغنائم والغلول فيها

### مال غنیمت کی تقسیم اور خیانت کا بیان

قال الله تعالى ﴿واعلموا ان ما غنتم من شيء فان لله خمسہ وللرسول ولذی القربی الخ﴾ غنائم غنیمہ کی جمع ہے میدان جہاد میں کفار سے جنگ کے ذریعہ جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے اگر کوئی مال جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے وہ مال فی کہلاتا ہے جس کا ذکر الگ باب میں آنے والا ہے مال غنیمت کو انفال و نفل بھی کہتے ہیں نفل زائد کے معنی میں ہے چونکہ جہاد کا اصل مقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہوتا ہے اور مال اس مقصد سے زائد ہوتا ہے اس لئے اس کو نفل اور زائد کہتے ہیں۔

”واعلموا انما غنتم“ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ چار حصے مجاہدین کے لئے ہیں پانچواں حصہ بیت المال کا ہے غنائم کی مباحث میں چند اصطلاحی الفاظ آئے ہیں اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔

الغنیمۃ: جہاد فی سبیل اللہ میں بزور بازو کفار سے جو مال چھینا جاتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں۔

الغنی: لڑائی کے بغیر صرف کفار پر چڑھائی کے ذریعہ سے جو مال حاصل ہو جائے وہ مال فی ہے۔

تنفیل: یہ نفل سے ہے جو زائد کے معنی میں ہے بادشاہ یا امیر الحرب کسی کارنامے پر مجاہد کے لئے انعام کا جو اعلان کرتا ہے ہے وہ تنفیل ہے مثلاً بادشاہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے فلاں قلعہ فتح کیا تو ان کو اس قلعہ کا دسواں حصہ مال دیا جائے گا یا کافر بادشاہ کی بیٹی اس کو ملے گی۔

السلب: سلب چھیننے کے معنی میں ہے بادشاہ یا امیر الحرب جب اعلان کرے کہ جس شخص نے جس کافر کو قتل کیا تو اس کو اس مقتول کے بدن کا سامان ملیگا۔ مثلاً گھڑی کپڑے جوتے جیب کا سامان اسلحہ اور سواری وغیرہ سب سلب میں داخل ہیں۔

الرضخ: رضخ عطیہ کے معنی میں ہے جن لوگوں کو مال غنیمت میں حصہ نہیں دیا جاتا وہ اگر جہاد میں حاضر ہو گئے تو غنیمت کے حصہ کی جگہ ان کو کچھ عطیہ دیا جاتا ہے اسی کو رضخ کہتے ہیں۔ خس ہٹانے کے بعد بقیہ مال میں سے یہ عطیہ غلاموں بچوں اور عورتوں کو دیا جاتا ہے۔

الصفی: صفی چُنے اور انتخاب کے معنی میں ہے تقسیم غنیمت سے پہلے آنحضرت کسی تلوار یا زرہ یا لونڈی کا انتخاب کر کے لیتے تھے اس کا نام صفی تھا چنانچہ کہتے ہیں ام المؤمنین صفیۃ من الصفیۃ حضور اکرم کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا ہے اب کسی بادشاہ کا مال غنیمت سے صفی اٹھانا جائز نہیں ہے۔

غلول: مال غنیمت میں خیانت کو غلول کہتے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے۔  
باقی تفصیلات میری کتاب دعوت جہاد کے ابواب غنائم میں ہیں وہاں دیکھنا چاہئے۔

## الفصل الاول

مال غنیمت کا استعمال اس امت کی خصوصیات میں سے ہے

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَا أَى ضَعْفًا وَعِجْزًا فَطَيَّبَهَا لَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حضرت ابو ہریرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس غنیمت کا مال ہم سے پہلے کسی امت کے لئے حلال نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی طور پر کمزور و عاجز دیکھا تو اس مال غنیمت کو ہمارے لئے حلال قرار دیا۔ (بخاری، مسلم)

## توضیح

”فلَمْ تَحِلَّ“ سابقہ امتوں پر چند مذہبی تنگیاں تھیں اس امت سے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم کی برکت سے وہ تنگیاں ہٹا دی جو اس امت کی خصوصیات میں شمار ہوتی ہیں سابقہ امتوں میں مال غنیمت اور قربانی کا گوشت استعمال کرنا ممنوع تھا آسمان سے آگ آتی تھی اور مقبول مال کو جلا کر کھا جاتی تھی اس امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا سابقہ امتوں کے لئے مسجد سے باہر اور جماعت کے بغیر نماز جائز نہیں تھی اس امت کے لئے سب جائز ہے۔

سابقہ امتوں کے لئے پانی کے علاوہ طہارت حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اس امت کے لئے پانی کو مٹی کا قائم مقام بنایا گیا اور تیمم کا سہم دیا گیا یہود پر چربی حرام کی گئی تھی اور ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار حرام تھا اور اونٹ کا گوشت حرام تھا وہ اگر رات کے وقت گناہ کرتے تو دن میں دروازہ پر لکھا جاتا تھا کپڑے پر نجاست لگتی تو کاٹنا پڑتا تھا دھونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس امت سے یہ سارے بوجھ ہٹائے گئے نصاریٰ نے جس رہبانیت میں اپنے آپ کو مبتلا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی برکت سے مسلمانوں کو ان تمام تنگیوں سے آزاد فرمایا اسی احسان کا ذکر اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرما کر مال غنیمت استعمال کرنا حلال کر دیا۔

کافر مقتول سے چھینا ہوا مال قاتل مجاہد کا ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا التَقَيْنَا

كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعْتُ الدَّرْعَ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَذْرَكُهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمَرَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَهَمْتُ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلْبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنِّي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَهَا اللَّهُ اإِذْنٌ لَا يَعْمَدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلْبُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَأَعْطَانِيهِ فَأَبْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لِأَوَّلِ مَا تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابوقتادہؓ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے سال ہم جہاد کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے جب کافروں سے ہمارا مقابلہ ہوا تو کچھ دیر کے لئے مسلمانوں کو شکست کی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا میں نے دیکھا کہ ایک مشرک ایک مسلمان پر غالب آ گیا ہے میں نے اس کے پیچھے سے اس کی گردن کی رگ پر تلوار کا بھرپور وار کر کے اس کی زرہ کا ڈالی وہ مشرک مجھ پر جھپٹ پڑا اور اس نے اتنے زور سے مجھے دبوچا کہ اس کی وجہ سے موت کا مزہ آ گیا یعنی میں مرنے کے قریب ہو گیا پھر میرے ایک اور وار سے موت نے اسے دبا لیا اور میں اس سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد میں حضرت عمر ابن خطابؓ سے ملا اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دشمن کے مقابلہ سے بھاگ رہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے قضا و قدر کے مطابق ہو رہا ہے پھر لوگ اس عارضی پسپائی کے بعد دوبارہ لڑنے کے لئے میدان جنگ میں واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کر دے اور اس کے قتل کرنے کا کوئی گواہ ہو اور خواہ ایک ہی گواہ ہو تو مقتول کو چھینا ہو مال اسی قتل کرنے والے شخص کا ہوگا۔ یہ سن کر میں کھڑا ہوا اور ارادہ کیا کہ اس مشرک کو قتل کرنے کا واقعہ بیان کروں لیکن دل میں کہا کہ میری گواہی کون شخص دے گا کہ میں نے اس مشرک کو قتل کیا ہے آخر میں بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پھر فرمایا کہ جو شخص دشمن کے کسی آدمی کو قتل کر دے اور اس کے قتل کرنے کا کوئی گواہ ہو تو مقتول کا چھینا ہو مال اسی شخص کا ہوگا میں نے پھر کھڑے ہو کر اپنا واقعہ بیان کرنا چاہا لیکن میں نے دل میں کہا کہ میری گواہی کون شخص دے گا؟ اور میں پھر بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح تیسری مرتبہ فرمایا میں جب اس مرتبہ بھی کھڑا ہوا لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوقتادہؓ کیا بات ہے تم کسی غرض مند اور طالب حاجت کی طرح بار بار کھڑے ہوتے ہو اور بیٹھ جاتے ہو مگر زبان

سے کچھ نہیں کہتے؟ تب میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے فلاں مشرک کو قتل کیا ہے ایک شخص نے میری بات سن کر کہا کہ ابوققادہؓ سچ کہتے ہیں اور اس مشرک کا مال میرے پاس موجود ہے آپ ان کو میری طرف سے راضی کر دیجئے۔ کہ یہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ اور ان کو اس مشرک کے مال کے عوض کوئی اور چیز دے دی جائے یا ان کو اس بات پر رضامند کر دیجئے کہ یہ میرے ساتھ کسی اور طرح مصالحت کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے یہ سن کر اس شخص سے کہا کہ نہیں خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ میں ابوققادہؓ کی مرضی کے خلاف کوئی ارادہ نہیں کریں گے ابوققادہؓ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لئے دشمن سے لڑتا ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس مال پر ابوققادہؓ کا حق ہے وہ تمہیں دے دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ ابوبکرؓ ٹھیک کہتے ہیں تم ابوققادہؓ کو اس مشرک مقتول کا مال دے دو۔ چنانچہ اس شخص نے اس کا مال مجھ کو دے دیا۔ اور میں نے بعد میں اس مال کے ذریعہ ایک باغ خریدا جو قبیلہ بنو سلمہ میں واقع تھا اور یہ سب سے پہلا مال تھا جو مجھے اسلام لانے کے بعد حاصل ہوا۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”جولة“ گھومنے اور گشت کو کہتے ہیں مراد یہ کہ کافر ہم پر گھوم گئے یعنی ہمیں شکست ہو گئی شکست کا نام اس لئے نہیں لیا کہ یہ عارضی پسپائی تھی اس میں کوئی شہید نہیں ہوا نہ زخمی ہوا۔

”من يشهد لى“ یعنی میں نے دل میں کہا کہ میرے مقتول پر میرے لئے کون گواہی دے گا صرف کھڑا ہو گیا پھر بیٹھ گیا زبان سے کچھ کہا نہیں۔ ”فارضه منى“ یعنی ایک شخص نے اقرار کیا کہ مقتول کا سلب میرے پاس ہے قاتل ابوققادہؓ ہے لیکن آپ میری طرف سے ان کو راضی فرمائیں یا ان کو اپنی طرف سے کچھ مال دیدیں یا وہ مفت میں مجھے مال چھوڑ دے۔

”لاها الله“ ای لا والله، یہ دراصل قسم ہے اگرچہ زیادہ مشہور نہیں۔ ”اذا“ تنوین کے ساتھ ہے ای اذا صدق ابوققادہؓ یعنی جب ابوققادہؓ کی بات سچی ہو۔ ”لا يعمد“ ضرب يضرب سے ہے ای لا يقصد النبی فی ابطال حقه واعطاء سلبه ایسا کہ۔ یعنی جب ابوققادہؓ کی بات سچی ہو تو قسم بخدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کا مال غنیمت تجھے دیدے اصل قصہ یہ تھا کہ ایک کافر نے ایک مسلمان کا جنگ حنین میں پیچھا کیا حضرت ابوققادہؓ نے پیچھے سے اس کافر کو تلووار ماردی اس نے پلٹ کر ابوققادہؓ کو اتنا دبایا کہ اس نے موت کی خوشبو سونگھ لی لیکن چونکہ کافر شدید زخمی ہو گیا تھا اس لئے گر گیا ابوققادہؓ واپس آئے اس شخص کے بدن کا سامان کسی اور صحابی نے اتار دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلب کا اعلان فرمایا تو ابوققادہؓ گواہ تلاش کرنے لگے تاکہ اس مقتول کا سلب حاصل کرے مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکے پھر اس شخص نے سلب کے لینے کا اعتراف کیا مگر سلب واپس نہ کرنے کی بات کی اس پر صدیق اکبرؓ نے قسم کھا کر

فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا پھر آنحضرت نے سلب ابوقادہؓ کو دیدیا ابوقادہؓ نے محلہ بنی سلمہ میں اس سامان سے ایک باغ خرید لیا جس سے آپ نے مال ذخیرہ کیا۔ ”منخوف“ باغ کو کہتے ہیں ”ثالثت“ ذخیرہ کرنے اور حاصل کرنے کے معنی میں ہے۔ جمہور کے نزدیک سلب ایک ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ جس نے جس وقت کسی کافر کو قتل کر دیا اس کا سلب اسی قاتل کا ہے مگر احناف فرماتے ہیں کہ سلب مستقل ضابطہ نہیں بلکہ وقتی طور پر امیر الحرب یا بادشاہ کے اعلان کی بنیاد پر ملتا ہے اگر امیر نے اعلان نہیں کیا تو کسی کو نہیں ملیگا ظاہر احادیث جمہور کے حق میں ہیں۔

### مال غنیمت کی تقسیم کا ضابطہ

﴿۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهَمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ایک شخص اور اس کے گھوڑے کے لئے تین حصے دیئے یعنی ایک حصہ تو خود اس کا اور دو حصے اس کے گھوڑے کے۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”ثلاثة اسهم“ میدان جہاد میں دو قسم کے لوگ لڑتے ہیں ایک قسم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں اور دوسری قسم پیدل لوگ ہوتے ہیں اب گھڑسوار کے حصہ اور پیدل کے حصہ میں فرق تو ہے کہ گھڑسوار کو زیادہ ملے گا پیدل کو کم ملے گا لیکن حصہ کے تعین میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ کس کو کتنا ملے گا۔

### فقہاء کا اختلاف

ائمہ ثلاثہ جمہور کے ہاں پیدل مجاہد کو ایک حصہ ملیگا اور شہسوار کو تین حصے ملیں گے ایک حصہ ان کا اپنا ہوگا اور دو حصے گھوڑے کی وجہ سے ان کو ملیں گے۔ ائمہ احناف کے نزدیک پیدل آدمی کو ایک حصہ ملے گا لیکن شہسوار کو دو حصے ملیں گے ایک حصہ ان کا ہوگا اور ایک حصہ اس کے گھوڑے کا ہوگا۔

### دلائل

جمہور نے زیر بحث حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے استدلال کیا ہے جو اپنے مدعا پر واضح دلیل ہے۔ ائمہ احناف نے فصل ثانی کی مجمع بن جاریہ کی روایت ۲۲ سے استدلال کیا ہے جس میں واضح طور پر مذکور ہے کہ خیبر میں پیدل کو ایک حصہ اور شہسوار کو دو حصے دیئے گئے تھے الفاظ اس طرح ہیں۔ ”فاعطى الفارس سهمين والراجل سهما“۔ (ابوداؤد)

حضرت مجمع بن جاریہؓ کی روایت میں اموال غنائم کے حصول کی تقسیم اور مجاہدین کی تعداد کا بیان بھی موجود ہے جس سے احناف کے مسلک کا واضح طور پر ثبوت ہو جاتا ہے اور جمہور کے مسلک کی نفی ہوتی ہے وہ اس طرح کہ خیبر کے اموال کے کل حصے اٹھارہ تھے اور مجاہدین پندرہ سوتھے، جن میں تین سو شہسوار تھے اور بارہ سو پیدل تھے۔ تین سو شہسواروں میں سے ہر سو کو دو حصے دیئے گئے تو چھ حصے گئے باقی بارہ حصے بچ گئے بارہ سو پیدل والوں میں سے ہر سو کو ایک ایک حصہ دیا گیا تو پندرہ سو مجاہدین پر اٹھارہ حصے پورے تقسیم ہو گئے۔

اگر جمہور کے مسلک کے مطابق شہسوار کو تین حصے دیئے گئے تو تین سو مجاہدین کو ۹ حصے مل جائیں گے اور بارہ سو کو بارہ حصے مل جائیں گے اس طرح مال غنیمت کے کل حصے اکیس ہو جائیں گے حالانکہ حضرت مجمع بن جاریہؓ کی روایت میں واضح الفاظ میں آیا ہے کہ ”فقسمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیۃ عشر سہما“، یعنی کل حصے اٹھارہ تھے۔

### سوال

یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آنے والی مجمع بن جاریہؓ کی روایت کے متعلق امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کی زیر بحث روایت اصح اور رائج ہے اور مجمع بن جاریہؓ کی روایت میں کسی راوی سے وہم ہو گیا ہے دراصل تین سو شہسوار نہیں تھے بلکہ دو سو شہسوار تھے اور دو سو کو چھ حصے مل گئے تھے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر دو سو شہسوار کو بھی تسلیم کر لیا جائے پھر بھی جمہور کی بات نہیں بنے گی کیونکہ یہ تو طے ہے کہ مجاہدین پندرہ سوتھے جو حدیبیہ سے سیدھے خیبر آ کر لڑے تھے اگر شہسوار دو سو تھے تو پیدل تیرہ سو ہونگے جن کو اگر تیرہ حصے دئے گئے تو چھ اور تیرہ پھر انیس حصے بن جائیں گے حالانکہ یہ طے ہے کہ حصے کل اٹھارہ تھے۔

ائمہ احناف کی دوسری دلیل حضرت ابن عمرؓ ہی کی ایک روایت ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے الفاظ یہ ہیں ”للفارس سہمان وللراجل سہم“ ائمہ احناف نے حضرت ابن عمرؓ کی اس روایت کو رائج قرار دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑا جہاد کا آلہ ہے اور آدمی ذی اللہ ہے آلہ کا درجہ ذی اللہ سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہئے کیونکہ انسان گھوڑے کے بغیر لڑ سکتا ہے لیکن گھوڑا انسان کے بغیر نہیں لڑ سکتا ہے۔

### جواب

زیر بحث حضرت ابن عمرؓ کی روایت کا جواب یہ ہے کہ یہ تنفیل اور مزید انعام پر محمول ہے تاکہ اس طرح گھڑسواروں کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ گھوڑوں کو لیکر آئیں صاحب ہدایہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کی دونوں روایتوں میں تعارض ہے تو دونوں ساقط ہیں لہذا حضرت مجمع بن جاریہؓ کی روایت احناف کے استدلال کے لئے سالم رہ گئی۔

## مال غنیمت میں عورتوں اور غلاموں کا حصہ نہیں ہے

﴿۴﴾ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمَزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ الْحُرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقَسَّمُ لَهُمَا فَقَالَ لِيَزِيدُ اُكْتُبْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهْمٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا، وَفِي رِوَايَةٍ كَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرْضَى وَيُحْذِينَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا السَّهْمُ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت یزید ابن ہرمز کہتے ہیں کہ نجدہ حروری نے حضرت ابن عباسؓ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے غلام اور عورت کے بارے میں یہ دریافت کیا تھا کہ جب وہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت موجود ہوں تو ان کو بھی اس مال غنیمت سے حصہ دیا جائے یا نہیں؟ حضرت ابن عباسؓ نے یزید سے یعنی مجھ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے نجدہ کو یہ جواب لکھ دو کہ ان دونوں کو حصہ مقرر نہیں ہے البتہ تقسیم کے وقت ان کو یوں ہی کچھ دے دیا جائے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس نجدہ کو یہ جواب لکھا کہ تم نے خط لکھ کر مجھ سے یہ دریافت کیا تھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں عورتوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے اور کیا آپ ان عورتوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جہاد میں عورتوں کو ساتھ لے جاتے تھے جو بیماروں کی دوا دارو کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں۔ اور ان کو مال غنیمت میں سے یوں ہی کچھ دے دیا جاتا تھا لیکن ان کے لئے حصہ مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ (مسلم)

## توضیح

”نجدہ“ نجدہ خوارج کے سرغنہ کا نام ہے ”الحروری“ یہ حروراء کی طرف منسوب ہے جو کوفہ کے اطراف میں ایک جگہ کا نام ہے خوارج کا پہلا اجتماع اسی مقام پر ہوا تھا۔ ”ان یحذیا“ حذی عطیہ کو کہتے ہیں غلاموں اور عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا صرف تطیب خاطر اور دلجوئی کے طور پر کچھ عطیہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان پر لڑنے کی ذمہ داری نہیں ہے یہی مسئلہ نابالغ لڑکوں کا بھی ہے۔

## حضرت سلمہ بن اکوع کی بہادری

﴿۵﴾ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِهِ مَعَ رَبَاحِ غَلَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى أَكْمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِينَةَ فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ



خَرَجْتُ فِيْ آثَارِ الْقَوْمِ اَرْمِيْهِمْ بِالنَّبْلِ وَاَرْتَجِزُ اَقُوْلُ اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضْعِ فَمَا زِلْتُ اَرْمِيْهِمْ وَاَعْقِرُبِهِمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ بَعِيْرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا خَلَفْتُهُ وِرَاءَ ظَهْرِيْ ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ اَرْمِيْهِمْ حَتَّى اَلْقَوْا اَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِيْنَ بُرْدَةً وَثَلَاثِيْنَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّوْنَ وَلَا يَطْرَحُوْنَ شَيْئًا اِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ اَرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ حَتَّى رَاَيْتُ فَوَارِسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَحِقَ اَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ اَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرُ رُجَالِنَا سَلَمَةُ قَالَ ثُمَّ اَعْطَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الْفَارِسِ وَسَهْمِ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ اَرْدَفَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ عَلٰى الْعُضْبَاءِ رَاَجِعِيْنَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان معاہدہ ہو جانے کے بعد حدیبیہ سے واپسی کے دوران راستہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے سارے اونٹ، رباح کے ساتھ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے آگے روانہ کر دیئے میں بھی رباح کے ساتھ ہولیا ہم دونوں نے رات میں ایک جگہ قیام کیا اور جب صبح ہوئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ عبدالرحمن فزاری نے جو مسلمانوں کا ایک مشہور دشمن اور کافر تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر چھاپہ مارا اور ان کو ہٹا کر لے گیا میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور مدینہ کی طرف منہ کر کے تین مرتبہ یا صباحا یعنی خبردار دشمن آپہنچا کانفرہ بلند کیا اور تیر پر تیر پھینکتا ہوا اس قوم یعنی عبدالرحمن اور اس کے ساتھیوں کے نشانات قدم پر چل پڑا اس وقت میری زبان پر بلند آواز میں رجز یعنی رزمیہ شعر تھے میں نے کہا انا ابن الاکوع . والیوم یوم الرضیع یعنی اے دین کے دشمنو! کان کھول کرسن لو میں اکوع کا بیٹا ہوں آج کا دن برے لوگوں یعنی تم دشمنان دین کے ہلاک ہونے کا دن ہے میں اسی طرح برابر تیر مارتا اور ان کی سواریوں کی کونچیں کاٹا آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں میں سے اللہ کا پیدا کیا ہوا ایسا کوئی اونٹ باقی نہیں بچا جس کو میں نے اپنے پیچھے نہ چھوڑ دیا ہو میں تیر برساتا ہوا ان کا تعاقب جاری رکھے ہوئے تھا یہاں تک کہ انہوں نے ہلکا ہو جانے کے خیال سے اپنی تیس سے زیادہ چادریں اور تیس کپڑے پھینک دیئے یعنی وہ بھاگتے ہوئے اپنی چادریں اور اپنے کپڑے بھی پھینکتے جا رہے تھے تاکہ جسم ہلکا ہو جانے کی وجہ سے بھاگنے میں آسانی ہو اور وہ جس چیز کو بھی پھینکتے تھے وہ اس پر نشان کے طور پر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء اگر پیچھے سے آئیں تو اس کو پہچان لیں یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو آتے دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ حضرت ابوقتادہؓ نے جنھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار کہا جاتا تھا عبدالرحمن کو جالیا اور

اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس ہنگامہ کے ختم ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہمارے سواروں میں سب سے بہتر سوار ابو قتادہؓ ہیں اور پیادوں میں سب سے بہتر پیادہ سلمہ ابن اکوعؓ ہیں اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کافروں سے ہاتھ لگے ہوئے مال کو ہمارے درمیان تقسیم فرمایا تو مجھ کو دودھ سے دیئے ایک حصہ سوار کا اور ایک حصہ پیادہ کا دونوں حصے اکٹھے کر کے مجھے عطا فرمائے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی عضا پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ (مسلم)

## توضیح

”سلمہ بن اکوع“ یہ شان والے صحابی ہیں جنگوں میں نمایاں حصہ لیا ہے پیدل دوڑنے میں مشہور تھے گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے۔ ”اغار“ حملہ اور غارت گری کو کہتے ہیں۔

”علی ظہرہ“ ظہر سے مرا سواری کے اونٹ ہیں۔ ”اکمۃ“ بلند ٹیلہ کو کہتے ہیں۔ ”یا صبا حاہ“ قدیم زمانہ میں کسی کو مدد کے لئے جب پکارا جاتا تھا تو عرب معاشرہ میں اس قسم کے نعرے لگائے جاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن نے صبح کے وقت حملہ کر دیا ہے تیار ہو جاؤ اور مدد کرو، فوجی کارروائی اکثر صبح میں ہوتی ہے۔ ”ارتجز“ یعنی میں رجز کے اشعار گاتا تھا بحر جز کا وزن مستعملن چھ مرتبہ ہے۔ ”یوم الرضع“ اس کا مفرد راضع ہے راضع کا ایک مطلب کمینہ اور ذلیل ہے یعنی آج ان کمینوں اور ذلیلوں کی ہلاکت کا دن ہے جو منہ میں پستان لیکر دودھ چوستا ہے تاکہ دودھ نکالنے کی آواز کوئی نہ سنے اور دودھ نہ مانگے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آج وہی آدمی کامیاب ہے جس کو شریف عورت نے دودھ پلایا ہو یعنی آج دودھ پر فیصلہ ہوگا بہادر ماں کا دودھ بہادر بنائے گا اور بزدل ماں کا دودھ بزدل بنائے گا۔

”یستخفون“ یعنی زائد سامان بھینک دیا تاکہ بھاگنے کے لئے ہلکے ہو جائیں۔ ”آراما“ اس کا مفرد ارم ہے جیسا اعناب و عنب، علامت کو کہتے ہیں دیہاتوں میں اب بھی یہ دستور ہے کہ لکڑی وغیرہ اشیاء پر پتھر رکھتے ہیں یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ مال کسی کا ہے تو کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے بعض لوگ تین پتھر رکھتے ہیں جو تین طلاق کی قسم کھلانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے ارم بمعنی علامت علامہ بوصیری نے قصیدہ بردہ میں ذکر کیا ہے۔

فَالصَّدَقُ فِي الْغَارِ وَالصَّدِيقُ لَمْ يَرِ

وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرَمٍ

”سہم الفارس“ کسی مجاہد کی اچھی کارکردگی پر اس کو اضافی مال دیا جاسکتا ہے اس لئے حضرت سلمہ بن اکوع کو دودھ سے دئے گئے۔

﴿۶﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْقِلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لَأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو جہاد کیلئے بھیجتے تھے ان میں سے بعض لوگوں کے لئے عام لشکروالوں کی بہ نسبت مخصوص طور پر کچھ زیادہ حصہ لگا دیا کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

﴿۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ نَفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْلًا سِوَى نَصِيْبِنَا مِنَ الْخُمْسِ فَأَصَابَنِي شَارِفٌ وَالشَّارِفُ الْحُسَيْنُ الْكَبِيرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خمس کے مال میں سے ہمارے مقررہ حصوں کے علاوہ بھی کچھ زیادہ مرحمت فرمایا چنانچہ میرے حصے میں ایک شارف آئی اور شارف اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو بوڑھی اور بڑی ہو۔ (بخاری و مسلم)

حوصلہ افزائی اور ترغیب کے لئے بعض اچھے مجاہدوں کو کچھ زیادہ دینا جائز ہے اسی کو نفل اور تنفیل کہتے ہیں۔

اگر کفار مسلمانوں کا مال چھین لیں تو کیا ہوگا؟

﴿۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبَقَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

اور حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ ان کا گھوڑا بھاگ گیا جس کو دشمنوں یعنی کافروں نے پکڑ لیا پھر جب مسلمانوں کو ان دشمنوں پر فتح حاصل ہوئی اور ان کے مال غنیمت میں وہ گھوڑا بھی آیا تو ابن عمرؓ کو ان کا گھوڑا واپس کر دیا گیا اور اس کو مال غنیمت میں شمار نہیں کیا گیا یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ابن عمرؓ کا غلام بھاگ کر روم پہنچ گیا پھر جب مسلمانوں کو رومیوں پر فتح حاصل ہوئی تو خالد بن ولیدؓ نے ابن عمرؓ کو ان کا غلام واپس کر دیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ (بخاری)

توضیح

”فأخذها العدو“ یعنی حضرت ابن عمرؓ کا گھوڑا بھاگ گیا تو دشمن نے پکڑ لیا پھر مسلمان غالب آ گئے اور گھوڑا ان سے واپس کر دیا اسی طرح ان کا غلام بھاگتا تھا پھر مسلمان غالب آ گئے تو اس کو بھی مسلمانوں نے واپس لے لیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفار کسی مسلمان کے مال پر غلبہ کر کے اپنے ہاں لیجائیں اور احراز بھی کر لیں تو آیا وہ لوگ اس مال کے مالک ہو جائیں گے

یا نہیں؟ اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

## اختلاف

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ کفار اس مال کے مالک نہیں ہونگے یہ جس کا مال ہے اسی کا ہیگا۔ لیکن جمہور کے ہاں کافر لوگ اس مال کے مالک ہو جائیں گے اس اختلاف کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر بعد میں مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا اور وہی مال چھین لیا تو اب کیا ہوگا؟ شوافع کے ہاں یہ مال اصل مالک کو دیا جائے گا گویا یہ مال اس کی ملکیت سے نہیں نکلا ہے۔ جمہور کے ہاں یہ مال اگر کافروں میں تقسیم نہیں ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں تقسیم سے پہلے آگیا تو یہ اصل مالک کا ہے لیکن کافروں میں تقسیم ہو جانے کے بعد اگر مجاہدین کے ہاتھ میں آگیا تو اب یہ مال غنیمت میں شامل کیا جائے گا اور عام مسلمانوں پر تقسیم ہوگا۔

## دلائل

شوافع نے زیر بحث روایت سے استدلال کیا ہے جس میں حضرت ابن عمرؓ کے گھوڑے اور غلام کے بھاگنے اور کافروں کے قبضہ میں چلے جانے کا قصہ ہے اور پھر ان کو واپس دلانے کا ذکر ہے اسی طرح شوافع نے اس سے پہلے حدیث نمبر ۵ میں مذکور ناقہ رسول کے واقعہ سے بھی استدلال کیا ہے۔

جمہور نے ”للفقراء المهاجرین“ سے استدلال کیا ہے طرز استدلال اس طرح ہے کہ صحابہ کے اموال مکہ مکرمہ میں تھے لیکن کافروں کے ہاتھ میں چلے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مال کے مالکوں کو فقراء کے نام سے یاد کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا یہ مال کافروں کی ملکیت میں چلا گیا تھا اور تقسیم کے بعد کفار اس کے مالک ہو گئے تھے ہاں تقسیم سے پہلے کفار اس مال کے مالک نہیں بنتے ہیں۔ یہ تو عام اموال کا مسئلہ اور اس میں اختلاف تھا۔

اب یہاں بھاگے ہوئے غلام کا الگ مسئلہ ہے اس میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر غلام مرتد ہو کر بھاگ گیا تو تمام ائمہ کے نزدیک اتفاقاً کافر اس کے مالک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر مسلمان یا ذمی غلام بھاگ جائے اور کافر اس کے مالک ہو جائیں تو امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ کفار اس کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں مگر جمہور کہتے ہیں کہ مرتد غلام کی طرح مسلمان غلام کے بھی کافر مالک ہو جائیں گے دونوں فریق نے زیر بحث حدیث کے اجزا سے استدلال کیا ہے مگر یہ باریک اجتہادی فرق ہے اس لئے دلائل کی ضرورت نہیں۔

مورخہ ۲۴ صفر ۱۳۱۸ھ

## خمس کا حکم

﴿۹﴾ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نُوْفَلٍ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت جبیر ابن مطعمؓ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عثمان بن عفانؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے خیبر کے خمس میں سے بنو مطلب کو حصہ دیا اور ہم کو نہیں دیا حالانکہ آپ کے اعتبار سے ہم سب ایک ہی مرتبہ کے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہیں۔ حضرت جبیرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس یعنی حضرت عثمانؓ وغیرہ اور بنو نوفل یعنی حضرت جبیرؓ وغیرہ کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ (بخاری)

## توضیح

”من خمس خیبر“ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے خمس کا یہ حصہ آنحضرتؐ کے ذوی القربی اور فقراء وغیرہ میں تقسیم ہوتا تھا۔ خیبر کا مال جب آگیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے اپنے ذوی القربی بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دیا مگر بنو نوفل اور بنی عبد شمس کو کچھ نہیں دیا اس بات کو جاننے کے لئے حضرت عثمان اور حضرت جبیر بن مطعم حضور اکرم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! قرابت میں ہم اور بنو مطلب آپ کے لئے برابر ہیں یہ بات صحیح ہے کہ آپ کا تعلق بنو ہاشم سے ہے اس فضیلت میں ہم مداخلت نہیں کرتے ہیں کہ بنو ہاشم کو کیوں دیا لیکن بنو مطلب اور ہم قرابت میں آپ کے لئے برابر ہیں کیونکہ عبد مناف کے چار بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں۔ (۱) ہاشم (۲) مطلب (۳) عبد شمس (۴) نوفل۔

حضور اکرم ہاشم کی اولاد میں سے تھے حضرت عثمان عبد شمس کی اولاد میں سے تھے حضرت جبیر بن مطعم نوفل کی اولاد میں سے تھے ان حضرات کی شکایت یہ تھی کہ بنو مطلب کو جب خمس میں سے دیا گیا تو ہم کو کیوں چھوڑا گیا حالانکہ قرابت داری میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے جواب میں حضور اکرم نے فرمایا کہ قرابت کا حق صرف بنو ہاشم اور بنو مطلب کو حاصل ہے اس لئے کہ ان لوگوں نے اسلام اور جاہلیت میں ساتھ رہنے کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ جب قریش نے بنو ہاشم سے بازیکاٹ کیا تو بنو مطلب

نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا اور بنو نوفل اور بنو عبد شمس نے بایکٹ کرنے میں کفار کا بھرپور ساتھ دیا لہذا ان کی قرابت ہم سے ختم ہوگئی تو خمس میں ان کا حق نہیں رہا۔ آنے والی حدیث نمبر ۴۲ میں اس واقعہ کی مزید تفصیل موجود ہے۔

## مال فی کا تعارف اور حکم

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں تم جاؤ اور اس میں قیام کرو تو اس کے مال میں تمہارا حصہ ہے اور جو بستی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو اس کے مال میں پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اور بقیہ تمہارا ہے۔ (مسلم)

## توضیح

”واقمتم فیہا“ یعنی ایسی زمین میں تم آ کر ٹھہر گئے کہ وہاں کے لوگوں نے نہ جنگ کی نہ کوئی مزاحمت کی اور ان کے اموال بطور غنیمت تم کو مل گئے تو یہ مال فی ہے جس میں مجاہدین مقاتلین اور مدینہ میں رہنے والے غیر مجاہدین سب شریک ہوتے ہیں سب کو حصہ ملتا ہے اور اس میں خمس نہیں ہوتا لیکن جس شہر نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یعنی وہاں کے باشندوں نے مجاہدین کا مقابلہ کیا جنگ کی اور شکست کھا کر بھاگ گئے اور مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تو اس میں سے خمس نکال کر بیت المال کے حوالہ کیا جائے گا اور باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے بہر حال حدیث کا خلاصہ یہ کہ مال فی میں خمس نہیں ہوتا مال غنیمت میں ہوتا ہے آخری جملہ ثم ہی لکم میں فرمایا کہ خمس بھی تم ہی مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے میرا ذاتی مال نہیں ہے۔

## مشترکہ قومی دولت میں خیانت کرنے والا دوزخ میں جائے گا

﴿۱۱﴾ وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت خولہ انصاریہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بعض لوگ اللہ کے مال یعنی غنیمت فی اور زکوٰۃ کے مال میں ناحق یعنی بغیر کسی استحقاق کے تصرف کرتے ہیں لہذا ایسے لوگ قیامت کے دن آگ کے سزاوار ہوں گے۔ (بخاری)

## توضیح

”یتخوضون“ خوض گھسنے کے معنی میں ہے یہاں اوقاف، مال غنیمت، زکوٰۃ اور مال فی میں بے جا تصرف کرنا مراد ہے یہ بات یاد رکھیں کہ ان احادیث میں ظاہر اُغلول اور مال غنیمت میں خیانت کرنے کے الفاظ آئے ہیں مگر یہ صرف مال غنیمت نہیں ہے بلکہ مشترکہ قومی دولت اور تمام مسلمانوں کی امانت مراد ہے۔ لہذا سرکاری اداروں میں، مذہبی مدارس میں اور جہادی اور غیر جہادی تنظیموں میں جو مشترکہ اموال ہیں ان سب پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ تو مال غنیمت کی خیانت کی بات ہے میں تو سرکاری دفتری کمپنی یا مدر سے یا تنظیم یا اوقاف کے مال میں خیانت کرتا ہوں زیر بحث حدیث میں مال اللہ کا لفظ آیا ہے یہ تمام اداروں کو شامل ہے میں آئندہ عنوانات میں مشترکہ قومی دولت لکھوں گا یہ اسی عموم کی طرف اشارہ ہوگا۔

## مشترکہ قومی دولت میں خیانتوں کی مختلف صورتیں

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمَحَمَةٌ فَيَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا نُغَاءٌ يَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاخٌ فَيَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَهُوَ أَتَمُّ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبہ کے دوران مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا چنانچہ آپ نے اس کو بہت بڑا گناہ بتایا اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا اور پھر فرمایا کہ خبردار میں تم سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر بلبلا تے ہوئے اونٹ کو لادے ہوئے میدان حشر میں آئے یعنی جو شخص مال غنیمت میں سے مثلاً اونٹ کی خیانت کرے گا تو وہ شخص میدان حشر میں اس

حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن پر وہی اونٹ سوار ہوگا اور بلبلارہا ہوگا اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں یعنی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ کیونکہ میں نے تمہیں دنیا میں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے اور خبردار میں تم سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر ہنہاتے ہوئے گھوڑے کو لادے ہوئے میدان حشر میں آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے یعنی تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ مال غنیمت میں خیانت یا کسی چیز میں ناحق تصرف بہت بڑا گناہ ہے اور خبردار میں تم سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر میاتی ہوئی بکری لادے ہوئے میدان حشر میں آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے اور خبردار میں تم سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر کسی چلاتے ہوئے آدمی کو یعنی اس غلام یا باندی کو جو اس نے غنیمت کے قیدیوں میں سے خیانت کر کے لے لیا ہو لادے ہوئے میدان حشر میں آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے اور خبردار میں تم سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر لہراتے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے میدان حشر میں آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے اور خبردار میں تم سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی لادے ہوئے میدان حشر میں آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے اس روایت کو معنی و مضمون کے اعتبار سے بخاری و مسلم دونوں نے نقل کیا ہے الفاظ مسلم کے ہیں جو بخاری کے الفاظ کی بہ نسبت پورے و مکمل ہیں۔

اس حدیث کے تمام مشکل الفاظ کی تشریح بہتر طریقہ سے ترجمہ میں آگئی ہے مزید طوالت کی ضرورت نہیں۔

### مشترکہ قومی دولت میں خیانت پر شدید وعید

﴿۱۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ أَهْدَى رَجُلٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا يَقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحْطُ رَحْلاً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَصَابَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَبْنَا لَهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرٍ مِنْ



الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلْ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غلام ہدیہ کے طور پر پیش کیا جس کا نام مدع تھا ایک دن غالباً کسی میدان جنگ میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ اچانک کسی نامعلوم شخص کا تیر آکر اس کو لگا جس سے جان بحق ہو گیا لوگوں نے کہا مدع کو جنت مبارک ہو یعنی مدع خوش قسمت رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوا اور جنت میں پہنچ گیا یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ چادر جس کو مدع نے خیر کے دن مال غنیمت میں سے اس کی تقسیم سے قبل لے لیا تھا آگ بن کر مدع پر شعلے برسا رہی ہے جب ان لوگوں نے اس شدید وعید و تنبیہ کو سنا جنہوں نے مال غنیمت میں خیانت کرنے کو سہل سمجھ لیا تھا اور یہ گمان کر لیا تھا کہ چھوٹی موٹی اور حقیر چیزوں کو لے لینے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا تو وہ کانپ گئے اور انہوں نے مال غنیمت میں سے جو چھوٹی چیزیں لے لی تھیں۔ کو لالا کر واپس کرنے لگے یہاں تک کہ ایک شخص ایک تمہہ یاد دتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ آگ کا ایک تمہہ ہے یا آگ کے دو تمہے ہیں یعنی خیانت کی چیز ہر حالت میں دوزخ کی آگ کا سزاوار کرے گی خواہ کتنی ہی معمولی اور حقیر کیوں نہ ہو۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”سہم عائر“ نامعلوم تیر جو اچانک آکر کسی کو لگے ”شملة“ چادر کو کہا گیا ہے۔ ”تشتعل“ آگ کے شعلے بھڑکانے کے۔ معنی میں ہے۔ شراک تمہہ کو کہتے ہیں۔

﴿۱۴﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كُرْكُرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام کرکرہ تھا کسی غزوے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سامان و اسباب کا نگران مقرر ہوا جب اس کا انتقال ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کُرْكُرَةُ دوزخ میں ڈالا گیا ہے چنانچہ لوگوں نے اس کے سامان کو دیکھنا شروع کیا تو اس میں ایک کملی پائی گئی جو اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر کے لیا تھا۔ (بخاری)

”عباءة“ چوغہ نما چادر اور کملی کو عباءة کہا گیا ہے۔

## جہاد میں ضرورت کے تحت خورد و نوش کی چیزوں کا استعمال

﴿۱۵﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَصِيبُ فِي مَغَارِنَا الْعَسَلَ وَالْعَنْبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  
اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہمیں غزوات میں شہد اور انگور ملتے تو ہم ان کو کھاتے تھے اٹھا کر لے نہیں جاتے تھے۔ (بخاری)

### توضیح

”العسل“ اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جو اشیاء کھانے پینے سے متعلق ہوں یا گھوڑوں کے چارہ سے متعلق ہوں تو مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایسی اشیاء کا کھانا اور استعمال کرنا جائز ہے لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر لیجایا جائے اور ذخیرہ بنایا جائے اسی ممانعت کی طرف ”ولا نرفعه“ میں اشارہ ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مجاہدین جب تک دار الحرب اور محاذ جنگ میں ہوں اس وقت ان کو مال غنیمت میں سے بقدر ضرورت خورد و نوش کی چیزوں کو تقسیم سے پہلے استعمال کرنا جائز ہے ہاں دار اسلام یعنی محاذ جنگ سے واپس آنے کے بعد یہ استعمال جائز نہیں ہے۔

### دلچسپ صورت

﴿۱۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ أَصَبْتُ جَرَاباً مِنْ شَحْمِ يَوْمٍ خَبِيرَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ لَا أُعْطَى الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا فَالْتَفْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ إِلَيَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا أُعْطِيَكُمْ فِي بَابِ رِزْقِ الْوَلَاةِ.

اور حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کہتے ہیں کہ خیبر کے دن مجھ کو چربی سے بھری ہوئی ایک تھیلی ملی میں نے اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور دل میں یا زبان سے کہا کہ آج میں اس چربی میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مجھ پر یعنی میرے اس فعل پر مسکرا رہے تھے۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

جنگ خیبر میں ابتدا میں کھانے کی اتنی تنگی آئی کہ صحابہ نے گھاس کھائے گدھے کا گوشت کھایا، وہاں یہود رہتے تھے ان کے لئے چربی کا استعمال کرنا حرام تھا لہذا ان میں سے کسی نے چربی سے بھری ہوئی تھیلی کوڑا خانہ میں پھینک دیا ایک صحابی کو جب یہ تھیلی ملی تو سینہ سے لگایا کہ خود کھاؤں گا کسی کو نہیں دوں گا جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور اکرم مسکراتے ہوئے نظر آئے سبحان کیا منظر تھا۔

### الفصل الثانی

﴿۱۷﴾ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَوْ قَالَ

فَضَّلَ أُمِّيَّ عَلَى الْأَمَمِ وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ  
حضرت ابو امامہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو  
انبیاء پر فضیلت و بزرگی عطا فرمائی ہے یا یہ فرمایا کہ میری امت کو دوسری امتوں پر فضیلت و بزرگی عطا کی ہے اور مال غنیمت  
کو ہمارے لئے حلال قرار دیا۔ (ترمذی)

### مقتول کا سلب قاتل کو ملیگا

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَيْثِدٍ يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا  
فَلَهُ سَلْبُهُ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ.  
اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز یعنی غزوہ حنین کے دن فرمایا کہ جو شخص کسی کافر دشمن کو قتل  
کرے گا اس مقتول کا مال و اسباب اسی قاتل کو ملے گا چنانچہ ابو طلحہؓ نے اس دن دشمن کے بیس آدمیوں کو قتل کیا اور ان کا سب  
مال و اسباب حاصل کیا۔ (دارمی)

### توضیح

”فلہ سلبہ“ جمہور کے نزدیک سلب کا ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ ہر حال میں قاتل کو ملے گا۔ خواہ موقع پر کوئی امیر اعلان کرے  
یا نہ کرے۔ ائمہ احناف کے نزدیک موقع پر وقتی اعلان ضروری ہے مستقل قاعدہ و ضابطہ نہیں ہے۔ یاد رہے سلب میں خمس نہیں  
ہوتا ہے، تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

﴿۱۹﴾ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَضَى فِي السَّلْبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمَّسِ السَّلْبُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
اور حضرت عوف بن مالک اشجعی اور حضرت خالد بن ولیدؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے مال  
و اسباب کے بارے میں حکم فرمایا کہ وہ قتل کرنے والے کا حق ہے نیز اس مال و اسباب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
خمس نہیں نکالا جیسا کہ مال غنیمت میں سے نکالتے تھے۔ (ابوداؤد)

### ابو جہل کا اصل قاتل کون تھا؟

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَفَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أَبِي  
جَهْلٍ وَكَانَ قَتْلُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن مجھ کو ابو جہل کی تلوار میرے حصہ

سے زائد دی۔ واضح ہو کہ ابو جہل کو عبداللہ بن مسعود ہی نے قتل کیا تھا۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”وكان قتلہ“ یعنی ابن مسعود نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، اس بارہ میں احادیث میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ دراصل ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا بعض روایات میں ہے کہ عفراء کے دو بیٹوں نے مارا بعض میں ہے کہ ابن مسعود نے مارا بعض میں ہے کہ پہلے حملہ معاذ بن عمرو بن الجموح نے کیا پھر معوذ نے آکر اس کا کام تمام کر دیا تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل پر سب سے پہلے حملہ حضرت معاذ نے کیا اور اس کی ران کو کاٹ کو گھوڑے سے گرادیا پھر شیر کی طرح معوذ نے جھپٹ کر اس پر وار کیا وہ تڑپ رہا تھا کہ حضرت ابن مسعود پہنچ گئے اور اس کا سر قلم کر دیا اس اعتبار سے ہر ایک کی طرف ابو جہل کے قتل کرنے کی نسبت کی گئی ہے بلکہ یہ بھی روایات میں ہے کہ فرشتوں نے ابو جہل کے قتل میں عملاً حصہ لیا تھا لیکن اصل کردار حضرت معاذ نے ادا کیا تھا اس لئے اس کا مکمل سلب ان کو مل گیا باقی دو کو بھی کچھ نہ کچھ دیا گیا جیسے زیر بحث حدیث میں ہے کہ ابو جہل کی تلوار حضرت ابن مسعود کو دی گئی آئندہ حدیث ۴۳ میں اور حدیث ۴۴ میں پوری تفصیل آرہی ہے۔

اب یہاں ایک سوال اور تعارض ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ معاذ بن عمرو بن الجموح نے ابو جہل کو مارا دوسری میں ہے کہ عفراء کے دو بیٹوں نے مارا اس تعارض کو اس طرح دور کیا جاتا ہے کہ معاذ اور معوذ دونوں عفراء کے بیٹے ہیں اور ماں شریک بھائی ہیں لیکن باپ دونوں کا الگ الگ ہے حضرت معاذ کے باپ کا نام عمرو بن الجموح ہے اور معوذ کے باپ کا نام حارث ہے عفرادونوں کی ماں ہے لہذا معاذ بن عمرو بن الجموح اور معوذ بن عفراء کوئی الگ الگ آدمی نہیں ہیں۔

## تلوار گھسیٹ کر جہاد پر جا رہا ہے

﴿۲۱﴾ وَعَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللَّهِمِ قَالَ شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي فَكَلَّمُونَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمُونَهُ أَنِّي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَنِي فَقُلْتُ سَيِّفًا فَإِذَا أَنَا أَجْرُهُ فَأَمَرَنِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرَّتِي الْمَتَاعِ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقِيَّةً كُنْتُ أَرْقِي بِهَا الْمَحَانِئِينَ فَأَمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ إِلَّا أَنَّ رِوَايَتَهُ انْتَهَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ الْمَتَاعِ

اور حضرت عمیر آبی الہم کے آزاد کر غلام تھے کہتے ہیں کہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوا ہوں اس غزوہ کے لئے روانگی کے وقت میرے مالکوں نے میرے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی یعنی انہوں نے میری تعریف و توصیف کی اور عرض کیا کہ میدان جنگ میں لڑنے کے لئے یا خدمت کی غرض سے عمیر کو بھی ساتھ لے چلیے نیز انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ میں ایک مملوک غلام ہوں آپ نے میرے مالکوں کی درخواست

منظور فرمائی اور مجھ کو حکم دیا کہ میں مسلح ہو جاؤں اور مجاہدین کے ساتھ شامل رہوں چنانچہ مجھے تلوار سے مسلح کیا گیا یعنی ایک تلوار میری گردن میں ڈال دی گئی میں جب چلتا تو صغریٰ کی وجہ سے یا اپنے کوتاہ قد ہونے کے سبب اس تلوار کو زمین پر گھسیتا ہوا چلتا پھر دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لینے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم شروع ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے تھوڑا بہت مجھے بھی دیئے جانے کا حکم صادر فرمایا نیز ایک موقع پر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وہ منتر پڑھ کر سنایا جو میں دیوانگی کے مریضوں پر پڑھا کرتا تھا اور آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے مجھے اس کے بعض حصوں کے موقوف کر دینے اور بعض حصوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا۔ اس روایت کو ترمذی اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے لیکن ابوداؤد کی روایت الفاظ المتاع پر پوری ہو گئی ہے۔

## توضیح

”حرثی المتاع“ یعنی گھر کا گرا پڑا سامان جیسے ہنڈیا وغیرہ۔ ”أَجْرُ“ یعنی عمر اور قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں تلوار کو زمین پر گھسیتا کر جاتا تھا ”ارقسی بہا“ یعنی میں جھاڑ پھونک بھی کرتا تھا میں نے حضور اکرم کے سامنے جب جھاڑ کے الفاظ پیش کر دیئے تو آپ نے بعض کو منع کر دیا بعض کو باقی رکھا۔

## خیبر کے غنائم کی تقسیم میں احناف کا مستدل

﴿۲۲﴾ وَعَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ قَالَ قَسَمْتُ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسِمِائَةً فِيهِمْ ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ حَدِيثُ ابْنِ عُثْمَرَ أَصَحُّ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ وَآتَى الْوَهْمُ فِي حَدِيثِ مُجَمِّعٍ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثُمِائَةِ فَارِسٍ وَإِنَّمَا كَانُوا مِائَتِي فَارِسٍ

اور حضرت مجمع بن جاریہ کہتے ہیں کہ کہ خیبر میں حاصل شدہ مال غنیمت اور زمین کو ان لوگوں کے درمیان تقسیم کیا گیا جو حدیبیہ کی صلح میں شریک تھے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیبر کے مال غنیمت اور زمین کو اٹھارہ حصوں میں تقسیم کیا اور صلح حدیبیہ میں شریک لشکر کی تعداد پندرہ سو آدمیوں پر مشتمل تھی جن میں تین سو سوار تھے اس طرح سوار کو آپ نے دو حصے دیئے اور پیادہ کو ایک حصہ! ابوداؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس بارہ میں ابن عمر کی روایت زیادہ صحیح ہے اور اسی پر اکثر ائمہ نے عمل کیا ہے نیز مجمع کی اس روایت میں واہمہ واقع ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تین سو سوار تھے حالانکہ سواروں کی تعداد دو سو تھی۔

اس حدیث کی پوری تفصیل حدیث ۳ کے تحت گذر چکی ہے۔

## جوزیادہ جرأت سے لڑیگا زیادہ حصہ پائے گا

﴿۲۳﴾ وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفَهْرِيِّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبْعَ فِي الْبُدَاةِ وَالثَّلْثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت حبیب ابن مسلمہ فہری کہتے ہیں کہ کسی غزوے کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ابتداء میں لڑنے والوں کو مال غنیمت میں سے چوتھائی حصہ زائد عطا کیا اور واپسی کے وقت لڑنے والوں کو تہائی حصہ زائد عطا کیا۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”نفل الربع“ یہ تخفیل سے ہے بطور انعام اضافی حصہ کو کہا گیا ہے اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ مثلاً کچھ لوگوں نے لشکر اسلام کے محاذ پر پہنچنے سے پہلے کفار پر حملہ کر دیا پھر لشکر اسلام آیا اور کفار کو شکست ہو گئی اس پہلے دستہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے پورے مال کا ربع بطور انعام عطا فرماتے تھے اور باقی مال میں بھی ان کا عام مجاہدین کی طرح حصہ ہوتا تھا کیونکہ ان لوگوں نے نہایت جرأت کا مظاہرہ کیا ”البداءۃ“ کا یہی مطلب ہے۔

دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ مثلاً لشکر اسلام محاذ جنگ سے واپس چلا گیا مگر ایک دستہ اب بھی دشمن کے مقابلہ میں ڈٹا ہوا لڑ رہا ہے آنحضرت ایسے لوگوں کو تقسیم سے پہلے پورے مال کا ثلث دیتے تھے کیونکہ ان کی جرأت پہلے والوں سے بڑھ کر ہے اسی کو ”فی الرجعة“ کہا گیا ہے اب اس میں بحث ہے کہ یہ انعام خمس کے ہٹائے جانے کے بعد بقیہ چار حصوں سے دیا جاتا تھا یا خمس بھی اس میں شامل رہتا تھا ساتھ والی روایت نمبر ۲۴ سے معلوم ہوتا ہے کہ خمس ہٹانے کے بعد ایسا ہوتا تھا اور یہی احمد بن حنبل کا مسلک ہے بعض نے کہا کہ یہ انعام خمس کے مال میں سے دیا جاتا تھا۔

﴿۲۴﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْفِلُ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمْسِ وَالثَّلْثَ بَعْدَ الْخُمْسِ إِذَا قَفَلَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت حبیب ابن مسلمہ فہری راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی ابتداء میں اسلامی لشکر کے پہنچنے سے پہلے لڑنے والے مجاہدین کو مال غنیمت میں سے خمس نکالنے کے بعد چوتھائی حصہ زیادہ دیتے تھے اور لشکر کے واپس آ جانے کی صورت میں لڑنے والے مجاہدین کو خمس نکالنے کے بعد تہائی حصہ زیادہ دیتے تھے۔ (ابوداؤد)

## مال فنی میں سب مسلمان برابر کے شریک ہیں

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَبِي الْجَوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةَ حُمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ فِي امْرَأَةٍ مُعَاوِيَةَ وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ فَاتَيْتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أُعْطِيَ رَجُلًا مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَنْفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمْسِ لَأَعْطَيْتُكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو جریر یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہؓ کی خلافت کے زمانہ میں ایک دن میں نے روم کی زمین میں ایک سرخ رنگ کی ٹھلیا پائی جس میں دینار بھرے ہوئے تھے اس وقت ہمارے علاقے کے حاکم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں سے ایک شخص تھے جن کا نام معن ابن یزید تھا میں وہ ٹھلیا لے کر ان کے پاس آیا۔ انہوں نے ان دیناروں کو مسلمانوں یعنی مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم کر دیا اور ان میں سے مجھ کو بھی اتنا ہی دیا جتنا کسی ایک شخص کے حصے میں آیا تھا۔ یعنی مجھے بھی سب کے برابر دیا کوئی زیادہ حصہ نہیں دیا اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ خُس نکالنے کے بعد ہی حصے سے زیادہ دیا جاسکتا ہے تو یقیناً میں بھی تمہیں دوسروں سے زیادہ دیتا۔ (ابوداؤد)

توضیح

”لنؤلانی“ یعنی انعام وغیرہ اس مال سے دیا جاتا ہے جس سے خُس نکلتا ہو یعنی وہ مال غنیمت ہوتا کہ خُس ہٹائے جانے کے بعد بقیہ چار حصوں سے انعام دیا جائے ولہذا میں انعام اس لئے نہیں دے سکتا ہوں کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے بلکہ مال فنی ہے جو جنگ کے بغیر تجھے حاصل ہو گیا ہے اس لئے اس میں آپ انعام کی توقع نہ رکھیں بلکہ عام مسلمانوں کی طرح حصہ آپ کو بھی ملیگا۔

## اہل سفینہ کی خصوصیت

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَدِمْنَا قَوْأَفْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا جَعْفَرًا وَأَصْحَابَهُ أَسْهَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ جب ہم حبشہ سے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ اس وقت خیبر کو فتح کر چکے تھے چنانچہ آپ نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا، ابو موسیٰ اشعریؓ نے یہ کہا کہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا اور آپ نے اس مال غنیمت میں سے کسی بھی

ایسے شخص کو کوئی حصہ نہیں دیا جو فتح خیبر کے موقع پر موجود نہ رہا ہو علاوہ اس شخص کے جو غزوہ خیبر کے وقت آپ کے ساتھ تھا اور علاوہ ہم کشتی والوں یعنی حضرت جعفرؓ اور ان کے رفقاء کے کہ آپ نے ہم کشتی والوں کو بھی ان غزوہ خیبر میں شریک ہونے والے مجاہدوں کے ساتھ حصہ دیا باوجودیکہ ہم اس غزوہ میں شریک نہیں تھے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

جنگ خیبر کے موقع پر حبشہ سے مدینہ کی طرف دوسری ہجرت کے موقع پر حضرت جعفرؓ وغیرہ صحابہ پہنچ گئے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا تھا یہ کس طرح ہوا؟ تو اس میں فقہاء کے اصول کو سمجھنا چاہئے امام شافعیؒ کا اصل یہ ہے کہ جب میدان جنگ میں لڑائی ختم ہوگئی اور کافروں کی شکست کے بعد مال غنیمت مجاہدین کے ہاتھ میں آگیا تو اب باہر سے کسی آنے والے لشکر کا اس مال میں کوئی حق نہیں یہ صرف مجاہدین پر تقسیم ہوگا شوافع کے ہاں دار اسلام کی طرف اخراج و احراز شرط نہیں ہے۔

ائمہ احناف کا اصل یہ ہے کہ مجاہدین کے غلبہ کے بعد مال غنیمت کا احراز و اخراج الی دار اسلام بھی ضروری ہے احراز سے پہلے جو لوگ میدان جہاد میں پہنچ گئے وہ مال غنیمت میں حصہ پائیں گے ورنہ نہیں۔ اب شوافع فرماتے ہیں کہ اہل سفینہ کو حصہ اس لئے دیا گیا کہ ابھی تک مال جمع نہیں کیا گیا تھا پورا غلبہ بھی حاصل نہیں ہوا تھا کہ یہ لوگ پہنچ گئے تھے تو شریک ہو گئے۔ ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ اہل سفینہ کو اس لئے حصہ دیا گیا کہ اب تک مال غنیمت کا اخراج و احراز نہیں ہوا تھا اگرچہ غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مجاہدین کی رضا و رغبت سے ان کو حصہ دیا گیا۔

## حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خائن کا جنازہ نہیں پڑھا

﴿۲۷﴾ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْفِيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا لِلرَّسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وَجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دَرْهَمَيْنِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت یزید ابن خالدؒ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص کا خیبر کے دن انتقال ہو گیا صحابہؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا یعنی آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے آنحضرت نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے جنازہ کی نماز پڑھو لو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا لوگوں کا یہ سنا تھا کہ ان کے چہروں کا رنگ اس خوف کی وجہ سے بدل گیا کہ نہ معلوم کیوں آنحضرت اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے آنحضرت نے فرمایا میں اس کی



نماز جنازہ اس وجہ سے نہیں پڑھوں گا کہ تمہارے اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں یعنی مال غنیمت میں خیانت کا ارتکاب کیا تھا۔ چنانچہ جب ہم نے اس کے اسباب کی تلاشی لی تو اس میں ہمیں یہودیوں یعنی یہودی عورتوں کے پہنے کے گلے کے ہار ملے جو دودرہموں کے برابر بھی نہیں تھے یعنی ان کی قیمت دودرہم سے بھی کم تھی۔ (مالک، ابوداؤد، نسائی)

”خرز“ گلے کے اس ہار کو کہتے ہیں جو بیکارا شیاء سے بنا ہو۔

## خیانت کردہ مہار قیامت میں خود لاؤ

﴿۲۸﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِأَلَا فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُخَمِّسُهُ وَيُقَسِّمُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ يَوْمًا بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فِيْمَا كُنَّا أَصْبَنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَالَ سَمِعْتُ بِأَلَا نَادَى ثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِئَ بِهِ فَأَعْتَذَرَ قَالَ كُنْتُ أَنْتَ تَجِئُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبِلَهُ عَنْكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت کو جمع کرا کر تقسیم کرنے کا ارادہ فرماتے تو حضرت بلالؓ کو اعلان کرنے کا حکم دیتے چنانچہ وہ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیتے اور اس اعلان کو سنتے ہی لوگ اپنی اپنی غنیمت لے آتے یعنی جس کے پاس مال غنیمت کی جو بھی چیز ہوتی وہ اس کو لا کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیتا۔ پھر آنحضرتؐ پہلے خمس یعنی پانچواں حصہ نکالتے اور اس کے بعد اس مال غنیمت کو لوگوں یعنی مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص مال غنیمت میں سے خمس نکالنے اور اس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے کے ایک دن بعد بالوں کی بنی ہوئی ایک مہار لے کر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جو مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگا تھا اس میں یہ مہار بھی تھی آپ نے فرمایا کہ بلالؓ نے تین بار جو اعلان کیا تھا اس کو تم نے سنا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا تھا آپ نے فرمایا پھر اس کو اسی وقت لانے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا اس نے اس تاخیر کے لئے کوئی عذر بیان کیا آپ نے فرمایا اب اس کو اپنے پاس ہی رکھو اب تو کل قیامت کے دن خود ہی اس کو لے کر آنا اور تب خدا کو اس تاخیر کا جواب دینا میں اب اس کو تم سے ہرگز نہ لوں گا۔ (ابوداؤد)

## مشترکہ قومی دولت میں خیانت کی سزا

﴿۲۹﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ حَرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِ وَضَرَبُوهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد حضرت شعیبؓ سے اور وہ شعیبؓ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ نے مال غنیمت میں خیانت کرنے

والے کا سامان و اسباب جلاؤ الا اور اس کی پٹائی بھی کی۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”حرقوا“ جو آدمی خیانت کرے تو اس کی سزا کیا ہے اس حدیث میں ہے کہ آنحضرت اور صدیق و فاروق کے زمانہ میں خائن کا مال جلایا جاتا تھا۔ بعض فقہاء جیسے احمد بن حنبل وغیرہ کہتے ہیں کہ آج بھی حکم اسی طرح ہے کہ خائن کا مال جلایا جائے ہاں زندہ حیوان کو بچایا جائے مصحف وغیرہ کو بھی نہ جلایا جائے۔ اسی طرح خیانت شدہ مال کو بھی نہ جلایا جائے کیونکہ یہ خائن کا مال نہیں بلکہ بیت المال کا مال ہے نیز زندہ جانور کا جلانا بھی ممنوع ہے۔ جمہور فقہاء کے نزدیک خائن کا مال و متاع نہ جلایا جائے بلکہ قاضی بطور تعزیر خائن کو دوسری سزا دیدے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ زیر بحث حدیث تشدید اور تغلیظ پر محمول ہے۔

## خائن پر پردہ ڈالنا بھی خیانت ہے

﴿۳۰﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَكْتُمُ غَالًا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپایا (یعنی وہ امیر و حاکم کے علم میں یہ بات نہیں لایا کہ فلاں شخص نے خیانت کی ہے) تو گنہگار ہونے کے اعتبار سے وہ بھی خیانت کرنے والے کی طرح ہے۔ (ابوداؤد)

یعنی جس نے خائن کو چھپایا اس کو بچایا اس کے مخالف کو دبایا اور خیانت شدہ مال کو چھپایا تو یہ شخص بھی خیانت میں برابر کا شریک ہے۔

## تقسیم سے قبل مال غنیمت کی خرید و فروخت منع ہے

﴿۳۱﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اس کو خرید نہ سے منع فرمایا ہے کیونکہ تقسیم سے پہلے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ (ترمذی)

یہ خرید و فروخت اس لئے منع ہے کہ اب تک اس کا احرار و اخراج نہیں ہوا ہے نیز حصہ بھی معلوم نہیں ہے۔

﴿۳۲﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقَسَّمَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس ممانعت کا اعلان فرمایا کہ مال غنیمت کے

حصے جب تک تقسیم نہ ہو جائیں ان کو فروخت نہ کیا جائے۔ (داری)

﴿۳۳﴾ وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْمَالَ خَصْرَةَ حُلُوةٍ فَمَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت خولہ بنت قیسؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلاشبہ یہ مال ایک سبز و شیریں چیز ہے (یعنی مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی نظر کو بھاتا ہے اور دل کو لہاتا ہے) لہذا جو شخص اس مال کو حق یعنی حلال ذریعہ سے حاصل کرتا ہے اس کے لئے اس میں برکت عطا کی جاتی ہے اور یاد رکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا اور اس کے رسول ﷺ کے مال یعنی مال غنیمت میں سے جس چیز کو ان کا دل چاہتا ہے اپنے تصرف میں لے آتے ہیں قیامت کے دن ان کے لئے صرف دوزخ کی آگ ہوگی۔ (ترمذی)

### ذوالفقار تلوار کا ذکر

﴿۳۴﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا جنگ بدر کے دن حصے سے زیادہ لی تھی۔ (ابن ماجہ)

اور ترمذی نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ اور یہ وہی تلوار ہے جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن خواب دیکھا تھا۔

### توضیح

”ذوالفقار“ فقار ریڑھ کی ہڈی میں مہروں کو کہتے ہیں اسی تلوار کی پشت پر یا تو اسی قسم کے گڑھے تھے یا اسی طرح کے مہرے بنے ہوئے تھے جنگ بدر میں یہ تلوار ایک کافر مُنَہ بن ججاج کے ہاتھ میں تھی حضرت علیؓ نے اس کو قتل کر دیا اس تلوار کو آنحضرت نے پسند فرمایا اور بطور ”صفی“ آپ نے خود لے لیا آپ نے مختلف جنگوں میں اس کو استعمال فرمایا جنگ احد سے کچھ پہلے آنحضرت نے خواب میں جو تلوار ٹوٹی ہوئی دیکھی تھی وہ یہی تھی صفی کا انتخاب صرف حضور کے ساتھ خاص تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ آنحضرت نے یہ تلوار حضرت علیؓ کو عطا فرمائی اس لئے لوگ کہتے ہیں ۔

لافتى الاعلى لاسيف الاذوالفقار

## جومو من ہے وہ خیانت نہیں کریگا

﴿۳۵﴾ وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ ذَا بَأْسٍ مِنْ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أُعْجِفَهَا رَدَّهَا فِيهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فِئَةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أُخْلِقَهُ رَدَّهَ فِيهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت روفیع ابن ثابتؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے قطعاً روا نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے مشترک مال غنیمت کے کسی جانور پر بلا ضرورت شرعی سوار ہو اور پھر جب وہ جانور بلا ہو جائے تو اس کو مال غنیمت میں واپس کر دے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے یہ قطعاً روا نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے مشترک مال غنیمت کے کسی کپڑے کو بلا ضرورت شرعی پہنے اور پھر جب وہ کپڑا پرانا ہو جائے تو اس کو مال غنیمت میں واپس کر دے۔ (ابوداؤد)

﴿۳۶﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَجَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قُلْتُ هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت محمد ابن ابوالجالد، حضرت عبداللہ ابن اوفیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے (حضرت عبداللہؓ) سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی چیزوں میں سے بھی خمس یعنی پانچواں حصہ نکالتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ غزوہ خیبر کے دن کھانے کی چیزیں بھی ہمارے ہاتھ لگی تھیں، چنانچہ ہر کوئی شخص آتا اور ان میں سے بقدر کفایت لے کر واپس چلا جاتا۔ (ابوداؤد)

﴿۳۷﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا وَعَسَلًا فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الْخُمْسُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا لشکر جب جہاد سے واپس آیا تو مال غنیمت میں کھانے کی چیزیں اور شہد لے کر آیا چنانچہ ان لشکروالوں نے ان چیزوں میں سے جو کچھ کھاپی لیا تھا یا وہ جو کچھ بچا کر لائے تھے اس میں سے ان سے خمس یعنی پانچواں حصہ نہیں لیا گیا۔ (ابوداؤد)

﴿۳۸﴾ وَعَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ الْجَزُورَ فِي الْغَزْوِ وَلَا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا لَنَرْجِعَ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنْهُ مَمْلُوءَةً.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت قاسمؓ (تابعی) جو عبدالرحمن کے آزاد کر غلام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ان بعض صحابہؓ نے بیان کیا کہ ہم غزووں میں اونٹ کا گوشت کھاتے اور اس کو تقسیم نہ کرتے یعنی ہم محاذ جنگ پر ضرورت کے وقت مال غنیمت کے اونٹوں کو ذبح کرتے اور اس کا گوشت تقسیم کئے بغیر اپنی اپنی حاجت کے بقدر لے لیتے یہاں تک کہ جب ہم سفر کے دوران اپنے ڈیروں، خیموں میں واپس آتے تو ہمارے تھیلے گوشت سے بھرے ہوئے ہوتے۔ (ابوداؤد)

توضیح

”فنا كل الجزور“ ضرورت کے تحت مجاہدین میدان جہاد میں اونٹ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں ہاں وہاں سے جب لشکر واپس آجائے اور سرحد پار کرے تو اب چونکہ ضرورت باقی نہیں رہی اس لئے ایسا کرنا جائز نہیں بلکہ چارہ بھی اٹھا کر مال غنیمت سے نہیں لیا جاسکتا ہے۔

”اخر جتنا“ الخرج کی جمع ہے تھیلی اور کھانا رکھنے کے برتن کو کہتے ہیں یہ میدان جنگ کا پس منظر بتاتا ہے کہ ہم اپنے خیموں کی طرف یہ گوشت کھانے کے لئے لے جاتے تھے ذخیرہ کرنے کے لئے نہیں۔

مشتہر کہ مال سے سوئی بھی نہ اٹھاؤ

﴿۳۹﴾ وَعَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَذُوا الْخِيَاطِ وَالْمَخِيْطِ وَيَا كُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّهُ عَارٌّ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

اور حضرت عبادہ ابن صامتؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تاگے اور سوئی کی بھی ادائیگی کرو یعنی مال غنیمت میں سے اس قدر معمولی چیزیں بھی چھپا کر نہ رکھو اور تم مال غنیمت میں یا مطلق خیانت کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خیانت کرنا خیانت کے مرتکب لوگوں کے لئے قیامت کے دن بے عزتی لانے والا ہوگا۔ (دارمی) اور نسائی نے اس روایت کو عمر وابن شعیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے۔

توضیح

”خیاط“ تاگے کو کہتے ہیں ”المخیط“ سوئی کو کہتے ہیں۔ ”الخياط“ خاکاکرہ ہے سوئی میں ڈالا جانے

والا تا کہ۔ ”المخیط“ میم پر کسرہ ہے خار سکون ہے یا پرفتنہ ہے سوئی کو کہتے ہیں۔

﴿۴۰﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ذَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعِيرٍ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَقْيِ شَيْءٌ وَلَا هَذَا وَرَفَعَ أَصْبَعَهُ إِلَّا الْخُمْسَ وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَأَذُوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيْطَ فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرِ فَقَالَ أَخَذْتُ هَذِهِ لِأَصْلَحَ بِهَا بَرْدَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِئَنِّي عَبْدُ الْمُطْلَبِ فَهُوَ لَكَ فَقَالَ أَمَّا إِذَا بَلَغْتَ مَا أَرَى فَلَا أَرَبَ لِي فِيهَا وَبَنَدَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال فنی میں مائے ہوئے ایک اونٹ کے پاس تشریف لائے اور اس کے کوہان کے دو ایک بال اکھاڑ کر فرمایا۔ لوگو! حقیقت یہ ہے کہ اس مال فنی میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس انگلی پر وہ بال تھے لوگوں کو دکھانے کے لئے اس انگلی کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ مال بھی یعنی اتنا معمولی حصہ بھی میرے لئے نہیں ہے البتہ خمس یعنی پانچواں حصہ کا میں حقدار ہوں لیکن خمس بھی میری ذات پر خرچ نہیں ہوتا بلکہ تمہارے ہی اوپر خرچ کیا جاتا ہے یعنی خمس کا مال تمہاری ہی بھلائی میں خرچ ہوتا ہے بایں طور کہ اس سے تمہارے لئے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ حاصل کئے جاتے ہیں لہذا اگر تمہارے پاس مال غنیمت میں کا سوئی تا کہ بھی ہو تو اس کو لا کر جمع کرادو۔ یہ سن کر ایک شخص جس کے ہاتھ میں بالوں کی رسی کا ایک گولہ تھا کھڑا ہوا اور کہا کہ میں نے رسی کے اس ٹکڑے کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تا کہ اس کے ذریعہ پالان کے نیچے کی کملی کو گانٹھ ٹھیک کر لوں اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اس چیز کا سوال ہے جو میرے اور بنو عبدالمطلب کے حصے کی ہے تو وہ تمہاری ہے یعنی اس ٹکڑے میں سے جو کچھ میرے خاندان بنو ہاشم اور ان کے حلیف و ساتھی بنو عبدالمطلب کے لوگوں کے حصے کا ہے وہ تو ہم نے تمہیں بخش دیا لیکن اس میں سے جو کچھ ہمارے علاوہ دوسرے مجاہدین کا حصہ ہے اس کے بارے میں تم جانو کہ اگر تم ان سے بھی ان کے حصے معاف کرالو گے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور اگر ان کے حصے معاف نہیں کرائے تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ جب یہ رسی گناہ کی اس حد تک پہنچ گئی ہے جو میرے سامنے ہے تو پھر مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہہ کر اس نے اس رسی کو پھینک دیا۔ (ابوداؤد)

توضیح

”کبۃ“ یعنی بالوں کا ایک گولہ، عورت جب چرخہ کے ذریعہ سے اون کات لیتی ہے اور اون کا ایک ٹکڑا ماشورہ بن جاتا ہے اسی کو کبۃ کہتے ہیں ”بردعۃ“ گھوڑے کے زین کے نیچے یا اونٹ کے کباوہ کے نیچے جو کپڑا پشت پر بچھایا جاتا ہے اسی کو بردعہ کہتے ہیں۔

حضور نے اس شخص کے جواب میں فرمایا کہ اگر یہ معمولی چیز میری ہوتی یا میرے خاندان کی ہوتی تو میں دیدیتا مگر یہ بیت المال کا مال ہے اس شخص نے جواب میں کہا کہ جب اتنی معمولی چیز کا معاملہ اتنا آگے گیا تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہہ کر اس نے گولہ کو مال غنیمت میں ڈال دیا۔

﴿۴۱﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلَّا الْخُمْسُ وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عمرو بن عبسہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک موقع پر) مال غنیمت کے ایک اونٹ کو سترہ قرار دے کر ہمیں نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہو گئے تو اس اونٹ کے پہلو سے دو ایک بال اکھاڑے اور پھر فرمایا کہ تمہارے مال غنیمت میں میرے لئے اتنا یعنی ان بالوں کے بقدر بھی حصہ نہیں ہے علاوہ خمس کے اور وہ خمس بھی تمہاری ہی ضرورتوں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿۴۲﴾ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ إِخْوَانُنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لَأَنْتُمْ كَرُّ فَضْلِهِمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَرَأَيْتَ إِخْوَانُنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْنَا وَإِنَّمَا قَرَأْتَنَا وَقَرَأْتَهُمْ وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ نَحْوَهُ وَفِيهِ أَنَا وَبَنُو الْمُطَّلِبِ لَا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

اور حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے اپنے قرابت داروں کا حصہ خمس بنو ہاشم اور بنو مطلب کے درمیان تقسیم کیا تو میں بنو نوفل کی طرف سے اور عثمان بن عبد شمس کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے یہ بھائی جن کا تعلق بنو ہاشم سے ہے ہم ان کی فضیلت و بزرگی کا تو انکار نہیں کرتے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا کیا ہے لہذا اس اعتبار سے ہمارے یہ نسبت وہ آپ سے زیادہ قریب ہیں کیونکہ ان کے اور آپ کے جدا ایک ہی ہیں یعنی ہاشم، اگرچہ ہمارے اور ان کے جدا علی بھی ایک ہی ہیں یعنی عبد مناف لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ نے خمس کے مال میں سے جو ذوی القربی کا حصہ ہے۔ ہمارے ان بھائیوں کو تو حصہ دیا جن کا تعلق بنو مطلب سے ہے اور ہمیں محروم رکھا جبکہ ہماری یعنی بنو نوفل اور بنی

عبد شمس کی اور ان کی یعنی بنی مطلب کی قرابت ایک ہی ہے بایں طور کہ جس طرح ان کے دادا ہاشم کے بھائی تھے اسی طرح ہمارا دادا بھی ہاشم کے بھائی تھے گویا ان دونوں حضرات کی عرض کا حاصل یہ تھا کہ مال غنیمت میں سے جو شمس نکالا جاتا ہے وہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق آپ کے قرابت داروں کا حصہ ہے چنانچہ اپنے اپنے قرابت داروں کی ایک شاخ بنو مطلب کو مال خمس میں سے دیا لیکن دوسری دو شاخوں یعنی بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو کچھ نہیں دیا جبکہ یہ ساری شاخیں ایک ہی جد اعلیٰ یعنی عبد مناف کی اولاد ہیں تو اس امتیازی سلوک کی کیا وجہ ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان داخل کر کے اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ جس طرح ہاتھوں کی یہ انگلیاں باہم مل کر ایک چیز ہو گئی ہیں۔ اسی طرح بنو ہاشم اور بنو مطلب بھی ایک چیز ہیں۔ (شافعی) ابو داؤد اور نسائی کی روایت بھی اسی طرح ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اور مطلب کی اولاد نہ زمانہ جاہلیت میں کبھی ایک دوسرے کے مخالف ہوئے اور نہ زمانہ اسلام میں لہذا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم اور وہ دونوں ایک چیز ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں۔ اس حدیث کی مکمل تشریح اس سے پہلے حدیث ۹ کے تحت ہو چکی ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

### الفصل الثالث

### ابو جہل کے قتل کا قصہ

﴿۴۳﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَتَا أَسْنَانُهُمَا فَتَمَنَيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أُضْلَعٍ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ أَيُّ عَمٍّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ فَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي قَالَ أَخْبَرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يَفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنْنَا قَالَ فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ قَالَ وَغَمَزَنِي الْآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا فَلَمْ أَنْشُبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ الْآتِرِيَانِ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانِي عَنْهُ قَالَ فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضْرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا قَتَلَهُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا فَقَالَا لَا فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَلْبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ وَالرَّجُلَانِ مُعَاذِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ وَمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ



حضرت عبدالرحمنؓ ابن عوف کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں دشمن کی مقابل صف میں کھڑا تھا جب میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں دو انصار لڑکوں کے درمیان کھڑا ہوں جو بالکل نو عمر تھے مجھے یہ تمنا ہوئی کہ کاش اس وقت میں ان دونوں سے زیادہ طاقتور اور تجربہ کار دو آدمیوں کے درمیان کھڑا ہوتا۔ یعنی میں نے ان دونوں نو عمروں کو حوصلہ و شجاعت کے اعتبار سے بے وقعت جانا اور یہ خیال کیا کہ چونکہ یہ نو عمر نا آزمودہ کار ہیں۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ دشمن کے حملہ کی تاب نہ لائیں اور معرکہ کے وقت بھاگ کھڑے ہوں جس سے میری ذات کو بھی ہلکے میں انہیں خیالات میں غلطی اور پیچان تھا کہ اچانک ان دونوں میں سے ایک نے مجھ کو ٹھوکا دیا اور کہا کہ چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں۔ وہ کون سا ہے اور کہاں ہے؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں لیکن میرے بھتیجے تمہیں ابو جہل سے کیا غرض ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ لعین ابو جہل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میرا جسم اس کے جسم سے اس وقت تک جدا نہ ہوگا جب تک ہم میں سے کوئی ایک موت کی طرف بڑھنے میں جلدی نہ کرے یعنی ابو جہل کے خلاف میرے دل میں اتنی نفرت ہے کہ میں اس کو دیکھتے ہی اس پر جھپٹ پڑوں گا اور اس وقت تک اس سے لڑوں گا جب تک کہ ہم دونوں میں سے جس کی موت پہلے آنے والی ہوگی وہ نہ مر جائے خواہ میں شہید ہو جاؤں خواہ میں اس کو جہنم رسید کر دوں۔ حضرت عبدالرحمنؓ کہتے ہیں کہ میں اس نو عمر کی اس بات کو سن کر حیران رہ گیا کہ خدا یا ان نو عمروں کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے اور ان کے جذبات میں ہمت و حوصلہ اور شجاعت و بہادری کا کیسا محشر بپا ہے عبدالرحمنؓ کہتے ہیں کہ پھر دوسرے لڑکے نے مجھ کو ٹھوکا دیا اور اس نے بھی وہی الفاظ کہے جو پہلے نے کہے تھے اس کے بعد میں نے کوئی توقف نہیں کیا اور ابو جہل کو دیکھا جو دشمن کے لوگوں میں پھر رہا تھا میں نے اس کی طرف اشارہ کر کے ان لڑکوں سے کہا کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھ رہے جو دشمن کے گردہ میں پھر رہا ہے؟ یہی تمہارا مطلوب ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے یعنی اس شخص کو پہچان لو یہی ابو جہل ہے عبدالرحمنؓ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں لڑکے اپنی تلوار سنبھال کر فوراً ابو جہل کی طرف لپکے اور اس پر حملہ کر دیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر ڈالا۔ پھر وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر آئے اور آپ کو اس واقعہ سے آگاہ کی آپ نے پوچھا کہ تم دونوں نے اپنی تلواریں پونچھ ڈالی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں چنانچہ آپ نے ان دونوں کی تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کا سامان معاذ ابن عمرہ ابن جموح کو دیا جائے اور وہ دونوں لڑکے جنہوں نے ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا معاذ ابن عمروؓ ابن جموح اور معوذ ابن عفرہؓ تھے۔ (بخاری، و مسلم)

توضیح

”اضلع“ اقویٰ کے معنی میں ہے یعنی میں نے تمنا کی کہ کاش میرے دائیں بائیں ان دو بچوں کے بجائے طاقتور مردہ ہوتے۔ ”فغمزنی“ یعنی ہاتھ کی انگلیوں سے میرے جسم میں چند ہی بھردی تاکہ میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔

”سوادى سواده“ اى جسمى جسمه و شخصى شخصه، ”الاعجل“ يعنى جس كى موت كا وقت جلدى هووہ مر جائے یہ حملہ بھی خود کش حملہ كى طرح ہے جو اصل ميں ديگر كش حملہ ہے۔ ”لم انشب“ يعنى كوئى دير نہيں لگى۔  
 ”ومعاذ بن عفراء“ اس سے پہلے لکھا جا چكا ہے كہ يہ دونوں ماں شريك بھائى تھے اور ماں كا نام عفراء تھا اور باپ دونوں كے الگ الگ تھے معاذ كے باپ عمرو بن جوح تھے اوز معوذ كے باپ كا نام حارث تھا اور دونوں كى والدہ كا نام عفراء تھا تو جس كى طرف نسبت هو جائے صحيح ہے كوئى تعارض نہيں ہے البتہ اتنى ياد رہے كہ پہلے حضرت معاذ نے حملہ كيا پھر معوذ نے حملہ كيا عكرمه نے معاذ پر حملہ كيا اور بھاگ كيا پھر حضرت ابن مسعود بعد ميں آكر ابو جهل كے سر قلم كيا فرشتوں نے بھی اس كا خير ميں حصہ ليا۔

### حضرت ابن مسعود ابو جهل كے سينے پر

﴿۴۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ فَإِنَّا نَطْلُقُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَوْجَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ فَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ فَلَوْ غَيْرُ أَكْأَدٍ قَتَلْتَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت انسؓ كہتے ہيں كہ رسول كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے جنگ بدر كے دن ميدان جنگ ميں فرمايا كہ كون شخص ہے جو ديكھ كر ہمیں بتائے كہ ابو جهل نے كيا كيا يعنى اس كا كيا حشر هوا آيا وہ مارا كيا يا زندہ ہے چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ گئے اور انہوں نے ابو جهل كو اس حالت ميں پايا كہ عفراء كے دونوں بيٹوں نے اس كو مار مار كر ٹھنڈا كر ديا يعنى قريب المرگ كر ديا تھا حضرت انسؓ كہتے ہيں كہ حضرت ابن مسعودؓ نے يہ ديكھ كر ابو جهل كى ڈاڑھى پكڑ لى اور اس سے كہا كہ ابو جهل ہى ہے نا؟ ابو جهل نے ابن مسعودؓ كے اس سوال كے پيچھے چھپے ہوئے طنز اور تحارت كو محسوس كر ليا اور كہا كہ بے شك ميں ابو جهل ہى ہوں ليكن كيا تم اس شخص سے زيادہ بڑے مرتبہ كے ہو جس كو تم نے قتل كيا ہے؟ يعنى جس شخص كو تم نے قتل كيا ہے اس سے زيادہ بڑے مرتبہ كا كوئى شخص نہيں ہے ان الفاظ كے ذريعہ گويا ابو جهل نے يہ دعوى كيا كہ قریش ميں مجھ سے زيادہ بڑے مرتبہ كا كوئى شخص نہيں ہے اور ايك روايت ميں يہ ہے كہ ابو جهل نے اس موقع پر يہ كہا كہ اگر غير زراعت پيشہ لوگ مجھے قتل كرتے تو بہت بہتر ہوتا۔ (بخارى، ومسلم)

توضيح

”حتى برد“ يعنى زندگى كے آخرى رفق ميں تھا ”وہل فوق رجل“ ايك مطلب يہ ہے كہ اس آدمى سے بڑھ كر تم نے كسى آدمى كو كبھى مارا ہے يعنى مجھ سے بڑا تم نے كسى كو نہيں مارا ميں سب سے بڑا ہوں، دوسرا مطلب يہ ہے كہ ايك آدمى ہى كو تو مارا

ہے اس پر کیا ناز کرتے ہو باقی فوج موجود ہے، اس حدیث کے ترجمہ میں مظاہر حق میں کچھ ابہام ہے۔ بعض روایات میں یہاں کچھ تفصیل ہے وہ یہ کہ حضرت ابن مسعودؓ جب آئے تو ابو جہل کے سینے پر بیٹھ گئے ابو جہل نے کہا کہ اے چرواہے مبارک ہو بڑے اونچے مقام پر بیٹھے ہو مگر یہ بتاؤ کہ جنگ کا میدان کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہوں نے فرمایا میدان محمدؐ عربی اور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے ابو جہل نے کہا اترانے کی ضرورت نہیں ایک آدمی کے سوا بھی کسی کو مارا ہے حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ تیرے جیسے ستر آدمی کئے ہوئے پڑے ہیں۔ ابو جہل نے کہا یہ بتاؤ مجھے مارا کس نے ہے؟ انہوں نے فرمایا عفراء کے بیٹے نے مارا ہے ابو جہل نے کہا ”فلو غیرا کا رقتلنی“ کاش مجھے دھقان کے علاوہ کوئی قتل کر دیتا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے ابو جہل کی داڑھی کو جھبکا دیکر فرمایا کہ ”وقد اخزاک اللہ یاعدو اللہ“ اے اللہ کے دشمن اللہ نے تجھے رسوا کیا ہے۔ پھر حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا میں تجھے قتل کرنے والا ہوں ابو جہل نے کہا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہ کسی غلام نے آقا کو مارا ہو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا میں تیرا سر قلم کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا اپنی تلوار دکھاؤ جب ابو جہل نے حضرت ابن مسعودؓ کی زنگ آلود تلوار دیکھ لی تو کہا کہ اس سے نہیں بلکہ میری تلوار لیکر میرا سر الگ کر دو مگر کندھوں کے پاس سے کاٹ دو تا کہ میرا سر بڑا لگے اور محمدؐ کہے کہ واقعی بڑے سردار کا سر تھا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے سر قلم کیا اور حضور اکرمؐ کے سامنے لا کر رکھ دیا آنحضرتؐ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا میری امت کا فرعون مارا گیا تفصیلات میری کتاب جنگ بدر میں دیکھ لی جائیں۔

### کمزور مسلمان کا ایمان مال دیکر بچانا چاہئے

﴿۴۵﴾ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ أُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا ذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ ثَلَاثًا وَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ الرَّهْرِيُّ فَتَرَى أَنَّ الْإِسْلَامَ الْكَلِمَةُ وَالْإِيمَانُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ

اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ ایک دن جبکہ میں مجلس نبویؐ میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کچھ مال عطا فرمایا اور اس جماعت میں سے ایک شخص کو رسول کریمؐ نے چھوڑ دیا یعنی اس کو کچھ نہیں دیا حالانکہ وہ شخص میرے نزدیک دین کے اعتبار سے ان میں سب سے بہتر تھا یہ دیکھ کر میں کھڑا ہوا اور آنحضرتؐ سے عرض کیا کہ فلاں

شخص کے لئے کیا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے عطیہ سے محروم رکھا؟ خدا کی قسم! میں تو اس کو مومن صادق سمجھتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ میں اس کو مومن صادق سمجھتا ہوں بلکہ یہ کہو کہ میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں سعدؓ نے آپ کے سامنے تین باریہ بات کہی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر بار اسی طرح جواب دیا اس کے بعد آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں ایک شخص کو مال دیتا ہوں حالانکہ اس کی نسبت دوسرا شخص میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ شخص منہ کے بل دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ (بخاری، و مسلم)

اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ زہریؒ نے یہ کہا ہے کہ اس ارشاد گرامی کے پیش نظر میرا یہ اعتقاد ہے کہ اسلام اصل میں کلمہ یعنی کلمہ شہادت کا نام ہے اور ایمان قلب کے عمل صالح یعنی تصدیق کا نام ہے۔

### توضیح

”او مسلما“ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ”او“ بل، کے معنی میں ہے یعنی آنحضرتؐ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان ایک پوشیدہ باطنی امر ہے اس کا حکم نہ لگاؤ بلکہ صرف ظاہر پر حکم لگاؤ جو اسلام ہے لہذا اس کو مسلم کہو و مومن نہ کہو، اس روایت سے اسلام اور ایمان میں تباہین کا پتہ چلتا ہے تفصیل جلد اول کتاب الایمان میں ہے۔

### حضرت عثمانؓ کو بدریوں کا درجہ حاصل ہے

﴿۳۶﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ وَإِنِّي أَبَايَعُ لَهُ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ بلاشبہ عثمانؓ اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہیں اس لئے میں (خود) ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانؓ کے لئے جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ مقرر کیا اور آپ نے حضرت عثمانؓ کے علاوہ اور کسی ایسے شخص کے لئے حصہ مقرر نہیں کیا جو جنگ میں شریک نہیں تھا۔ (ابوداؤد)

### توضیح

حضرت عثمانؓ آنحضرتؐ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی تیمارداری میں مشغول رہے آنحضرتؐ کے حکم کے مطابق جنگ بدر میں شرکت کے لئے نہیں گئے بدریوں کا درجہ آپ کو ملا اور مال غنیمت کا حصہ بھی ملا۔

﴿۳۷﴾ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ فِي قَسَمِ الْمَغَانِمِ

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بَعِيرٍ .

اور حضرت رافع ابن خدیج کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر قرار دیتے۔ (نسائی)

## جہاد کے لئے سورج غروب ہونے سے رک گیا

﴿۴۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا تَتَّبِعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَنْبِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلَا رَجُلٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خِلْفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وَلَا دَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَّكَ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحَبَسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْزِي النَّارُ لِنَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمَهَا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيَبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدْرَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ فَجَاؤُا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَهَا فَجَاءَتْ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا زَادَ فِي رِوَايَةٍ فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی یعنی حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جہاد کا ارادہ کیا اور جب وہ جہاد کے لئے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ چلے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور اس عورت کو اپنے گھر لا کر اس سے مجامعت کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی تک اس کو اپنے گھر لایا ہو اور میرے ساتھ نہ وہ شخص چلے جس نے گھر بنایا ہو لیکن ابھی تک اس کی چھت نہ ڈال سکا ہو نیز وہ شخص بھی میرے ساتھ نہ چلے جس نے گا بھن بکریاں یا گا بھن اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچے جننے کا منتظر ہو اس کے بعد وہ نبی اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ جہاد کے لئے روانہ ہوئے اور جب اس بستی کے قریب پہنچے کہ جہاں وہ جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا یعنی وہ ایسے وقت اس بستی کے قریب پہنچے جبکہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا ان نبی نے آفتاب کو مخاطب کر کے کہا کہ تو بھی چلے پر مامور ہے اور میں بھی اس بستی کو فتح کرنے پر مامور ہوں۔ اے اللہ! تو اس آفتاب کو ٹھہرا دے چنانچہ آفتاب ٹھہرا دیا گیا یعنی قدیم ماہرین فلکیات کے نظریہ کے مطابق آفتاب کی رفتار کو یا جدید نظریہ کے مطابق زمین کی گردش کو حکم الہی سے روک دیا گیا تاکہ رات کی تاریکی سے پہلے پہلے وہ نبی جہاد کر لیں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان نبی کو فتح عطا فرمادی۔ پھر جب مال غنیمت جمع کیا گیا اور اس کو جلا ڈالنے کے لئے آگ لگائی تو اس آگ نے مال غنیمت کو نہیں جلایا۔ یہ دیکھ کر ان نبی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یقیناً

تمہارے اندر مال غنیمت میں خیانت واقع ہوئی ہے یعنی تم میں سے کسی نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی ہے جس کی وجہ سے یہ آگ اپنا کام نہیں کر رہی ہے لہذا تم میں سے ہر قبیلہ کے ایک ایک شخص کو چاہئے کہ وہ بیعت کرے چنانچہ جب بیعت شروع ہوئی اور ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی اپنا ہاتھ ان نبی کے ہاتھ میں دینے لگا تو ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کو چپک کر رہ گیا۔ نبی نے اس شخص سے فرمایا کہ اس ذریعہ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خیانت تمہارے قبیلہ کی طرف سے ہوئی ہے پھر اس قبیلہ کے لوگ سونے کا ایک سرائے جو بیل کے سر کی مانند تھا اور اس کو رکھ دیا اس کے بعد آگ آئی اور اس نے مال کو جلادیا اور ایک روایت میں رادی نے یہ عبارت بھی نقل کی ہے کہ آنحضرت نے یہ فرمایا کہ چنانچہ ہم سے پہلے کسی کے لئے مال غنیمت حلال نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو ہمارے لئے حلال قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالی طور پر ضعیف و کمزور دیکھا تو مال غنیمت کو ہمارے لئے حلال کر دیا۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”نبی من الانبیاء“ کہتے ہیں یہ یوشع بن نون پیغمبر تھے انہوں نے فارغ البال نوجوانوں کو جہاد کے لئے منتخب کیا تاکہ بے جگری سے لڑیں۔ ”انت مامورہ“ یعنی مجھے جہاد کا حکم ہے اور تجھے آسمان پر سفر کرنے کا حکم ہے اے اللہ اس کو روک دو تاکہ میں جہاد کے عمل کو مکمل کر لوں اور شہر میں داخل ہو جاؤں چونکہ غروب آفتاب کے بعد ہفتہ کا دن شروع ہونے والا تھا اور ہفتہ کے دن ان کے لئے جہاد کرنا منع تھا اس لئے حضرت یوشع نے دعا مانگی تاکہ جہاد کے عمل کی تکمیل ہو جائے اور شہر فتح ہو جائے ورنہ پرسوں تک کافر لوگ مضبوط ہو جائیں گے اس وقت یہ کمزور ہیں اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں اس دعا کے بعد سورج رک گیا جب شہر فتح ہو گیا تب غروب ہوا اس سے جہاد کی اہمیت و عظمت کا پتہ چلتا ہے اہل تبلیغ کے نزدیک جہاد کی کوئی اہمیت نہیں ہے بہر حال شہر فتح ہونے کے بعد مال غنیمت اکٹھا کیا گیا مگر دستور کے مطابق آگ نے اس کو نہیں جلایا حضرت یوشع نے لوگوں کو مصافحہ کرنے کا حکم دیا خائن کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چپک گیا تو خائن معلوم ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہود کے انبیاء نے جہاد کیا ہے جو لوگ جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں وہ اپنے نبی پر اعتراض کرتے ہیں۔

## مال غنیمت میں خیانت کرنے والا دوزخ میں ڈالا جائے گا

﴿۴۹﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرٍ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ وَفُلَانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فَلَانٌ شَهِيدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثًا

قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثًا.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطابؓ نے ہم سے یہ بیان کیا کہ جب خیر کا دن آیا یعنی غزوہ خیبر ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں سے چند لوگ آئے اور آپس میں کہنے لگے کہ فلاں شخص شہید ہے یعنی اس دن جو مسلمان شہید ہو گئے تھے ان کے نام لے لے کر ان کی شہادت کا ذکر کرتے تھے یہاں تک کہ وہ لوگ ایک شخص کی لاش پر سے گزرے اور کہا کہ یہ فلاں شخص شہید ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ ہرگز نہیں تم لوگ جس معنی میں اس کو شہید کہتے ہو وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ میں نے اس شخص کو مال غنیمت میں سے لیک چا دیا فرمایا کہ ایک دھاری دار کھلی پڑانے کے سبب دوزخ میں جلتے دیکھا ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابن خطاب جاؤ اور لوگوں کے درمیان تین مرتبہ یہ منادی کرو کہ جنت میں صرف مومن یعنی کامل مومن ہی داخل ہوں گے حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نکلا اور تین مرتبہ منادی کی کہ خبردار جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ (مسلم)

## باب الجزية

### جزیہ کا بیان

قال الله تعالى ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (توبہ)

جزیہ جزا سے بنا ہے جو لغوی اعتبار سے بدلہ کے معنی میں ہے اصطلاح میں ”الجزية ما يؤخذ من اهل الذمة“ (مرقات) یعنی جزیہ اس خاص محصول اور ٹیکس کو کہتے ہیں جو ذمیوں سے ان کے مال و جان کی حفاظت کے عوض لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلامی حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ذمیوں کے جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔

### جزیہ کی حکمت

اہل ذمہ پر جزیہ عائد کرنے میں یہ حکمت ہے کہ وہ جب اسلام اور اہل اسلام کو قریب سے دیکھیں گے اور کسی طرف سے ان پر کوئی جبر چابندی نہیں ہوگی ہر طرف اسلام کی شوکت اور غلبہ ہوگا نفاذ اسلام کی برکات ہوں گی تو بہت جلد اسلام کی آفاقی کشش ان کو اسلام کی طرف کھینچ لائے گی چنانچہ لاکھوں ذمیوں نے قرون اولیٰ میں اس طرح اسلام کو قبول کیا ہے۔

جزیہ میں دوسری حکمت یہ ہے کہ جب ذمیوں پر جزیہ کا بوجھ ہوگا ان کا قانون مغلوب ہوگا اسلام کا قانون غالب ہوگا تو کفر پر رہتے ہوئے ذمیوں کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ دنیوی نقصان بھی ہوگا اور اخروی نقصان بھی ہوگا اس لئے جزیہ کی ذلت سے نکلنے کے لئے اور دنیوی فوائد کی غرض سے وہ اسلام کی طرف آئیں گے، آج کل اس کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے کہ جہاں ٹیکس کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لوگ اس طرف جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل باطل میں سے اس لئے ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں ان پر ٹیکس نہیں آتا اچھے خاصے مسلمان زکوٰۃ سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو عیسائی، قادیانی اور رافضی ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ زکوٰۃ سے بچ جائیں اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ٹیکس زیادہ ہے اور زکوٰۃ کم ہے تو یہ اپنے آپ کو کافر کے بجائے مسلمان ظاہر کرنے لگ جائیں گے یہ انسانی طبع اور فطرت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی نفسیات کی طرف اشارہ کیا ہے ”حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون“ کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے ٹیکس اور جزیہ ادا کریں تو ان کو احساس ہوگا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔

### جزیہ کے اقسام

جزیہ دو قسم پر ہے پہلی قسم بطور صلح ہے وہ اس طرح کہ کفار و زور کی وجہ سے جنگ نہ کریں بلکہ بطور صلح لشکر اسلام کے سامنے جزیہ دینا قبول کریں اس طرح جزیہ میں طرفین کی رضامندی ہوتی ہے صلح کے بعد مسلمانوں پر اس کی پاسداری لازم ہوتی ہے اس



صورت میں جزیہ کی مقدار طرفین کی رضامندی کے مطابق ہوتی ہے۔

جزیہ کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ لشکر اسلام کفار کے کسی علاقے پر چڑھائی کرتے ہیں اور جنگ کے بعد اسے فتح کر دیتے ہیں اور اس کے بعد علاقے کے کفار کی جان بخشی کے عوض ان پر جزیہ نافذ کر دیتے ہیں اس میں وقت کے خلیفہ اور امیر الحرب کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کتنا جزیہ مقرر کرتے ہیں کفار کی مرضی نہیں ہوتی ہے۔

ذمیوں کے لئے اسلام کی طرف سے شرائط

جزیہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام ذمیوں پر چند دیگر شرائط بھی عائد کرتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) ذمی نیا گر جایا عبادت خانہ تعمیر نہیں کریں گے۔ (۲) ذمی اپنی عبادت کا سرعام تشہیر نہیں کریں گے۔ (۳) اسلامی قوانین و قواعد کی تحقیر اور توہین سے اجتناب کریں گے (۴) جسم پر کوئی خصوصی علامت رکھیں گے تاکہ ذمی ہونا معلوم ہو جیسے زنار کا استعمال یا سر پر چوٹی رکھنا وغیرہ (۵) ذمی لوگ مسلمانوں سے عالیشان مکان نہیں بنائیں گے (۶) مسلمانوں سے زیادہ شان و شوکت کا لباس استعمال نہیں کریں گے (۷) گھوڑے پر سواری نہیں کریں گے گویا مر سڈیز اور لینڈ کروزر کی سواری نہیں کریں گے۔ (۸) جزیہ خود لا کر دفتر میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے ادا کریں گے (۹) اگر مسلمان محصل ان کے پاس گیا تو ذمی کو گریبان سے پکڑ کر جھکا دیکر جزیہ وصول کریگا۔

یہ نو شرائط ہیں جن کے بعد نہیں کہا جاسکتا کہ کوئی ذمی شخص اسلام قبول کئے بغیر رہ جائے گا تو جزیہ مقرر کرنا درحقیقت اسلام کی ایک دعوت ہے لیکن آج کل مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ان باتوں کو زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو کافر اپنے خالق و مالک کا باغی ہو جاتا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا بھی ان کی رعایت ہے مگر جو لوگ غیور مسلمان تھے وہ مٹی کے نیچے دفن ہیں مٹی کے اوپر ڈانسر رہ گئے ہیں۔

گل گئے گلشن گئے پھولوں کے پتے رہ گئے  
جو لوگ تھے وہ مر گئے آؤ کے پٹھے رہ گئے  
آدمیان گم شدند ملک خدا خر گرفت ☆ شامت اعمال ماصورت نادر گرفت

## الفصل الاول

مجوسیوں سے جزیہ لینا کیسا ہے

﴿عَنْ بَجَالَةَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِحَزْرَاءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَخْنَفِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ

مَوْتِهِ بِسَنَةِ أَنْ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَذَكَرَ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرٌ أَعْلَى جَيْشٍ فِي بَابِ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ.

حضرت بجالہ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں جزء ابن معاویہ تابعی کے ہاں جو حضرت احنف (صحابی) کے چچا تھے نشی تھا ایک مرتبہ ہمارے پاس حضرت (امیر المومنین) عمر بن خطاب کا ان کی وفات سے ایک سال پہلے ایک مکتوب آیا جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ مجوسیوں یعنی آتش پرستوں میں ان کے محارم کے درمیان تفریق کرادو نیز راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ پہلے مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے گواہی دی یعنی انہوں نے یہ بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا۔ تب حضرت عمرؓ نے مجوسیوں سے جزیہ لینا شروع کیا۔ (بخاری)

## توضیح

”من المجوس“ حضرت عمر فاروقؓ ابتداء میں مجوس سے جزیہ نہیں لیتے تھے کیونکہ قرآن کریم میں ایت تھی ﴿مَنْ الذِّينِ اٰتَوْا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ﴾ اس آیت سے بظاہر معلوم ہو رہا تھا کہ جزیہ کا تعلق صرف اہل کتاب یہود و نصاریٰ سے ہے مجوس اہل کتاب نہیں ہیں بلکہ آتش پرست ہیں، جب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے گواہی دیدی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر علاقہ کے مجوس سے جزیہ لیا تھا تب عمر فاروقؓ نے لینا شروع کر دیا جزیہ نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زندہ نہ چھوڑا جائے بلکہ قتل کیا جائے۔ اب اہل کتاب اور مجوس کے علاوہ دیگر کفار عجم سے جزیہ لیا جائے گا یا نہیں اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

## فقہاء کا اختلاف

امام شافعیؒ کے نزدیک اہل کتاب کے علاوہ کسی کافر سے جزیہ نہیں لیا جائے گا خواہ وہ عربی ہو یا عجمی ہو البتہ مجوس سے جزیہ لینا اس لئے جائز ہے کہ زیر بحث حدیث میں اس کی واضح تصریح موجود ہے۔

احناف کے نزدیک اہل کتاب وغیرہ تمام کفار سے جزیہ لیا جائے گا البتہ مشرکین عرب اور مرتدین سے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا ان کے لئے یا اسلام اور یا تلوار ہے۔

## دلائل

امام شافعیؒ نے ﴿مَنْ الذِّينِ اٰتَوْا الْكِتَابَ﴾ سے مفہوم مخالف کے طور پر استدلال کیا ہے البتہ مجوس کی تخصیص اور ان سے جزیہ لینا زیر بحث حدیث کی وجہ سے ہے۔

ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ کفار عجم کو غلام بنانا سب کے نزدیک جائز ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے جزیہ لینا بھی جائز ہے کیونکہ جب زندہ چھوڑنا کفر کی حالت میں جائز ہوا تو پھر جزیہ لینا بھی جائز ہونا چاہئے باقی مفہوم مخالف ہمارے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے لہذا اس کو پیش کرنا بیکار ہے۔

”ذی محرم من المجوس“ مجوسیوں کے ہاں بیٹی ماں اور بہن وغیرہا محارم سے نکاح کرنا کوئی عار نہیں تھا اور نہ منع تھا اس لئے حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ ایسے محارم کو تعلق از دواج سے الگ کر دو۔ ”ہجر“ یمن کے پاس ایک علاقے کا نام ہے جس کو آج کل احساء کہتے ہیں نیز مدینہ کے قریب ایک علاقہ کا نام بھی ہجر تھا۔

## الفصل الثانی

﴿۲﴾ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَاْفِرِيِّ ثِيَابَ تَكُونُ بِالْيَمَنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت معاذ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وقاضی و حاکم بنا کر یمن روانہ کیا تو ان کو یہ ہدایت کی کہ وہ وہاں کے ہر حالم یعنی ہر بالغ سے ایک دینار یا ایک دینار کی قیمت کا معافری کپڑا جو یمن میں تیار ہوتا ہے۔ جزیہ کے طور پر لیں۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”حالم“ اس سے بالغ آدمی مراد ہے یعنی بالغ آدمی سے ایک دینار جزیہ لیا جائے گا اگر دینار نہیں تو اس کی قیمت کے برابر معافری کپڑا لیا جائے گا ”معافری“ ہمدان کے ایک قبیلہ کا نام ہے اسی کی طرف یہ کپڑا منسوب تھا روایت کے اخیر میں راوی نے اشارہ کر دیا کہ یہ یمن میں بننے والا ایک کپڑا ہوتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب معافری ایک کپڑے کا نام پڑ گیا ہے اور نسبت ختم ہو گئی ہے اس روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بالغ آدمی چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو ان پر ایک ہی مقدار کا جزیہ آئے گا یہی شوافع کا مسلک ہے لیکن احناف کے نزدیک صاحب حیثیت مالدار پر سالانہ ۴۸ درہم جزیہ ہے متوسط طبقہ پر ۲۴ درہم سالانہ ہے اور ادنیٰ فقیر پر بارہ درہم سالانہ ہے۔ احناف نے کچھ مرسل روایات اور حضرت عمرؓ کے عمل سے استدلال کیا ہے اور زیر بحث حدیث مجمل بھی ہے اور صلح کی صورت پر محمول بھی ہے۔

## مسلمانوں پر جزیہ نہیں

﴿۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ

وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جَزِيَّةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ  
اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمین میں دو قبیلے نہیں ہونے چاہئیں اور مسلمان  
پر جزیہ عائد نہیں ہو سکتا۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

### توضیح

”لا تصلح قبلتان“ اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کے لئے جزیرہ عرب میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے  
کیونکہ ان کا قبلہ بیت المقدس ہے اور مسلمانوں کا بیت اللہ ہے اور یہ دونوں مخالف سمت میں ہیں لہذا ان کو جزیرہ عرب سے  
نکال باہر کر دو گویا ”ارض واحدة“ سے مراد جزیرہ عرب ہے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسلم سرزمین کے لئے یہ مناسب اور صالح نہیں ہے کہ وہاں بطور مغالہ و مقابلہ اور بطور مساوات  
دو قبلہ آباد ہوں اس کی صورت یہ ہوگی کہ مسلمان ملک میں کفار جزیرہ کے بغیر رہتے ہیں یا مسلمان باجگزار بن کر کفار کے  
درمیان ذلت کے ساتھ رہ رہے ہوں۔

”ولیس علی المسلم جزیة“ مطلب یہ ہے کہ ایک ذمی آدمی تھا اس پر جزیرہ مقرر تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا اب وہ ذمی نہیں  
بلکہ مسلمان ہے تو اب ان پر جزیرہ نہیں ہے یا مطلب یہ ہے کہ ایک ذمی تھا وہ جزیرہ دے رہا تھا لیکن پھر اس نے بند کر دیا لیکن  
کچھ عرصہ بعد وہ مسلمان ہو گیا اب ان پر جو بقایا جزیرہ تھا اس کا دینا لازم نہیں کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گیا ہے اور مسلمان پر جزیرہ  
نہیں ہوتا ہے۔

### جزیرہ پر صلح کی ایک صورت

﴿۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أَكِيدِرِ دُومَةَ  
فَأَخَذُوهُ فَأَتَوْا بِهِ فَحَقَّنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجَزِيَّةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو اکیدر دومہ کے مقابلہ پر بھیجا چنانچہ  
حضرت خالدؓ اور ان کے ساتھیوں نے اکیدر کو پکڑ لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے آنحضرت صلی  
اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون معاف کر دیا اور جزیرہ پر اس سے صلح کر لی۔ (ابوداؤد)

### توضیح

”اکیدر دومہ“ دومہ تہوک کے پاس ایک شہر کا نام ہے اس کا ایک مقامی بادشاہ تھا جس کا نام اکیدر تھا یہ روم سلطنت کے

ما تحت تھا غزوہ تبوک کے موقع پر آنحضرت نے حضرت خالدؓ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اکیدر کو زندہ پکڑ کر لاؤ حضرت خالد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ آدمی شہر کے اندر محفوظ قلعہ میں ہے زندہ کیسے لاؤں، آنحضرت نے فرمایا کہ وہ تم کو جنگل میں ملے گا چنانچہ حضرت خالد جب قلعہ کے قریب تک پہنچ گئے تو اتنے میں ایک نیل گائے آئی اور قلعہ کی دیوار سے سر کھجانے لگی اکیدر اس کے تعاقب میں نکل آیا گائے جنگل کی طرف بھاگ نکلی اکیدر پیچھے تھا کہ حضرت خالد نے اکیدر پر حملہ کر دیا اکیدر کا بھائی مارا گیا اور خود گرفتار ہو گیا جب اکیدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کیا ان کو انکے شہر پر برقرار رکھا مگر ان پر سالانہ جزیہ مقرر کیا۔ دو ہزار اونٹ آٹھ سو گھوڑے چار سو زربیں اور چار سو نیزوں پر صلح ہو گئی بعد میں اکیدر مسلمان ہو گیا اکیدر کے علاوہ بھی کئی دیہاتوں کے سرداروں نے آکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی اور جزیہ قبول کیا بیس دن کے بعد آنحضرت مدینہ کی طرف واپس چلے آئے۔

### یہود و نصاریٰ سے مال تجارت پر محصول لینے کا مسئلہ

﴿وَعَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْعَشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَشُورٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ﴾  
اور حضرت حرب ابن عبید اللہ اپنے جد (نانا) سے اور وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصاریٰ پر عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے جبکہ مسلمانوں پر چالیسواں حصہ واجب ہے ان پر عشر واجب نہیں ہے۔ (احمد، ابوداؤد)

### توضیح

عشور کا مفرد عشر ہے مال کے دسویں حصہ نکالنے کو عشر کہتے ہیں۔

زمین دو قسم پر ہے عشری اور خراجی، عشری اس زمین کو کہتے ہیں جس کا مالک مسلمان ہو مسلمان پر ان کی زمین کی وجہ سے صرف عشر فرض ہے خراجی وہ زمین ہے جس کا مالک کافر ذمی ہو اس پر زمین کا خراج لازم ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان پر ان کے اموال تجارت میں عشر نہیں ہے مسلمان کی زمین کے عشر کی نفی یہاں مقصود نہیں ہے ہاں خراج کے ساتھ ساتھ اہل کتاب پر ان کے اموال تجارت میں بھی عشر ہے چونکہ چوگی پر ان کے اموال سے عموماً دسواں حصہ لیا جاتا ہے اس لئے عشر کہہ دیا لہذا یہاں عشر سے اصطلاحی عشر مراد نہیں ہے بلکہ دسواں حصہ مراد ہے۔

شوافع کا مسلک یہ ہے کہ جب یہود و نصاریٰ پر جزیہ مقرر ہے تو وہی کافی ہے اس کے علاوہ ان پر کوئی عشر وغیرہ نہیں ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ اگر کفار اپنے علاقوں اور سرحدات پر مسلمانوں سے مال تجارت میں عشر لیتے ہوں تو ہم بھی ان سے

عشر لیس گے ورنہ نہیں لیس گے یہ حدیث احناف کا مؤید ہے۔

### ذمیوں پر جزیہ کی ایک عجیب صورت

﴿۶﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلَا هُمْ يُضَيِّقُونَا وَلَا هُمْ يُؤْذُونَنَا مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْوَابَنَا تَأْخُذُوا كُرْهًا فَخُذُوا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم جب جہاد کو جاتے ہوئے ایک قوم کی آبادی میں سے گزرتے ہیں تو وہ لوگ نہ ہماری میزبانی کرتے ہیں اور نہ ہمیں وہ چیز دیتے ہیں جس کا ہم از روئے اسلام ان پر حق رکھتے ہیں۔ یعنی اسلام کی رو سے ان پر ہمارا جو یہ حق ہے کہ وہ قرض وغیرہ دے کر ہماری ضرورتیں پوری کریں اور ہماری دیکھ بھال کریں وہ اس کو پورا نہیں کرتے اور چونکہ ہم ان سے کوئی چیز زبردستی حاصل نہیں کرتے اس لئے ہم سخت پریشان ہوتے ہیں اور ان کے اس رویہ کی وجہ سے ہمیں بڑی اضطراری حالت اور بڑے نقصان میں مبتلا ہونا پڑتا ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری میزبانی کرنے یا تمہارے ہاتھ نقد و ادھار کوئی چیز فروخت کرنے سے انکار کریں اور اس صورت میں ان سے کوئی چیز زبردستی لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تو زبردستی لو۔ (ترمذی)

### توضیح

آنحضرت کے زمانہ میں مجاہدین ہر طرف جہاد کے لئے جاتے آتے رہتے تھے راستے خالی ہوتے تھے کہیں کہیں ذمیوں کی آبادیاں ہوتی تھیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان ذمیوں پر معاہدہ کے تحت جزیہ کے ساتھ یہ لازم فرمادیا تھا کہ تمہارے پاس جب مسلمان گذریں گے تو بوقت مجبوری ان کو کھانا کھلاؤ گے اور گھر میں رات گزارنے کا انتظام کرو گے اس جزیہ سے متعلق کئی مقامات میں اس قسم کی حدیث آتی ہے کہ اگر اہل کتاب نے کھانا نہیں کھلایا تو تم زبردستی ان سے چھین لو، یہ صورت جزیہ کی تھی ورنہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اہل کتاب سے زبردستی کھانا کھائے یہ سب یا معاہدہ کی صورتیں ہیں یا حالت مختصہ کی صورت میں ہے یا بطور ادھار و قرض ہے کہ بعد میں پیسے ادا کریں گے توضیحات جلد اول میں یہ مسئلہ تفصیل سے لکھا گیا ہے۔

## الفصل الثالث

### سونے چاندی والوں پر جزیہ کی مقدار

﴿عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجَزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيْفَةٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ .

حضرت اسلمؓ (تابعی) کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطابؓ نے اپنے دور خلافت میں ان ذمیوں پر جو سونا رکھتے تھے چار دینار جزیہ مقرر کیا اور جو ذمی چاندی رکھتے تھے ان پر چالیس درہم جزیہ مقرر کیا اور اس کے علاوہ ان پر مسلمانوں کا خورد و نوش اور تین دن کی میزبانی بھی مقرر کی تھی۔ (مالک)

### توضیح

”ارزاق المسلمین“ اس سے مراد وہی ضیافت ہے جس کا ذکر اس سے پہلے حدیث میں آچکا ہے حالات و اشخاص کے تفاوت کی وجہ سے جزیہ مقرر کرنے میں بھی مختلف صورتیں وجود میں آئی ہیں یہاں سالانہ چار دینار فی آدمی کا تذکرہ ہے اور چالیس درہم سالانہ کا ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضیافت کا حق بھی ایک اضافی حق ہے۔

## کتاب الصلح

### صلح کا بیان

قال الله تعالى ﴿وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله﴾

وقال تعالى ﴿والصلح خير﴾

مصالحو اور صلح اصلاح سے مشتق ہے جو فساد کی ضد ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت کا معاملہ کرنا صلح کہلاتا ہے اگر وقت کا صلح مسلمان بادشاہ مسلمانوں کے لئے صلح کو مناسب خیال کرتا ہے اور صلح کرنے میں فائدہ ہے اور مسلمانوں کی عظمت و شوکت کا کوئی نقصان نہیں ہے تو کفار کے ساتھ صلح کرنا بلا عوض بھی جائز ہے اور بلا عوض بھی جائز ہے اور اگر صلح میں نقصان ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں سب سے بڑی صلح حدیبیہ کی صلح ہے جن کی شرائط کا بیان آگے آ رہا ہے کفار کے ساتھ دس سال سے زیادہ صلح کرنا جائز نہیں ہے۔

### الفصل الاول

#### صلح حدیبیہ کا تفصیلی بیان

﴿۱﴾ عَنِ الْمُسَوِّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحَدِيثِ فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتٌ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حُلْ حُلْ خَلَّاتِ الْقَصْوَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَّاتِ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالِدِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَلَا يَسْأَلُونِي خُطَّةَ يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَتْهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ رَجَرَهَا فَوَثَبْتُ فَعَدَلُ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحَدِيثِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا فَلَمْ يُلْبِثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ وَشَكَّى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَاِنْتَرَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيئُ لَهُمْ بِالرِّبِيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُذَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخَزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ خَزَاعَةٍ ثُمَّ أَتَاهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



اَكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنْ اَكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَبْتُمُونِي اَكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَىٰ أَنْ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ الْإِرْدَدُتَهُ عَلَيْنَا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِصَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ اخْلُقُوا ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُفُّ الْمُؤْمِنَاتِ مُهَاجِرَاتِ الْآيَةِ فَنَهَاَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَرُدُّوهُنَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا الصَّدَاقَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٌ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمَرٍ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَىٰ سَيْفَكَ هَذَا يَا قُلَانُ جَيْدًا أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضْرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْآخِرُ مِنْهُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْذُو فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَىٰ هَذَا دُغْرًا فَقَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ الْبَحْرِ قَالَ وَانْفَلَتَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عَصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعَيْرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَفَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِئُهُ اللَّهُ وَالرَّحِمَ لَمَّا أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت مسور ابن مخرمہ اور حضرت مروان ابن حکم سے روایت ہے یہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال اپنے ایک ہزار کچھ صحابہ کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے جو مدینہ منورہ سے جنوب میں تقریباً چھ میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور جس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں تو ہدیٰ یعنی اپنی قربانی کے جانور کی گردن میں قلابہ باندھا اور اشعار کیا اور پھر ذوالحلیفہ ہی سے عمرہ کیلئے احرام باندھ کر آگے روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب ثنیہ یعنی اس گھاٹی پر پہنچے جس طرف سے اہل مکہ پر اترتا جاتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام قصواء تھا آپ کو لے کر بیٹھ گئی جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کہنا شروع کیا کہ حل حل یہ لفظ اونٹ کو اٹھانے کے لئے کہا جاتا تھا قصواء اونٹنی قصواء اونٹنی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ نہیں قصواء نے انہیں کی ہے اور نہ اس کو اڑنے کی عادت ہے بلکہ اس کو اس ذات اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا اور پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے قریش مجھ سے ایسی جو بات بھی چاہیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے حرم کی عظمت ہو تو میں ان کی اس بات کو پورا کروں گا یعنی آج مکہ کے لوگ صلح کے وقت ایسی جس بات کا بھی مطالبہ کریں گے جس میں حرم مکہ کی عظمت کا لحاظ ہو تو میں اس کو پورا کروں گا پھر آپ نے اونٹنی کو اٹھایا جو فوراً اٹھ گئی چنانچہ آپ اہل مکہ کا راستہ چھوڑ کر دوسری سمت کو چلنے لگے تاکہ حدیبیہ کے آخری کنارہ پر پہنچ کر جہاں ایک گڑھے میں تھوڑا سا پانی تھا اتر گئے اور وہاں بڑا ڈو ڈال دیا لوگوں نے اس گڑھے میں سے تھوڑا سا پانی لے کر استعمال کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ذرا ہی دیر میں سارے پانی کو کھینچ ڈالا یعنی اس گڑھے میں پانی چونکہ بہت تھوڑا تھا اس لئے لوگوں کے کم سے کم مقدار میں لینے کے باوجود وہ پانی بہت جلد ختم ہو گیا۔ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس تیر کو پانی کے اس گڑھے میں ڈال دیا جائے اور پھر راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس تیر کی برکت سے ان لوگوں کو سیراب کرنے کے لئے کبھی ختم نہ ہونے والا پانی گویا موجیں مارتا رہتا آنکہ سب اس پانی پر سے ہٹ گئے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے میں اتنا زیادہ پانی پیدا فرمایا کہ سب لوگوں کی ضرورتیں نہایت اطمینان سے پوری ہوتی رہیں بلکہ جب وہاں سے واپسی ہوئی تو اس وقت بھی پانی باقی رہا بہر حال صحابہ اسی حالت میں تھے کہ اچانک بدیل ابن ورقاء خزاعی، خزاعہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ کفار مکہ کی طرح سے مصالحت کیلئے آیا پھر عروہ ابن مسعود بھی آپ کی خدمت میں پہنچا۔ اس کے بعد بخاری نے وہ طویل گفت و شنید نقل کی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بدیل و عروہ کے درمیان ہوئی جس کو صاحب مصابیح نے اختصار کے پیش نظر یہاں نقل نہیں کیا۔ اور پھر یہ بیان کیا کہ آخر کار جب سہیل ابن عمرو اہل مکہ کا آخری سفیر اور نمائندہ بن کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ لکھو۔

یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی ہے سہیل نے یہ الفاظ دیکھ کر کہا کہ بخدا اگر ہم یہ مانتے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو نہ ہم تمہیں خانہ کعبہ میں جانے سے روکتے اور نہ جنگ کرتے۔ لہذا یوں لکھو کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد ابن عبد اللہ نے صلح کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ خدا کی قسم! میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم مجھ کو جھٹلاتے ہو خیر میں مصالحت کی خاطر الفاظ میں تمہاری اس ترمیم کو تسلیم کئے لیتا ہوں علیؑ! تم محمد ابن عبد اللہ ہی لکھ دو۔ پھر سہیل نے کہا کہ اس معاہدہ صلح میں اس بات کو بھی تسلیم کرو کہ تم میں سے جو شخص ہمارے ہاں آجائے گا ہم تو اس کو واپس نہ جانے دیں گے لیکن ہم میں سے جو شخص تمہارے ہاں چلا جائے گا اگرچہ وہ تمہارے دین کو قبول کر چکا ہو اس کو تم ہمارے ہاں واپس کر دو گے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ اس موقع پر بھی واقعہ میں اختصار سے کام لیا گیا ہے یعنی صاحب مصابیح نے اس معاہدہ سے متعلق بخاری کی بیان کردہ ساری تفصیل کو نقل نہیں کیا ہے یا یہ بخاری کی کوئی اور روایت ہے جس میں صرف اسی قدر بیان کیا گیا ہے بہر حال جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علیؑ صلح نامہ لکھے جانے سے فارغ ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہؓ سے فرمایا کہ اٹھو جاؤ اب ہدی کے جانوروں کو ذبح کر ڈالو اور پھر سر منڈاؤ۔ اس کے بعد مکہ سے کئی

عورتیں مسلمان ہو کر آئیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ  
الْبَيْتِ﴾ اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں اے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ  
مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ ان عورتوں کو کفار مکہ کے ہاں واپس کر دیں اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ ان کا مہر واپس  
کر دیں۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے کچھ دنوں بعد قریش کے ایک شخص ابو  
بصیر جو مسلمان ہو گئے تھے مکہ سے نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے قریش مکہ نے دو آدمیوں کو ان کی تلاش میں  
مدینہ بھیجا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ صلح کی مذکورہ شرط کے مطابق ابو بصیر کو ان دونوں آدمیوں کے حوالہ کر دیا وہ  
دونوں آدمی ابو بصیر کو لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جب پہلی منزل ذوالحلیفہ میں قیام کیا اور ان کے پاس جو کھجوریں تھیں ان کو کھا  
نے لگے ابو بصیر نے ان میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کی قسم! اے فلاں شخص میرا خیال ہے کہ تمہاری یہ تلوار  
بہت اچھی ہے ذرا مجھے تو دکھاؤ۔ میں بھی اس کو دیکھوں اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دیکھنے کا موقع دے دیا یعنی اس نے اپنی  
تلوار ابو بصیر کے ہاتھ میں دے دی بس اتنا موقع کافی تھا۔ ابو بصیر نے اس پر اس تلوار سے اتنا بھر پورا کر لیا کہ وہ فوراً ٹھنڈا ہو  
گیا یعنی مر گیا۔ اور دوسرا شخص یہ دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا یہاں تک کہ مدینہ میں واپس آ گیا۔ اور اپنے قتل کے خوف  
سے دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص خوفزدہ معلوم ہوتا ہے  
اس شخص نے کہا کہ جی ہاں خدا کی قسم میرا ساتھی تو مارا گیا ہے اور میرے بھی مارے جانے میں کوئی شبہ نہیں ہے یعنی مجھ پر خوف  
سوار ہے کہ میں بھی مارا جاؤں گا یا میں بس بچ ہی گیا ورنہ میں بھی مارا جاتا پھر ابو بصیر بھی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان  
کو دیکھ کر فرمایا کہ افسوس ہے اس کی ماں پر یعنی تعجب و حیرت کا مقام ہے یہ ابو بصیر تو لڑائی کی آگ بھڑکانے والا ہے اگر اس کا کو  
ئی مددگار ہوتا تو وہ اس کی مدد کرتا، جب ابو بصیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو وہ سمجھ گئے کہ آنحضرت مجھے پھر کا  
فروں کے پاس واپس بھیج دیں گے چنانچہ ابو بصیر دوبارہ کافروں کے حوالے کئے جانے کے خوف سے روپوش ہونے کے لئے  
مدینہ سے نکل گئے یہاں تک کہ وہ سمندر کے ساحل پر ایک علاقہ میں پہنچ گئے۔

راوی کہتے ہیں کہ ابو جندل بن سمیل بھی کفار کے قبضے سے نکل بھاگے اور ابو بصیر سے آکر مل گئے اور پھر تو یہ حال ہوا کہ مکہ  
میں جو بھی شخص اسلام قبول کر کے قریش کے قبضہ سے نکل بھاگتا وہ ابو بصیر سے جاملتا یہاں تک کہ چند ہی روز میں ابو بصیر  
کے پاس قریش سے چھوٹ کر آنے والوں کا ایک بڑا گروہ جمع ہو گیا اور خدا کی قسم! جب بھی یہ لوگ سننے کہ قریش کا کوئی  
قافلہ تجارت وغیرہ کے لئے شام کی طرف روانہ ہوا ہے وہ اس کا پیچھا کرتے اور اس کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کا سارا مال  
واسباب لے لیتے۔ آخر کار جب ان لوگوں کی وجہ سے قریش کا ناطقہ بند ہو گیا اور وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو ان کو  
احساس ہوا کہ ہم نے مسلمانوں سے ایک انتہائی غیر معقول شرط منوا کر کتنی بڑی نادانی کی ہے اور اس کا خمیازہ کس طرح  
بھگتنا پڑ رہا ہے لہذا انہوں نے کسی شخص کو اپنا سفیر نمائندہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور اس کے ذریعہ  
آنحضرت کو اللہ کی قسم دلائی اور اس قرابت کے حق کا واسطہ دیا جو ان میں اور آنحضرت میں تھی اور یہ التجا کی کہ آپ کسی نہ کسی

طرح صرف اتنا کرم ضرور کر دیں کہ اپنے کسی آدمی کو ابوبصیرؓ اور ان کے ساتھیوں کے پاس بھیج کر یہ حکم دیں کہ وہ مدینہ میں آجائیں اور ہمارے کسی قافلے کیساتھ تعارض نہ کریں اور جب آپ ان کو یہ حکم بھیج دیں اور وہ لوگ آپ کے پاس چلے آئیں۔ تو پھر ہم اہل مکہ میں سے جو بھی شخص مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا وہ امن میں رہے گا یعنی نہ صرف یہ کہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی بلکہ اس کو ہمارے پاس واپس بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی نیز انہوں نے کہا کہ آپ ابوبصیرؓ کو ان کے طریقہ کار سے روک دیں ہم معاہدہ صلح کے اس شرط سے باز آئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو ابوبصیرؓ اور ان کے ساتھیوں کے پاس بھیجا جس کے ذریعہ ان کو یہ حکم دیا کہ وہ قریش کے قافلوں سے کوئی تعرض نہ کریں اور میرے پاس چلے آئیں۔ (بخاری)

### توضیح

”حدیبیہ“ ایک کنوئیں کا نام تھا اس کی وجہ سے جگہ کا نام پڑ گیا، حدیبیہ مکہ اور جدہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جس کا کچھ حصہ حرم میں داخل ہے آج کل اس کو شمیسی کہتے ہیں مکہ سے مغربی جانب قریب پندرہ میل کے فاصلہ پر حدیبیہ واقع ہے۔ ”حل حل“ یعنی چل چل ”خلاۃ القصویٰ“ یعنی قصواء مٹی اڑ گئی ”نمد“ گڑھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا ”یتبرضہ“ تھوڑا تھوڑا پانی لینا ”شکی“ مجہول کا صیغہ ہے شکایت کے معنی میں ہے پانی کی قلت کی شکایت آنحضرت کے سامنے کی گئی۔ یجشش جوش مارنے کے معنی میں ہے ”بالرّی“ یعنی خوب کثرت کے ساتھ پانی آیا جس سے لوگ سیراب ہو جائیں گے ”صدروا“ یعنی سیراب ہو کر واپس لوٹ آئے۔

”یردو الصداق“ اللہ تعالیٰ کا تکوینی معاملہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں دستاویز لکھنے میں عورتوں کا تذکرہ کسی کو یاد بھی نہ رہا بعد میں کفار پچھتائے مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا پیغمبر اسلام پر وحی نازل ہو گئی کہ عورتوں کو کفار کے ہاتھوں واپس نہ کرو البتہ عورتوں کا مہران کو واپس کر دو یہ ابتدائی دور کا معاملہ تھا پھر اس میں تبدیلی آ گئی چنانچہ آج کسی مسلم مرد کو کفار کی طرف واپس کرنے کا معاہدہ جائز نہیں ہے۔ ”ذعرا“ یعنی اس نے کوئی خوفناک حادثہ دیکھا ”ویل امہ“ یہ جملہ اگرچہ بددعاء کے لئے وضع کیا گیا ہے مگر یہ تعجب کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں تعجب کا معنی ہے ”مسعر حرب“ یعنی لڑائی کی آگ بھڑکانے والا ہے اگر ان کے ساتھ کچھ ساتھی ہو جائے اور ان کی مدد کرے یہ مطلب زیادہ واضح ہے اگرچہ ملا علی قاریؒ نے یہ مطلب زیادہ مناسب قرار دیا ہے کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے کاش اگر ان کو کوئی بتائے کہ میرے پاس نہ آئے تاکہ میں اس کو دوبارہ واپس نہ کر دوں۔ بہر حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبصیرؓ کو مدینہ سے واپس بھیج دیا مگر کفار کے ہاتھ میں نہیں دیا ابوبصیرؓ نے جا کر ساحل سمندر کے پاس اپنا ٹھکانا بنایا اب کافروں کے پاس سے جو مسلمان چھوٹ کر آتا تو ابوبصیرؓ کے معسکر میں ٹھہرتا یہ ان مظلومین کے لئے ایک آزاد قبائلی علاقہ بن گیا چنانچہ ان کی تعداد ۷۰ تک پہنچ گئی اور انہوں نے کفار کے مقابلہ میں چھاپہ مار جنگ

شروع کی ان کے تجارتی قافلوں پر حملے کئے تب قریش نے پریشان ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور خدا کا واسطہ دیا کہ ابولصیر اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ بلائیں آنحضرت نے ابولصیر کے نام خط روانہ کیا کہ مدینہ آ جاؤ اس وقت ابولصیر حالت نزع میں تھے آپ نے خط سنا اور پھر اپنے سینے پر رکھ کر جان جان آفرین کے حوالہ کر دی۔

بنا کردند خوش رسی بخاک و خون غلطیدن

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

### صلح حدیبیہ کی چند شرائط

﴿۲﴾ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهٖ إِلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ وَالسَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي قِيُودِهِ فَرَدَّهٖ إِلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن تین باتوں پر صلح کی تھی اول تو یہ کہ مکہ کے مشرکین میں سے جو شخص مسلمان ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا آنحضرت اس کو مشرکین کے پاس واپس کر دیں گے اور مسلمانوں میں سے جو شخص مشرکین کے پاس آئے گا اس کو مشرکین واپس نہیں کریں گے دوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرہ کے لئے اس سال مکہ میں داخل نہ ہوں بلکہ آئندہ سال مکہ آئیں اور صرف تین دن مکہ میں ٹھہریں اور سوم یہ کہ آئندہ سال مکہ میں جب داخل ہوں تو اپنے تمام ہتھیار تلوار کمان اور اسی طرح کی دوسری چیزیں غلاف میں رکھ کر لائیں۔ اس موقع پر ابو جندل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں پہنچے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں جن کی وجہ سے وہ کود کود کر چل رہے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین کے پاس واپس بھیج دیا (بخاری و مسلم)

### توضیح

”ثلاثة اشياء“ اس حدیث میں صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے اہم تین شرائط کا بیان ہے (۱) پہلی شرط یہ کہ اگر کوئی مشرک مسلمانوں کے پاس آ جائے تو مسلمان پابند ہوں گے کہ اس کو قریش کی طرف واپس کر دے خواہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو اور جو مسلمان کافروں کی طرف چلا جائے وہ ان کو قید کریں گے اور واپس نہیں کریں گے یہی شرط تھی جو اتنی سخت تھی جس نے صحابہ کرام کو ہلا کر رکھ دیا مگر انہوں نے صلح کے نظم و ضبط کو برقرار رکھا اور اسلامی امارت کی وفاداری کا مظاہرہ کیا اور شرط کو قبول کیا۔ (۲) دوسری شرط یہ تھی کہ آئندہ سال مسلمان جب عمرہ کے لئے آئیں گے تو چھوٹا اسلحہ ساتھ ہوگا وہ بھی نیاموں اور غلافوں میں

ہوگا نیز اس سال عمرہ کے بغیر جانا ہوگا۔ (۳) تیسری شرط یہ تھی کہ آئندہ سال مکہ میں صرف تین دن تک مسلمان قیام کریں گے پھر واپس جائیں گے۔ (۴) اس کے علاوہ چوتھی شرط یہ تھی کہ دس سال تک جنگ بندی ہوگی۔ (۵) پانچویں شرط یہ کہ جو قبائل فریقین میں سے جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں وہ بھی معاہدہ کا حصہ ہونگے۔ (۶) چھٹی شرط یہ کہ صلح کی مدت میں خیانت نہیں ہوگی۔

”بجلبان السلاح“ جیم پر ضمیمہ ہے لام پر بھی ضمیمہ ہے باپرشد کیساتھ فتح ہے یہ چمڑے کے اس تھیلے کا نام ہے جس میں تلوار وغیرہ اسلحہ رکھ دیا جاتا تھا اور اسے باندھ کر کجاوہ یا زین کے پچھلے حصہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا مراد یہ کہ اسلحہ کی نمائش نہیں ہوگی غلافوں میں چھپا کر رکھنا ہوگا۔

”یحجل فی قیودہ“ ابو جندل سہیل بن عمرو کا بیٹا تھا سہیل نے جب اس کو دیکھا تو قلم روک لیا اور کہا کہ پہلے میرے بیٹے کو واپس کر دو پھر صلح نامہ لکھا جائے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک دستخط نہیں ہوئے ہیں یہ پہلے آگیا ہے معاہدہ اس پر نافذ نہیں ہے اور اگر ابو جندل کا آنا معاہدہ کے تحت آتا بھی ہے تو میں تجھ سے ابو جندل کو مانگتا ہوں کہ یہ مجھے دید و سہیل نے انکار کیا ابو جندل روتا ہوا واپس چلا گیا اہل تاریخ نے ابو جندل کی واپسی کا دردناک منظر لکھا ہے ابو جندل پھر کفار کے ہاتھوں سے چھوٹ کر ساحل سمندر میں ابولصیر کے پاس چلا گیا۔

## صلح کی ایک سخت شرط کی حکمت

﴿۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَنْ جَاءَ نَا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ جَاءَ كُمْ مَنَا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَتُبُ هَذَا قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مَنَا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ جَاءَ نَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرْجًا وَمَخْرَجًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ مکہ کے قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط منوائی کہ آپ میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے اور ہم میں سے جو شخص آپ کے پاس آئے آپ اس کو ہمارے پاس واپس کر دیں گے صحابہؓ نے اس شرط کو اپنی ملی حمت و وقار کے منافی اور اصول مصالحت کے تقاضوں سے بعید جان کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم ان شرائط کو لکھ دیں یعنی کیا یہ شرائط آپ تسلیم کرتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو شخص ان کے پاس جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مرتد ہو کر بھاگے گا اس اعتبار سے وہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہوگا۔ اور ان میں سے

جو شخص ہمارے پاس آئیگا اس کو اگرچہ اس وقت ہم واپس کر دینے پر مجبور ہوں گے لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کے لئے شادمانی و کشادگی اور خلاصی و نجات کے سامان پیدا کر دے گا۔ (مسلم)

## توضیح

”لم نردہ“ صلح حدیبیہ کی تمام شرطوں میں یہی شرط مسلمانوں پر سخت بھاری تھی حضرت عمرؓ نے آنحضرت کے سامنے سخت انداز میں گفتگو کی پھر صدیق اکبر کے سامنے سخت گفتگو کی دونوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اے عمر اس کو مانو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیگا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو شخص میری مجلس کو چھوڑ کر کافروں کے پاس جاتا ہے وہ منافق ہوگا تو ہم کو چاہئے کہ اس مارا ستین کو بھگائیں جب وہ خود جاتا ہے اور اس کو اللہ دور کر دیتا ہے تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور جو شخص کفار کی مجلس سے میرے پاس آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جاسوس ہو تو ہم کو چاہئے کہ اس کو آنے نہ دیں جب قریش خود اس کو لے جاتے ہیں تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور اگر وہ سچا مسلمان ہو تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے لئے نجات اور خلاصی کا آسان راستہ بنا دیگا۔ اس پر سب صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا اعتراف کیا کہ یہ نبوت کا فیصلہ ہے۔

## آنحضرت نے بیعت میں کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا

﴿۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ فَمَنْ أَقْرَبَتْ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا قَدْ بَايَعْتُكَ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت عائشہ عورتوں کی بیعت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو جو مکہ سے آئیں اور قبولیت اسلام کا اظہار کرتیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں پرکھتے تھے۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ﴾۔ اے نبی! جب مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لئے حاضر ہوں ان کے چنانچہ ان میں سے جو عورت اس آیت میں مذکورہ شرائط کو ماننے کا اقرار کرتی آپ اس سے فرماتے کہ میں نے تم کو بیعت کیا درآنحالیکہ آپ گفتگو کرتے اور عورت سے یہ بات فرماتے مگر خدا کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ نے کسی عورت کو بیعت کیا ہو اور اس کے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ نے چھوا ہو۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

آج کل بعض اچھے پیر صاحبان عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے ہیں یہ اچھے پیر نہیں ہیں جب نبی معصوم نے

اجتناب کیا ہے تو نبی کے غلام کو بھی اجتناب کرنا چاہئے۔ بیعت کی تفصیل جلد اول میں گزر چکی ہے۔

## الفصل الثانی

### صلح حدیبیہ کی مزید شرائط

﴿۵﴾ عَنْ الْمُسَوِّرِ وَمَرْوَانَ أَنَّهُمَا اضْطَلَحُوا عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشَرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ وَعَلَى أَنْ يَبْنِئَا عِيَّةً مَكْفُوفَةً وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت مسورؓ اور حضرت مروانؓ سے روایت ہے کہ قریش مکہ نے حدیبیہ میں جن باتوں پر مصالحت کی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ دس سال تک فریقین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی تاکہ ان دنوں میں لوگ امن وامان کے ساتھ رہیں۔ یہ بات بھی معاہدہ صلح میں شامل تھی کہ ہمارے درمیان بندھی ہوئی گٹھری رہے اور یہ کہ ہم آپس میں نہ تو چھپی ہوئی چوری کریں اور نہ خیانت۔ (ابوداؤد)

### توضیح

”عیۃ مکفوفہ“ بندھی ہوئی گٹھری، عیۃ اصل میں بچہ صندوقچہ اور ایسی تھیلی کو کہتے ہیں جس میں راز کی چیزیں چھپائی جاتی ہیں یا خاص کپڑے رکھے جاتے ہیں۔ یہاں اس سے ایسا دل اور ایسا سینہ مراد ہے جس میں راز بھی ہو اور نیاز بھی ہو کہ ایک دوسرے کے لئے خیر خواہی ہو بغض و عناد اور شر و فساد کا تصور نہ ہو۔ ”وأنه لا إسلال“ یعنی پوشیدہ طور پر کسی ایک دوسرے کا مال چوری نہیں کریں گے ”ولا إغلال“ اور ظاہری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے مطلب یہ کہ ظاہراً و باطناً ایک دوسرے کے جان و مال کا احترام کریں گے۔ بعض علما نے اسلال سے تلوار سونٹا مراد لیا ہے اور اغلال سے زرہ پہننا مراد لیا ہے یعنی تلوار سونٹ کر زرہ پہن کر ایک دوسرے سے لڑائی نہیں لڑیں گے۔

### معاہدہ کی پاسداری ضروری ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أُنْبَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَمْنُ ظِلْمٌ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ فَإِنَّا حَاجِبُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت صفوان ابن سلیمؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہؓ کے صاحبزادوں سے وہ صاحبزادے اپنے صحابی باپوں سے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یاد رکھو جس شخص نے اس غیر مسلم شخص پر ظلم کیا



جس سے معاہدہ ہو چکا ہے جیسے ذی اور متاسن یا اس کے حقوق کو نقصان پہنچایا۔ یا اس پر اس کی طاقت و استطاعت سے زیادہ بار ڈالا جیسے کہ کسی ذی سے اس کی حیثیت و استطاعت سے زیادہ جزیہ لیا یا اس حربی متاسن سے جو دارالاسلام میں تجارت کی غرض سے آیا ہو اس کے مال تجارت میں سے عشر یعنی دسویں حصے سے زیادہ لیا اور یا اس کی مرضی و خوشنودی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی تو میں قیامت کے دن اس شخص کے خلاف احتجاج کروں گا۔ (ابوداؤد)

﴿وَعَنْ أُمِّمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بَانْفُسِنَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْنَا تَعْنِي صَافِحْنَا قَالَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ رَوَاهُ.....﴾

اور حضرت امیمہ بنت رقیقہ کہتی ہیں کہ میں نے کچھ عورتوں کے ساتھ اجتماعی طور پر آپ سے بیعت کی یعنی ہم چند عورتوں نے اجتماعی طور پر آپ سے بیعت کی چنانچہ اس وقت آپ نے ہم سے فرمایا کہ اے خواتین میں نے تمہیں اسی چیز پر بیعت کیا ہے جس پر عمل کرنے کی تم طاقت و استطاعت رکھتی ہو یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت ان عورتوں کی بیعت کو ان کی عملی استطاعت و ہمت تک محدود رکھا میں نے کہا کہ بیشک اپنی ذات پر ہم خود جتنے مہربان اور رحم دل ہو سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے حق میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والے ہیں اور پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں بیعت کر لیجئے اس بات سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم سے مصافحہ کیجئے یعنی بیعت کرتے وقت ہمارا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑیئے۔ آپ نے فرمایا میرا سو عورتوں سے کچھ کہنا ایک عورت سے کہہ دینے کی طرح ہے یعنی اول تو عورتوں کو بیعت کرتے وقت صرف زبان سے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے تمہیں بیعت کیا ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے دوم یہ کہ اگر کچھ عورتیں اجتماعی طور پر بیعت ہو رہی ہوں تو زبان سے یہ کہنے کے لئے بھی الگ الگ ہر عورت سے مخاطب ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف ایک عورت سے کہہ دینا سب عورتوں کے لئے کافی ہے۔

### الفصل الثالث

#### معاہدہ حدیبیہ کا متن

﴿۸﴾ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاصَاهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ يَعْنِي مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ يُقِيمُ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نَقْرُبُهَا فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمَنْعْنَاكَ وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أُمِّحْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أُمَحُّوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكُتِبَ هَذَا مَا قَاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ بِالسَّلَاحِ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يُخْرَجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلَ اتُّوا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت براء ابن عازبؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی قعدہ ۶ ہجری میں عمرہ کے لئے مدینہ سے تشریف لے گئے مگر اہل مکہ نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کا موقع دے دیں یعنی انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ میں آنے سے روک دیا تا آنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اس بات پر مصالحت کر لی کہ آپ آئندہ سال مکہ میں آئیں اور اس وقت بھی صرف تین دن مکہ میں قیام کریں چنانچہ جب صلح نامہ لکھا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہؓ نے آنحضرت کا اسم گرامی اس طرح لکھا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے اہل مکہ نے یہ الفاظ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اگر ہمارا علم یہ ہوتا یعنی ہمیں اس پر اعتقاد ہوتا کہ تم اللہ کے رسول ہو تو ہم تمہیں مکہ میں داخل ہونے سے روکتے ہی کیوں البتہ ہم تو صرف اتنا مانتے ہیں کہ تم محمد ہو جو عبد اللہ کے بیٹے ہیں لہذا اس صلح نامہ میں محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبد اللہ لکھو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبد اللہ بھی ہوں یہ محض تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی ہے ورنہ تم خوب جانتے ہو میری یہ دونوں صفتیں یعنی اللہ کا رسول ہونا اور محمد ابن عبد اللہ ہونا آپس میں اس طرح لازم ملزوم ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتیں لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان دونوں کو ذکر کیا جائے یا ایک ہی کو ذکر کر دیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ ابن ابی طالب سے فرمایا جو صلح نامہ لکھ رہے تھے کہ رسول اللہ کے لفظ کو ہٹا دو۔ حضرت علیؓ نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو آپ کا نام کبھی بھی نہیں مناسکتا۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے ہاتھ سے وہ صلح نامہ لے لیا اور باجودیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے رسول اللہ کا لفظ مٹا کر یہ لکھا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد ابن عبد اللہ نے مصالحت کی ہے اور اس معاہدہ میں یہ شرطیں تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ میں ہتھیاروں کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے الا یہ کہ ان کی تلواریں نیاموں میں ہوں اور یہ کہ اگر اہل مکہ میں سے کوئی شخص آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کرے تو اس کو مکہ سے جانے نہیں دیا جائے گا یعنی جب آپ مکہ میں آئیں اور پھر واپس جانے لگیں تو اہل مکہ میں سے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں اور یہ کہ اگر آپ کے صحابہ ہمیں سے کوئی شخص مکہ میں ٹھہر جانے کا ارادہ کرے تو آپ اس کو مکہ میں ٹھہرنے سے منع نہیں کریں گے چنانچہ جب اگلے سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے اور مکہ میں ٹھہرنے کی تین دن کی وہ مدت جو معاہدہ صلح میں طے پائی تھی گزر گئی یعنی تین دن پورے ہونے کو ہوئے تو اہل مکہ حضرت علیؓ کے پاس آئے اور ان سے کہا

کہ تم اپنے سردار یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ طے شدہ مدت پوری ہو گئی ہے اب ہمارے شہر سے چلے جاؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو گئے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”انت محمد“ کفار نے محمد بن عبد اللہ لکھوانا چاہا کیونکہ رسول اللہ کو وہ نہیں مانتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو حضرت علیؑ نے انکار کیا مگر یہ انکار نافرمانی کی غرض سے نہیں تھا بلکہ اطاعت کی غرض سے تھا جس پر ثواب ملتا ہے اسی طرح انکار حضرت عمرؓ نے واقعہ قرطاس میں کیا تھا مگر روافض نے حضرت علیؑ کو نہیں چھیڑا اور حضرت عمرؓ کو نہیں چھوڑا یہ ان کی بدینتی کی نشانی ہے۔

فَعَيْنُ الرُّضَاعِ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ

وَلَكِنْ عَيْنُ السَّخَطِ تَبْذِي الْمَسَاوِيَا

اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قرآن مجید میں آنحضرت کے نام کے ساتھ ۹ بار رسول کا لفظ ذکر فرمایا بلکہ سورہ فتح میں تو بعینہ یہی لفظ آیا ﴿محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار﴾۔

## باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب جزیرہ عرب سے یہودیوں کے نکالنے کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَهُ لِلَّهِ﴾

جزیرہ اصل میں خشکی کے اس ٹکڑے کا نام ہے جس کو چاروں طرف سے پانی نے گھیر رکھا ہو، چونکہ عرب کے تین اطراف میں پانی ہے اس لئے زمین کے اس حصہ کو اکثری حکم کے اعتبار سے جزیرہ کہہ دیا گیا اور نہ عرب کے شمال میں ملک شام واقع ہے جہاں سمندر نہیں ہے البتہ اکثر جوانب میں پانی کا احاطہ ہے چنانچہ بحر ہند، بحر شا اور دجلہ و فرات نے اس ملک پر احاطہ کیا ہوا ہے حدود اور بعد کچھ اس طرح ہیں عرب کے مشرقی جانب میں خلیج فارس اور بحر عمان ہے مغربی جانب میں بحیرہ قلزم اور نہر سویز ہے جنوب میں بحر ہند واقع ہے اور شمال میں ملک شام واقع ہے جہاں سمندر نہیں ہے۔

جزیرہ عرب پانچ حصوں پر مشتمل ہے (۱) تہامہ (۲) نجد (۳) حجاز (۴) عروض (۵) یمن۔

جب جزیرہ عرب کا نام لیا جاتا ہے تو لمبائی میں یہ عدن سے عراق تک ہے اور چوڑائی میں جدہ سے لیکر شام تک ہے یہاں کتاب کے عنوان میں صرف یہود کے اخراج کا لفظ آیا ہے اس لئے کہ آنحضرت کے عہد مبارک میں صرف یہود نکالے گئے تھے اور نصاریٰ عیسائی نہیں نکالے گئے بعد میں ان کا بھی اخراج ہو گیا تھا، تاہم آنے والی حدیثوں میں یہود و نصاریٰ اور اہل کتاب کا ذکر موجود ہے بلکہ مشرکین کے اخراج کا ذکر بھی ہے اس اخراج کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جزیرہ عرب پیغمبر اسلام علیہ السلام کا وطن ہے اور اس میں مرکز اسلام مکہ اور مدینہ واقع ہے اس لئے مذہبی اور سیاسی اعتبار سے ان مراکز سے کفر و شرک کی گندگیوں سے دور کرنا اور مفسد و مضراثرات سے اس کو پاک کرنا انتہائی اہم اور قرین قیاس ہے۔ امام شافعیؒ نے کفار سے حجاز کی اس تطہیر کو مکہ و مدینہ تک محدود مانا ہے لیکن ائمہ احناف اس تخصیص کو پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ پورے جزیرہ عرب کی تطہیر کا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہاں نہ گرجا ہونہ کنیسہ ہونہ مندر ہونہ گردوارہ ہونہ امام باڑہ ہونہ مرزاڑہ ہو اور نہ کوئی ایمان بگاڑہ ہو۔ بہر حال جب احادیث میں مطلق جزیرہ عرب کا نام آیا ہے اور ”لایجتمع دینان فی جزیرۃ العرب“ کے الفاظ عام ہیں تو اس عموم کو مکہ و مدینہ تک محدود کرنا مناسب نہیں ہے لہذا شوافع کے بجائے احناف کا مسلک اپنانا بہت اچھا ہے خاص کر آج کل کے دور میں۔

## الفصل الاول

### جزیرہ عرب سے یہود کے اخراج کا حکم

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمَدْرَاسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا اَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک نماز میں لوگ مسجد نبویؐ میں بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے حجرہ مبارکہ سے) برآمد ہوئے اور فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو۔ چنانچہ ہم لوگ آنحضرتؐ کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ یہودیوں کے مدرسہ میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے جماعت یہود تم لوگ مسلمان ہو جاؤ تا کہ (دنیا کی پریشانیوں اور آخرت کے عذاب سے) سلامتی پاؤ! تمہیں جان لینا چاہئے کہ زمین خدا اور اس کے رسول کی ہے (یعنی اس زمین کا خالق و مالک حقیقی اللہ تبارک ہے اور اس کا رسول اس کا نائب و خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس زمین پر متصرف و حکمران ہے) لہذا اگر تم مسلمان ہونے سے انکار کرتے ہو تو پھر سن لو کہ (میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو اس زمین (یعنی جزیرہ العرب) سے جلا وطن کر دوں، پس تم میں سے کوئی شخص اپنے مال و اسباب میں سے (کوئی ایسی) چیز رکھتا ہو (جس کو اپنے ساتھ لے جانا ممکن نہ ہو جیسے جائیداد غیر منقولہ وغیرہ) تو اس کو چاہئے کہ وہ اسے فروخت کر دے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ“ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اسی دوران کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی مکرم تشریف لائے۔

سوال

یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بنو نضیر کی جلا وطنی ۴ ہجری میں ہوئی اور بنو قریظہ کی تباہی ۵ ہجری میں ہوئی حضرت ابو ہریرہؓ ۷ ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں اس وقت ابو ہریرہؓ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بنو نضیر کی جلا وطنی کے وقت ہم مسجد میں بیٹھے تھے؟

جواب

اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں یہود سے مراد بنو قریظہ قارح ہیں ان کے کچھ لوگ اس وقت نکالے گئے تھے جس وقت حضرت

ابو ہریرہؓ مسلمان ہو چکے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ اکثر و بیشتر اس طرح جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہاں تھے اور ہم نے دیکھا یا ہم نے سنا اس سے حضرت ابو ہریرہؓ صحابہ کی جماعت مراد لیتے ہیں اگرچہ وہ خود وہاں نہیں ہوتے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کی جماعت وہاں بیٹھی تھی کہ آنحضرت تشریف لائے (احادیث سمجھنے کے لئے یہ ایک بہترین قاعدہ ہے)۔

”بیت المدراس“ یہ یہود کے ہاں مدرسہ ہوتا تھا جیسا کہ ہمارے ہاں مدرسہ ہوتا ہے ”اجلیکم“ یعنی میں تمکو جزیرہ عرب سے جلا وطن کرنا چاہتا ہوں تم اپنا مال فروخت کر دو یا ساتھ لیکر چلو مگر یہاں سے چلے جاؤ۔

### حضرت عمرؓ اخراج یہود کا پس منظر بتا رہے ہیں

﴿۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامِلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ نَقَرْتُكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَالَهُمْ فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقِيقِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّخَرْنَا وَفَدَّ أَقْرَنًا مُحَمَّدًا وَعَامِلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ فَقَالَ عُمَرُ أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بَكَ إِذَا أَخْرَجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قُلُوبُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ كَانَتْ هُزْيَلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ فَقَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا وَابِلًا وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَجِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اس خطبہ میں فرمایا کہ تم سب جانتے ہو گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے ان کے مال و جائیداد سے متعلق ایک معاملہ طے فرمایا تھا اور وہ یہ کہ ان یہودیوں کو خیبر ہی میں رہنے دیا جائیگا نیز ان کے کھجوروں کے باغات اور کھیت کھلیان کو بھی انہی کی تحویل و ملکیت میں باقی رکھا جائے گا البتہ ان کی پیداوار اور آمدنی میں سے آدھا حصہ لیا جائیگا کرے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسی طرح جزیہ بھی مقرر کیا تھا اور آپ نے اسی وقت ان یہودیوں سے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں خیبر میں اس وقت تک رہنے دیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رہنے دے گا یعنی تم لوگ اس وقت تک خیبر میں مقیم رہنے کے حقدار ہو گے جب تک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تم کو جلا وطن کر دینے کا حکم نہ دے دے لہذا حضرت عمرؓ نے کہا کہ اب میں ان کو جلا وطن کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

پھر جب حضرت عمرؓ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے تو ان یہودیوں کے قبیلہ بنی ابی الحقیق کا ایک شخص جو اپنی قوم کا بوڑھا سردار تھا حضرت عمرؓ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ ابراہیم المؤمنین کیا آپ ہمیں جلا وطن کر رہے ہیں

حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں خیبر میں رہنے دیا تھا اور ہمارے مال و اسباب سے متعلق ہم سے ایک معاہدہ بھی طے کیا تھا؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھول گیا ہوں جو آپ نے تم کو مخاطب کر کے کہی تھی کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا اور تو کیا کرے گا جب تجھ کو خیبر سے جلا وطن کر دیا جائیگا اور رات کے بعد رات تیری اونٹنی تجھے لیکر دوڑ رہی ہوگی گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو اس آنے والے وقت سے ڈرایا تھا جب تجھ کو راتوں رات خیبر سے نکل جانا پڑے گا اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ یہ بات تو ابوالقاسم نے بطور مذاق کہی تھی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اے خدا کے دشمن تم جھوٹ بکتے ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بطور مذاق نہیں کہی تھی بلکہ ازراہ معجزہ تمہیں ایک غیبی بات کی خبر دی تھی اور پھر حضرت عمرؓ نے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور ان کے پاس ہر قسم میوہ جو کچھ تھا جیسے کھجوریں وغیرہ ان کی قیمت میں ان کو مال اونٹ اور اسباب جیسے رسیاں اور پالان وغیرہ دے دیے۔ (بخاری)

### توضیح

”قلوص“ قلوں جو ان طاقتور اونٹنی کو کہتے ہیں ”لیلۃ بعد لیلۃ“ یعنی راتوں رات تجھے تیری جوان اونٹنی دوڑ دوڑ کر نکالے گی وہ منظر کیسا ہوگا؟۔ یہودیوں کے سردار نے کہا یہ تو ابوالقاسمؓ مذاق کر رہے تھے حضرت عمرؓ نے فرمایا جا اللہ کے دشمن یہ مذاق نہیں تھا تم جھوٹ کہتے ہو چنانچہ عمر فاروق نے ان کو جلا وطن کر دیا۔

”واعطاهم قیمۃ“ اعطاهم کے لئے قیمۃ مفعول ثانی ہے اور مالا اُس سے بدل ہے اسی طرح ابلا و عروضاً بھی بدل ہے اور من اقتاب یہ عروضاً کے لئے بیان ہے۔ عبارت اس طرح ہے۔ ”فاعطاهم قیمۃ یعنی ابلاً و عروضاً من الاقتاب والحبال ببدل ما كان لهم من الثمر“ یعنی عمر فاروق نے جلا وطن کئے جانے والے یہود کو ان کے باغات اور پھلوں کے بدلے میں قیمت ادا کر کے دیدی وہ قیمت اونٹوں کی شکل میں تھی اور سامان کی شکل میں تھی جیسے پالان کجاوے اور رسیاں یہ ان کو دیدیں تاکہ راستے میں کام آجائیں اور باغات اس کے بدلے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں رہ جائیں گے۔

### یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دو

﴿۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى بِثَلَاثَةِ قَالٍ أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَاجْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَكَتَ عَنِ الثَّلَاثَةِ أَوْ قَالَ فَأَنْسَيْتُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت تین باتوں کی وصیت کی چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب یعنی مکہ اور مدینہ سے باہر نکال دینا اور قاصدوں اور ایلیچوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو

میں کیا کرتا تھا۔ یعنی وہ جب تک تمہارے پاس رہیں ان کی دیکھ بھال کرنا اور انہیں ان کی ضروریات زندگی مہیا کرنا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے تیسری بات سے خاموشی اختیار کی یا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تیسری بات کو میں بھول گیا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”اوصی“ اس حدیث میں آنحضرت نے امت کے نام ایک پیغام بشكل وصیت بھیجا ہے آنحضرت نے یہ وصیت اس وقت فرمائی جب آپ مرض الموت میں تھے مسلمانوں کو چاہئے کہ اس پر کان دھرے ورنہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یہ تین وصیتیں تھیں۔

(۱) ”اخر جواالمشرکین“ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں کیونکہ وہ بھی شرک کرنے لگے ہیں یا ممکن ہے کہ اہل کتاب اور دیگر مشرکین سب مراد ہوں ظاہر یہی ہے۔

(۲) ”اجیزواالوفد“ آنحضرت کے پاس دور دور سے اسلام قبول کرنے کی غرض سے یا دین سیکھنے کے ارادے سے لوگ وفدوں کی شکل میں آتے تھے خصوصاً آخری عمر میں تو پورے سال وفد آتے رہے آنحضرت ان کا اکرام کرتے تھے ان کو ٹھہرانا کھانا سلا نا اور کچھ عطیہ دیکر روانہ کرنا یہ سب کچھ ہوتا تھا اسی دستور کو باقی رکھنے کی آنحضرت نے دوسری وصیت فرمائی۔

(۳) تیسری وصیت کے بارہ میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ کہ میں بھول گیا ہوں علماء لکھتے ہیں کہ تیسری وصیت جیش اسامہ کے بارہ میں تھی کہ اس کو ضرور روانہ کر دو زیر بحث حدیث میں اس کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ بعض روایات میں اس کا ذکر ہے تاقضی عیاض فرماتے ہیں کہ تیسری وصیت یہ تھی کہ میری قبر کو بت کی طرح نہ بناؤ کہ پوچھا شروع کرو موطاً مالک میں اس کا ذکر ہے۔

## اخراج یہود کا پکا ارادہ

﴿۴﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَاخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ فِيهَا الْإِسْلَامَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَتُنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَاخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے ضرور باہر نکال دوں گا یہاں تک کہ مسلمان کے سوا جزیرہ عرب میں کسی کو نہیں چھوڑ دوں گا۔ (مسلم)



اور روایت میں ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ اگر میری زندگی رہی تو میں انشاء اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ العرب سے ضرور باہر نکال دوں گا۔

توضیح

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح تاکید سے فرمایا کہ میں ضرور بضرور جزیرہ عرب سے یہود و نصاریٰ کو نکالوں گا مگر عرب نے آج کل قسم کھالی کہ ہم یہود و نصاریٰ کو جزیرہ عرب میں داخل کریں گے اور جو عرب مسلمان اس کی مخالفت کریں گے اس کو جزیرہ عرب سے نکال کر افغانستان یا سوڈان روانہ کریں گے۔ یہ حضور اکرم کی وصیت بھی تھی اور اس کے ضمن میں گویا ایک سیاسی فیصلہ بھی تھا اور پیشگوئی بھی تھی کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھنس جاؤ گے چنانچہ آج یہود و نصاریٰ نے مسلمانان عرب کو پھنسا دیا ہے آج کل اس حدیث کی بات کوئی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بنیاد پرست ہے اور یہ دہشت گرد ہے شیخ اسامہ اسی وجہ سے در بدر ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔

## الفصل الثانی

الْفَصْلُ الثَّانِي لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ وَقَدْ مَرَّفِي بَابِ الْجَزْيَةِ  
یہ فصل حدیث سے خالی ہے اس میں جو حدیث تھی وہ باب الجزیہ میں گذر چکی ہے۔

## الفصل الثالث

### اخراج یہود کا عمل حضرت عمرؓ نے مکمل کیا

﴿۵﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَسَأَلَ الْيَهُودَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَرْتُكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَأَقْرُوا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأُرَيْحَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ سرزمین حجاز یعنی جزیرہ العرب سے یہود و نصاریٰ کی جلا وطنی کا کام حضرت عمرؓ کے ہاتھوں انجام پایا اس سے پہلے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل خیبر پر غلبہ حاصل ہوا تھا تو آپ نے یہودیوں کو خیبر سے نکال دینے کا ارادہ کیا تھا کیونکہ جس بھی زمین پر دین حق کو غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ زمین اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی ہو

جاتی ہے کہ وہاں صرف اللہ ہی کا دین غالب اور مسلمانوں ہی کو حق تصرف و حکمرانی حاصل ہوتا ہے لیکن یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ ان یہودیوں کو اس شرط پر خیبر کی زمینوں پر قابض و متصرف رہنے دیں کہ وہ محنت کریں یعنی باغات کی دیکھ بھال اور ان کی سیرابی وغیرہ کا سارا کام کریں گے اور ان سے پیدا ہونے والے پھلوں کا آدھا حصہ آپ کا حق ہوگا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی لیکن یہ فرمایا کہ ہم تمہیں اس شرط پر خیبر میں اسی وقت تک رہنے دیں گے جب تک ہم چاہیں گے اس کے بعد ان کو خیبر میں رہنے دیا گیا یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ان سب کو تیماء اور اریحہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”من ارض الحجاز“ اخراج یہود کی جو تمنا اور تاکید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس کو حضرت عمر فاروقؓ نے پورا کیا معلوم ہوا حضرت عمر فاروقؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پورا کرنے والے تھے اگر عمر فاروقؓ کو تاریخ کے اوراق سے ہٹایا جائے تو دین کی تکمیل کا مرحلہ نامکمل رہ جائے گا۔ روافض پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں جو عمر فاروقؓ کی خدمات سے نفرت کرتے ہیں۔

”وكانت الارض“ یعنی جو زمین جہاد مقدس کے ذریعہ سے فتح ہو جاتی تھی وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی ہو جاتی اور مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتی تھی خیبر کی اراضی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا مگر یہود نے یہ درخواست کی کہ اب کھیتی باڑی کے طور پر ہمیں یہاں رہنے دیا جائے ہم زمینیں آباد کریں گے آدھا غلہ ہمارا اور آدھا مسلمانوں کا ہوگا آنحضرت نے فرمایا کہ جب تک ہم چاہیں گے تم کو برقرار رکھیں گے ورنہ نکالیں گے چنانچہ حضرت عمرؓ کا ان کو نکالنا اور باقی نہ رکھنا گویا حضور اکرمؐ کا نکالنا اور باقی نہ رکھنا ہوا انصر کم میں شان عمر کتنی شاندار بن جاتی ہے تیماء اور اریحہ دو مقام جزیرہ عرب سے باہر شام میں ہیں۔

## باب الفی

## فی کا بیان

قال الله تعالى ﴿وما آفأء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾ وقال تعالى ﴿ما آفأء الله على رسوله من اهل القرى فله للرسول ولذى القربى﴾ (سورة حشر) جو مال مسلمانوں کو میدان جہاد میں جنگ اور مقابلہ کے بغیر حاصل ہو جائے اس کو فنی کہتے ہیں۔

فاء فیفاء فیفاء لوٹنے اور رجوع کے معنی میں ہے چونکہ یہ مال پہلے کفار کے ہاتھ میں تھا اب بحق سرکار ضبط ہو کر حقیقی مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آ گیا ہے یا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اس لئے اس کو فنی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فنی کا تعارف بھی کیا ہے اور اس کا مصرف بھی بتا دیا ہے ارشاد عالی ہے۔

﴿وما آفأء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير﴾ ما آفأء الله على رسوله من اهل القرى فله للرسول ولذى القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم (سورت حشر ۷، ۸) ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ مال فنی وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے اس کے چار حصے مکمل طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتے تھے جو آپ اپنی صوابدید پر خرچ کرتے تھے اس میں مہمانوں کو کھانا اہل و عیال کو دینا مجاہدین کی مدد کرنا سب شامل تھا اور پانچواں حصہ آپ ان پر خرچ کرتے تھے جن مصارف کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے مال فنی کا مصرف اور اموال خراج اور خمس کا مصرف ایک ہی ہے ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرابت بیوی بچوں وغیرہ پر تقسیم کیا یتیموں بیواؤں وغیرہ پر خرچ کیا مساکین محتاجوں پر خرچ کیا مسافرین و پسماندہ اشخاص پر خرچ کیا ان کے علاوہ دیگر فائز کاموں میں بھی اس مال کا لگانا جائز ہے مثلاً سڑک یا پل بنانا ہسپتال و مسافر خانہ بنانا مسجد و مدرسہ بنانا ان تمام مصارف میں مال فنی استعمال ہو سکتا ہے اب یہ بات رہ گئی کہ آیا مال فنی کی تقسیم میں لوگوں کے فرق مراتب کا لحاظ ہو گا یا نہیں تو جمہور کے نزدیک اس کا لحاظ ہوتا ہے وہ اس طرح کہ پہلے افضل کو دیا جائے پھر درجہ بدرجہ دیا جائے مثلاً سب سے اول اہل بدر کو دیا جائے پھر بیعت رضون والوں میں تقسیم ہو پھر اہل بیت میں اور پھر عوام میں تقسیم ہو جائے حضرت عمر فاروق اس ترتیب کا خیال رکھتے تھے جیسا کہ آئندہ حدیث میں آرہا ہے۔

لیکن امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مال فی کی تقسیم میں کسی ترتیب کا کوئی لحاظ اور اعتبار نہیں ہے بلکہ میراث کی طرح تمام مستحقین برابر کے شریک ہونگے۔ بہر حال مال غنیمت میں صرف مجاہدین کا حق ہے مال فی میں تمام مسلمانوں کا حق ہے نیز مال فی میں خمس نہیں ہوتا مال غنیمت میں خمس ہوتا ہے۔ خمس اور مال فی کے خرچ کے مواقع ایک جیسے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال فی حاصل ہوا تھا وہ ایک تو مدینہ منورہ میں بنو نضیر کے اموال میں ملا تھا اور دوسرا خیبر کے فتح ہونے کے بعد کچھ علاقے جنگ کے بغیر ہاتھ آگئے تھے اس میں سے مال فی ملا تھا جیسے فدک کا باغ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ضروریات میں اس کو استعمال فرماتے تھے۔ آنحضرت کے انتقال کے بعد مال فی اگر مل جائے تو وقت کا خلیفہ اس کو مسلمانوں پر تقسیم کریگا۔

## الفصل الاول

### مال فی کا مصرف

﴿۱﴾ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَرَأَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلِ مَالِ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حضرت مالک بن اوس ابن حدثان کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطابؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مال فی کے سلسلے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خصوصیت عطا کی تھی آپ کے علاوہ کسی اور کو وہ خصوصیت عطا نہیں کی پھر حضرت عمرؓ نے یہ آیت ما افاء اللہ علی رسولہ منہم... تا... قدیر۔ پڑھی اور فرمایا کہ چنانچہ یہ مال صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہو گیا تھا جس میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروالوں کو سال بھر کا خرچ دیا کرتے تھے اس کے بعد اس میں سے جو کچھ بچ رہتا تھا اس کو ان جگہوں میں خرچ کرتے جو اللہ کا مال خرچ کئے جانے کی جگہیں ہیں یعنی اس باقی مال کو مسلمانوں کے مفاد و مصالح جیسے ہتھیاروں اور گھوڑوں وغیرہ کی خریداری پر خرچ کر دیا کرتے تھے نیز محتاج و مساکین میں سے جس کو چاہتے اس کی مدد کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

﴿۲﴾ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتِهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكَوْبَاعِ غَدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ یہود کے قبیلہ بنو نضیر کا مال اس قسم کے مال میں سے تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جدوجہد کے بغیر عطا فرمایا تھا اس کے لئے نہ تو مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، اس لئے وہ مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہو گیا تھا کہ جن میں سے آپ اپنے گھروالوں کی سال بھر کی ضروریات میں خرچ کرتے تھے اور پھر اس میں سے جو کچھ بچ رہتا تھا اس کو ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری پر خرچ کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کی راہ یعنی جہاد میں کام آئیں۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”نفقة سنة“ سوال یہ ہے کہ آنحضرت تو کل کی وجہ سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے یہاں سال بھر کا خرچہ کیسے رکھا؟۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لئے نہیں رکھتے تھے ازواج مطہرات میں سے بھی بعض ازواج کے لئے آنحضرت کی طرف سے ایسا ہوتا تھا سب کے لئے نہیں۔

## الفصل الثانی

### مال فی میں تقسیم کی ایک صورت

﴿۳﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ فَأَعْطَى الْآهْلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْأَعْرَبَ حَظًّا فَذَعِيزُ فَأَعْطَانِي حَظَّيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَأَعْطَى حَظًّا وَاحِدًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت عوف ابن مالکؓ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال فئی آتا تو آپ اس کو اسی دن ضرور تمندوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے تھے جو بیوی والا ہوتا تو اس کو دو حصے دیتے اور مجرد کو ایک حصہ عطا فرماتے چنانچہ ایک مرتبہ مجھ کو بھی بلایا اور آپ نے مجھے دو حصے عطا فرمائے کیونکہ میری بیوی تھی اور پھر میرے بعد عمار ابن یاسر کو بلایا گیا جن کی بیوی نہیں تھی ان کو آپ نے ایک حصہ دیا۔ (ابوداؤد)

”الآهل“ شادہ شدہ کے معنی میں ہے۔ ”الاعزب“ غیر شادی شدہ کو اعزب کہتے ہیں ”الکراع“ گھوڑوں کو کراع کہتے ہیں۔

﴿۴﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال فئی کے آنے کے بعد اس میں سے سب

سے پہلے ان لوگوں کو مرحمت فرماتے جن کو حال ہی میں غلامی سے آزاد کیا گیا ہوتا۔ (ابوداؤد)  
 ”المحررین“ آزاد شدہ غلام مراد ہیں چونکہ یہ بے سرو سامان ہوتے تھے اس لئے سب سے اول ان پر فی کمال تقسیم ہوتا تھا۔

## مال فی کے نگینے بھی تقسیم ہو گئے

﴿۵﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِطَبِيبَةٍ فِيهَا خَرَزٌ فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ  
 قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ أَبِي يُقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
 اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلا آیا جس میں نگینے بھرے ہوئے تھے آپ  
 نے ان نگینوں کو یتیموں یعنی آزاد عورتوں اور باندیوں کو بانٹ دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت  
 ابوبکر صدیقؓ کے پاس نگینے آتے تو وہ ان نگینوں کو آزاد غلام مردوں کو بھی بانٹتے (ابوداؤد)

## توضیح

”طبیۃ“ ظاہر فتح ہے باسکن ہے یا پرفتح ہے چھوٹی سی تھیلی کو کہتے ہیں جس میں عموماً جواہرات وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔  
 ”خرز“ ظاہر فتح ہے را پر بھی فتح ہے آخر میں زا ہے جواہر کی ایک قسم ہے لیکن یہاں نگینے مراد ہیں۔  
 ”للحر والعبد“ حضرت عائشہؓ کے اس کلام میں یہ اشارہ ہے کہ مال فی کے یہ نگینے صدیقی دور میں صرف عورتوں میں تقسیم  
 نہیں ہوتے تھے بلکہ مردوں میں بھی تقسیم ہوتے تھے اور یہ اشارہ بھی ہے کہ خواہ وہ مرد و عورت آزاد ہوں یا غلام اور باندی ہوں  
 چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ نگینے صرف عورتوں پر تقسیم ہوتے تھے مردوں کو نہیں ملتے تھے، حضرت عائشہؓ  
 اس تخصیص کو عام کرنا چاہتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کے زمانے میں یہ نگینے مردوں پر بھی تقسیم ہوتے تھے۔  
 ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ شاید غلام سے آزاد شدہ غلام مراد ہو کیونکہ غلام اگر کسی کا غلام ہے تو اس کا خرچ مالک پر ہے مال فی  
 میں اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ بہر حال حق بننا اور عطیہ دینا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔

## مال فی کی تقسیم میں فرق مراتب کا لحاظ

﴿۶﴾ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْفَيْءِ فَقَالَ مَا أَنَا أَحَقُّ  
 بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ وَمَا أَحَدُنَا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا أَنَا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسَمَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرَّجُلُ وَقَدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ وَالرَّجُلُ وَوَعِيَالُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت مالک ابن انس اور ابن حدثنان کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمرؓ نے مال فنی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس مال فنی کا میں تم سے زیادہ مستحق نہیں ہوں اور نہ ہم میں سے کوئی شخص اس مال فنی کا کسی دوسرے شخص سے زیادہ مستحق ہے البتہ ہم اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے مطابق اپنے اپنے مرتبہ پر ہیں چنانچہ ایک وہ شخص ہے جو قبولیت اسلام میں قدامت رکھتا ہے ایک وہ شخص ہے جو دین کی راہ میں شجاعت و بہادری کے کارہائے نمایاں اور سعی و مشقت کے اوصاف رکھتا ہے ایک وہ شخص ہے جو اہل و عیال رکھتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو ضرورت و حاجت رکھتا ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح

”وقدمہ“ یعنی قدیم الاسلام آدمی مال فنی کی تقسیم میں مقدم اور افضل ہوگا۔ ”فالرجل وبلاء“ یعنی مسلمان ہے اور بہادر ہے بڑے معرکے سر کرتا ہے دین کے لئے بڑی مشقتیں برداشت کرتا ہے وہ زیادہ مستحق ہے۔ ”وعیالہ“ یعنی عیالدار آدمی ہے اس کو اس کے عیال کے اعتبار سے زیادہ دیا جائے گا ”وحاجتہ“ یعنی ایسا آدمی ہے جو بالکل محتاج ہے وہ زیادہ مستحق ہے حضرت عمرؓ نے فرق مراتب کا لحاظ رکھا ہے یہی جمہور کا مسلک ہے امام شافعی اس کے قائل نہیں ہیں مسئلہ پہلے لکھا جا چکا ہے آنے والی حدیث بھی اسی طرح ہے۔

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ حَتَّىٰ بَلَغَ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ فَقَالَ هَذِهِ لَهُمْ لَوْلَا ۖ ثُمَّ قَرَأَ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ حَتَّىٰ بَلَغَ وَابْنُ السَّبِيلِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ لَهُمْ لَوْلَا ۖ ثُمَّ قَرَأَ مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ بَلَغَ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ اسْتَوْعَبَتِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَلَيْنُ عَشْتُ فَلْيَاتَيْنِ الرَّاعِي وَهُوَ بَسْرٌ وَحَمِيرٌ نَصِيْبُهُ مِنْهَا لَمْ يَعْرِفْ فِيهَا جَبِيْنُهُ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

اور حضرت مالک ابن انس کہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمرؓ نے یہ آیت پڑھی جس میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين اور اس آیت کو انہوں نے علیم حکیم تک پڑھا اور فرمایا کہ اس زکوٰۃ کے مال کو پانے کے مستحق یہی لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے یعنی فقراء و مساکین وغیرہ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی واعلموا انما غنمتم من شئی فان للہ خمسہ وللرسول اور اس آیت کو وابن السبیل تک پڑھا اور فرمایا کہ یہ خمس کا مال انہی لوگوں کا حق ہے جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے یعنی ذوی القربیٰ وغیرہ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی جس میں مال فنی کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس کس کو دیا جائے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری اس آیت کو للفقراء والذین جاء وامن بعدہم تک پڑھا ایک نسخہ میں یہ عبارت ہے کہ حتی بلغ للفقراء ثم قرأ والذین

جاء ۱ اس کے مطابق مفہوم یہ ہوگا کہ انہوں نے اس آیت ما افاء اللہ کو پڑھنا شروع کیا اور للفقراء تک کی دواؤں کو پڑھا اور پھر یہ آیت والذین جاء ۱ من بعد ہم پڑھی اور فرمایا کہ اس آیت نے سارے مسلمانوں کا احاطہ کر لیا ہے لہذا اگر میری زندگی رہی تو میری حدود خلافت میں کوئی ایسا مسلمان نہیں بچے گا جس کو اس کے حصہ کا مال نہ پہنچے یہاں تک کہ اس چرواہے کو بھی مال فنی میں سے اس کا حصہ پہنچے گا جو مقام سروحمیر میں ہوگا درانحالیکہ اس مال کے حاصل کرنے میں اس کی پیشانی بھی عرق آلود نہیں ہوئی ہوگی۔ (شرح السنۃ)

## توضیح

”استوعبت المسلمین“ یعنی یہ آیت تمام مسلمانوں کو شامل ہے۔

”الراعی“ چرواہے کو راہی کہتے ہیں لیکن یہاں دور دراز علاقے کے لوگ مراد ہیں۔ ”بسرو“ سین پر فتح ہے راہا کن ہے واؤ متحرک ہے باجاء ہے سروہمن کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ ”حمیر“ یمن کے ایک مشہور قبیلہ کا نام ہے یعنی وہ دیہاتی قبیلہ حمیر کے علاقے سروہمن میں رہتا ہوگا اور میرے پاس آئے گا میں اس کو بھی مال فنی سے حصہ دوں گا۔ ملا علی قاریؒ نے مندرجہ ذیل بالا تحقیق کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ ”سروحمیر“ ایک علاقہ کا پورا نام ہے لہذا پھر اضافت کی صورت نہیں ہوگی یعنی دیہاتی سروحمیر جگہ سے آئے گا مظاہر حق میں ترجمہ غلط لکھا گیا ہے۔

## قضیہ فک میں حضرت عمرؓ کا استدلال

﴿۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ فِيمَا اخْتَجَّ بِهِ عُمَرُ أَنْ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ صَفَايَا بَنُو النَّضِيرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمَّا بَنُو النَّضِيرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِبِهِ وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ حُبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَأَمَّا خَيْبَرُ فَجَزَّأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْئَيْنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَجُزْءَ نَفَقَةٍ لِأَهْلِهِ فَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَةِ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت مالک ابن انسؒ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے جس بات سے استدلال کیا وہ یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین صفایا تھیں۔ (۱) بنو نضیر (۲) خیبر (۳) فذک۔ چنانچہ بنو نضیر کے جلاوطن ہو جانے کے بعد ان کی جو زمین جائیداد قبضے میں آئی تھی اس سے حاصل ہونے والا مال آنحضرت کے اخراجات جیسے مہمانوں کی ضیافت و تواضع اور مجاہدین کے لئے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری وغیرہ کے لئے مخصوص تھا فذک کے محاصل ان مسافروں کی امداد و اعانت کرنے کے لئے مخصوص تھے جو اگرچہ اپنے وطن میں تو مال رکھتے ہوں مگر سفر کے دوران انکے پاس مال و اسباب ختم ہو گیا ہو۔ اور خیبر کے محاصل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حصے کر رکھے تھے، ان میں سے دو حصے تو



آپ مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لئے رکھتے تھے اور اس میں سے بھی اہل و عیال کے خرچ سے جو کچھ بچ جاتا اس کو آپؐ نادار مہاجرین پر خرچ کر دیتے تھے۔ (ابوداؤد)

توضیح

”ثلاث صفایا“ صفایا یہ صفیہ کی جمع ہے انتخاب اور چنے و پسند کرنے کو کہتے ہیں یعنی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کوئی چیز آنحضرتؐ اپنے لئے منتخب کرتے تھے تو یہ صرف آنحضرتؐ کے ساتھ خاص تھا آپ کے بعد کسی کے لئے جائز نہیں ہے صفی کا اطلاق یہاں شاید بطور مجاز ہو کیونکہ یہ اموال تو مال فی کے زمرے میں آتے ہیں گویا مال فی پر صفی کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ”حبساً“ روکے رکھنے کے معنی میں ہے یعنی اموال بنو نضیر اور اموال فدک کو آنحضرتؐ نے حوادث اور مسافروں کی ضروریات کے لئے روکے رکھا اور اموال خیبر کو آپؐ نے تین حصوں پر تقسیم کیا ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لئے مخصوص کیا اور دو حصے عام مسلمانوں کے لئے مخصوص کئے اصل پس منظر یہ تھا کہ حضرت علیؑ اور حضرت عباسؑ دونوں یہ مطالبہ لیکر آئے تھے کہ یہ اموال ہمارے درمیان تقسیم کیا جائے حضرت عمرؓ نے اس سے انکار کیا البتہ ان دونوں کو ان اموال کے متولی بنادیا مگر اس تولیت میں بھی وہ آپس میں متفق نہ ہو سکے پھر حضرت عباسؑ نے آکر حضرت علیؑ کے بارہ میں سخت الفاظ استعمال کئے اور تقسیم کا مطالبہ کیا حضرت عمرؓ نے تقسیم سے انکار کیا اور اس کا پورا پس منظر بیان کیا کہ یہ وہی اموال ہیں اگر تم نہیں سنبھال سکتے ہو تو واپس کر دو آئندہ حدیث میں بھی تفصیل آرہی ہے لیکن سب سے زیادہ تفصیل بخاری کی کتاب المغازی میں ہے اور مسلم میں بھی تفصیل ہے۔

## الفصل الثالث

### قضیہ فدک کی پوری تفصیل

﴿۹﴾ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَمَعَ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ أُسْتُخْلِفَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ فِدَكٌ فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُوذُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيْمَهُمْ وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يُجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى أَبُو بَكْرٍ عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ثُمَّ اقْتَطَعَهَا مَرْوَانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ لَيْسَ لِي بِحَقِّ وَائِي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ  
يَعْنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے مروان کے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدک کی زمین و جائیداد پر اپنا ذاتی حق رکھتے تھے جس کے محاصل آمدنی و پیداوار کو آپ اپنے اہل و عیال اور فقراء و مساکین پر خرچ کرتے تھے اسی میں سے بنو ہاشم کے چھوٹے بچوں کی امداد و اعانت پر خرچ کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور بے شوہر عورتوں اور بغیر زن مردوں کی شادی کراتے تھے ایک مرتبہ حضرت فاطمہؓ نے آنحضرتؐ سے یہ درخواست کی تھی کہ فدک کی زمین و جائیداد کو میرے نام کر دیجئے یا اس کی آمدنی میں سے میرا حصہ بھی مقرر کر دیجئے۔ لیکن آپ نے ان کی درخواست کو رد کر دیا۔ رسول کریم کی زندگی میں اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور جب حضرت ابوبکر صدیقؓ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کا معمول بھی وہی رہا۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات مبارکہ میں رہا تھا یعنی آنحضرت کے مذکورہ معمول کی طرح حضرت ابوبکر بھی فدک کے محاصل کو آنحضرت کے اہل و عیال اور بنو ہاشم کے بچوں پر اور نادار مرد و عورتوں کی شادی میں خرچ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکرؓ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کے بعد جب حضرت عمرؓ کو خلیفہ بنایا گیا تو اس سلسلہ میں ان کا بھی عمل وہی رہا جو ان دونوں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کا رہا تھا یہاں تک کہ حضرت عمرؓ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور پھر مروان نے حضرت عثمانؓ کی خلافت کے زمانے میں یا اپنی حکمرانی کے دور میں اس فدک کو اپنی اور اپنے وارثین کی جاگیر قرار دے دیا چنانچہ اب وہ جاگیر عمر ابن عبدالعزیز کی ہو گئی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہؓ کو نہیں دیا اس کا مستحق میں بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں تمہیں اپنے اس فیصلہ کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدک کو اس کی اسی حیثیت پر واپس کر دیا ہے۔ جس پر وہ تھا یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ، اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں جس طریقہ پر اس کے محاصل کو خرچ کیا جاتا تھا۔ اب پھر اسی طریقہ پر خرچ کیا جائیگا اور فدک کسی شخص کی ذاتی جاگیر نہیں بنے گا۔ (ابوداؤد)

توضیح

”ان عمر بن عبدالعزیز“ اس حدیث میں بات یہاں سے اس لئے چلی ہے کہ بنو مروان نے فدک وغیرہ کے وقفی اموال کو قبضہ کر کے ذاتی اموال میں داخل کیا تھا اور عمر بن عبدالعزیز اسے چھڑا کر وقفی حیثیت پر رکھنا چاہتے تھے۔

”كانت له فدك“ فدک ایک بستی کا نام تھا جو خیبر کے اطراف میں تھی مدینہ سے دوروز کے فاصلے پر یہ بستی واقع تھی یہ ایک سرسبز و شاداب جگہ تھی جہاں زیادہ تر کھجور اور کچھ دوسرے پھلوں کے باغات بھی تھے آنحضرت کو فدک صلح کی صورت میں

ملی تھی جس کی حیثیت مال فی کی تھی باغ فدک، اموال بنو نضیر اور خیبر کی زمین آنحضرت کے پاس ذاتی حیثیت سے تھی آنحضرت اپنے اہل بیت کے علاوہ عام مسلمانوں کے مصرف میں یہ اموال لاتے تھے آپ کے وصال کے بعد اہل بیت اور آپ کے خاندان کے بعض افراد نے ان اموال پر ذاتی میراث کا دعویٰ کیا مگر خلفاء نے اس کو وقف کی حیثیت میں رکھا اور میراث نہیں ہونے دیا کیونکہ انبیاء کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہو سکتا کیونکہ وفات کے بعد انبیاء زندہ ہوتے ہیں جس کا اثر دنیا پر پڑتا ہے حضرت فاطمہؓ نے حضور اکرمؐ کی حیات میں بھی اس کا مطالبہ کیا تھا مگر آنحضرت نے دینے سے انکار کیا۔ زیر بحث روایت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس مال کا پس منظر بنو مروان کے سامنے بیان کر کے اس کو اسی حیثیت پر وقف میں رکھا جس طرح وہ خلفاء راشدین کے زمانہ میں تھا کچھ تفصیل کے ساتھ اس پس منظر کو اپنے الفاظ میں قارئین کے سامنے رکھتا ہوں۔

مال فدک باغ فدک تھا حضرت فاطمہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے سے انکار کیا آپ اس سے عام خرچ فرماتے تھے پھر حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر سے مانگا حضرت صدیق نے ”لانرٹ ولانورٹ مسائر کنا صدقہ“ کی حدیث سنائی اور دینے سے انکار کیا حضرت فاطمہ بتھھائے بشریت ناراض ہو گئیں پھر حضرت صدیق ان کے گھر پر گئے اور دھوپ میں کھڑے رہے اور معافی مانگتے رہے حضرت فاطمہ نے معاف کر دیا اور اس سلسلہ میں پھر کبھی مراجعت نہیں کی چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو کوئی لمبے جھگڑے نہیں ہوئے شیعہ روافض ذاکرین ویسے شور کرتے ہیں اور اس سے مجالس گراما کر لوگوں کو رلاتے ہیں اور صحابہ پر تبرا کرتے ہیں میں شیعہ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے فدک کا باغ آنحضرت سے بھی مانگا تھا اور حضورؐ نے دینے سے انکار کیا تھا اس پر شور کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر جب حضرت علی خلیفہ ہوئے فدک کا باغ موجود تھا آپ نے اسے لیکر حسنین کو کیوں نہ دیا؟ پھر حضرت حسن خود خلیفہ ہوئے اور چھ ماہ تک خلافت کی آپ نے اس کو اپنے اموال میں کیوں شامل نہ کیا؟ شرم کی بات ہے فدک کے باغ کی وجہ سے پروپیگنڈہ بنا کر صحابہ پر طعن کرتے ہو حالانکہ صحابہ کا مفتوحہ ملک ایران پر خاموشی سے قابض ہو؟ تم ایران واپس کر دو تم کو فدک کا باغ واپس مل جائے گا۔

بہر حال فدک کی طرح بنو نضیر کے اموال کا مسئلہ بھی اٹھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس مال کو وقف کے طور پر صدیق اکبر نے سنبالا پھر عمر فاروق نے نگرانی کی پھر حضرت علی و عباس مشترکہ طور پر اس کے نگران بنائے گئے مگر آپس میں اختلاف کی وجہ سے اس مال سے متعلق حضرت علی و حضرت عباس نے اس کی تقسیم کا مطالبہ کیا کہ الگ الگ اپنے اپنے حصہ کی نگرانی کریں گے حضرت عمرؓ نے انکار کیا اور فرمایا یہ تو ایک قسم تقسیم ہو جائے گی اس طرح نہیں ہوگا پھر مروان نے ان اموال کو ذاتی جائیداد میں شامل کر لیا اور بنو مروان نے آپس میں تقسیم کر کے رکھ دیا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو آپ نے دیگر اصلاحات کے ساتھ ساتھ یہ اصلاح بھی کی کہ ان اموال کو ان سے واپس کر لیا اور وقف کی حیثیت سے رکھ

لیا آپ کے انتقال کے بعد پھر بنو مروان نے اس کو تقسیم کر لیا اور ایسا غائب کر دیا کہ آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ یہ اموال کہاں گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز زیر بحث روایت میں یہی بتا رہے ہیں کہ جو اموال حضور اکرم نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیئے میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو اپنے پاس رکھوں۔ بہر حال صدیق و فاروق پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھا کر ایک شرعی مسئلہ کی حفاظت فرمائی۔

الحمد للہ کتاب الجہاد کی تشریحات و توضیحات لکھنے سے میں فارغ ہو گیا اب جہاد پر چند اعتراضات اور جوابات درج کرتا ہوں۔

مورخہ ۲۹ صفر ۱۴۱۸ھ

## جہاد پر عمومی اعتراضات اور اس کے جوابات

چونکہ جہاد میں جان و مال کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے لوگ جہاد سے بچنے کے لئے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔

خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں

سوال ۱

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد جہد سے مشتق ہے جو سخت محنت کے معنی میں ہے تو ہر محنت جہاد ہے ہم بھی جہاد میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ دین کی محنت کر رہے ہیں۔

جواب

یہ جہاد کا لغوی معنی ہے جہاد کی شرعی تعریف کتاب کی ابتدا میں لکھی گئی ہے شریعت میں اصطلاحی مفہوم کا اعتبار ہوتا ہے لغوی مفہوم پر مدار نہیں ورنہ صوم کا لغوی مفہوم امساک ساعت ہے نماز تحریک صلویں یا دعا کے معنی میں ہے حج قصد کے معنی میں ہے زکوٰۃ کا لغوی معنی بڑھوتری ہے اگر اصطلاحی شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی کو اپنایا جائے تو یہ گمراہ ہونے کے لئے کافی ہے تعجب ہے کہ آج کل عام لوگ کہتے ہیں مجھروں کے خلاف جہاد کھیلوں کے خلاف جہاد ملیریا کے خلاف جہاد کیا یہ وہی جہاد ہے جس سے قیصر و کسری کی سلطنتیں پاش پاش ہو گئیں؟۔

سوال ۲

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاد حسن لغیرہ ہے ہم حسن لغیرہ اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔

## جواب

اصول فقہ میں لکھا ہے کہ مامور بہ میں حسن ہونا چاہئے کیونکہ امر اللہ تعالیٰ ہے اس کے حکم میں حسن ضروری ہے اب فقہاء نے ہر ہر مامور بہ میں حسن تلاش کیا بعض میں حسن اس کی ذات میں ملا اور بعض میں کسی واسطہ سے ملا جہاد میں واسطہ سے حسن ملا تو اس کو حسن لغیرہ کہہ دیا اس سے جہاد کے حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے جہاد تو یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے آنکھ میں سرمہ لگانا حسن لعینہ ہے مگر مباح یا مستحب ہے حالانکہ حسن لعینہ ہے تو کیا سرمہ لگانا تیل اور عطر استعمال کرنا تھا لی چاٹ لینا انگلیاں چاٹنا یہ جہاد سے افضل ہیں؟ خدا کا خوف کرو۔

## سوال ۳

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے لہذا اس میں جانا ضروری نہیں ہے۔

## جواب

جہاد کا فرض کفایہ ہونا یا فرض عین ہونا جہاد کے اپنے معروضی احوال ہیں تم اس میں کیوں پڑتے ہو کیا تم کو لفظ فرض نظر نہیں آتا ہے؟ اور کیا فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جانا ہی نہیں ہے فرض کفایہ تو فرض عین سے زیادہ عام ہے کیونکہ یہ ایک قومی فریضہ بن جاتا ہے اگر سب نے چھوڑ دیا تو اجتماعی طور پر ساری امت گنہگار ہو جائے گی پھر یہ حکم کس نے لگایا کہ آج کل مسلمان جس حالت میں ہیں ان پر جہاد فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے؟ تم ذرا فقہ کی کتابوں کو دیکھ لو وہ جس حالت میں جہاد کو فرض عین کہتے ہیں کیا وہ وقت سر پر نہیں آیا ہے، کفار نے مل کر فلسطین پر قبضہ کیا مسجد اقصیٰ کو چھین لیا عراق پر قبضہ کیا افغانستان پر قبضہ کیا کشمیر کو قبضہ میں رکھا ہوا ہے ہر طرف سے مسلمانوں پر چڑھائی کی ہے پھر بھی فرض عین نہیں؟

## سوال ۴

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہاد بالنفس بڑا جہاد ہے ”رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر“ کی روایت سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ چھوٹے بڑے سب کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد کرو یہ بڑا جہاد ہے کافروں کو چھوڑو ان سے لڑنا یا جہاد نہیں ہے یا چھوٹا جہاد ہے سب کو یہ روایت یاد کرائی ہے۔

## جواب

جہاد بالسیف میں بڑا مجاہدہ اور نفس کا اصل علاج ہوتا ہے بھوک، پیاس، خوف و ہراس، مشقت و محنت، قید و بند، موت و رزم اور بے آرامی یہ جہاد کے میدان کا پہلا تحفہ ہے اب بناؤ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے یا قورمے کھانے، پھل چبانے، نپکھے چلانے

اور دنیا سے بے غم ہو کر پکیں لگانے میں زیادہ مجاہدہ ہے؟ باقی جس مقولہ کو یہ لوگ حدیث قرار دیتے ہیں یہ غلط ہے یہ ابراہیم بن عبیلہ کا مقولہ ہے حدیث نہیں ہے (دیکھو موضوعات کبیر ملا علی قاریؒ) اور اگر یہ حدیث ہے تو کیا صحابہ کرام اپنی تمام عمریں جہاد میں گزار کر مفضلِ عمل میں لگے رہے اور افضلِ عمل سے محروم رہے؟ خدا کا خوف کرو اور ”و فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجر اعظیما“ کو دیکھو۔

## سوال ۵

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکی دور ہے جب مدنی دور آئے گا ہم جہاد کریں گے مکی دور میں جہاد نہیں تھا۔

## جواب

یہ کس قرآن وحدیث میں لکھا ہے کہ یہ مکی دور ہے؟ لوگ آگے کی طرف چلتے ہیں تم پیچھے کی طرف چل رہے ہو؟ پھر یہ بتا دو اگر یہ مکی دور ہے اور جہاد نہیں ہے تو مکی دور میں نمازیں کہاں تھیں عیدین اور جمعے کہاں تھے روزہ کہاں تھا اور زکوٰۃ کہاں تھی حج کہاں تھا؟ شراب کی حرمت کہاں تھی پردہ کا حکم کہاں تھا حرمت سود کہاں تھی اگر جہاد نہیں تھا تو یہ چیزیں کہاں تھیں سب کو چھوڑ دو، غور سے سنو جہاد کا جب حکم آگیا تو اس پر عمل بھی آگیا خدا کا خوف کرو پیچھے کی طرف نہ جاؤ گڑھے میں گر جاؤ گے آگے کی طرف بڑھو۔

## سوال ۶

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ایمان بناؤ پھر جہاد کرو ہم ابھی ایمان بنانے میں لگے ہیں۔

## جواب

کیا جو لوگ جہاد کرتے ہیں یہ بے ایمان ہیں؟ خدا کا خوف کرو ذرا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ایمان قبول نہیں کیا ہے اگر قبول کیا ہے تو وہ کیا چیز ہے ایمان ہے یا بے ایمانی ہے؟ اور یہ بتاؤ کہ ایمان بنانے کا معیار کیا ہے کس تھرمائیٹر سے آپ ایمان کے بننے نہ بننے کا فیصلہ کرو گے؟ کیا ایمان کوئی کڈ وکا حلہ ہے کہ آپ اس کو ہانڈی میں پکاؤ گے اگر ایمان اعمال سے بنتا ہے تو کیا جہاد جیسا عظیم عمل کے چھوڑنے سے ایمان بنے گا یا خراب ہوگا؟ کیا جہاد عمل نہیں تو عمل کرنے سے ایمان بنتا ہے یا چھوڑنے سے بنتا ہے پھر یہ بتاؤ کہ جس ایمان کے ذریعہ سے تم نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو حج کرتے ہو دنیا میں گھومتے ہو چلے لگاتے ہو مال خرچ کرتے ہو وقت دیتے ہو کیا اس ایمان سے تم جہاد نہیں کر سکتے ہو؟ صحابہ تو میدان میں مسلمان ہو جاتے اور اسی میدان میں آگے بڑھ کر جہاد میں لگ جاتے کم از کم آپ اپنے ایمان بننے کی مدت اور اس کا دورانیہ تو بتائیں کہ کتنے عرصے

میں ایمان بنتا ہے آپ نے کبھی اس مدت کا ذکر نہیں کیا معلوم ہوا تم جہاد سے بھاگنے کے بہانے تلاش کرتے ہو لہذا نہ ایمان بنے گا نہ جہاد ہوگا۔

### سوال ۷

بعض لوگ جہاد پر اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ افغانستان میں جہاد نہیں تھا یہ روس اور امریکہ کی جنگ تھی جس میں پختون کا خون گرایا گیا ہے۔

### جواب

اگر یہ جہاد نہیں تھا اور کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی بلکہ امریکہ کی جنگ تھی تو آج انہیں مجاہدین سے امریکہ کیوں لڑ رہا ہے اور اگر امریکہ قابل نفرت تھا تو آج تم کیوں امریکہ کی گود میں بیٹھے ہو؟ اور اگر پختون کا خون گرایا گیا ہے تو کیا علماء کرام مجاہدین اور طالبان کا خون پختون کا خون نہیں تھا اور کیا یہ انسان نہیں تھے ان کے مارنے کے لئے تو تم کل جس طرح روس کا ساتھ دے رہے تھے آج امریکہ کا ساتھ دے رہے ہو معلوم ہوا کہ نہ یہاں پختون کی بات ہے نہ قومیت کی بات ہے بلکہ صرف دین سے دشمنی اور عداوت کی بات ہے جب کمیونسٹ مارا جاتا ہے تو شور کرتے ہیں کہ پختونوں کو مارا جا رہا ہے اور ان کو لڑایا جا رہا ہے اور جب عالم یا طالب علم پختون مارا جاتا ہے تو خاموش تماشاخی بن کر خوش ہوتے ہیں۔

### سوال ۸

بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کو قتل نہ کرو اس طرح وہ دوزخ میں چلے جائیں گے تم گنہگار ہو جاؤ گے۔

### جواب

قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اسی (۸۰) کے قریب آیات میں قتل کا لفظ استعمال کیا اور سینکڑوں آیات اور احادیث میں کافروں سے لڑنے اور انہیں مارنے کا حکم دیا ہے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں ابی بن خلف کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے صحابہ کرام نے ہزاروں لاکھوں کافروں کو جہاد میں مار کر قتل کر دیا ہے ہزاروں صحابہ خود بھی شہید ہوئے ہیں یرموک کی لڑائی میں صحابہ نے ایک لاکھ سے زیادہ کفار کو قتل کیا ہے جلواء کی جنگ میں صحابہ نے ایک لاکھ کافروں کو قتل کیا عراق تکریت کی ایک جنگ میں صحابہ کرام نے اسی ہزار کافروں کو قتل کر دیا ہے اسلامی تاریخ اس طرح واقعات سے بھری پڑی ہے تو پوچھنے والا ان حضرات سے پوچھتا ہے کہ ان مقتولین کا ذمہ دار اور گنہگار کون ہوگا؟ جو لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث اور سلف صالحین اور پوری امت کے مسلمانوں پر اعتراض کرتے

ہیں اور شریعت کے خوبصورت چہرے کو مسخ کرتے ہیں ان سے اتنا عرض ہے کہ مخلوق خدا پر خدا سے زیادہ مہربان نہ بنو، جہاد میں اگر اللہ تعالیٰ کا ایک باغی مارا جاتا ہے تو اس کے بدلے ہزاروں انسان مسلمان ہو کر جنت جاتے ہیں اگر مکہ میں چوبیس آدمی قتل کر کے حضور اکرم مکہ فتح نہ کرتے اور کفار کو باقی چھوڑتے تو عربوں عرب کفر پر پیدا ہوتے اور کفر پر مر کر دوزخ چلے جاتے خلاصہ یہ کہ یا تم کافروں کو مارو یا وہ تم کو ماریں گے کوئی بات پسند ہے ؟

مصلحت در دین ما جنگ و شکوہ ☆ مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ  
یعنی ہمارے دین کی مصلحت تو یہ ہے کہ جہاد کا جھنڈا شان و شوکت سے بلند ہو اور عیسائی مذہب کی مصلحت  
کوٹھریوں اور غاروں میں بیٹھنا ہے۔

### سوال ۹

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا ۳۱۳ آدمی بناؤ پھر جہاد کرو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ۳۱۳ آدمی بن جائے پھر جہاد ہوگا۔

### جواب

قرآن وحدیث اور شریعت کے احکامات کی موجودگی میں کسی آدمی کے پراگندہ خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر ہماری زندگی کا ضابطہ ہمارے خواب بن جائیں تو پھر قرآن وحدیث کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے پھر ہر آدمی اپنے خوابوں کا پجاری بن جائے گا نیز اگر اس امت میں اب تک ۳۱۳ آدمی نہیں بنے ہیں تو پھر یہ ناکام بانجھ امت ہے خدا کا خوف کرو ۳۱۳ سے تو تمہارے واعظین زیادہ ہیں ۹۰ سال ہو گئے اب تک ان کا ایمان نہیں بنا ہے ۳۱۳ کی حد بندی کس نے کی ہے؟ بعض معرکوں میں ساٹھ مسلمانوں یا تیس مسلمانوں نے بھی مقابلہ کیا ہے۔

### سوال ۱۰

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آج کل صحیح جہاد ہے تو جہاد والوں کو فتح میں اتنی تاخیر کیوں ہوتی ہے صحیح جہاد میں فتح جلدی حاصل ہوتی ہے۔

### جواب

جہاد ایک عظیم عبادت ہے مسلمان کو جہاد کرنا چاہئے نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کبھی فتح جلدی دیگا کبھی دیر سے دے گا خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال بعد ایک شہر مکہ کو فتح کیا یہ تاخیر کیوں ہوئی؟ دس سال مسلسل جہاد کے بعد صرف جزیرہ



عرب فتح ہوا پھر صدیق اکبر کے دو سالوں میں صرف دمشق تک شام فتح ہوا پھر حضرت عمرؓ کے دس سالہ دور حکومت میں مسلسل جہاد کے باوجود فتوحات کا سلسلہ صرف آذربائیجان تک پہنچا قلعہ حلب کے پاس تیس ہزار سے زیادہ صحابہ نے ایک سال کے بعد حلب کا قلعہ فتح کیا بارہ ہزار صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ۲۵ دن تک طائف کے قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے مگر پھر بھی قلعہ فتح نہیں ہوا اور بغیر فتح واپس چلے گئے۔ میں کہتا ہوں اگر مجاہدین سے دیر ہو رہی ہے تو آپ کس تماشہ میں بیٹھے ہیں آگے آئیں اور منٹوں میں دنیا کو فتح کر لیں۔

### سوال ۱۱

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجاہدین مال کی غرض سے جہاد کرتے ہیں زمین کے لئے لڑتے ہیں یہ جہاد صحیح نہیں ہے۔

### جواب

آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ ایک عرب جوان کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر افغانستان میں مال کی غرض سے آیا ہے کیا آپ کو محاذ جنگ سے کسی نے فون پر اطلاع دی ہے؟ خدا کا خوف کرو جو آدمی جان کو تھیلی پر رکھ کر میدان میں کودتا ہے وہ کس کے لئے مال کماتا ہے؟ اور اگر اس طرح مال کی منڈی لگی ہوئی ہے تو آپ بھی آجائے اور کچھ مال کما لیجئے، یاد رکھو مجاہدین اللہ کے لئے جہاد کرتے ہیں ان مخلصین کا مذاق نہ اڑاؤ ورنہ نفاق پر مر جاؤ گے۔ باقی یہ شرعی حکم ہے کہ اگر مال غنیمت مل جاتا ہے تو وہ مسلمانوں پر تقسیم ہوتا ہے صحابہ نے مال غنیمت کا حصہ لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری روزی میرے نیزہ کے نیچے رکھا ہے خدا کا خوف کرو سو دوی کار و بار سے مال کمانے اور مال غنیمت کا حصہ پانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے باقی زمین کے لئے جہاد کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہو جائے اگر زمین نہیں تو تم مسجد کہاں بناؤ گے نماز کہاں پڑھو گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ﴿واخرجوہم من حیث اخرجوکم﴾ جس زمین سے کفار نے تم کو بے دخل کر کے نکالا ہے وہاں سے تم ان کو نکال دو۔ اسلامی مملکت کی سرحدات کا تحفظ اور اس کی زمین کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہے۔

### سوال ۱۲

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس جگہ مسلمان مارے جارہے ہیں یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے ان کی مدد ضروری نہیں ہے۔

جواب

یہ ایک کمزور فلسفہ ہے اور مرگ مفاجات کا انتظار ہے انبیاء کے علاوہ کوئی انسان گناہوں سے معصوم نہیں صحابہ کرام محفوظ تھے معصوم نہیں تھے پھر ان کی پاکیزہ جماعت کو کفار نے حملو کا نشانہ کیوں بنایا؟ جہاد میں گناہ گار لوگ بھی جاسکتے ہیں اور سب سے زیادہ گناہ وہاں معاف ہوتے ہیں تم مسلمانوں کی پٹائی ان کے اعمال کا نتیجہ قرار دیکر خاموش بیٹھ جاتے ہو تم ایسا کیوں نہیں کہتے ہو کہ آؤ بھائی یہ کفار بہت زیادہ گناہ گار ہیں آؤ ان کو مارتے ہیں تاکہ ان پر اللہ کا عذاب آجائے اور ہمارے ہاتھوں ان کو سزا مل جائے ﴿فَاتْلُوهُمْ یَعَذَّبُہُمُ اللہُ بایذیکم الخ﴾۔

دوسری بات یہ ہے کہ جہاد چھوڑنا ہی تو بڑا گناہ ہے یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ آؤ بھائی جہاد کرتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم عذاب الہی سے بچ جائیں عجیب ہوشیار لوگ ہیں ہر اس جگہ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جہاں انگلی کٹانے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں اسی بچنے کے پیچھے پھنسنا ہے اقبال مرحوم فرماتے ہیں۔

افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو  
دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات  
تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے  
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات

سوال ۱۳

بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر ہمارے راستے میں جب رکاوٹ بنیں گے تو جہاد ہوگا اب تک وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں اس لئے جہاد نہیں ہے۔

جواب

تم نے وہ راستہ کب اختیار کیا ہے کہ کافر رکاوٹ بنیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ﴿وَلَا یَزَالُ النُّونُ یُقَاتِلُوْکُمْ حَتّٰی یُؤَدَّوْکُمْ عَنْ دِیْنِکُمْ اِنْ اَسْتَطَاعُوْا﴾ یعنی کافر جب تک تم کو کافر نہ بنائیں اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں گے، کیا یہ رکاوٹ نہیں ہے؟ اب یا کافر بننے کے لئے تیار ہو جاؤ یا مقابلہ کے لئے میدان میں آ جاؤ۔

سوال ۱۴

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال جب بنیں گے تو کافروں سے اللہ تعالیٰ خود نمٹ لے گا جہاد واسلحہ کی ضرورت نہیں نہ ہم کو اسلحہ

اٹھا کر میدان میں آنے کی ضرورت ہے بس ہم اعمال بنائیں گے کام اللہ تعالیٰ کریگا۔

جواب

اللہ تعالیٰ نے تم کو کیوں پیدا کیا اور تم کو لڑنے کا حکم کیوں دیا جب سب کچھ خود کرنا تھا تو کیا تم کو صرف تو رے کھانے کے لئے پیدا کیا؟ قرآن کا اعلان ہے ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْتَصِرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ قُوَّةٌ﴾۔

میں پوچھتا ہوں کیا صحابہ کے اعمال سونی صد ٹھیک نہیں تھے؟ پھر اعمال کے آنے کے بعد انہوں نے میدان جنگ میں قدم کیوں رکھا؟ اور ہزاروں کے تعداد میں شہید کیوں ہو گئے؟ خدا کا خوف کرو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنے سے کام نہیں چلے گا۔

سوال ۱۵

بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں بہت باری آیات ہیں جو کفار سے درگزر کا حکم دیتی ہیں پھر جہاد کیسا؟۔

جواب

جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو کفار سے درگزر کا حکم تھا جب جہاد کا حکم آ گیا تو درگزر کا حکم ختم ہو گیا اب جہاد کرو علماء اسی لئے تو کہتے ہیں کہ جس شخص کو ناخ و منسوخ کا علم نہیں ان کے لئے بیان کرنا یا وعظ کہنا حرام ہے۔

سوال ۱۶

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے تلوار سے نہیں پھیلا ہے لہذا جہاد کی جگہ اخلاق سے کام لو۔

جواب

یہ کفار کی طرف سے بہت پرانا اعتراض ہے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی پریشان کیا تو اس نے جواب میں فرمایا میں نہیں جانتا کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے یا جہاد سے، البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت و اشاعت کے لئے تلوار اٹھانا فرض اور ضروری ہے۔

اصل قصہ یہاں یہ ہوا کہ پہلے کفار نے اعتراض کیا کہ دین اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اس میں کوئی ذاتی کشش نہیں ہے۔ تو وقت کے بڑے علماء نے لکھا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے اس سے وقت کے علماء اس زمانہ کے غلط پروپیگنڈہ کو توڑنا چاہتے تھے جیسا کہ آج کل جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں اور علماء و طلباء جواب دیتے ہیں کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے یہ درحقیقت دھوکہ کے ساتھ ان کی زبانوں سے جہاد کا انکار کرانا چاہتے ہیں علماء کو کہنا چاہئے کہ جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے۔

بہر حال جب بڑے علماء نے لکھا کہ جہاد تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے تو انگریز نے پلٹ کر دوسرا وار کیا اور کہا کہ دیکھو مسلمانوں کے بڑوں نے لکھا ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے یہ تلوار و اسلحہ اور جہاد اسلام میں کہاں سے آگیا؟ میں کہتا ہوں یہ جملہ ہی غلط ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے یا تلوار سے پھیلا ہے کیا تلوار اٹھا کر جہاد کرنا بد اخلاقی ہے؟ اور کیا حضور اکرم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین نے مدۃ العمر بد اخلاقی کی؟ جہاد و اخلاق اور تلوار و اخلاق مقابل بنا کر پیش کرنے والا درحقیقت جہاد کو بد اخلاقی کہتا ہے اس لئے مسلمان کو زبان سے یہ جملہ نہیں نکالنا چاہئے کیونکہ جہاد کو بد اخلاقی کہنا کفر ہے۔

### سوال ۱۷

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں اقدامی جہاد نہیں ہے بلکہ دفاعی جہاد کا حکم ہے۔

### جواب

دفاع کا حق خود بخود حاصل ہوتا ہے وہ کوئی قانون نہیں ہے جو کسی کو دیا جائے جو آدمی کسی کے گلے پر چھری پھیرتا ہے تو کیا اس وقت مذبح کو حق دیا جائے گا کہ اب تم دفاع کرو ایسے وقت میں جانور دفاع کرتا ہے ایک چڑیا اپنے ذبح کرنے والے کو پنچوں اور چونچ سے مارتی ہے اسلام نے دفاع کو جائز کہا ہے اور اقدام کا حکم دیا ہے قرآن کا اعلان ہے ﴿فقاتلوہم حتی لا تکنون فتنة﴾ کیا یہ اقدام نہیں اور جزیرہ عرب سے جب صحابہ شام پر چڑھائی کر کے چلے گئے پھر مصر پر چڑھائی کی پھر صعید مصر اور دیار بکر پر حملہ کیا پھر عراق پر حملہ آور ہوئے پھر دجلہ پار کر کے مدائن پہنچے اور ان کے وائٹ ہاؤس قصر ابیض کو فتح کر لیا کیا یہ اقدام تھا یا دفاع تھا؟ آنحضرت کے زمانہ میں احداور خندق کی جنگوں میں دفاع کی صورت پیدا ہو گئی تھی اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اقدام کیا ہے جنگ خندق میں جب کفار بھاگ کھڑے ہوئے تو آنحضرت فرمایا ”الآن نغزوہم ولا یغزونا“ (بخاری)۔ یعنی اب ہم اقدام کریں گے کفار ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے اور آئندہ ایسا ہی ہوا۔

بہر حال جہاد چھوڑنے سے مسلمان منافق بن کر نفاق کی موت مرتا ہے اور اجتماعی طور پر امت مسلمہ ذلت کا شکار ہو جاتی ہے لہذا یہ شعبہ جتنا فعال ہوگا اتنا ہی مسلمان طاقتور ہونگے ورنہ کچھ نہیں۔

### سوال ۱۸

آج کل پوری دنیا شور مچا رہی ہے کہ جہاد دہشت گردی ہے منافق قسم کے مسلمان بھی یہی اعتراض کر کے جہاد کو فساد کہتے ہیں کیا واقعی جہاد فساد ہے؟

## جواب

جہاد فساد نہیں بلکہ اس سے تو عالم کافساد امن میں بدل جاتا ہے اس پر تاریخ عالم گواہ ہے البتہ فساد ذہن رکھنے والے فساد کی لوگ جہاد کو فساد کہتے ہیں یہ کہتے رہیں گے جہاد ہوتا رہے گا۔

باقی جو لوگ جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں تو اگر وہ لوگ کافر ہیں تو ان کا کہنا صحیح ہے کیونکہ ان کی کافرانہ دہشت کو جہاد کی مؤمنانہ دہشت ختم کر دیتی ہے ان کے لئے تو یہ دہشت مزید بڑھنا چاہئے۔ اور اگر کوئی مسلمان جہاد کو بطور اعتراض دہشت گردی کہتا ہے اور دہشت گردی سے فساد مراد لیتا ہے تو ایسا منافق مسلمان اس اعتراض کے بعد اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ جہاد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی توہین کرنا کفر ہے غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں بار بار جہاد کو فساد کہا ہے اور جہاد کو منسوخ کرنے کا اس طرح اعلان کیا ہے۔

اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال دین کے لئے حرام ہے اب قتل و قتل

اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے

اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے

دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد منکر بنی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

خلاصہ یہ کہ جو مسلمان جہاد پر اعتراض اور طعن کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکیگا بلکہ کافر قادیانی بن جائیگا اور جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔

## سوال ۱۹

بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجاہدین ہر جگہ جوتے کھا کر آتے ہیں ہر جگہ پٹتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے۔

## جواب

یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں مجاہدین کو بدنام کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں سویت یونین کی طاقت کہاں گئی آدمی دنیا پر حکومت کرنے والی اس طاقت کا نام دنیا کے نقشے سے کیوں غائب ہو گیا؟ اس میدان میں پٹائی کس کی لگی؟ مجاہدین کی یاروس کی؟ اب اس وقت دنیا کے ۳۷ کافر ممالک اور ۵۵ مسلمان ممالک افغانستان کے طالبان اور مجاہدین پر حملہ آور ہیں لیکن مجاہدین بے سرو سامانی میں ان کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں اور دنیا اقرار کر رہی ہے کہ مجاہدین کے سامنے یہ کفار ناکام ہو رہے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے؟ پھر مجاہدین کی لاشوں سے جو خوشبو اٹھ رہی ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا اعلان

نہیں ہے؟ باقی تکالیف و شکست کا آنا جانا یہ جہاد کا حصہ ہے صحابہ پر اس سے زیادہ تکلیفیں آئیں ہیں مجاہدین کا مذاق نہ اڑاؤ کہ جوتے پڑتے ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی کہاں ضرورت پڑتی ہے تم نے دشمن کے مقابلے میں کونسا محاذ کھولا ہے؟ کیا نپٹکھے کے نیچے فورے کھانے اور پلیٹ چاٹنے کے وقت آسمان سے مدد کے لئے فرشتے اتریں گے؟ نیز دین کا اہم حصہ جہاد اور اقامت دین معذرت کر کے چھوڑنے کے بعد تم پر جوتے کیوں پڑیں گے تم تو پھولوں کے ہار پہنانے اور گلہ دستوں کے مستحق ہوں۔

سوال ۲۰

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کے لئے سرکاری حکم کی ضرورت ہوتی ہے جب خلیفہ نہ ہو اور سرکاری حکم اور اعلان جہاد نہ ہو تو یہ پرائیویٹ جہاد صحیح نہیں ہے؟

جواب

سرکار کو چاہئے کہ وہ اعلان جہاد کرے تاکہ پرائیویٹ جہاد ختم ہو جائے ہر مسلمان حکومت پر بحکم شریعت یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ کم از کم ایک سال میں دو دفعہ کفار سے جنگ لڑے، اگر سرکار کفار سے جہاد نہ کرنے پر سمجھوتہ کرے تو کیا مسلمان جہاد کو چھوڑ دیں گے؟ اگر ایسا ضروری ہے تو پھر سرکار نے جمعہ و عیدین اور عام نمازوں کا انتظام و اہتمام بھی چھوڑ رکھا ہے تو کیا مسلمان اس کو بھی چھوڑ دیں گے؟ سرکار نے نفاذ شریعت کو چھوڑ رکھا ہے تو کیا مسلمان بھی اس سے دستبردار ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا جہاد قیامت تک جاری رہیگا۔

ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے  
 مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر  
 حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات  
 اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر

## کتاب الصيد والذبائح

### شکار اور ذبیحوں کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَمَاعَلِمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ يَعْلَمُونَ نَهْنِ مِمَّا عَلِمَكُمُ اللَّهُ فِكُلُوا مِمَّا امْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (مائندہ)

صيد مصدر ہے یہ کبھی اصطیاد کے معنی میں آتا ہے یعنی شکار کھیلنا اور کبھی اسم مفعول المصيد کے معنی میں آتا ہے یعنی شکار شدہ چیز۔ ذبائح کے لفظ کے ساتھ یہ دوسرا مفہوم زیادہ مناسب ہے مطلب یہ ہوگا کہ شکار اور مذبحہ اشیاء کا بیان۔

زمین حرم کے علاوہ ہر جگہ شکار کرنا جائز اور مباح ہے البتہ حالت احرام میں کسی جگہ خشکی کا شکار جائز نہیں ہے ہاں سمندری شکار احرام کی حالت میں بھی جائز ہے یہ پابندی احرام کا حق ہے۔ زمین حرم میں ہر شخص پر شکار کرنا حرام ہے خواہ حالت احرام میں ہو یا نہ ہو یہ پابندی ارض حرم کا حق ہے۔

شکار کرنا مباح ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے اس کی اباحت ثابت ہے ہاں امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف لہو و لعب اور کھیل کود کے طور پر شکار کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شکار نہیں کیا ہے البتہ شکار کو جائز قرار دیا اور اس کو کھایا ہے شکاری کو شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے شکار کے سارے مسائل بیان فرمائے ہیں اور اس کے مضرات سے بھی آگاہ کیا ہے طبقہ صحابہ میں شکار کے مسائل سب سے زیادہ عدی بن حاتم نے پوچھے ہیں اور یہ شکاری بھی تھے پھر ابو ثعلبہ خثعمی نے پوچھے ہیں یہ بھی شکاری تھے کچھ دیگر صحابہ نے بھی شکار کیا ہے جیسے ابو قتادہؓ اور سلمہ بن اکوعؓ وغیرہ۔

”ذبائح“ یہ ذبیحہ کی جمع ہے عمل ذبح کو کہتے ہیں پھر ذبح دو قسم پر ہے ایک ذبح اختیاری ہے دوسرا ذبح اضطراری ہے ذبح اختیاری میں یہ ضروری ہے کہ حلقوم کی اکثر رگیں کٹ جائیں اور بسم اللہ ساتھ ہو ذبح اضطراری میں جانور یا پرندہ کے جس حصہ پر زخم لگ جائے وہ ذبح کے لئے کافی ہے بشرطیکہ مارتے وقت بسم اللہ اور تکبیر کہی ہو۔

### الفصل الاول

کتے اور تیر کے ذریعہ کیے گئے شکار کے مسائل

﴿۱﴾ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ

فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنْ اُمْسِكَ عَلَيْكَ فَاذْكُرْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ وَاِنْ اُدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ  
وَاِنْ اُكْلَ فَلَا تَأْكُلْ فَاِنَّمَا اُمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَاِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ  
فَاِنَّكَ لَا تَدْرِي اَيُّهُمَا قَتَلَهُ وَاِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ  
فِيهِ اِلَّا اَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ اِنْ شِئْتَ وَاِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے کتے کو چھوڑ دو تو اللہ کا نام  
ذکر کرو یعنی جب تم شکار کے لئے اپنے سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑنے کا ارادہ کرو تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دو۔ اور  
پھر اگر اس کتے نے تمہارے لئے شکار کو پکڑ لیا ہو اور وہ شکار تم کو زندہ ملے تو اس کو ذبح کر لو اگر اس کو قصد اذبح نہیں کرو گے تو  
اس کا کھانا حرام ہوگا کیونکہ اس صورت میں وہ مردار ہوگا۔ اور اگر تم اس شکار کو اس حالت میں پاؤ کہ کتے نے اس کو مار ڈالا  
ہے لیکن اس نے اس میں سے کچھ کھایا نہیں ہے تو تم اس شکار کو کھاؤ لیکن اگر کتے نے اس میں سے کچھ کھالیا ہے تو پھر تم اس  
کو نہ کھاؤ کیونکہ اس صورت میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کتے نے اس شکار کو اپنے لئے پکڑا ہوگا۔ جو اس بات  
کی علامت ہوگی کہ کتا سکھایا ہوا نہیں ہے جبکہ اس کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے جو سکھایا ہوا ہو اور اگر تم شکار کے پاس اپنے  
کتے کے ساتھ کسی دوسرے کتا بھی پاؤ در آنحالیکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کتے نے اس شکار کو مار ڈالا ہو تو اس صورت  
میں بھی اس شکار کو مت کھاؤ کیونکہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس شکار کو ان دونوں کتوں میں سے کس نے مارا ہے اگر  
دوسرے کتے نے مارا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سکھایا ہوا نہ ہو یا اس کو چھوڑنے والے نے چھوڑتے وقت بسم اللہ نہ کہی ہو اور یا  
اس کو کسی ایسے شخص نے چھوڑا ہو جس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا جیسے مجوسی یا بت پرست وغیرہ اور جب تم کسی شکار پر اپنا  
تیر چلاؤ تو اس وقت اللہ کا نام ذکر کرو یعنی بسم اللہ کہہ کر تیر چلاؤ اور پھر اگر وہ شکار ایک دن تک تم سے اوچھل رہا ہو اور اس کے  
بعد تمہیں ملا تو تم چاہو تو اس کو کھا لو بشرطیکہ تم نے اس شکار میں اپنے تیر کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہ پایا ہو اور اگر وہ  
شکار تمہیں پانی میں ڈوبا ہوا ملے اور اس میں تمہارے تیر کا نشان بھی موجود ہو تو تم اس کو نہ کھاؤ کیونکہ ممکن ہے وہ تمہارے تیر  
سے نہ مرا ہو بلکہ پانی میں ڈوب کر مرا ہو۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”اذا رسلت کلبک“ اس حدیث میں شکار کے کئی مسائل کا بیان آ گیا ہے جن کی طرف قرآن عظیم کی اس آیت میں  
اشارے ہیں ﴿وَمَا عَلِمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلِمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمَّا امْسَكْنَ عَلَيْكُمْ  
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ﴾ اس آیت میں ”الجوارح“ سے پھاڑنے اور شکار کرنے والے درندے پرندے وغیرہ مراد ہیں  
جیسے چیتا، شیر اور کتا وغیرہ اور پرندوں میں باز وغیرہ مراد ہیں۔ ”مکلبین“ یعنی تم نے اس کو شکار پر چھوڑا ہو یہ چھوڑنا بمنزلہ ذبح



کرنے کے ہے اس لئے اس وقت بسم اللہ اکبر پڑھنا چاہئے اور یہی کافی ہے ہاں اگر شکار زخمی حالت میں مل گیا تو پھر ذبح اختیاری ضروری ہے۔ ”تعلّمونہن“ یعنی آزمودہ سکھایا ہوا تعلیم یافتہ کتا ہو فقہاء نے جانور کے تعلیم یافتہ ہونے کے لئے تین شرائط بیان کی ہیں (۱) پہلی شرط یہ کہ جب شکار پر چھوڑے تو خوب دوڑے (۲) دوسری شرط یہ کہ دوڑ کے دوران جب واپس بلایا جائے تو فوراً واپس آجائے (۳) تیسری شرط یہ کہ شکار پکڑ کر مالک کے پاس لائے خود بالکل نہ کھائے۔

اس طرح کتا معلم ہوتا ہے اس کے چھوڑنے کے وقت بسم اللہ کہنے سے شکار حلال ہو جاتا ہے اس کے مارنے سے ذبح مکمل ہو گیا ہاں اگر شکار اب تک زندہ ہے تو پھر اس کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ باز وغیرہ پرندہ کے معلم ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں (۱) جب شکار پر چھوڑے تو خوب اڑ کر دوڑے (۲) دوسری شرط یہ کہ جب واپس بلایا جائے تو خوب اڑ کر واپس آئے شکار کو نہ کھانا پرندہ کے لئے شرط نہیں ہے۔

”وان اکل فلاحا ککل“ یعنی اگر شکاری کتے نے شکار کر کے اس سے کھایا تو اب ماہی مت کھاؤ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتے نے کھالیا اور شکار مر گیا تو آیا وہ حلال ہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

### فقہاء کا اختلاف

امام مالک اور اوزاعی شام فرماتے ہیں کہ اس طرح شکار بھی حلال ہے اس کا کھانا بھی حلال ہے جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ اس طرح شکار کا کھانا حرام ہے۔

### دلائل

امام مالک اور اوزاعی نے سنن ابی داؤد کی روایت سے استدلال کیا ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں ”اذا ارسلت کلبک و ذکرک اسم اللہ علیہ فکل وان اکل منه“۔ (ابوداؤد ص ۳۸ ج ۲) جمہور نے زیر بحث حدیث وان اکل فلاحا ککل سے استدلال کیا ہے۔

### جواب

جمہور کی طرف سے امام مالک کے استدلال کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اقویٰ اور مضبوط ہے امام مالک کے متدل کا یہ درجہ نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت بما امسکن علیکم میں واضح طور پر حلال ہونے کے لئے شکار کا نہ کھانا بلکہ امساک شرط ہے اس وجہ سے امام مالک کا متدل چھوڑنا پڑیگا۔ تیسرا جواب یہ کہ فلاحا ککل میں نہیں ہے اور مقابلہ حل و حرمت میں ترجیح حرمت کو دی جاتی ہے۔

”فان وجدت مع کلبک کلباً“ اس حدیث میں یہ دوسرا مسئلہ ہے اس کی تشریح اس طرح ہے کہ اگر شکاری کتے کے ساتھ کسی آدمی کا کوئی دوسرا کتا شامل ہو گیا اور اس نے شکار کو مارا تو اس حدیث میں ہے کہ اس شکار کو نہ کھاؤ کیونکہ اصل بات بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کی ہے اور یہ جو دوسرا کتا شامل ہو گیا اس میں دو باتیں مشکوک ہیں۔ پہلی بات یہ مشکوک ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ وہ معلوم ہے یا نہیں بہت ممکن ہے کہ وہ غیر معلوم ہو دوسری بات یہ کہ یہ معلوم نہیں کہ کتا چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیکر بسم اللہ پڑھی گئی یا نہیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت کھاؤ۔

### متروک التسمیہ ذبیحہ کا حکم

”فذكر اسم الله“ اس حدیث میں تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ متروک التسمیہ ذبیحہ کا حکم کیا ہے یعنی کتا چھوڑتے وقت یا تیر پھینکتے وقت یا ذبح اختیاری میں اگر کسی نے قصداً بسم اللہ چھوڑ دیا تو آیا یہ ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

### فقہاء کا اختلاف

امام شافعی کے ہاں اگر کسی نے بسم اللہ عداً جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا بھول کر چھوڑ دیا ہر حالت میں شکار حلال ہے ایک ضعیف قول حنابلہ کا بھی اسی طرح ہے۔ داؤد ظاہری اور امام شیعہ کہتے ہیں کہ ہر حالت میں شکار حرام ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبلؒ جمہور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تسمیہ عداً ترک کر دیا تو شکار حرام ہے اگر نسیاناً تسمیہ چھوٹ گئی تو شکار حلال ہے۔

### دلائل

فریق اول امام شافعیؒ نے اس اجتہاد سے استدلال کیا ہے کہ قرآن وحدیث میں بسم اللہ کا جو ذکر ہے وہ عام ہے چاہے زبان سے پڑھے چاہے دل سے پڑھے اور مسلمان کے دل میں بسم اللہ اور نام اللہ ہر وقت موجود ہے لہذا متروک التسمیہ ذبیحہ حلال ہے۔ فریق ثانی داؤد ظاہری اور شعیؒ کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی آیت ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَذْكُرَاسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَفُسْقٌ﴾ عام اور مطلق ہے خواہ تسمیہ بھول سے چھوٹ گئی یا قصداً چھوڑ دیا ذبیحہ حرام ہے۔

فریق ثالث جمہور نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا اور فرمایا کہ آیت میں ﴿وَأَنَّهُ لَفُسْقٌ﴾ کہا گیا ہے کہ ترک تسمیہ فسق ہے اور فسق اس فعل کو کہتے ہیں جس میں قصد و ارادہ ہوا اگر فعل میں قصد و ارادہ نہ ہو وہ فسق نہیں ہے لہذا عداً تسمیہ ترک کرنے سے ذبیحہ حرام ہوگا اور نسیاناً چھوٹنے سے ذبیحہ حرام نہیں ہوگا کیونکہ حدیث ”رفع عن امتی الخطاء والنسيان“ ایک ضابطہ ہے جمہور نے اس باب کی تمام احادیث سے بھی استدلال کیا ہے جس میں تسمیہ کی شرط مذکور ہے زیر بحث حدیث کی

روشنی میں چند باتیں بطور خلاصہ لکھی جاتی ہیں جو درحقیقت شکار کی شرائط میں سے ہیں۔

- (۱) شکار کے حلال ہونے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ شکار کرنے والا مسلمان ہو کا فر کا شکار اور ذبیحہ حرام ہے۔
- (۲) شکاری کتے کو شکاری آدمی نے چھوڑا ہو یہ دوسری شرط ہے اگر خود بخود کتے نے شکار کو پکڑ کر حاضر کیا تو وہ حلال نہیں ہے۔
- (۳) تیسری شرط یہ کہ کتے وغیرہ کو چھوڑتے وقت شکاری نے اللہ کا نام لیا ہو قصد التسمیہ کو اگر چھوڑ دیا تو شکار حلال نہیں ہوگا۔
- (۴) جس جانور یا پرندہ کے ذریعہ سے شکار کیا جاتا ہے وہ معلم ہو غیر معلم کا شکار ذبح کے بغیر حرام ہے۔
- (۵) تعلیم یافتہ کتے نے بھی اگر شکار کرنے کے بعد شکار کو کھالیا تو باقیہ کا استعمال کرنا آدمی کے لئے حرام ہے۔
- (۶) تعلیم یافتہ کتے کے شکار کے حلال ہونے کے لئے چھٹی شرط یہ ہے کہ کتے نے شکار میں زخم لگایا ہو اگر بغیر زخم کے شکار مرجائے تو اس کا استعمال حرام ہے۔
- (۷) اگر شکار گم ہو جائے اور سڑنے سے پہلے ل جائے تو اس کا کھانا حلال ہے اور اگر سڑ جائے یا پانی میں گر کر غرق ہو جائے اور مرجائے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔

### بندوق کی گولی کا شکار کیسا ہے؟

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَتْ كُلُّ مَا امْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ  
وَأَنْ قَتَلْنَ قَالَ وَأَنْ قَتَلْنَ قُلْتُ إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَتْ كُلُّ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ  
وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عدیؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تربیت یافتہ (یعنی سکھائے ہوئے) کتوں کو (شکار کے پیچھے) چھوڑتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کتے تمہارے لئے جو شکار پکڑ کر رکھیں اس کو کھالو۔ میں نے عرض کیا اگر چہ وہ کتے شکار کو مار ڈالیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر چہ مار ڈالیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ہم شکار پر بغیر پر کا تیر چلاتے ہیں اور اس کے ذریعہ شکار کر لیتے ہیں تو کیا وہ شکار کھانا درست ہے؟ آپ نے فرمایا جس شکار کو وہ تیر زخمی کر دے یعنی اگر وہ تیر سیدھا جا کر نوک کی جانب سے شکار کو لگے اور وہ مرجائے تو اس کو کھالو اور اگر وہ تیر نوک کی جانب سے نہیں بلکہ عرض یعنی چوڑائی کی جانب سے جا کر اس شکار کو اس طرح لگے کہ وہ شکار کو زخمی نہ کرے اور وہ مرجائے تو وہ وقید ہے اس کو نہ کھاؤ۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”اننا نرمی بالمعراض“ یعنی کبھی ہم شکار پر تیر پھینکتے ہیں وہ جا کر چوڑائی میں لگ جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے آنحضرت نے

جواب میں فرمایا ”کل ما خزق“ خزق گھسنے اور نافذ ہونے کو کہتے ہیں نوک اور دھار سے زخم کرنا مراد ہے معروض وہ تیر ہے جو عرضاً شکار کو لگے دھار کی طرف سے نہ لگے یہ وقیفہ کے حکم میں ہے شکار حلال نہیں اس سے ہر اس ثقیل چیز کا ضابطہ نکلتا ہے جس میں دھار نہ ہو بلکہ اپنے بوجھ، زور اور دباؤ سے شکار کو پھاڑ دیتی ہو۔

### فقہاء کا اختلاف

اب اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ غیر دھاری دار چیز کا شکار حلال ہے یا حرام ہے جس میں آج کل بندوق کی گولی کا مسئلہ سامنے آتا ہے امام کھول اور اوزاعی شام اور کچھ دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ بندوق کی گولی سے کیا ہوا شکار حلال ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ دھار کے علاوہ اور زخم لگنے کے بغیر دباؤ کے ذریعہ سے مارا ہوا شکار حلال نہیں ہے لہذا بندوق کی گولی سے شکار حلال نہیں الا یہ کہ شکار زندہ ہو اور ذبح اختیاری ہو جائے تو حلال ہے۔

### دلائل

امام اوزاعی اور علماء شام اور امام کھول قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ﴿مِمَّا امْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ میں زخم کا ذکر نہیں ہے ایت مطلق ہے اس کو زخم کے ساتھ مقید نہیں کیا جاسکتا لہذا غیر دھاری دار چیز سے شکار جائز ہے۔ جمہور مذکورہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معروض کے شکار کو وقیفہ قرار دیا اور ”خزق“ کی شرط لگادی کہ دھار سے زخم لگا ہوا اور خون بہہ گیا، تو تب حلال ہے ورنہ نہیں۔

جمہور نے امام اوزاعی کے استدلال کا یہ جواب دیا ہے کہ مما امسکن میں امساک کی قید عدم اکل کے لئے ہے کہ تمہارے لئے روکے اپنے کھانے کے لئے نہ روکے اس ایت کا زخم لگنے نہ لگنے سے کوئی تعلق ہی نہیں بلکہ امساک اور زخم دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ بہر حال بندوق کی گولی اگرچہ بارود کے دباؤ میں جا کر شکار کو دبا دیتی ہے لیکن اس میں کچھ اس قسم کی تیزی ہے کہ چاقو چھری سے زیادہ سلیقے سے چیز کٹ جاتی ہے بڑے علماء کو اس بارہ میں سوچنا چاہئے۔

### یہود و نصاریٰ کے برتنوں میں کھانا کیسا ہے؟

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا بَارِضٌ قَوْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي آيَاتِهِمْ وَبَارِضٌ صَيْدٌ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ وَبِكَلْبِي الْمُعَلِّمِ فَمَا يَصْلُحُ لِي قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ آيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاعْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا وَمَا صِدَّتْ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا صِدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَذَكَرْتَ

اَسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ وَاصْدُبْ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلِّمٍ فَاذْرُكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ثعلبہ حشیؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! ہم ایک ایسی قوم کے درمیان سکونت پذیر ہیں جو اہل کتاب ہے تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھاپی سکتے ہیں؟ اور ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہیں میں اپنی کمان یعنی تیر اور تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ بھی شکار مارتا ہوں اور غیر تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ بھی شکار مار لیا کرتا ہوں تو میرے لئے کون سی چیز درست ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جو تم نے اہل کتاب کے برتنوں کے بارے میں پوچھی ہے تو (ان کے متعلق حکم ہے کہ) اگر ان برتنوں کے علاوہ اور برتن مل سکیں تو پھر ان کے برتنوں میں مت کھاؤ پیو اور اگر دوسرے برتن نہ مل سکیں تو پہلے ان کو دھو مانج لو اور پھر ان میں کھاپی لو۔ رہی شکار کی بات تو جس جانور کو تم نے اپنے تیر سے شکار کیا ہے اور تیر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہے اس کو کھالواسی طرح جس جانور کو تم نے تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ شکار کیا ہے اور اس کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہے تو اس کو بھی کھالو اور نیز جو شکار تم نے غیر تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ پکڑا اور اس کو ذبح کرنے کے قابل یعنی زندہ پایا اور پھر اس کو ذبح کر لیا ہے تو اس کو بھی کھا سکتے ہو۔ (بخاریؒ و مسلم)

توضیح

اہل کتاب کے برتنوں میں اگر انہوں نے خنزیر کا گوشت رکھا ہو یا شراب کے لئے استعمال کیا ہو اس صورت میں اگر کوئی اور برتن مل سکتا ہے تو ان برتنوں کا استعمال قطعاً جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی اور برتن نہیں مل سکتا تو انہیں کو دھو کر استعمال کرنا جائز ہے مجبوری ہے اور اگر ان کے یہ برتن شراب وغیرہ میں استعمال نہیں ہوئے ہوں تو پھر صرف دھو کر استعمال کرنا جائز ہے اگرچہ اپنا برتن موجود ہو۔ بہر حال اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں اسلامی غیرت و حمیت باقی رہے کیونکہ زیادہ اختلاط سے آہستہ آہستہ آدمی غیر مسلموں کے معاشرے میں گم ہو جاتا ہے بد اخلاقی جائز نہیں ہے لیکن اخلاق کا بھی ایک مقام ہوتا ہے اخلاق اس کا نام نہیں ہے کہ دشمن خدا کے ہاتھ قلبی الفت پیدا ہو جائے۔ زیر بحث حدیث کا اشارہ بھی یہی ہے کہ اگر اپنا برتن موجود ہے تو کافر کا برتن استعمال نہ کرو۔

مارا ہوا شکار اگر گم ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

﴿۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَعَابَ عَنْكَ فَاذْرُكْهُ فَكُلْ مَا لَمْ يَنْتِنْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ثعلبہ حشیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کا نام لے کر کسی شکار پر اپنا تیر چلاؤ اور پھر وہ شکار تیر کھا کر تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے یعنی کسی ایسی جگہ گر کر مر جائے جو اس وقت تمہیں نہ مل سکے اور پھر وہ

تمہارے ہاتھ لگ جائے اور تم اس میں اپنے تیر کا نشان دیکھ کر یہ یقین کر لو کہ یہ تمہارے اسی تیر کے لگنے سے مرا ہے تو تم اس کو کھا سکتے ہو جب تک کہ اس کی بو میں تغیر پیدا نہ ہو جائے (مسلم)

توضیح

”مالم یبتن“ مثلاً ایک آدمی نے پرندہ وغیرہ شکار کیا لیکن وہ گر کر جھاڑیوں میں گم ہو گیا اب اس گمشدہ شکار کا کیا حکم ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب تک وہ شکار سرگرم بد بودار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا کھانا جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شکار کسی اور وجہ سے نہیں مرا ہو بلکہ شکاری آدمی کے تیر وغیرہ سے مرا ہو اور مارتے وقت اس نے بسم اللہ اکبر کہا ہو شکار معمولی بد بو اٹھنے سے حرام نہیں ہوتا اگرچہ مضرت ہوتا ہے تاہم شکاری پر لازم ہے کہ وہ اس شکار کو حتی الامکان تسلسل کے ساتھ تلاش کرتا رہے آنے والی حدیث میں ہے کہ تین دن کے بعد بھی مل جائے پھر بھی جائز ہے۔

﴿۵﴾ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يُذْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلْهُ مَالَمْ يُبْتِنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری کے حق میں کہ جواب پنے شکار کو تین دن کے بعد پائے فرمایا کہ اس کو کھالو تا وقتیکہ اس میں بو پیدا نہ ہو گئی ہو۔ (مسلم)

مشتبہ ذبیحہ کا حکم

﴿۶﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِشُرْكِ يَأْتُونَنَا بِالْحِمَانِ لَا نَدْرِي أَيْذَكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا قَالَ اذْكُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے شرک کا زمانہ بہت قریب کا ہے یعنی وہ نو مسلم جنہوں نے اسلام کے احکام اور دینی مسائل پوری طرح ابھی نہیں سیکھے ہیں وہ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ آیا انہوں نے اس کے ذبح کے وقت خدا کا نام لیا ہے یا نہیں تو کیا ان کا لایا ہوا گوشت ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا نام لے لیا کرو اور اس کو کھالیا کرو۔ (بخاری)

توضیح

”اذکروا انتم اسم اللہ“ صحابہ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ مختلف اطراف سے مختلف گوشت آتے ہیں معلوم نہیں کہ اس کا ذبح کس قسم کا ہے اس کا کھانا کیسا ہے آنحضرت نے فرمایا کہ شک نہ کرو بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور کے ذبح کے وقت اگر بسم اللہ نہ پڑھی ہو تو تم اب مرنے کے بعد بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ذبح

کرنے والا اگر قابل ذبح ہو اور جن اطراف سے گوشت آیا ہے وہاں مسلمان ہیں تو تحقیق و تفتیش اور تشکیک و تلبیس کے بغیر مسلمانوں پر حسن ظن کی بنیاد پر بسم اللہ کر کے کھانا چاہئے۔ آج کل جو گوشت برازیل اور تھائی لینڈ اور دیگر کفار ملکوں سے مسلمانوں کے ہاں آتا ہے اس میں انتہائی تحقیق کی ضرورت ہے۔ ان ممالک نے ایک منصوبہ کے تحت مسلمانوں کو حرام گوشت کھلانے کے ذریعہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا ہے مسلمان اتنے بے حس اور بے بس ہو گئے ہیں کہ ان سے خود جانور ذبح کرنے کی ہمت بھی جاتی رہی حرمین شریفین میں حرام گوشت آتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں ادھر پاکستان میں بھی پولٹری فارموں میں مرغیاں مرجاتی ہیں تو وہ عوامی کھانوں اور ہوٹلوں میں کھائی جاتی ہیں جو مردار ہوتی ہیں ہاں گوشت سستا ہوتا ہے اس لئے خریداجاتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع وساوس کے لئے اس طرح فرمایا کہ وسواسی نہ بنو بلکہ بسم اللہ کہو اور کھاؤ بسم اللہ کہنے سے تمہارا وسوسہ ختم ہو جائے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام گوشت بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہو جاتا ہے۔

### غیر اللہ کے نام ذبیحہ حرام ہے

﴿وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ هَلْ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ لَمْ يَعْمْ بِهِ النَّاسُ إِلَّا مَا فِي قِرَابٍ سَفِيٍّ هَذَا فَأُخْرِجَ صَحِيفَةً فِيهَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ غَيْرِ مَنَارِ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾

اور حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اہل بیت کو کسی چیز کے ذریعہ خصوصیت و امتیاز عطا کیا ہے؟ یعنی کیا یہ صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو جو اہل بیت رسول ہیں کچھ ایسے احکام دیئے ہیں جو دوسرے لوگوں کو نہیں دیئے ہیں؟ حضرت علیؑ نے فرمایا نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے کوئی ایسی چیز مخصوص نہیں کی ہے جو اور دوسروں کے لئے عام نہ کی گئی ہو علاوہ اس چیز کے جو میری تلوار کی نیام میں چند احکام کے مجموعہ کی صورت میں موجود ہے لیکن ان احکام کے بارے میں بھی میں یہ نہیں جانتا کہ وہ احکام آیا محض ہم اہل بیت کے لئے خاص ہیں یا ان کا تعلق عمومی طور پر پوری امت سے ہے، پھر حضرت علیؑ نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک کاغذ نکالا جس میں یہ احکام درج تھے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرے اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کا نشان چرائے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشان میں تغیر و تبدل کرے اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے باپ پر لعنت کرے اور اس شخص پر لعنت ہو جو کسی بدعتی کو ٹھکانا دے۔ (مسلم)

## توضیح

”خصکم“ یہ پروپیگنڈہ اس وقت سے آج تک جاری ہے کہ حضرت علی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خصوصی وضیتیں فرمائی تھیں صحابہ نے بار بار حضرت علی سے اس کا پوچھا ہے اور حضرت علی نے مسلسل انکار کیا ہے آج تک روافض اپنی آزانوں میں وصی رسول اللہ کے الفاظ دہراتے ہیں اور حضرت علیؑ کی بات جھٹلاتے ہیں ”قرباب“ تلوار کے نیام کو کہتے ہیں کوئی مخطوط آپ نے اس نیام میں رکھا تھا۔

”لغیر اللہ“ اللہ کے نام کے سوا غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنا اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نام پر یا حضرت عزیر کے نام پر یا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر یا حضرت حسن و حسین کے نام پر یا کسی پیر فقیر کے نام پر جانور کو نامزد کیا جائے کہ یہ فلان کے نام کا جانور ہے پھر اس کو ذبح کرے ذبح کے وقت بعض بے دین تو غیر اللہ کا نام لیتے ہیں اور بعض بے دین نام تو اللہ کا لیتے ہیں مگر جان کسی اور کے لئے نکالتے ہیں غیر اللہ کے نام پر نامزد کرنے کے بعد بوقت ذبح بسم اللہ سے کیا ہوتا ہے جبکہ وہ مذرونیاز غیر اللہ کا ہے۔

”منار الارض“ زمین کے نشان کو منار کہا گیا ہے اس نشان سے مراد وہ علامتی پتھر وغیرہ ہے جو دو مشترک ساتھیوں کی زمین کی حدود پر نصب ہوتا ہے اس کے چرانے یا تبدیل کرنے سے وہ دوسرے کی زمین کو دانا چاہتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نشان کو ایک طرف سے ہٹا کر دوسری طرف لے جایا جاتا ہے اور اصل مالک کو امتیاز نہیں رہتا یہ بھی دانا ہے اور آج کل زمینوں میں سب سے زیادہ تغیر و تبدیل پٹواریوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس حدیث کے پہلے مصداق یہی پٹواری لوگ ہیں جو زمین کے نقشہ میں اور لٹھا میں اور فردنمبر میں گڑبڑ کرتے ہیں اور پھر صحیح کرنے پر بھاری رقم لیتے ہیں خراب خود کرتے ہیں پھر پیسہ لیتے ہیں۔

”لعن والدہ“ یعنی ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تنقید کا نشانہ بنانا ہو، یا کسی دوسرے آدمی کے والدین کو گالیاں دیں اس نے اس کے والدین کو گالیاں دیں اس طرح یہ خود گالیوں کا ذریعہ بن گیا۔

”محدثاً“ اس سے بدعتی شخص مراد ہے ایسے شخص کو ٹھکانا دینا چھپانا سنبھالنا مدینہ یا مکہ وغیرہ میں رکھنا ان سے مالی تعاون کرنا ان کی آراء کو ترویج دینا انکی تعظیم و توقیر کرنا ان کو پیر و مرشد بنانا سب باعث لعنت ہیں۔

جو چیز بھی رگوں کا خون بہا دے اس سے ذبح جائز ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا قُوَّةَ لِلْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى أَفَنْدَبِحَ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظَّفَرُ وَسَأَحْدِثُكَ عَنْهُ أَمَّا السِّنُّ



فَعَظُمَ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشِ وَأَصْبَنًا نَهَبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرًا فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کل دشمن یعنی کفار سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ جنگی ہنگاموں کی وجہ سے ہمارے پاس چھریاں موجود نہ رہیں اور ہمیں جانوروں کو ذبح کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس صورت میں کیا ہم کھج (کھجی) سے ذبح کر سکتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے خون بہہ جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو کھا سکتے ہو یعنی اس جانور کو کھانا جائز ہے جو کسی بھی ایسی چیز سے ذبح کیا گیا ہو جس سے خون بہہ جائے خواہ وہ لوہا ہو یا کوئی اور چیز مگر دانت اور ناخن کے ذریعہ ذبح کرنا جائز نہیں ہے اور میں تمہیں ان دونوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کے ذریعہ ذبح کرنا کیوں جائز نہیں ہے تو سنو کہ دانت تو ہڈی ہے اور جہاں تک ناخن کا تعلق ہے تو وہ حبشیوں کی چھری ہے۔ حضرت رافع کہتے ہیں کہ دشمن کے کچھ اونٹ اور بکریاں لوٹ میں ہمارے ہاتھ آئیں۔ ان میں سے ایک اونٹ بھڑک کر بھاگ نکلا لیکن ہم میں سے ایک شخص نے تیر مار کر اس کو روک دیا یعنی وہ اونٹ تیر کھا کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا ان اونٹوں میں بعض اونٹ بھی اس طرح انسانوں سے بھڑکنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح جنگلی جانور انسانوں سے بھڑکتے ہیں۔ لہذا اگر ان اونٹوں میں سے کوئی اونٹ تمہارے قبضے سے نکل بھاگے تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”مدی“ ”مدیہ“ کی جمع ہے چھری کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ ہمیں جانور ذبح کرنے کی ضرورت پڑ گئی تنگی کی حالت ہوگی سفر جہاد ہے اگر چھری نہ ملے تو کیا ہم ”القصب“ سے جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ قصب بانس کے تراشے کو کہا گیا ہے جو چھری کی طرح تیز ہوتا ہے مکی کا نانڈہ اور گتے کا تراشہ بھی اسی طرح تیز ہوتا ہے لکڑیوں میں بھی اس طرح تراشہ نکلتا ہے جس کو اردو میں کھچ اور کھچچی کہتے ہیں۔

”فعظم“ یعنی دانت تو ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا درست نہیں ہے لہذا دانت سے ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ ”فمدی الحبش“ یعنی ناخن تو اہل حبش کی چھریاں ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں لہذا مسلمانوں کو کافروں کا طریقہ نہیں اپنانا چاہئے۔ ہر دھاری دار چیز جس سے انہار دم آجائے تو ذبح جائز ہے اب دانت اور ناخن اگر جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تو بالاتفاق اس سے ذبح ناجائز ہے لیکن اگر الگ اکھڑے ہوئے ہوں تو اس سے ذبح کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

## فقہاء کا اختلاف

جمہور فقہاء کے نزدیک دانت اور ناخن سے ذبح مطلقاً ناجائز ہے خواہ جسم سے الگ ہوں یا پیوست ہوں۔ ائمہ احناف کے نزدیک اگر دانت اور ناخن جسم کے ساتھ پیوست ہوں تو ذبح ناجائز لیکن اگر الگ ہوں اور استعمال سے خون بہہ جائے تو ذبح کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ جمہور نے مذکورہ حدیث سے استدلال کیا ہے۔ ائمہ احناف نے آنے والی فصل ثانی کی عدی بن حاتم کی حدیث ۱۸ سے استدلال کیا ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں ”امروا الدم بم شنت“ یعنی جس چیز سے چاہو خون بہا دو یہ حدیث عام ہے دانتوں اور ناخنوں کو بھی شامل ہے اصل مقصود خون بہانا ہے اگر مقلوع دانت اور ناخن سے دباؤ نہیں پڑتا اور خون بہہ جاتا ہے تو ذبیحہ حلال ہونا چاہئے البتہ فعل میں کراہت ہے آنے والی حدیث ۹ بھی احناف کی دلیل ہے کیونکہ دانت اور تیز ہڈی ایک چیز ہے۔ جمہور نے زیر بحث حدیث سے جو استدلال کیا ہے تو احناف اس حدیث کو غیر مقلوع دانت اور غیر مقطوع ناخن پر حمل کرتے ہیں کیونکہ جث کے لوگ جانور کو اسی طرح ذبح کرتے تھے یا یہ جواب ہے کہ زیر بحث حدیث کی ممانعت کراہت کے درجہ میں ہے وہ احناف کے ہاں بھی مکروہ ہے لیکن ذبیحہ حلال ہے احناف کا استدلال کمزور ہے۔

”اوابد“ بدکنے اور بھڑکنے والے وحشی جانوروں کو کہتے ہیں اس کا مفرد آبدۃ ہے شاعر گھوڑے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔

و قد اغتدی والطیر فی وکناتہا

بمجرد قید الاوابد ہیہ کل

اس صورت میں ذبح اختیاری نہیں رہیگا بلکہ ذبح اضطراری بن جائے گا جس میں بسم اللہ کے ساتھ زخم لگانا کافی ہے۔

## تیز پتھر کے ذریعہ سے ذبح جائز ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غَنَمٌ تَرُعِي بَسْلَعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةً لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجْرًا فَلَذَبَحَتْهَا بِهِ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت کعب ابن مالک سے روایت ہے کہ ان کعب کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جو مدینہ کی ایک پہاڑی سلع پر چرا کرتا تھا۔ ایک دن ہماری ایک لوٹنی نے ایک بکری کو دیکھا کہ وہ کرنے ہی والی ہے تو اس نے ایک پتھر کا ٹکڑا توڑا اور اس ٹکڑے کے ذریعہ اس بکری کو ذبح کر دیا پھر کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اس صورت میں اس بکری کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بکری کے گوشت کھانے کا حکم دے دیا۔ (بخاری)

## قتل بھی کرو تو سلیقہ اختیار کرو

﴿۱۰﴾ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّثَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت شداد بن اوسؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنے کو لازم کیا ہے یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کو حسن و خوبی اور نرمی کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ سزا، کسی کو قتل کرنے یا جانوروں کو ذبح کرنے میں بھی مہربانی و نرم دلی اور خوبی و نرمی کا طریقہ اختیار کرنا لازم ہے۔ لہذا جب تم کسی شخص کو قصاص یا حد کے طور پر قتل کرو تو اس کو نرمی و خوبی کے ساتھ قتل کرو تا کہ اس کو ایذا نہ ہو جیسے تیز تلوار استعمال کرو اور قتل کرنے میں جلدی کرو اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو خوبی و نرمی کے ساتھ ذبح کرو لہذا یہ ضروری ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جو جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہو اپنی چھری کو خوب تیز کر لے اور ذبح کئے جانے والے جانور کو آرام دے۔ (مسلم)

## توضیح

مطلب یہ ہے کہ میدان جہاد میں یا قصاص میں کسی کو قتل کرنا پڑے تو اس قتل میں بھی سلیقہ اختیار کرو کہ ایذا نہ دو اور شکل نہ بگاڑو کاٹ کاٹ کر قتل نہ کرو اسی طرح ذبح میں بھی سلیقہ اختیار کرو کہ ضرورت سے زیادہ گردن نہ کاٹو چھری کو خوب تیز رکھو اسلام احسان اور سلیقہ کا حکم دیتا ہے لیکن آج کل لوگ بے سلیقہ آگئے جو اسلام کے سلیقے کو سلیقہ نہیں کہتے ہیں۔

## جانور کو باندھ کر نشانہ بنانا جائز نہیں ہے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تُصَبَّرَ بِهِيْمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع فرماتے تھے کہ کسی چوپایہ وغیرہ کو مارنے کے لئے باندھ کر اس پر نشانہ لگایا جائے۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”ان تصبر“ یہ مجھول کا صیغہ صبر سے ہے صبر کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ جانور کو باندھ لیا اور کھانا پینا بند کر دیا تاکہ مر جائے یہاں تک کہ اس کی موت آئی اس صورت میں للقتل میں لام اجلیہ ہوگا ای لا اجل للقتل یعنی قتل کے لئے باندھ لیا۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ جانور کو بطور نشانہ باندھ کر رکھ لیا اور پھر اس پر تیر برس آنے لگایا گولیاں چلانے لگا تا کہ مزہ بھی آئے اور نشانہ بھی درست ہو جائے یہ سخت منع ہے کہ اس میں جاندار کی ایذا رسانی ہے جو ذبح پر ایک اضافی سزا ہے یہ مطلب آنے والی ان روایات کے زیادہ مناسب ہے جن میں صبراً کے بجائے غرضاً کا لفظ آیا ہے۔

﴿۱۲﴾ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  
اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار چیز کو باندھ کر نشانہ لگائے۔ (مسلم)

﴿۱۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا  
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جاندار چیز کو باندھ کر نشانہ نہ بناؤ۔ (مسلم)

﴿۱۴﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر مارنے اور منہ پر داغ دینے سے منع فرمایا ہے یعنی کسی آدمی یا جانور کے منہ پر طمانچہ یا کوڑا وغیرہ نہ مارا جائے اور نہ کسی کے منہ پر داغ دیا جائے۔ (مسلم)

کسی کو نہ منہ پر مارو نہ چہرہ پر داغ لگاؤ

﴿۱۵﴾ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ وَقَدْ وَسِمَ فِي وَجْهِهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزرا جس پر داغ دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اس کو داغا ہے۔ (مسلم)

توضیح

”لعن اللہ“ کسی جاندار کے چہرہ اور منہ پر داغ دینا منع ہے خواہ انسان ہو یا حیوان ہو چہرہ اور منہ کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں پر داغ دینا جائز ہے کیونکہ آنے والی روایات سے ثابت ہے البتہ انسان کے جسم کے داغنے کی بعض روایات میں مطلقاً ممانعت آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہی شفیقہ ہے کہ آنحضرتؐ نے دوسرے اسباب سے علاج کی ترغیب دی ہے کیونکہ آگ سے داغنے میں بڑی تکلیف ہے ہاں جب دیگر علاج ناکام ہو جائے تو آخری مجبوری پر داغ دینا درست ہے جیسا کہ کہا گیا ہے ”آخر الداء

الکسی“ بلکہ اگر مجبوری ہو تو چہرہ پر بھی داغ لگانا جائز ہے اس ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اہل جاہلیت داغ دینے کو ایک کرشماتی اور قطعی یقینی علاج تصور کرتے تھے۔ گویا داغ دینا ان کے اوہام پرستی کا ایک حصہ تھا اس لئے مسلمانوں کو روکا گیا۔

## ضرورت و مصلحت کے تحت داغنا جائز ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيَحْنِكَهُ فَوَافَقْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسْمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں ایک دن صبح کے وقت عبد اللہ ابن ابوطالبؓ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا تاکہ آپؐ کھجور چبا کر اس کے تالو میں لگا دیں۔ چنانچہ اس وقت میں نے آپؐ کو اس حال میں دیکھا کہ آپؐ کے دست مبارک میں داغنے کا آلہ تھا جس کے ذریعہ سے زکوٰۃ کے اونٹوں کو داغ رہے تھے۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”المیسم“ داغ لگانے کے آلہ کو میسم کہا گیا ہے جیسے سلاح وغیرہ ہوتا ہے یہ داغ لگانا چہرہ پر نہیں تھا اس لئے کوئی تعارض نہیں ہے جسم کے دوسرے حصے مراد ہیں۔

”لیحکنہ“ تحنیک کا عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے منہ میں کھجور چبا کر لعاب بنادے اور پھر اس کو نو مولود بچے کے تالو پر لگا کر اس کو چٹا دے تاکہ نیک آدمی کا مبارک لعاب بچے کی غذا بن جائے۔

﴿۱۷﴾ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَرْبِدٍ فَأَيْتَهُ يَسْمُ شَاءَ حَسِبْتُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ہشام ابن زیدؓ، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپؐ جانوروں کے باڑے میں تھے میں نے دیکھا کہ آپؐ بکریوں وغیرہ کے کسی عضو پر داغ دے رہے تھے۔ ہشام کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت انسؓ نے یہ بیان کیا تھا کہ آپؐ ان بکریوں وغیرہ کے کان پر داغ دے رہے تھے۔ (بخاری و مسلم)

## الفصل الثانی

ہر اس چیز سے ذبح جائز ہے جو خون بہادے

﴿۱۸﴾ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَحَدُنَا أَصَابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ

أَيْذُبْحُ بِالْمَرْوَةِ وَشَقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ أَمْرُ الدَّمِ بِمِ شَيْءٍ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ  
اور حضرت عدی ابن حاتم سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی  
جانور کا شکار پکڑے اور اس وقت اس کے پاس چھری نہ ہو تو کیا وہ کسی پتھر کے ٹکڑے یا کسی لکڑی کی کھج سے اس شکار کو ذبح  
کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم جس چیز سے چاہو بسم اللہ پڑھ کر خون بہادو۔ (ابوداؤد، نسائی)

توضیح

”المروۃ“ پتھر کا سفید ٹکڑا مراد ہے جو تیز ہو ”شقة العصاء“ لکڑی کا وہ تراشہ اور کھج مراد ہے جو تیز دھار ہوتی ہے  
”امر الدم“ یعنی خون بہادو جس چیز سے چاہو حدیث کے اس عموم سے احناف نے الگ شدہ دانت اور الگ شدہ ناخن  
سے ذبح کے جواز پر استدلال کیا ہے یعنی بسم اللہ کہہ دو اور خون بہادو۔

### ذبح اضطراری کا حکم

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَبِي الْعُشْرَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاءُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ  
فَقَالَ لَوْ طَعَنْتُ فِي فَخْذِهَا لَأَجْزَأُ عَنْكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه  
وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا ذَكَاءُ الْمُتَرَدِّي وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا فِي الضَّرُورَةِ

اور حضرت ابو العشراء اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا شرعی ذبح کا تعلق حلق اور سینے کے  
سینے کے سرے کے درمیانی حصے سے ہے؟ یعنی کیا شرعی طور پر ذبح صرف اسی کو کہا جائے گا کہ جانور کے حلق اور سینے کے  
سرے کے درمیان جراحت کے ساتھ خون بہایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شکار کی ران میں بھی جراحت  
پہنچا دو گے تو تمہارے لئے کافی ہوگا۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یہ یعنی حدیث میں مذکورہ ذبح کی اجازت دینا اس جانور سے متعلق ہے جو کنویں میں گر پڑا ہو یعنی  
یہ ذبح اضطراری کی صورت کا حکم ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ ضرورت کی حالت کا حکم ہے۔

توضیح

”اماتكون“ یعنی کیا ذبح صرف سینے اور حلق کے درمیان ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا ہے؟ اس جملہ میں استفہام ہے اس کے  
جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح اضطراری کے عموم کو بتایا کہ اضطراری ذبح جہاں بھی زخم لگایا جائے مکمل  
ہو جاتا ہے گلے کے ساتھ خاص نہیں ہے البتہ اختیاری ذبح گلے میں ہوتا ہے۔

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلِمْتُ مِنْ كُلِّ أَوْ بَارِئٍ

أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عدی ابن حاتم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کو تم نے سکھلایا خواہ وہ کتا ہو یا باز اور پھر تم نے ان میں سے کسی کو شکار پر چھوڑا اور چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تو تم اس جانور کو کھا لو جس کو اس کتے یا باز نے تمہارے لئے پکڑا ہے میں نے عرض کیا کہ اگرچہ اس نے اس شکار کو مار ڈالا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ وہ کتا یا باز شکار کو مار ڈالے اور خود اس میں سے کچھ نہ کھائے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس نے اس شکار کو تمہارے ہی لئے پکڑ رکھا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿۲۱﴾ وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرُمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الْعَدِ سَهْمِي قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرْفِهِ أَثَرُ سَبْعِ فُكُلٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں شکار پر اپنا تیر چلاتا ہوں اور پھر اگلے دن (جب وہ شکار کہیں پڑا ہوا مجھے ملتا ہے تو) اس کے اندر میں اپنا تیر پاتا ہوں (کیا میں وہ شکار کھا سکتا ہوں؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں اگر تم یہ جانو کہ اس شکار کو تمہارے ہی تیر نے مار ڈالا ہے اور اس شکار میں تم کسی درندے کا کوئی نشان نہ پاؤ تو اس کو کھا سکتے ہو اور اگر اس شکار میں کسی درندے کے دانت یا پنجے وغیرہ کا کوئی نشان پاؤ یا کسی دوسرے کے تیر کی علامت پاؤ تو اس صورت میں اس کو مت کھاؤ۔ (ابوداؤد)

جن کا ذبیحہ حرام ہے ان کے کتے کا شکار بھی حرام ہے

﴿۲۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمُجُوسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ہمیں مجوسیوں کے کتے کا پکڑا ہوا شکار کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ (ترمذی)

اگر جانور زندہ ہو اور مسلمان اس کو ذبح کر دے تو حلال ہو جائے گا اگرچہ مجوسی کے کتے نے پکڑا ہو لیکن اگر مر گیا تو حرام ہے۔

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ فَلَا تَجِدُ غَيْرَ آنِسِهِمْ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابو ثعلبہ خشنیؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اکثر سفر کرنے والے لوگوں میں سے ہیں ہمارا گذر یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کی آبادیوں پر سے بھی ہوتا ہے اس وقت ان کے برتنوں کے علاوہ اور برتن ہمارے پاس نہیں ہوتے تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھاپی سکتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ان کے برتنوں کے

علاوہ برتن دستیاب نہ ہوں تو ان کے برتنوں کو پانی سے دھو مانج لو اور پھر ان میں کھاؤ پیو۔ (ترمذی)  
اس باب کی حدیث نمبر ۳ میں زیر بحث حدیث کی اور اہل کتاب کے برتنوں کی تفصیل گزر چکی ہے۔

## غیر مسلموں کے ہاتھ کا کھانا حلال ہے

﴿۲۴﴾ وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُبَلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى، وَفِي رِوَايَةٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا اتَّحَرَجُ مِنْهُ فَقَالَ لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعَتْ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت قبیصہ بن ہبل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیوں کے کھانوں کے بارے میں دریافت کیا کہ ہم لوگ کھائیں یا نہیں؟ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس بارے میں ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا چنانچہ اس نے عرض کیا کہ کھانوں میں سے ایک کھانا یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا کھانا ایسا ہے جس سے میں پرہیز کرتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کسی چیز یعنی شک و شبہ کی کھٹک پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے اس عمل کے ذریعہ عیسائیت کی مشابہت اختیار کی ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

## توضیح

”اتسحوج“ میں حرج محسوس کرتا ہوں اور پھر اجتناب کرتا ہوں ”لا یتخلجن“ یہ خلجان سے ہے یعنی تیرے دل میں کوئی خلجان اور کھٹک نہیں گذرنا چاہئے ”ضارعت“ یہ مضارعت مشابہت کے معنی میں ہے یعنی اس طرز عمل سے تم نے نصاریٰ کی مشابہت اختیار کر لی کیونکہ وہ اپنے اوپر نہایت تنگی کرتے ہیں اور ذرا شک آنے پر اپنے آپ پر حلال کھانا حرام کر دیتے ہیں مسلمان کو چاہئے کہ جب تک حرمت کا یقین نہ ہو محض شک کی بنیاد پر کسی چیز کو حرام نہ کرے سوال کرنے والے چونکہ عدی بن حاتم تھے جو پہلے عیسائی تھے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ کا ذکر فرمایا۔

## مجثمہ کا کھانا ممنوع ہے

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْمُجْثَمَةِ وَهِيَ النَّبْتُ تَصْبُرُ بِالنَّبْلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابودرداءؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجثمہ کو کھانے سے منع فرمایا ہے اور مجثمہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو باندھ کر نشانہ کی مانند کھڑا کیا جائے اور پھر اس پر تیر مارا جائے۔ (ترمذی)



## توضیح

چونکہ یہاں ذبح اختیاری ہو سکتا ہے اس کے بجائے ذبح اضطراری اختیار کرنا جائز نہیں ہے جانور مردار ہے اور یہ عمل ظلم ہے مجسمہ وہ زندہ جانور ہوتا ہے جسے باندھ کر نشانہ بنایا جائے اس سے پہلے مسبرۃ اور غرضاً کے جوا الفاظ گزرے ہیں یہ سب ایک ہی مفہوم کا عمل ہے۔

## وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے

﴿۲۶﴾ وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنِ الْحَلِيسَةِ وَأَنْ تُوْطَأَ الْحَبَالِيُّ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى سَأَلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ فَقَالَ أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوْ الشَّيْءُ فَيُرْمَى وَسُئِلَ عَنِ الْحَلِيسَةِ فَقَالَ الذَّنْبُ أَوْ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَذْكِيَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت عرباض ابن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ان جانوروں کو کھانے سے منع فرمایا، کچلی والا درندہ بچہ والا پرندہ، گھر کے پالتو گدھوں کا گوشت، مجسمہ اور خلیسہ، نیز آپ نے جہاد میں پکڑی گئی ان لونڈیوں سے جماع کرنے سے بھی منع فرمایا جو حاملہ ہوں جب تک کہ وہ اس بچہ کو نہ جن لیں جو ان کے پیٹ میں ہے۔ حضرت محمد ابن یحییٰ (جو امام ترمذی کے شیخ و استاد ہیں اور حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی کہتے ہیں کہ میرے شیخ و استاد حضرت ابو عاصم سے مجسمہ کے معنی دریافت کئے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ مجسمہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی پرندہ یا چرندہ کو باندھ کر کھڑا کیا جائے اور پھر اس پر تیر مارا جائے اسی طرح حضرت ابو عاصم سے خلیسہ کے معنی دریافت کئے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑیے یا کسی اور درندے نے کسی جانور کو پکڑ لیا ہو اور پھر کوئی شخص اس درندے سے وہ جانور چھین لے اور وہ جانور ذبح کئے جانے سے پہلے ہی اس شخص کے ہاتھ میں مر جائے۔ (ترمذی)

## توضیح

”ذی نساب“ اس درندے کو ذی ناب کہتے ہیں جن کی کچلیاں ہوں یعنی رباعی دانتوں کے پاس دائیں بائیں لمبے لمبے نوکدار دانت ہوں اور اس کے ساتھ دوسرے جانوروں کا شکار کر کے پھاڑتے ہوں جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا، بچھ، بندر، سور، لومڑی اور بچو وغیرہ ہیں۔

”من السباع“ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعہ چیر پھاڑ کا کام کرتا ہو اور دیگر جانوروں کو پھاڑتا ہو من السباع

کا یہ لفظ جس طرح درندوں کے ساتھ لگتا ہے اسی طرح ذی مخلب پرندوں کے ساتھ بھی لگتا ہے۔

”ذی مخلب“ میم پر کسرہ ہے خاسا کن ہے لام پر فتح ہے پنچے مراد ہیں یعنی جو پرندہ پنچوں کے ساتھ چیر پھاڑ کرتا ہے جیسے باز، شکرہ، چیل، چرخ اور گدھ پنچوں کے ذریعہ دیگر پرندوں کو پھاڑ کر کھاتا ہے یعنی ذی ناب اور ذی مخلب اس صورت میں حرام ہیں کہ وہ ناب اور مخلب سے شکار کرتے ہوں اگر شکار نہیں کرتے ہوں تو وہ حرام نہیں جیسے اونٹ ذی ناب ہے مگر ناب سے شکار نہیں کرتا ہے۔

”الحمرا لاهلیۃ“ اس سے گھریلو پالتو گدھے مراد ہیں لہذا جنگلی گدھے اس سے نکل گئے کیونکہ وہ حلال ہیں جس کو زبیرا کہتے ہیں جو جمعیت کے جھنڈے کے رنگ میں ہوتا ہے افریقہ اس سے بھرا پڑا ہے۔

”عن الخلیسۃ“ یعنی شیر یا بھیڑ یا نے مثلاً بکری کو شکار کیا اور ایک انسان نے اسے چھڑا لیا مگر وہ بکری مرچکی تھی اس کو خلیسہ کہتے ہیں یہ چونکہ مردار ہو گیا ہے اس لئے مسلمان کیلئے اس کا کھانا حرام ہے۔

”وان توطأ الحبالی“ یعنی کسی کے ہاتھ میں لونڈی آئی جو حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس سے جماع کرنا جائز نہیں ہے اس سے منکوحہ حاملہ بیوی مراد نہیں ہے اگر لونڈی حاملہ نہ ہو تو ایک حیض آنے تک انتظار ضروری ہے یہ جہاد میں ہاتھ آنے والی لونڈی کی بات ہے۔

### شریطہ کھانا ممنوع ہے

﴿۲۷﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ بَنُ عَيْسَى هِيَ الذَّبِيحَةُ يُقَطَّعُ مِنْهَا الْجِلْدُ وَلَا تَفْرَى الْأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریطہ شیطان سے منع فرمایا ہے ابن عیسےٰ حدیث کے ایک راوی نے یہ مزید بیان کیا کہ شریطہ شیطان یہ ہے کہ جانور کے حلق کے اوپر کی کھال کاٹ دی جائے اور اس کی پوری رگیں نہ کاٹی جائیں اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ (ابوداؤد)

توضیح

”شریطۃ الشیطان“ یہ جاہلیت کے ناجائز ذبائح میں سے ایک تھا وہ اس طرح کہ جانور کو گلے میں تھوڑا سا کاٹ دیا اور نشان بنا کر چھوڑ دیا پوری رگیں نہیں کٹیں وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا یہ شیطان کا نشان ہے جو ناجائز ہے۔ کیونکہ اس میں بے انتہا ظلم بھی ہے اور رگوں سے دم مسفوح بھی خارج نہیں ہوتا تو حرام مردار ہے۔

”ولاتفری الاوداج“ گلے میں چار رگیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ ذبح شرعی کا تعلق ہے ایک کا نام حلقوم ہے اس کے ساتھ سانس کا تعلق ہے درمختار میں اس کو راج اور صحیح قرار دیا ہے دوسرے کا نام المری ہے جس کے ساتھ کھانے پینے کا تعلق ہے باقی دو کو دجان کہتے ہیں جو گلے کے سامنے حصہ میں ہوتی ہیں حلقوم اور مری اس کے درمیان ہوتی ہیں اس کو شہ رگ بھی کہتے ہیں ان چاروں میں سے جو نسے تین کٹ جائیں شرعی ذبح مکمل ہو جائے گا حدیث میں اوداج کا لفظ چاروں رگوں پر بولا گیا ہے اگر دو رگیں کٹ گئیں اور دو باقی ہوں تو ذبح نہیں ہوگا۔ ”ولاتفری“ مجہول کا صیغہ ہے الفری کا ٹٹنے کے معنی میں ہے زندہ جانور کی کھال کاٹنے اور اتارنے پر بولا گیا ہے۔

### ذبیحہ کے پیٹ کے بچہ کا حکم

﴿۲۸﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  
اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا ذبح کرنا اس کے پیٹ کے بچہ کا بھی ذبح کرنا ہے۔  
(ابوداؤد، دارمی) ترمذی نے اس روایت کو حضرت ابوسعیدؓ سے نقل کیا ہے۔

### توضیح

”ذکاة الجنین ذکاة امه“ یعنی ماں کا ذبح اس کے پیٹ کے بچے کا ذبح ہے تفصیل اس طرح ہے کہ اگر حاملہ جانور کو ذبح کیا گیا اور ذبح کے بعد اس کے پیٹ سے اس کا بچہ نکلا تو اس کی دو صورتیں ہیں یا وہ بچہ زندہ ہوگا یا مرا ہوا ہوگا اگر زندہ نکل آیا تو اتفاقاً اس کا ذبح کرنا ضروری ہے ذبح کئے بغیر حلال نہیں ہوگا اگر بچہ مرا ہوا ہے تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

### فقہاء کا اختلاف

جمہور اور صاحبین کے نزدیک ذبح کئے بغیر وہ بچہ حلال طیب ہے ماں کا ذبح ہونا اس بچے کے ذبح کے لئے کافی ہے بشرطیکہ بچہ تام الخلق ہو اور اس کے جسم پر بال آئے ہوں امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس طرح بچہ مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔

### دلائل

مذکورہ حدیث جمہور کی دلیل ہے وہ ذکاة امه کو مرفوع قرار دیتے ہیں جس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ یعنی جنین کا ذبح یہی ہے کہ اسکی ماں ذبح ہو جائے جمہور کی دوسری دلیل قیاس ہے وہ یہ قیاس کرتے ہیں کہ دیکھو سانس لینے میں پیٹ کا بچہ ماں کے تابع ہے خرید و فروخت میں ماں کے تابع ہے کھانے پینے اور حیات و ممات میں یہ بچہ ماں کے تابع ہے لہذا ذبح میں بھی یہ ماں

کے تابع ہونا چاہئے کیونکہ یہ بچہ ماں کا جزء متصل ہے علیحدہ ذبح کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اپنے استدلال میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ بچہ ماں کے ذبح اور اس کی موت سے پہلے ہی مر گیا ہو تو یہ میتہ مردار کے حکم میں ہے اور اگر ماں کی موت کے بعد سانس گھٹنے سے مر گیا ہو تو یہ منخنقہ دم گھٹنے والے حیوان کے حکم میں ہے اور یہ دونوں حرام ہیں لہذا جنین حرام ہے۔

### جواب

زیر بحث حدیث کا مطلب امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وہ نہیں ہے جو جمہور نے سمجھا ہے بلکہ امام صاحب کے نزدیک یہ حدیث تشبیہ پر محمول ہے یعنی ”ذکاة الجنین کذکاة امہ“ اس کا مطلب واضح ہے کہ جس طرح ماں کو ذبح کیا ہے اسی طرح اس کے بچے کو بھی ذبح کرو ذبح کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہے اس بچے پر ترس کھا کر بغیر ذبح نہ چھوڑو نیز یہ خیال نہ کرو کہ اتنا چھوٹا بچہ ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوگا جس طرح بعض لوگ اس کو حلال نہیں سمجھتے ہیں اس مطلب کی تائید حدیث میں ذکاة امہ کے منصوب پڑھنے سے بھی ہوتی ہے جو منصوب بزرع الخافض ہے ای ذکاة امہ، اور اس مطلب کی تائید آنے والی حدیث نمبر ۲۹ سے بھی ہوتی ہے جس میں صحابہ نے جنین کے پھینکنے اور نہ کھانے یا کھانے کا سوال کیا ہے۔ اس لئے یہ حدیث جمہور کے مطلب کی نہیں ہے۔ باقی بچے کے ذبح کا معاملہ بیع و شراء وغیرہ پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ذبح میں انہار الدم ہوتا ہے اس کو خرید و فروخت پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ نیز یہ معاملہ مسیح اور محرم کا ہے ایسی صورت میں ترجیح محرم کو دی جاتی ہے۔

﴿۲۹﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقْرَةَ وَالشَّاةَ فَجَذِي بَطْنُهَا الْجَنِينَ أَلْنَقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُّوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ

اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب ہم اونٹنی کو خر کرتے ہیں یا گائے اور بکری کو ذبح کرتے ہیں تو بسا اوقات، ہم اس ذبیحہ کے پیٹ میں مردہ بچہ پاتے ہیں۔ آیا ہم اس بچہ کو پھینک دیا کریں یا کھالیا کریں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس کو کھالیا کرو کیونکہ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس بچہ کا بھی ذبح کرنا ہے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

### بلا وجہ کسی جانور یا پرندہ کو مارنا جائز نہیں

﴿۳۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبِأَحَقِّهَا قَالَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَأْكُلَهَا وَلَا يَقْطَعَ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّيْلَمِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی چڑیا یا اس سے چھوٹے بڑے کسی اور جانور پر پندہ کو ناحق مار ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے اس ناحق مارنے کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اور اس چڑیا وغیرہ کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اس کو ذبح کیا جائے کسی اور طرح اس کی جان نہ ماری جائے اور پھر اس کو کھایا جائے یہ نہیں کہ اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ (احمد نسائی، دارمی)

## توضیح

کسی حیوان کی جان لے لینا بڑی بات اور بڑا حادثہ ہے جائز مقاصد کے علاوہ اس پر اقدام نہیں کرنا چاہئے جائز مقصد یہ ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے اور کھایا جائے یہ نہیں کہ کھیل کود کے طور پر مارا جائے اور استعمال میں نہ لایا جائے دفع ضرر کے لئے مارنا بھی جائز مقاصد میں شامل ہے۔

اس حدیث میں عصفور کی طرف ایک بار مَوْنُث کی ضمیر لوٹائی گئی ہے اور دوسری بار مذکر کی لوٹائی گئی ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ جنس کے اعتبار سے مَوْنُث کی ضمیر لوٹائی گئی ہے اور لفظ کے اعتبار سے مذکر کی ضمیر لوٹائی گئی ہے یا اس میں ”زیدؓھاھو“ کا قاعدہ اپنایا گیا ہے کہ مَوْنُث باعتبار کلمۃ ہے اور مذکر باعتبار لفظ ہے ”فما فوقھا“ تحقیر کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ چڑیا ہو یا چیز یا سے چھوٹا حیوان ہو اور بڑے ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ چڑیا ہو یا چڑیا سے بڑا ہو۔

## زندہ حیوان سے کاٹا گیا گوشت مردار ہے

﴿۳۱﴾ وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجْبُونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَابَ الْغَنَمِ مَا يَقْطَعُ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ اونٹ کے کوہان اور دنبوں کی چکتیاں کاٹ لیا کرتے تھے اور پھر اس کو کھاتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی ایسے جانور کے جسم سے کاٹی جائے جو زندہ ہو تو وہ کالی گئی چیز مردار ہے اس کو نہ کھایا جائے۔ (ترمذی، ابو داؤد)

## توضیح

”یجبون“ جب سبب کاٹنے کے معنی میں ہے اسنمۃ سنام کی جمع ہے اونٹ اور بیل وغیرہ کے کوہان کو کہتے ہیں۔ ”الیات“ الیہ کی جمع ہے دنبہ کی دم، چکتی اور لم کو کہتے ہیں۔ جاہلیت کے دور میں جب عرب گوشت کی ضرورت محسوس کرتے

توپورے جانور کو بچانے کی غرض سے وہ زندہ اونٹ کے کوہان اور زندہ دنبہ کی چپتی کو کاٹ لیتے تھے اور گوشت استعمال کرتے تھے اسلام نے اس ظالمانہ فعل سے منع کر دیا اور اس طرح الگ کردہ گوشت کے کھانے کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں دم مسفوح شامل ہے۔

### الفصل الثالث

کسی بھی تیز دھارا لہ سے ذبح جائز ہے

﴿۳۲﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْغِي لِقْحَةً بِشُعْبٍ مِنْ شُعَابِ أُحُدٍ فَرَأَى بِهَا الْمَوْتَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتَدَا فَوَجَّأَهُ فِي لَبَتِهَا حَتَّى أَهْرَاقَ دَمَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ، وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَ فَذَكَّاهَا بِشِظَاطٍ

حضرت عطاء ابن یسار قبیلہ بنی حارثہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک دن اونٹنی کو واحد پہاڑ کے ایک درہ میں چرا رہا تھا کہ اس نے اونٹنی میں موت کے آثار پائے یعنی اس نے دیکھا کہ اونٹنی کسی وجہ سے مرا ہی چاہتی ہے اس وقت اس کو کوئی ایسی چیز دستیاب نہیں ہو سکی جس کے ذریعہ وہ اونٹنی کو نحر کرتا آخر کار اس نے ایک میخ اٹھائی اور اسکی نوک کی طرف سے اس کو اونٹنی کے سینے میں بھونک دیا تاکہ اس کا خون بہا دیا۔ پھر اس نے اس واقعہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اور اس کے گوشت کے بارہ میں دریافت کیا کہ اس صورت میں اس کا کھانا کیسا ہے؟ آنحضرتؐ نے اس کو اس کے گوشت کے کھانے کی اجازت دی۔ (ابوداؤد، مالک)

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آخر کار اس نے ایک دھاری دار لکڑی سے ذبح کر دیا۔

توضیح

گا بھن اونٹنی کو ”لقحۃ“ کہتے ہیں ”وتدأ“ و تدمیخ کو کہتے ہیں یہاں بڑی اور نوکدار میخ مراد ہے جس کو تیر کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہو جس سے نحر ممکن ہو ”لبتھا“ گلے اور سینہ کو کہتے ہیں۔ ”شِظَاط“ اس لکڑی کو شِظَاط کہتے ہیں جس کی دونوں جانب نوکدار ہوں۔

دریائی جانوروں کا حکم

﴿۳۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا وَقَدْ ذَكَّاهَا

اللَّهُ لَبِنَىٰ آدَمَ. رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيٌّ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا ایسا کوئی جانور نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لئے ذبح نہ کر دیا ہو۔ (دارقطنیؒ)

توضیح

یعنی دریا میں جتنے حیوان ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ذبح کیا ہے اور وہ انسان کے لئے حلال ہیں۔ ان دریائی جانوروں سے مراد مچھلی ہے کیونکہ ہر قسم کی مچھلی ذبح کے بغیر حلال ہے مچھلی کے علاوہ سمندری جانوروں کے بارہ میں فقہاء کا اختلاف ہے جمہور اسے حلال قرار دیتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ حدیث تمام دریائی جانوروں کو شامل ہے لیکن احناف صرف مچھلی کو حلال کہتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ حدیث صرف مچھلی کو شامل ہے تفصیل کے ساتھ اختلاف جلد اول ص ۲۳۰ پر لکھا گیا ہے۔

## باب ذکر الکلب

### کتے سے متعلق احکام کا بیان

اس باب میں وہ احادیث بیان ہو گئی جن سے کتوں سے متعلق احکام معلوم ہونگے کہ کس قسم کا کتا پالنا جائز اور کس قسم کا ناجائز ہے اور کس قسم کا کتا مارنا جائز ہے جاہلیت اولیٰ میں لوگوں کے دلوں میں کتوں کے لئے بے پناہ محبت تھی جیسا کہ آج کل ہے اس محبت کو زائل کرنے کی غرض سے ابتداء اسلام میں بڑے پیمانے پر کتا مارمہم شروع ہو گئی تھی جب لوگوں کے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی تو پھر چند قسم کے کتوں کے پالنے کی اجازت مل گئی اور شوقیہ کتا رکھنے کی ممانعت آ گئی، تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تین قسم کے کتے رکھنے کی اجازت ہے (۱) جانوروں کی حفاظت کے لئے (۲) شکار کے لئے (۳) کھیت کی حفاظت کے لئے فقہاء نے اس کے ساتھ گھر کی چوکیداری کا کتا بھی ملحق کیا ہے۔

## الفصل الاول

### بلا ضرورت کتا پالنا باعث نقصان ہے

۱ ﴿عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے اور شکاری کتے کے علاوہ کوئی کتا پالتا ہے اس کے اعمال کے ثواب میں سے روزانہ دو قیراط کے برابر کمی کر دی جاتی ہے۔ (بخاری، مسلم)

## توضیح

”اقتنی“ پالنے اور رکھنے کے معنی میں ہے۔

”کلب ماشیہ“ بکریوں کے ریوڑ میں ایک کتا ہوتا ہے جو بکریوں کی حفاظت کے لئے رکھا جاتا ہے اس کو کلب ماشیہ کہتے ہیں ”او کلب ضار“ یہ اس شکاری کتے کو کہتے ہیں جو شکار کا اتنا شوق رکھتا ہو گویا شکار اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہو بعض روایات میں یہ لفظ ضاریا آیا ہے بعض میں ضاری آیا ہے بعض میں ضار آیا ہے سب سے مراد شکاری کتا ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ضار سے پہلے رجل موصوف بھی محذوف مانا جاسکتا ہے یعنی کلب رجل صائد شکار کرنے والے آدمی کا کتا۔

”قیراطان“ یہ تشبیہ ہے اس کا مفرد قیراط ہے قیراط ایک وزن کا نام ہے جو نصف دانگ یا بقول بعض دینار کے ۶/۴ یا بقول



بعض دینار کے دسویں حصہ کے آدھے کے برابر ہوتا ہے بقول بعض ایک قیراط پانچ دانہ جو کے برابر ہے قیراط بطور حقارت چھوٹی سی چیز پر بھی بولا جاتا ہے اور بطور تعظیم بڑی چیز پر بھی بولا جاتا ہے۔ شوقیہ کتا پالنے سے اس لئے ثواب گھٹتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں تو ثواب متاثر ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کتا لوگوں کو ایذا دیتا ہے کاٹتا ہے بھونکتا ہے ڈراتا ہے تو ثواب کا نقصان ہو جاتا ہے۔

### سوال

یہاں یہ اعتراض ہے کہ بعض احادیث میں ایک قیراط ثواب کم ہو جانے کا ذکر ہے اور بعض میں دو قیراط گھٹنے کا ذکر ہے جو بظاہر تعارض ہے۔

### جواب

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق کتے کی ایذا رسانی سے ہے اگر کتا زیادہ ایذا دیتا ہے تو دو قیراط ثواب ضائع ہو جاتا ہے اگر کم ایذا دیتا ہے تو ایک قیراط ثواب گھٹتا ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ اس کا تعلق مکان و مقام سے ہے کہ مقدس و مبارک مقام میں کتا رکھنے سے دو قیراط جائیں گے اور عام مقام میں ایک قیراط جائے گا یا پہلے ایک قیراط کی وحی آئی پھر دو قیراط کی وحی آئی کوئی تعارض نہیں ہے۔

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زُرْعٍ انْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مویشیوں کی حفاظت کرنے والے شکار پکڑنے والے اور کھیت کھلیان کی چوسکی کرنے والے کتے کے علاوہ کوئی کتا پالتا ہے تو اس کے ثواب میں سے ہر روز ایک قیراط کے برابر کمی کر دی جاتی ہے۔ (بخاری و مسلم)

### کتوں کو مار ڈالنے کا حکم

﴿۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّىٰ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَتَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبُهْمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ کے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا تھا چنانچہ ہم مدینہ اور اطراف مدینہ کے کتوں کو مار ڈالتے تھے یہاں تک کہ جو عورت جنگل سے آتی اور اس کا کتا اس کے ساتھ ہوتا تو ہم

اس کو بھی ختم کر دیتے تھے پھر بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کتوں کو مار ڈالنے سے منع فرمایا اور یہ حکم دیا کہ خالص سیاہ کتے کو جو دو نقطوں والا ہو مار ڈالنا تمہارے لئے ضروری ہے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ (مسلم)

### توضیح

پہلے عام کتوں کے مار ڈالنے کا حکم آیا تا کہ دلوں میں نفرت بیٹھ جائے پھر شوقیہ اور اسود بھیہم کے علاوہ کتوں کی اجازت ہوگئی ”النقطتین“ یعنی ایسا سیاہ کالا بھنگ کتا جس کی آنکھوں کے اوپر دو سفید نقطے اور داغ ہوں یہ انتہائی شریر ہوتا ہے باعث ایذا ہوتا ہے اور فائدہ سے خالی ہوتا ہے اس لئے اس کو شیطان قرار دیا گیا۔

﴿۴﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سارے کتوں کے یا مدینہ کے کتوں کے مار ڈالنے کا حکم دیا لیکن شکاری کتوں اور بکریوں کی حفاظت کرنے والے کتوں اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتوں کو مستثنیٰ رکھا۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”او کلب ماشیۃ“ یعنی بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کے لئے ہو یا مویشیوں کی حفاظت کے لئے ہو تو یہ جملہ تعیم بعد تخصیص کے لئے ہے یا او شک کے لئے ہے کہ راوی کو شک ہو گیا کہ آنحضرت نے کونسا لفظ استعمال فرمایا تھا غنم اور ماشیۃ ایک ہی چیز ہے۔

## الفصل الثانی

﴿۵﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بِهِيمٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قَيْرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ

حضرت عبد اللہ ابن مغفلؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے بھی گروہوں میں سے ایک گروہ ہیں تو میں یقیناً یہ حکم دے دیتا کہ ان سب کو مار ڈالا جائے پس ان میں جو بھی کتا خالص سیاہ رنگ کا ہو اس کو مار ڈالو۔ (ابوداؤد، دارمی)

اور ترمذی و نسائی نے یہ عبارت مزید نقل کی ہے کہ اور جو گھر والے بلا ضرورت کتابا لیتے ہیں ان کے عمل کے ثواب میں سے روزانہ ایک قیراط کی کردی جاتی ہے ہاں شکاری کتابا اور کھیت کی حفاظت کرنے والا اور ریوڑ کی چوکی کرنے والا کتابا اس سے مستثنیٰ ہے۔

## توضیح

”امۃ“ جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مصلحت کے تحت پیدا کیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا اسی طرح اللہ نے حیوانات کو حکمت و مصلحت کے تحت پیدا کیا لہذا ان کو باقی رکھنا بھی حکمت کا تقاضا ہے اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اگر کتے مستقل امت نہ ہوتی تو میں سب کے ختم کرنے کا حکم دیتا۔ کشتی نوح میں جو انسان و حیوان داخل ہو گئے اس کی نسل باقی رہیگی اس لئے کسی نسل کی بیخ کنی ممکن نہیں ہے۔

## جانوروں کا لڑانا منع ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ .

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ایک دوسرے پر ابھارنے یعنی ان کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

## توضیح

مطلب یہ ہے کہ اونٹوں، ہاتھیوں، دنبوں، بیلوں، بھینسوں، کتوں، مرغوں اور بیڑوں کو لڑانا سخت منع ہے خواہ شرط پر ہو یا بغیر شرط کے ہو، جب جانوروں کا لڑانا منع ہے تو انسانوں کو ناحق لڑانا کتنا بڑا گناہ ہوگا ”والفتنة اشد من القتل“۔ (اس باب میں تیسری فصل نہیں ہے)

مورخہ ۳ ربیع الاول ۱۴۱۸ھ

## باب مایحل اكله وما یحرم جن جانوروں کا کھانا حلال یا حرام ہے

قال الله تعالى ﴿وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ﴾  
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو طہی حرام قرار دیا ہے (۱) میتہ یعنی مردار (۲) دم مسفوح یعنی رگوں سے خارج شدہ خون (۳) خنزیر کا گوشت (۴) ما اهل به لغير الله یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا غیر اللہ کے نام پر مذبح حیوان۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے۔ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أَلْهَ لْغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (انعام آیت ۱۴۵)۔  
ان چار اشیاء کے علاوہ احادیث مقدسہ میں کئی چیزوں کی ممانعت اور حرمت کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی کا بیان اس باب میں کیا گیا ہے۔

### الفصل الاول

#### ذی ناب درندہ حرام ہے

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں میں جو جانور کچلی والا ہو جو دانت سے اپنا شکار

پکڑتا ہو جیسے شیر اور بھیڑ یا وغیرہ اس کا کھانا حرام ہے۔ (مسلم)

ذی ناب درندوں کی تفصیل کتاب الصيد کی حدیث ۲۶ میں گزر چکی ہے۔

﴿۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس درندے کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا ہے جو

کچلی والا ہو اور ہر اس پرندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے جو چنگل گیر ہو یعنی جو اپنے پنجہ سے شکار کرتا ہو جیسے باز

وغیرہ۔ (مسلم)

ذی مخلب پرندوں کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  
اور حضرت ابو ثعلبہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا ہے (بخاری، مسلم)  
پالتو گدھے کی حرمت کی تفصیل بھی اسی حدیث ۲۶ میں لکھی گئی ہے۔

### کیا گھوڑا حلال ہے؟

﴿۴﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ  
وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  
اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت جاری فرما  
ئی تھی اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی تھی۔

### توضیح

گھوڑا اگر گدھے کی نسل سے ہو تو اس کا گوشت بالاتفاق حرام ہے اگر گھوڑے میں گدھے کی نسل کی آمیزش نہ ہو تو کیا اس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

### فقہاء کا اختلاف

امام شافعیؒ امام احمد بن حنبلؒ اور صاحبینؒ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت حلال طیب ہے ذبح کرو اور کھاؤ اور موج اڑاؤ۔ امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے۔

### دلائل

جمہور کی دلیل زیر بحث حدیث ہے۔

امام مالکؒ اور امام ابو حنیفہؒ نے قرآن کی آیت ﴿وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَنْ تَكُونُوا مِنْكُمْ﴾ سے استدلال کیا ہے طرز استدلال اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں میں اہم فائدہ کو اس پر سوار ہونا اور رُکُوب قرار دیا اگر اس کا گوشت کھانا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اشارہ فرماتے کیونکہ رُکُوب سے کھانا زیادہ اہم تھا اور اللہ تعالیٰ اہم کو ذکر کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کی طرف یہ بھی منسوب ہے کہ آپ گھوڑے کے گوشت کو اس لئے مکروہ کہتے تھے کہ گھوڑا الہ جہاد ہے اگر اس کو اس طرح ذبح کیا جائے تو میدان جہاد کمزور پڑ جائے گا۔ امام ابو حنیفہؒ نے آنے والی حضرت خالدؓ کی روایت نمبر ۲۶ سے بھی استدلال کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ”عن خالد بن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الخيل“

والبغال والحمير“۔ (ابوداؤد نسائی)

جواب

مذکورہ حدیث جائز مع الکراہۃ پر محمول ہے تاکہ دونوں حدیثوں میں تعارض نہ رہے۔ نیز یہ مسئلہ محرم اور میح کا ہے جس میں محرم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہر حال احتلاف کی کتاب کفایت المستنبی میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے انتقال سے تین دن پہلے اپنے اس قول سے صاحبین اور جمہور کے قول کی طرف رجوع کیا اور اسی پر فتویٰ ہے۔ درمختار میں بھی اسی طرح لکھا ہے کہ امام صاحب نے اپنے قول سے رجوع کیا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

### گور خر کا گوشت حلال ہے

﴿۵﴾ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحُشِيًّا فَعَقَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ قَالَ مَعَنَا رَجُلُهُ فَأَخَذَهُ فَأَكَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابوقنادہؒ سے روایت ہے کہ انہوں نے گور خر کو دیکھا اور اس کو مار ڈالا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا گوشت کھانے کا مسئلہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ موجود ہے؟ ابوقنادہؒ نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے پائے موجود ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پائے لے لئے اور اس کو کھایا۔ (بخاری و مسلم)

### خر گوش حلال ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْبَابًا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْرِكَهَا وَفَخَذِيهَا فَقَبِلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مقام مر الظہران میں شکار کے لئے ایک خر گوش کا تعاقب کیا چنانچہ میں نے دوڑ کر اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو ابو طلحہؓ کے پاس لایا۔ ابو طلحہؓ نے اس کو ذبح کیا اور اس کا ایک سرین اور دونوں رانیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”انفجنا“ یعنی ہم نے خر گوش کا تعاقب کیا اس کو اس کے ٹھکانے سے براہِ میخنتہ کر کے بھگا دیا ”فقبلہ“ آنحضرت کا قبول کرنا اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔

”ورکھا“ ورک موٹی ران اور کو لھے کو کہتے ہیں اور فخذ عام ران پر بولا جاتا ہے۔

## گوہ حلال ہے یا حرام؟

﴿وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّبُّ لَسْتُ أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوہ کو نہ میں کھاتا ہوں اور نہ اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”الضب“ اس کو گوہ بھی کہتے ہیں اور سانڈ بھی کہتے ہیں اور گور پھوڑ بھی کہتے ہیں یہ عجیب حیوان ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ گوہ کے دودھ ہوتے ہیں اور سات سو سال تک اس کی عمر ہو سکتی ہے پانی کے قریب نہیں جاتی ہے صرف شبنم سے گزارہ کرتی ہے اور چالیس دن کے بعد ایک قطرہ پیشاب کرتی ہے اور کبھی بھی اس کے دانت نہیں گرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعی کراہت کی وجہ سے اس کو نہیں کھایا دوسروں پر حرام نہیں کیا۔ چنانچہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک گوہ کا گوشت حلال ہے۔

لیکن امام ابو حنیفہؒ نے فصل ثانی میں عبد الرحمن بن شبل کی حدیث ۲۳ سے استدلال کیا ہے اور گوہ کھانے کو حرام کہا ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن اکل لحم الضب“ (ابوداؤد) امام ابو حنیفہؒ اس روایت سے حلت کی روایات کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔

﴿۸﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُودًا فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدٌ أَحْرَامُ الضَّبِّ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَارِضٍ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولیدؓ نے ان سے بیان کیا کہ ایک دن حضرت خالدؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت میمونہؓ کے گھر گئے جو خالدؓ کی بھی خالہ تھیں اور حضرت ابن عباسؓ کی بھی وہاں ان کے پاس انہوں نے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت خالدؓ نے ایک گوہ بھی ہوئی رکھی پائی۔ حضرت میمونہؓ نے اس گوہ کو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کی طرف سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت خالدؓ نے یہ دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا گوہ حرام ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ یہ میری قوم کی زمین یعنی حجاز میں نہیں پائی جاتی اس لئے اس سے اپنے اندر طبعی کراہت محسوس کرتا ہوں۔ حضرت خالدؓ کا بیان ہے کہ یہ سن کر میں نے اس گوہ کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کھانے لگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے رہے۔ (بخاری و مسلم)

”محنوذ“ بھنی ہوئی گوہ ”رفع“ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا ”اعافہ“ یعنی مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ ”اجترتہ“ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کھانے لگا اور حضور تعجب سے دیکھتے رہے۔

## مرغ کا گوشت کھانا حلال ہے

۹ ﴿وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اور حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

حدیث میں دیسی مرغ کی بات ہے اس وقت فارم کی مرغیاں نہیں تھیں فارم کے مرغوں کے بارہ میں۔ عام علماء فرماتے ہیں کہ حلال ہیں بہت کم علماء بلکہ شاذ و نادر کسی عالم نے اس کو حرام کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ فارم کے مرغ اول سے آخر تک حرام غذا سے پہلے ہیں یہ جلالہ کے حکم میں ہیں لہذا حرام ہیں گو جرانوالہ کے مفتی محمد عیسیٰ مدظلہ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں محتاط علما ان مرغیوں کے گوشت کو نہیں کھاتے ہیں ہاں مضر صحت تو سب کے نزدیک ہیں دیسی مرغ میں اختلاف ہے۔

## ٹڈی کا کھانا جائز ہے

۱۰ ﴿وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ كُلَّهَا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اور حضرت ابن ابی اوفیٰؓ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات جہاد کئے ہم ان موقعوں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”ناکل معہ“ حدیث کی اکثر روایات میں معہ کا لفظ نہیں ہے اور جہاں یہ لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ



علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے ٹڈی کھائی ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹڈی نہیں کھائی نہ خود کھائی ہے نہ دوسروں پر حرام کیا ہے۔

### عنبر مچھلی کا قصہ

﴿۱۱﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْتُ جَيْشَ الْخَبَطِ وَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعِنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مِثْلًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نَصْفَ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاَكِبُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّوْا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَأَطِعُوا إِن كَانَ مَعَكُمْ قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَكَلَهُ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ جیش الخبط یعنی پتے جھاڑ کر کھانے والے لشکر کے ساتھ جہاد کے لئے جانے والوں میں میں بھی شریک تھا حضرت ابوعبیدہؓ اس لشکر کے امیر سپہ سالار بنائے گئے چنانچہ جب ہم سخت بھوکے ہوئے تو سمندر نے ایک مری ہوئی مچھلی اپنے کنارے پر پھینک دی ہم نے اتنی بڑی مچھلی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس قسم کی مچھلی کو عنبر کہا جاتا تھا چنانچہ ہم نے اس میں سے آدھے مہینے تک بڑی فراخی کے ساتھ کھایا۔ پھر حضرت ابوعبیدہؓ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی یعنی اس کی ایک پسلی کھڑی کی تو اس کے نیچے سے ایک اونٹ سوار بڑی آسانی سے گزر گیا اس کے بعد جب ہم مدینہ واپس آئے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعہ کا ذکر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رزق کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بہم پہنچایا ہے اس کو کھاؤ یعنی تم نے یہ اچھا کیا کہ اس مچھلی کو کھایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا رزق بنا کر تمہارے لئے بہم پہنچایا تھا۔ اور اگر اس مچھلی میں کا کوئی حصہ تمہارے پاس باقی رہا ہو تو ہم کو بھی کھلاؤ یہ بات گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل خوش کرنے کے لئے اور اس مچھلی کے حلال ہونے کے حکم کو موکد کرنے کی غرض سے فرمائی تاکہ ان لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وہ مچھلی اصل میں تو جائز نہیں تھی مگر ہماری اضطراری حالت کے پیش نظر اس کو ہمارے لئے حلال کر دیا گیا ہے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ چنانچہ ہم نے اس مچھلی کا کچھ حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”الخبط“ خ پرفتح ہے اور باساکن ہے اور دونوں پر زبر بھی پڑھا جاتا ہے خبط درخت کے پتوں کو کہتے ہیں چونکہ اس غزوہ میں لشکر اسلام نے درختوں کے پتے جھاڑ کر کھائے تھے یہاں تک کہ سبز پتے بھی ختم ہو گئے اس لئے اس کا نام سریۃ الخبط اور جیش الخبط پڑ گیا اس کو سریۃ سیف البحر بھی کہتے ہیں یعنی ساحل سمندر کا سریۃ مدینہ منورہ سے یہ جگہ پانچ راتوں کے فاصلہ

پرسا حل سمندر میں واقع ہے تین سو صحابہ اس چھاپہ مار جنگ میں گئے تھے جن کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے ۶ھ میں صلح حدیبیہ سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے درختوں کے پتے کھا کھا کر صحابہ کے ہونٹ پھٹ گئے منہ زخمی ہو گئے اور قضاے حاجت یمنگیوں کی طرح ہوتی تھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ایک اژدھا وھیل مچھلی سمندر نے باہر پھینک دیا جس کا نام عنبر ہے بڑی ہونے کی وجہ سے اس کو دابہ کے لفظ سے بھی یاد کیا گیا ہے ورنہ یہ مچھلی تھی جس طرح زیر بحث بخاری و مسلم کی حدیث میں اس کو حوت کہا گیا ہے۔ تین سو مجاہدین نے ایک ماہ تک کھایا بعض روایات میں ۱۵ دن تک اور بعض میں ۱۸ دن تک کھانے کا ذکر ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ جس نے جتنے عرصہ تک کھایا اسی کا ذکر کیا پورے لشکر نے پندرہ تک کھایا پھر جس کے پاس جتنا گوشت رہ گیا اس نے اتنے دن تک کھایا کسی نے اٹھارہ دن اور کسی نے ۳۰ دن تک کھایا برکت کی وجہ سے حضور اکرم نے بھی کھایا اور صحابہ کی خاطر داری بھی مقصود تھی اور جواز کا فتویٰ بھی مہیا فرما دیا صحابہ نے اس سے وافر مقدار میں تیل بھی حاصل کیا کشتیوں میں بھی استعمال کیا اور جسموں پر بھی مل لیا مچھلی کی آنکھ کے گھڑے میں ۹ آدمی بیٹھ جاتے تھے اور نظر نہیں آتے تھے پہلی کی ہڈی کے نیچے سے اونٹ سوار کو گدرا گیا۔

## کھانے پینے کی اشیاء میں مکھی گر جائے تو کیا حکم ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِيَّائِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں مکھی گر پڑے تو اسکو چاہیے کہ وہ اس پوری مکھی کو غوطہ دے اور پھر نکال کر پھینک دے کیونکہ اس مکھی کے دونوں پروں میں سے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

مکھی اگر چائے جیسی گرم اشیاء میں گر جائے اور پک جائے تو اس کھانے پینے کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے وہ تو طبعی اور عرفی طور پر قابل استعمال نہیں ہے گفتگو اس کھانے پینے میں ہے جو ٹھنڈا ہو جس میں مکھی گر کر پھنس جائے جیسے دودھ لسی شربت اور ٹھنڈے سالن میں مکھی گر جاتی ہے اس حدیث میں ایسی ہی صورت کے بارہ میں آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ مکھی کو اس میں ڈبو دو اور پھر نکال کر باہر مھینک دو ڈبونے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں زہر اور بیماری ہے اور دوسرے میں اس کا علاج اور شفاء ہے آگے فصل ثانی کی حدیث ۳۹ و ۴۰ میں یہ تفصیل ہے کہ مکھی شفا والے پر کو ڈوبنے سے بچاتی ہے تاکہ صرف بیماری اور جراثیم انسان میں داخل ہو جائیں لہذا تم پوری مکھی کو ڈبو دو تاکہ شفا بھی حاصل ہو جائے مکھی کے بائیں

پر میں بیماری ہے داکیں میں شفاء ہے تجربہ شاہد ہے کہ بڑی مہارت سے مکھی ایک پر کو اوپر کی طرف اٹھائے رکھتی ہے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی استبعاد نہیں کہ ایک ہی حیوان میں متضاد صفات جمع ہوں شہد کی مکھی میں شہد بھی ہے اور زہر بھی ہے بچھو کی کھال اس کے زہر کے لئے شفاء ہے تو زہر بھی ہے اور شفاء بھی ساتھ ہے۔

### منجھد گھی وغیرہ میں چوہا گر جائے تو کیا حکم ہے؟

﴿۱۳﴾ وَعَنْ مِمْوْنَةَ أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ ایک چوہا گھی میں گر پڑا اور مر گیا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس گھی کا کیا کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال کر پھینک دو اور باقی گھی کو کھاؤ۔ (بخاری)

### توضیح

اگر مائع چیز میں چوہا وغیرہ گر کر مر جائے تو پورا مائع نجس ہو جائے گا اور اسے گرا کر ضائع کیا جائے گا۔ زیر بحث حدیث میں مائع چیز کا مسئلہ نہیں ہے مائع چیز کا مسئلہ فصل ثانی کی حدیث ۲۰ میں آرہا ہے یہاں اس حدیث میں جامد گھی میں چوہا گر کرنے کا مسئلہ ہے جس کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مراہو چوہا پھٹا دو اور اس کے ارد گرد گھی کو بھی کاٹ کر ضائع کر دو اور باقی گھی استعمال کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ جامد گھی کا صرف وہی حصہ نجس ہو جاتا ہے جس حصہ کے ساتھ مراہو چوہا لگا ہے باقی حصہ پاک ہے۔

### سانپ کو مار ڈالنے کا حکم

﴿۱۴﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمَسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً أَقْتُلُهَا نَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لَا تَقْتُلْهَا فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فَقَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَهِنَّ الْعَوَامِرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عموماً تمام سانپوں کو مار ڈالو اور خصوصاً اس سانپ کو کہ جس کی پشت پر دو سیاہ دھاریاں ہوں اور اس سانپ کو کہ جس کو ابتر کہتے ہیں مار ڈالو کیونکہ

یہ دونوں قسم کے سانپ بینائی کو زائل کر دیتے ہیں۔ یعنی محض ان کو دیکھنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سبب اس زہر کی خاصیت ہے جو ان سانپوں میں ہوتا ہے اسی طرح یہ دونوں سانپ حمل کو گرا دیتے ہیں یعنی اگر حاملہ عورت ان کو دیکھے تو اس زہر کی خاصیت کے سبب سے یا خوف و دہشت کی وجہ سے اس اس کا حمل گر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن جبکہ میں ایک سانپ پر حمل کر کے اس کو مار ڈالنے کے درپے تھا کہ ایک صحابی حضرت ابولبابہ انصاریؓ نے مجھ کو آواز دے کر کہا کہ اس کو موت مارو میں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے حضرت ابولبابہؓ نے کہا لیکن آنحضرت نے اس عام حکم کے بعد گھر میں رہنے والے سانپوں کو مار ڈالنے سے منع فرما دیا تھا کیونکہ وہ گھر کو آباد کرنے والے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”ذالطفیتین“ جس سانپ کی پشت پر دو سیاہ دھاریاں ہوں اس کو ذالطفیتین کہتے ہیں۔ ”الابتر“ یہ اس سانپ کو کہتے ہیں جس کی دم بالکل چھوٹی ہوتی ہے گلگت شتیال میں اس سانپ کو میں نے دیکھا ہے ایک بالشت سے کچھ لمبا ہوتا ہے دم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ سانپ اگر کسی کو ڈنگ مارے تو آدمی فوراً مر جاتا ہے یہ دونوں قسم کے سانپ نہایت زہریلے ہوتے ہیں اگر حاملہ عورت اس کو دیکھے تو اس کے زہر کے اثر سے عورت کا حمل گر جاتا ہے اور اگر کوئی شخص اس کو دیکھے تو اس شخص کی بینائی جاتی ہے یہ اس کے زہر کی خاصیت ہے اس لئے اس کے مار ڈالنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے ”اطارد“ سانپ کا پیچھا کرنا اور اس پر غالب آنے کے لئے اس کو بھگانا۔

”العوامر“ یہ عامرہ کی جمع ہے یعنی یہ سانپ گھروں میں رہتے ہیں اور گھروں کو آباد رکھتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں اس لئے ان کو عوامر کہا گیا۔ علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ یہ جنات ہیں عوامر کا اطلاق جنات پر ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ گھروں میں اکثر و بیشتر جو سانپ رہتے ہیں وہ حقیقت میں جنات ہوتے ہیں جو سانپ کی صورت اختیار کئے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے اس کے قتل میں احتیاط کرنی چاہئے کہ مبادا کہیں وہ جن نہ ہو جس سے نقصان پہنچنے کا قوی خطرہ پیدا ہو، اس حدیث کی مزید تفصیل اور لمبا قصہ آگے آ رہا ہے۔

## گھر سے جنات بھگانے کا طریقہ

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَبِي السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حُرُكَةً فَنَظَرْنَا فَإِذَا فِيهِ حَيَّةٌ فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا وَأَبُو سَعِيدٍ يُصَلِّي فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَجْلِسُ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَيَّ بَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كَانَ فِيهِ

فَتَىٰ مِنَّا حَدِيثٌ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَنْدَقِ فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ فُرِيضَةَ فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيُطْعَمَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا لَدُنِّي أَخْرَجَنِي فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَضَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمْ الْفَتَى قَالَ فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَّرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا ادْعُ اللَّهَ يُحْيِيهِ لَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذِهِ النَّيُّوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَالْأَفْقُتْلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَقَالَ لَهُمْ اذْهَبُوا فَأَذْفِنُوا صَاحِبَكُمْ، وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جَنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَأَذْنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَأَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت سائبؓ جو حضرت ہشام ابن زہرہؓ کے آزاد کردہ غلام تھے اور تابعی ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت ابوسعید خدریؓ کے پاس ان کے گھر گئے چنانچہ جبکہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ہم نے ابوسعیدؓ کے تخت کے نیچے ایک سرسراہٹ سنی ہم نے دیکھا تو وہاں ایک سانپ تھا میں اس کو مارنے کے لئے چھینا مگر حضرت ابوسعیدؓ نے جو نماز پڑھ رہے تھے مجھ کو اشارہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں میں بیٹھ گیا جب حضرت ابوسعیدؓ نماز پڑھ چکے تو انہوں نے مکان کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ کیا تم نے اس کمرے کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں پھر حضرت ابوسعیدؓ نے کہا کہ اس کمرے میں ہمارے خاندان کا ایک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی حضرت ابوسعیدؓ نے کہا کہ ہم سب لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ خندق میں گئے جس کا محاذ مدینہ کے مضافات میں قائم کیا گیا تھا یہ نوجوان روزانہ دوپہر کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت مانگ لیا کرتا تھا کیونکہ وہاں کی محبت اس کو اس پر مجبور کرتی تھی چنانچہ اجازت ملنے پر وہ اپنے اہل خانہ کے پاس چلا جاتا اور رات گھر میں گزار کر صبح کے وقت پھر آ کر مجاہدین میں شامل ہو جاتا ایک دن حسب معمول اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھو۔ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بنو قریظہ تم پر حملہ نہ کر دیں۔ بنو قریظہ مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو اس موقع پر قریش مکہ کا حلیف بن کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھا اس نوجوان نے ہتھیار لے لئے اور اپنے گھر کو روانہ ہو گیا جب وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس

کی بیوی گھر کے دونوں دروازوں میں یعنی اندر اور باہر کے دروازے کے درمیان کھڑی ہے نو جوان نے عورت کو مار ڈالنے کے لئے اس کی طرف نیزہ اٹھایا کیونکہ یہ دیکھ کر کہ اس کی بیوی باہر کھڑی ہے اس کو بڑی غیرت آئی لیکن عورت نے اس سے کہا کہ اپنے نیزے کو اپنے پاس روک لو اور ذرا گھر میں جا کر دیکھو کہ کیا چیز میرے باہر نکلنے کا سبب ہوئی ہے یہ سن کر وہ نو جوان گھر میں داخل ہوا وہاں یکبارگی اس کی نظر ایک بڑے سانپ پر پڑی وہ سانپ پر چھٹا اور اس کو نیزہ میں پرولیا پھر اندر سے نکل کر باہر آیا اور نیزے کو گھر کے صحن میں گاڑ دیا۔ سانپ نے تڑپ کر نو جوان پر حملہ کیا پھر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ دونوں میں سے پہلے کون مر اس سانپ یا نو جوان یعنی وہ دونوں اس طرح۔ ساتھ مرے کہ یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ پہلے کس کی موت واقع ہوئی۔ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے یہ ماجرا بیان کر کے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اس نو جوان کو ہمارے لئے زندہ کر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی اور رفیق کے لئے مغفرت طلب کرو۔ اور پھر فرمایا کہ مدینہ کے ان گھروں میں عوام یعنی جنات رہتے ہیں جن میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی لہذا جب تم ان میں سے کسی کو سانپ کی صورت میں دیکھو تو تین بار یا تین دن اس پر تنگی اختیار کرو پھر اگر وہ چلا جائے تو فہماور نہ اس کو مار ڈالو کیونکہ اس صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ وہ جنات میں کافر ہے پھر آپ نے انصار سے فرمایا کہ جاؤ اپنے ساتھی کی تکفین و تدفین کرو۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ جن ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں ان میں سے جب تم کسی کو سانپ کی صورت میں دیکھو تو تین دن اس کو خبردار کرو پھر تین دن کے بعد بھی اگر وہ دکھائی دے تو اس کو مار ڈالو کہ وہ شیطان ہے۔ (مسلم)

## توضیح

”یحییہ لنا“ صحابہ کی یہ درخواست اس لئے نہیں تھی کہ مراد ہوا صحابی زندہ ہو جائے بلکہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ زندہ ہے سانپ کے زہر کی وجہ سے بیہوش ہو گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باتیں چھوڑ دو وہ مر گیا ہے ان کے لئے استغفار کرو۔ ”عوامر“ یعنی سانپوں کی شکل میں جنات ہیں جو گھروں میں آباد ہیں۔ ”فحرجو اعلیہا“ یعنی اس سے کہو کہ اب تم تنگی اور گھیرے میں ہو اب نکلنے کی کوشش نہ کرو اگر پھر نکل آیا تو ہم تجھ پر حملہ کر کے قتل کر دیں گے اب تیری مرضی ہے رہو یا جاؤ۔ ایک روایت میں آنحضرت نے فرمایا کہ جب گھر میں سانپ نظر آجائے تو ان سے یہ کہو ”انشدکم بالعہد الذی اخذ علیکم سلیمان بن داؤد لاتوذونا ولا تظہرونا“۔ تین دن تک یہ عمل کیا جائے اگر وہ مسلمان جن ہوگا تو چلا جائے گا اور اگر نہیں گیا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کافر جن ہے اب اس سانپ کو مار دو کیونکہ اب وہ شیطان بن چکا ہے کہ حقیقت میں ابلیس ہے یا حقیقت میں سانپ ہے یا کافر جن ہے ان سب کا مارنا جائز ہے۔

## چھپکلی کو مار ڈالنے کا حکم

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أُمِّ شُرَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ام شریک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ پھونکتا تھا۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”الوزغ“ اس کی جمع اوزاغ ہے چھپکلی کو کہتے ہیں نجد نے جو تصویر دی ہے وہ بھی چھپکلی کی ہے مصباح اللغات میں بھی اس کا ترجمہ چھپکلی لکھا ہے مظاہر حق نے اس کا ترجمہ گرگٹ سے کیا ہے جو محل تامل ہے۔ چھپکلی بہت زہریلا حیوان ہے اگر کھانے میں گر جائے تو اس سے سب کھانے والے مر جائیں گے یہ شاذ و نادر کسی کو کاٹتا ہے لیکن کاٹتے ہی آدمی مر جاتا ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ اس نے ایک طوطے کو در بہ کے باہر سے ڈس لیا ادھر ڈسنا تھا ادھر طوطے کا گر کر مر جانا تھا یہ طبعی طور پر شرارتی ہے اگرچہ خاموش لگتا ہے نمک میں پھونک مارتا ہے یا اس میں لوٹ پوٹ جاتا ہے تاکہ اس نمک کے استعمال سے انسان برص کا بیمار بن جائے اس نے اسی طبعی شرارت اور بدنیتی کے اظہار کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھڑکائی ہوئی نمرود کی آگ میں پھونک مار دیا ورنہ اس کی پھونک سے کیا اثر پڑ سکتا تھا صرف عداوت کا اظہار کیا اس لئے اسلام میں اس کے مارنے پر یہ انعام ملتا ہے کہ اگر ایک وار میں مر گئی تو ایک صاع صدقے کا ثواب ملتا ہے اور اگر زیادہ وار میں مر گئی تو نصف صاع صدقے کا ثواب ملتا ہے یہ ایک وار میں اکثر نہیں مرتی ہے ہاں اس کے لئے غلیل یا ایتر گن بہترین اسلحہ ہے فوراً مر جاتا ہے حضرت عائشہ گھر میں اس کے مارنے کے لئے دو ڈنڈے رکھتی تھیں ایک گھر کے صحن میں ایک اندر کمرے میں رکھتی تھیں انڈے کے خول رکھنے سے چھپکلی بھاگتی ہے۔ ساتھ والی حدیث میں بھی چھپکلی کے مار ڈالنے کا حکم بیان کیا ہے اور اس کے بعد حدیث ۱۸ میں اس کے مارنے پر سونیکوں کے ثواب ملنے کا بیان ہے بشرطیکہ مارنے والا اول پوزیشن حاصل کرے دوسرے نمبر والے کو ۵ اور تیسرے نمبر والے کو ۲ درجے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔

﴿۱۷﴾ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فَوْسِقًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اور حضرت سعد بن ابودقاص سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور اس کا نام فوسق رکھا۔ (مسلم)

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَرْغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّلَاثَةِ دُونَ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گرگٹ کو ایک ہی وار میں مار ڈالے اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی دوسرے وار میں اس سے کم اور تیسرے وار میں اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جائیں گی (مسلم)

### چیونٹی کو مارنے کا مسئلہ

﴿۱۹﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَصَتْ نَمْلَةً نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُخْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أُخْرِقَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے کسی نبی کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا انہوں نے چیونٹیوں کے بل کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو جلا دیا جائے چنانچہ بل کو جلا دیا گیا تب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ وحی نازل کی تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور تم نے جماعتوں میں سے ایک جماعت کو جلا ڈالا جو تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول رہتی تھی۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”نبیاً“ بعض نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰؑ تھے بعض نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لکھا ہے۔ (مرقات)

مرقات میں لکھا ہے کہ اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ ایک قوم میں نیک اور بد ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب تیرا عذاب آتا ہے تو نیک اور بد سب لپیٹ میں آجاتے ہیں حالانکہ سب مجرم نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعہ سے ان کو سمجھانا چاہا تو وہ نبی درخت کے نیچے سو گئے ایک چیونٹی نے کاٹا آپ نے سب کے بل جلا ڈالے اللہ تعالیٰ نے بطور عتاب پوچھا کہ سب کو جلا دیا حالانکہ ایک نے کاٹ لیا تھا اس میں اشارہ تھا کہ کبھی امتیاز مشکل ہو جاتا ہے تو سب کو مارنا پڑتا ہے اس نبی کے جلا ڈالنے پر عتاب نہیں ہوا بلکہ سب کے مار ڈالنے پر عتاب ہوا لیکن یہ ان کی شریعت تھی ہماری شریعت میں چیونٹی کھٹل جوئیں وغیرہ کو جلا نا جائز نہیں ہے کسی اور طریقے سے مارنا چاہئے۔ جس چیونٹی نے ایذا پہنچائی ہے بطور سزا اس کا مارنا جائز ہے مگر جلا نا یا سب کا مارنا جائز نہیں ہے چیونٹیوں کے بھگانے کا ایک عمل مرقات میں لکھا ہے کہ آدمی کرسی پر بیٹھ جائے اور چیونٹی کو مخاطب کر کے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد یہ وظیفہ پڑھے ”إِنِّي أَخْرِجُ عَلَيْكُمُ الْآخِرَ جَنَّتْ مِنْ دَارِي فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُقْتَلَنَّ فِي دَارِي“۔



## الفصل الثانی

### مانع گھی میں چوہے کے گر جانے کا مسئلہ

﴿۲۰﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمَنِ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلَاتَقْرُبُوهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ

الذَّارِمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھی میں چوہا گر جائے اور مر جائے اور وہ گھی جما ہوا ہو تو اس چوہے کو اور اس کے چاروں طرف کے گھی کو نکال کر پھینک دو اور باقی گھی کھانے کے مصرف میں لاؤ۔ اور اگر وہ گھی پتلا یعنی پکھلا ہوا ہو تو پھر اس کے نزدیک بھی موت جاؤ یعنی اس کو مطلقاً نہ کھاؤ۔ احمد، ابوداؤد، اور دارمی نے اس روایت کو ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔

### توضیح

”مانعاً“ اگر گھی وغیرہ جامد ہو تو اس کا مسئلہ اس سے پہلے حدیث ۱۳ کے تحت لکھا گیا ہے یہاں مانع چیز کا مسئلہ ہے یعنی اگر گھی وغیرہ پکھلا ہوا ہو اور اس میں چوہا وغیرہ گر کر مر جائے تو سارا مانع نجس ہو جائے گا اور اس کا کھانا حرام ہو جائے گا یہ اتفاقی مسئلہ ہے اب اس قسم کی مانع چیز کے کھانے اور فروخت کرنے کے علاوہ کسی استعمال میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض علماء کے نزدیک مطلقاً اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو ضائع کرنا لازم ہے۔ بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ اس قسم کے گھی اور تیل وغیرہ کو چراغ میں استعمال کیا جاسکتا ہے کشتیوں میں پر ملا جاسکتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کا قول اسی طرح ہے اور امام شافعیؒ کا مشہور قول بھی اسی طرح ہے اگرچہ کراہت کے ساتھ ہے۔

﴿۲۱﴾ وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ حُبَارَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت سفینہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حباری کا گوشت کھایا ہے۔ (ابوداؤد)

حباری کا ترجمہ تدری تعذری اور سرخاب سے کیا جاتا ہے یہ ایک پرندہ ہے حلال ہے اگرچہ احمق ہے۔

### علاظت کھانے والے حیوان کا حکم

﴿۲۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَالْبَانِيَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے ترمذی۔ اور ابوداؤد کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے۔

## توضیح

جو گائے وغیرہ انسانی غلاظت کھانے کی عادت رکھتی ہو اس کو جلالہ کہا جاتا ہے لام پر شد ہے اگر عادت نہ ہو کبھی کبھی دل لگی کے لئے کھاتی ہے تو وہ جلالہ نہیں ہے۔ جلالہ جانور کے گوشت اور اس کے دودھ کے استعمال کو اس حدیث میں ممنوع قرار دیا گیا ہے ہاں اگر دس دن تک باندھ لیا گیا پھر جائز ہے اس قسم کی مرغی کا حکم یہ ہے کہ تین دن تک باندھ لیا جائے جلالہ پر سواری کو اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس کا پسینہ بوجہ گوشت ناپاک ہے۔

## گاوہ کا گوشت کھانا حرام ہے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبدالرحمن ابن شبلؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاوہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے (ابوداؤد) شاید ابتدا میں گاوہ کا گوشت کھانا حلال تھا پھر اس حدیث سے ممانعت آئی پہلا حکم منسوخ ہو گیا احناف کا یہی مسلک ہے۔ میح اور محرم میں محرم کو ترجیح ہوتی ہے۔

## بلی کا گوشت حرام ہے

﴿۲۴﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهَرَّةِ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا گوشت اور اس کی قیمت کھانے سے منع فرمایا ہے (ابوداؤد، ترمذی)

## توضیح

بلی کا گوشت کھانا سب کے نزدیک حرام ہے چین کے لوگ جنگلی وغیرہ بلیوں کا گوشت کھاتے ہیں جس سے ان کو نمونیہ قسم کے وبائی امراض کا سامنا ہوتا ہے البتہ بلی کو فروخت کرنا اور اس کا پیسہ استعمال کرنا احناف کے ہاں جائز ہے مگر مکروہ ہے کیونکہ یہ ایک گھنیا پیشہ ہے اور مسلمان کو گھنیا پیشے سے اجتناب مناسب ہے۔

پالتو گدھے، خچر اور درندوں کا گوشت حرام ہے

﴿۲۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْحُمْرَ الْإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھر میں پلے ہوئے گدھوں، خچروں اور ہر چکی والے درندے اور بچوں سے شکار کرنے والے پرندے کا گوشت حرام قرار دیا تھا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح و توضیح حدیث ۲۶ باب الصيد میں گزر چکی ہے۔

گھوڑے کا گوشت کھانا منع ہے

﴿۲۶﴾ وَعَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت خالد بن ولیدؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے خچروں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد، نسائی)

تفصیل گزر چکی ہے ”باب ما تحل اكله وما حرم“ کے تحت حدیث ۴ کو دیکھ لیا جائے۔ زیر بحث حدیث امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے موافق ہے امام مالک کا مسلک بھی یہی ہے۔

بلاوجہ معاہدہ کا مال لینا حرام ہے

﴿۲۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَتَتِ الْيَهُودُ فَشَكَّوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى خَضَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا يَجِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت خالد بن ولیدؓ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کے دن جہاد میں شریک تھا ایک موقع پر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ شکایت کی کہ لوگوں نے ان کی کھجوروں کی طرف جلد روی اختیار کی ہے یعنی مسلمانوں نے ہمارے کھجور کے درختوں پر سے پھل توڑ لئے ہیں جبکہ ہم معاہدہ ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ان لوگوں کا مال حلال نہیں ہے جن سے عہد و پیمان ہو چکا ہے علاوہ اس حق کے جو اس مال سے متعلق ہے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

اگر معاہدہ ذمی ہے تو اس پر جزیہ ہے حق جزیہ کے علاوہ اس کا مال دہانا حرام ہے اور اگر معاہدہ مستأمن ہے تو اس کے اموال تجارت سے راستے کا جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ عشر کہلاتا ہے اس کے علاوہ اس سے کچھ لینا ظلم ہے۔  
 ”خصائر“ یہ خضیرہ کی جمع ہے کھجور کے اس باغ کو کہتے ہیں جس کی کچی کھجوروں میں سبز رنگ پھیل گیا ہو یعنی پکنے کے قریب ہوں اسی وجہ سے یہ لفظ خضرة کے مادہ سے بنایا گیا ہے۔

## مچھلی، ٹنڈی، کلبھی اور تلی حلال ہے

﴿۲۸﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ الْمَيْتَانِ الْحُوثُ وَالْجَرَادُ وَالْذَّمَانِ الْكَبْدُ وَالطَّحَالُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارُ قُطْنِي  
 اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لئے دو بغیر ذبح کے مری ہوئی چیزیں اور دو خون حلال ہیں۔ دو بغیر ذبح کے مری ہوئی چیزیں تو مچھلی اور ٹنڈی ہیں اور دو خون کلبھی اور تلی ہیں کہ یہ دونوں اصل میں بستہ خون ہیں نہ کہ گوشت۔ (احمد، ابن داؤد، دارقطنی)

## توضیح

”المیتان“ یعنی ذبح کے بغیر حلال ہے اسی اعتبار سے اس کو میتان کہا گیا ”دمان“ دو خون سے مراد کلبھی اور تلی ہے اس کو اگر دبایا جائے اور انگلیوں میں مسل دیا جائے تو یہ خالص خون بن جاتا ہے لیکن یہ دونوں خون حلال ہیں باقی سب حرام ہیں۔

## سمک طانی کا حکم

﴿۲۹﴾ وَعَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطِفًا فَلَا تَأْكُلُوهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَقَالَ مُحْيِي  
 السُّنَّةِ الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ

اور حضرت ابو زبیرؓ حضرت جابرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مچھلی کو دریا نے کنارے پر پھینک دیا ہو۔ یا پانی سے اس کا ساتھ چھوٹ گیا ہو یعنی دریا کا پانی بالکل خشک ہو گیا ہو یا کسی دوسری طرف چلا گیا ہو تو اس مچھلی کو کھالو، اور جو مچھلی دریا میں مر کر پانی کے اوپر آجائے اس کو ہمت کھاؤ۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، اور محی السنۃ نے کہا ہے کہ اکثر محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حدیث حضرت جابرؓ پر موقوف ہے یعنی ان کے نزدیک یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا ارشاد نہیں ہے بلکہ حضرت جابرؓ کا اپنا قول ہے۔

## توضیح

”او جزر عنه الماء“ اگر سمندر وغیرہ پانی میں کسی صدمہ یا ٹکڑا یا کسی آفت سے مچھلی ماری گئی اور وہ مر گئی اور پانی کے اوپر آگئی تو وہ سب کے نزدیک حلال ہے یا سمندر نے کنارہ پر پھینک دیا یا کثیر پانی کے ساتھ ایک مقام پر مچھلی آگئی اور پانی واپس چلا گیا مچھلی خشکی میں رہ گئی اور مر گئی تو سب کے نزدیک یہ مچھلی حلال ہے لیکن اگر سمندر اور دریا کے اندر مچھلی خود بخود مر گئی کسی خارجی سبب سے نہیں مری اور الٹ کر پانی پر آگئی تو اس کے کھانے میں اختلاف ہے۔ شوافع اور مالکیہ کے نزدیک یہ حلال ہے چاہے جس وجہ سے مری ہو مگر امام ابو حنیفہؒ اس طافی کو حرام قرار دیتے ہیں زیر بحث حدیث احناف کی دلیل ہے اور جمہور حضرات بلا دلیل ہیں البتہ وہ احناف کی دلیل کو کمزور کرتے ہیں کہ محی السنۃ نے کہا ہے کہ اکثر کے نزدیک یہ حدیث موقوف ہے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ موقوف ہونا ہمارے استدلال کے لئے مضرب نہیں ہے کیونکہ اس قسم کے احکام پر مشتمل حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ مچھلی کا پتہ اتنا کمزور ہے کہ معمولی تیز آواز سے پھٹ جاتا ہے اسی لئے آسمان کے گرجنے سے یاد ریا پر آسمانی بجلی گرنے سے یا ڈائنامائٹ کے اڑنے سے مچھلیاں مر کر پانی کے اوپر آ جاتی ہیں شکاری لوگ ایسا کرتے ہیں اور پھر پکڑتے ہیں۔

## ٹڈی کا حکم

﴿۳۰﴾ وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لَا أَكُلُهُ وَلَا أَحَرِمُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مُحْيِي السُّنَنِ ضَعِيفٌ

اور حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈی کے کھانے اور اس کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹڈیاں اللہ تعالیٰ کا پرندوں میں سب سے بڑا شکر ہیں۔ نہ تو میں اس کو کھاتا ہوں کیونکہ طبعاً مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے اور نہ دوسروں پر شرعاً اس کو حرام قرار دیتا ہوں کیوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے یہ حدیث گذری ہے۔ ابو داؤد۔ اور محی السنۃ نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔

## توضیح

”جنود اللہ“ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اڑنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ ٹڈیاں ہیں اور اس کا شکر سب سے بڑا ہے اور قیمت سے پہلے اس کا گم ہو جانا قیامت کی علامات میں سے ہے بعض ملکوں میں بڑی بڑی ٹڈیاں ہوتی ہیں اس لئے اگر کوئی

صاف کر کے اسے کھاتا ہے تو کھانا جائز ہے اگرچہ آنحضرت نے نہیں کھائی۔

## مرغ سحر کو برانہ کہو

﴿۳۱﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الدِّيكِ وَقَالَ إِنَّهُ يُؤْذِنُ لِلصَّلَاةِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

اور حضرت زید ابن خالدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ وہ مرغ نماز کے لئے آگاہ کرتا ہے۔ (شرح السنۃ)

## توضیح

صبح کے وقت لوگ سوتے ہیں تنگ گھر میں جب مرغ سحر اذان دیتا ہے تو گھر والا بعض دفعہ پریشان ہو کر گالیاں دیتا ہے کیونکہ مرغ نصف آخر میں اذان کا ایک دور چلاتا ہے پھر سحری کے وقت دوسرا دور چلاتا ہے اور لوگوں کو سحری اور تہجد کے لئے اٹھاتا ہے پھر آخری دور میں فجر کی نماز کے لئے اٹھاتا ہے مرغ آسمانی نظام سے وابستہ رہتا ہے اوپر جب فرشتے متحرک ہو جاتے ہیں تو وہاں سے مرغ کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے پھر اذان دیتا ہے اس لئے اس کو گالیاں دینا ایک پاکیزہ نظام کو گالیاں دینے کے مترادف ہے لہذا منع ہے سعدی بابائے کہا۔

اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیا موز

کال سوختہ را جاں شد آواز نیامد

اے مرغ سحر پروانہ سے عشق سیکھو فضول چلاتے اور شور کرتے ہو دیکھو پروانہ نے خاموش زبان سے جان کی بازی لگادی یاد رکھو اس مرغ سے آج کل کے فارسی مرغ مراد نہیں ہے جس کو اذان دینے کا وقت ہی معلوم نہیں مغرب و عشاء کے بعد اذان دیتا رہتا ہے کیونکہ انسان کا مصنوعی ہاتھ اس کی تخلیق میں شامل ہو گیا مرغ کو وقت کا پتہ نہیں اور مرغی کو چوزہ نکالنے کا پتہ نہیں۔

﴿۳۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ کو برانہ کہو کیوں کہ وہ نماز کے لئے

جگاتا ہے۔ (ابوداؤد)

## گھر میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کیا جائے

﴿۳۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ أَبُو لَيْلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا إِنَّا نَسْأَلُكَ بِعَهْدِ نُوحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنْ لَا تُؤْذِينَا فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت عبد الرحمن ابن ابولیلی کہتے ہیں کہ حضرت ابولیلی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر میں سانپ نکلے تو اس کے سامنے کہا جائے کہ ہم تجھ سے عہد حضرت نوح کے عہد اور حضرت سلیمان ابن داؤد کے عہد کا واسطہ دے کر یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں ایذا نہ پہنچا اگر اس کے بعد وہ پھر نظر آئے تو اس کو مار ڈالو۔ (ترمذی، ابوداؤد)

## توضیح

یہ ایک قسم کا وظیفہ بھی ہے اور سانپ کو ایک معاہدہ یاد دلانا بھی ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ کو شستی نوح میں ڈال دیا تو سانپوں کی نسل باقی رہی ورنہ ختم ہو جاتی اور سلیمان علیہ السلام کا عہد اس لئے کہ آپ کی تو سانپوں پر حکومت تھی ان سے باتیں ہوتی تھیں۔

## انتقام کے خوف سے سانپ کو نہ مارنا گناہ ہے

﴿۳۴﴾ وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ مَنْ تَرَ كَهْنًا خَشِيَةً ثَائِرٍ فَلْيَسْ مِنْهُ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ.

اور حضرت عکرمہ، حضرت ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ حضرت ابن عباسؓ نے بطریق مرفوع یہ حدیث بیان کی ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو شخص بدلہ لینے اور انتقام کے خوف سے ان سانپوں کو مارنا چھوڑ دے تو وہ ایک موذی کو نہ مارنے اور قضاء و قدر الہی پر بھروسہ نہ کرنے کے سبب ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہمارے راستے پر گامزن نہیں ہے۔ (شرح السنۃ)

## توضیح

”ثائر“ انتقام کو ثار کہتے ہیں یعنی انتقام کے خوف سے سانپ کو نہیں مارتا ہے عرب کا جاہلیت کے دور میں ایک غلط عقیدہ تھا وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے سانپ کو مار دیا تو اس کا ساتھی ضرور آکر اس مارنے والے سے انتقام لیتا ہے اگر نہ کو مارا ہے تو مادی انتقام کے لئے آتی ہے اور اگر مادی کو مارا ہے تو نرا انتقام لیتا ہے چونکہ یہ غلط عقیدہ اوہام پرستی پر مبنی تھا اس لئے حضور اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا کہ ایسا عقیدہ جو رکھیں گے وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے یعنی اگرچہ وہ باقی اسلام پر قائم ہے لیکن اس خاص شعبہ میں وہ اسلام کے طریقہ پر نہیں ہے یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص کافر ہو گیا۔

## جب سے جنگ چھڑ گئی ہے صلح ہوئی ہی نہیں

﴿۳۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَأَلْتَهُمْ مُنْذُ حَارَبْنَاهُمْ وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُمْ خِيْفَةً فَلَيْسَ مِنَّا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے ہم نے سانپوں سے لڑائی شروع کی ہے اس وقت سے ہم نے ان سے مصالحت نہیں کی ہے لہذا جو شخص ان سانپوں میں سے کسی سانپ کو اس خوف کی وجہ سے مارنے سے باز رہے کہ خود وہ سانپ یا اس کا جوڑا نقصان پہنچائے گا اور بدلہ لے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

یعنی طبعاً دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں سانپ کا خیال ہے کہ مجھے جب بھی انسان دیکھے گا سر کچل دیگا لہذا یہ میرا دشمن ہے انسان سوچتا ہے کہ جو بھی سانپ پر پاؤں پڑ گیا وہ ڈنگ مار کر تڑپا دیگا اس لئے دونوں طرف سے کچی دشمنی ہے اور جب سے دشمنی لگی ہے کبھی صلح نہیں ہوئی ہے کچھ ضعیف روایات میں ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکلنے کے بعد پھر اندر لے جانے والا سانپ تھا پھر ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم کو جنت سے نکالا اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ کچی جنگ ہے۔

﴿۳۶﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْبَحِيَّاتِ كُلَّهُنَّ فَمَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام سانپوں کو قتل کرو اور اگر کوئی شخص ان کے انتقام کے خوف زدہ ہوا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ (ابوداؤد، نسائی)

## زمزم کے کنوئیں میں سانپ

﴿۳۷﴾ وَعَنْ الْعَبَّاسِ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَنَا نُرِيدُ أَنْ نَكْنِسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَانِ يَعْنِي الْبَحِيَّاتِ الصَّغَارَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِنَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم زمزم کے کنوئیں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں سانپ یعنی چھوٹے سانپ ہیں؟ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم

دیدیا۔ (ابوداؤد)



## توضیح

چونکہ زمزم کے کنوئیں کی صفائی کی ضرورت تھی اور مشکل یہ پیش آرہی تھی کہ وہاں چھوٹے چھوٹے سانپ تھے اس کے مارے جانے کا خطرہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مارو اب مجبوری ہے کیونکہ اس کے بغیر صفائی ممکن نہیں تو اس حدیث کا عوام کو نہ مارنے والی حدیث سے کوئی تعارض نہیں ہے۔

## گھریلو سفید سانپوں کو نہ مارو

﴿۳۸﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ افْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْجَانَّ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِصَّةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام سانپوں کو مارو علاوہ جان یعنی سفید چھوٹے سانپ کے جو چاندی کی چھڑی کی طرح ہوتا ہے۔ (ابوداؤد)

## مکھی کی شرارت کو دیکھو

﴿۳۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَيَأْمُقِلُّوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کہ جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دو کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے بازو میں شفاء اور مکھی کسی چیز میں پہلے اپنے اسی بازو کو ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے لہذا پوری مکھی کو غوطہ دینا چاہیے تاکہ شفاء والے بازو سے ان جراثیم کا دفعہ ہو جائے جو بیمار والے بازو کی وجہ سے کھانے پینے کی چیز میں پہنچ گئے ہیں۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”یتقسی“ یہ تقویٰ سے ہے بچنے کے معنی میں ہے یعنی مکھی اپنے دائیں پر کو ڈوبنے سے بچاتی ہے وہ اس طرح کہ دائیں پر کو اٹھائے رکھتی ہے اور بائیں کو ڈوبتی ہے اس میں مکھی کی یہ شرارت ہوتی ہے کہ بائیں پر کے جراثیم کو دودھ وغیرہ میں چھوڑتی ہے اور شفاء والے پر کو الگ رکھتی ہے تاکہ ان جراثیم کا خاتمہ نہ ہو جائے آنحضرت نے فرمایا اس کو ڈبو دو تاکہ شفاء والا پر بھی ڈوب جائے اور جراثیم بفع ہو جائے۔ بعض شارحین نے یتقسی کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ مکھی زہر والے پر کو مقدم کرتی ہے وہ

حضرات کہتے ہیں کہ لغت سے ثابت ہے کہ یتقی یقدم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بہر حال اس چھوٹی سی مکھی کی شرارت کو دیکھو اور اس کی عدوات کو دیکھو۔

﴿۴۰﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الطَّعَامِ فَاْمَقْلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سَمًّا وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَأَنَّهُ يَقْدَمُ السَّمُّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

اور حضرت ابوسعید خدریؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے لو کیونکہ اس کے ایک بازو میں زہر ہے اور دوسرے بازو میں شفا ہے اور مکھی اپنے زہر والے بازو کو پہلے ڈالتی ہے اور پھر شفا والے بازو کو۔ (شرح السنۃ)

### چار قسم کے جانوروں کا مارنا منع ہے

﴿۴۱﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے چوٹی، شہد کی مکھی، ہمد اور کلچڑی۔ (ابوداؤد، دارمی)

### توضیح

”النملة“ یعنی غیر مضر چوٹی کا مارنا منع ہے ”نحلة“ شہد کی مکھی ایک مبارک حیوان ہے اور مبارک شہد تیار کرتا ہے ”الهدد“ یہ ایک پرندہ ہے اس کو اکثر زبانوں میں ہمد کہتے ہیں، کھٹ بڑھی بھی کہتے ہیں ملاچہ جک اور ملاچہ لگ بھی کہتے ہیں اور کلی کر کا نری بھی کہتے ہیں چونکہ یہ مردار بد بودار ہے اس کا کھانا جائز نہیں تو فضول مارنے سے منع کر دیا گیا مضر بھی نہیں ہے۔

”صرد“ صرد ایک پرندہ ہے جس کا سر بڑا ہوتا ہے لمبے لمبے پر رکھتا ہے اور لمبی چونچ ہے آدھا سفید ہوتا ہے آدھا سیاہ ہوتا ہے چڑیوں کا شکار کرتا ہے یہ منجد کی تحقیق ہے مظاہر حق والے نے اس پرندے کا نام کلچڑی لکھا ہے مصباح اللغات نے اس کا نام لٹورا لکھا ہے میرے خیال میں ہمارے علاقہ میں ایک پرندہ ہے صرد وہی ہے جس کو پشتو میں شین ٹخ کہتے ہیں پانی کے اندر غوطہ کھا کر مچھلی شکار کرتا ہے اور ممکن ہے چوٹے پرندوں کو بھی شکار کرتا ہو یہ بے ضرر پرندہ ہے اس کا مارنا منع ہے۔ واللہ اعلم

## الفصل الثالث

### تحلیل و تحریم کا حق صرف شارع کو ہے

﴿۴۲﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ تَقْدَرُ فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهٖ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا (قُلْ لَا أَجِدُ فِيْمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا) الْآيَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی خواہش نفس کے مطابق کچھ چیزوں کو کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے یعنی جب چیزوں سے ان کو نفرت ہوتی ان کو نہیں کھاتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر اور ان کے ذریعہ ان کی امت پر اپنی کتاب نازل کی اور اپنی حلال چیزوں کو حلال کیا ہے اور حرام چیزوں کو حرام کیا نیز اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہی حلال ہے اس کے علاوہ حلال نہیں ہے اور جس کو چیز کو حرام کہا ہے وہی حرام ہے اور جس چیز سے سکوت اختیار کیا یعنی جس چیز کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو وہ چیز معاف ہے کہ اس پر مواخذہ نہیں اور پھر حضرت ابن عباسؓ نے یہ آیت پڑھی اے محمد کہہ دیجئے کہ جو احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا خون۔ الخ (ابوداؤد)

خلاصہ یہ کہ شریعت اور شارع کے حکم کو دیکھو اپنی خواہشات کو دخل نہ دو۔

﴿۴۳﴾ وَعَنْ زَاهِرِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ إِنِّي لَأَوْقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ بِلُحُومِ الْحُمْرِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمُ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت زاہر اسلمیؓ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا جس میں گدھے کا گوشت پکنے کے لئے رکھا ہوا تھا کہ اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں۔ (بخاری)

### جنات کی قسمیں

﴿۴۴﴾ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُثَنِيِّ يَرْفَعُهُ الْجِنُّ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ صِنْفٌ لَهُمْ أَجْنَحَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ وَصِنْفٌ يَعْلُونَ وَيَطْعَنُونَ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ.

اور حضرت ابو ثعلبہ خشنیؓ بطریق مرفوع نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات تین قسمیں ہیں ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں دوسری قسم وہ ہیں جو سانپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں اور تیسری قسم وہ ہیں جو منزل پر اترتے اور کوچ کرتے ہیں۔ (شرح السنۃ)

توضیح

”جنات“ اس حدیث میں جنات کی تین اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ (۱) بعض جنات پرندوں کی طرح اڑتے ہیں (۲) بعض جنات سانپوں کی طرح رینگتے ہیں (۳) اور بعض جنات مکانوں میں اترتے چلے آتے ہیں۔ جنات آگ سے پیدا شدہ مخلوق ہیں ان کی طبیعت اور خمیر میں شرارت پڑی ہوئی ہے جنات میں اگر شرارت اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو یہ شیاطین بن جاتے ہیں اور دیو ہو جاتے ہیں اور اگر انکی شرارت زیادہ نرم ہو گئی اور طبیعت سے اضافی شرارت ختم ہو گئی تو یہ پریاں بن جاتے ہیں اور اگر شرارت اعتدال کے ساتھ ہو تو یہ جنات ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں اولاد آتی ہیں دنیا کے انسانوں میں جتنے فرقے ہوتے ہیں جنات میں بھی اتنے ہی فرقے ہوتے ہیں ان میں یہود و نصاریٰ مسلمان اور ہندو بدعتی تو حیدی بریلوی دیوبندی اہل حدیث و منکر حدیث و رافض و شیعہ اور سپاہ صحابہ وغیرہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور آپس میں تنازعات بھی ہوتے ہیں جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔

## باب العقیقة

### عقیدہ کا بیان

اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے اس میں انسان کی زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق قواعد و قوانین موجود ہیں اسلام کی اسی جامعیت کے پیش نظر احادیث مقدسہ میں نومولود بچہ کے عقیدہ اور تحنیک وغیرہ کے مسائل و فضائل کا ذکر موجود ہے، میرے خیال میں عقیدہ کا باب اگر باب الاضحیۃ کے بعد رکھا جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا کیونکہ عقیدہ بھی قربانی کی طرح ایک حیوان کا ذبح کرنا ہے لیکن شاید مصنف علیہ الرحمۃ نے ذبح کے الفاظ کو پیش نظر رکھا تو اس کو ذبح کے ساتھ رکھا واللہ اعلم۔

عق یعق عفا نصرینصر سے بمعنی شق یشق شقاً پھاڑنے کے معنی میں ہے چونکہ نومولود بچہ کے سر کے بالوں کو لازمی طور پر کاٹ کر ہٹا دیا جاتا ہے اس لئے ان بالوں کے صاف کرنے، ساتویں دن نام رکھنے اور ایک بکری ذبح کرنے کا نام عقیدہ رکھا گیا ہے امام احمد بن حنبل کے ایک قول کے مطابق اور ابن حزم اور اہل ظواہر کے نزدیک عقیدہ واجب ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک عقیدہ سنت ہے بشرطیکہ سات دن کے اندر اندر ہو۔ امام احمد و اہل ظواہر نے عقیدہ کے لئے اھریقوا وغیرہ امر کے صیغوں کو دیکھ کر وجوب کا قول کیا ہے جمہور فقہاء فرماتے ہیں کہ اکثر احادیث میں عقیدہ کے لئے سنت کا لفظ بولا گیا ہے لہذا سنت ہے واجب نہیں ہے۔

آنے والی حدیث نمبر ۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدہ کا لفظ پسند نہیں تھا اس لئے آپ نیکہ اور ذبیحہ کے اطلاق کو پسند فرماتے تھے اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ چونکہ عقیدہ کا لفظ عق سے ماخوذ ہے جو نا فرمانی کے معنی میں ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ پسند نہیں تھا لیکن علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ اس راوی کا اپنا خیال ہے ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع میں خود لفظ عقیدہ استعمال فرمایا ہے تو نا پسند کیا مطلب ہوا؟

بہر حال عقیدہ کے جانور کے لئے وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے لئے ہوتے ہیں۔ روایات احادیث کے مطابق عقیدہ ساتویں دن مسنون ہے امام شافعیؒ و احمد فرماتے ہیں کہ اگر ساتویں دن ممکن نہ ہو تو پھر چودھویں دن میں کیا جائے ورنہ اکیسویں دن میں کیا جائے ورنہ اٹھائیسویں دن میں کیا جائے پھر پچیسویں دن و ہلم جراً۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ عقیدہ کے جانور کی ہڈیاں توڑنا نہیں چاہئے بلکہ سالم نکال کر دفن کیا جائے امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ توڑنا درست ہے پھر عقیدہ

کا گوشت پکا کر کھلانا بہتر ہے اور کچا تقسیم کرنا نافع تر ہے ویسے دونوں برابر ہے جاہلیت میں بچے کو عقیقہ کے خون میں لت پت کرتے تھے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے البتہ زعفران سے رنگین کرنا بہتر ہے۔

## الفصل الاول

### عقیقہ کرنے کا حکم

﴿۱﴾ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغَلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت سلمان ابن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناڑ کے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا مسنون یا مستحب ہے لہذا اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے اذی یعنی اس کے سر کے بال اور میل کچیل دور کرو۔ (بخاری)

### توضیح

”اھریقوا“ خون گراؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے عقیقہ کا جانور ذبح کرو۔

”امیطوا عنہ الاذی“ امانت ازالہ کے معنی میں ہے اور اذیٰ سے مراد میل کچیل ہے جو پیدائش کے وقت سے سر کے بالوں میں ہوتا ہے بلکہ یہ بال خود میل ہے آج کل نو مولود کو ہسپتال میں فوراً نہلاتے ہیں جو صحت کے لئے نہایت مضر ہے اکثر بچے جو نمونیہ کا شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے مگر ڈاکٹر حضرات انگریزوں کے فلسفے پر چلتے ہیں اگر بچے کا فوراً نہلانا ضروری ہوتا تو اسلام سات دن تک کبھی دیر نہ کرتا نیز انگریز زدہ ڈاکٹر ناف نلی کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں اس میں وقتی فیشن تو ہے مگر زخم خراب ہو کر بہت نقصان ہوتا ہے جبکہ دیہات کی جاہل عورتیں ناف کی نلی کافی اوپر سے کاٹ دیتی ہیں جو زخم بھرنے کے لئے نہایت مفید ہوتا ہے اگرچہ اسمیں فیشن نہیں ہوتا ہے یہ دیہاتی جاہل عورتیں ڈاکٹروں سے زیادہ عاقل نکلیں۔

### تحنیک مسنون عمل ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالْصَّبِيَّانِ فَيَبْرِكُ عَلَيْهِمْ وَيُحْنِكُهُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوزائیدہ بچے لائے جاتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے برکت کی دعا کرتے یعنی ان کے سامنے فرماتے۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر برکت و رحمت نازل فرمائے اور ان کے تحنیک کرتے۔ (مسلم)

## توضیح

تحنیک اس عمل کا نام ہے کہ کوئی عالم یا صالح آدمی کھجور کو منہ میں خوب چبائے اور پھر اس لعاب کو نو مولود کے تالو کے ساتھ لگائے بچہ اس کو نگل لے گا چونکہ کھجور میٹھی چیز بھی ہے اور مبارک پھل بھی ہے اس لئے اس کا انتخاب کیا گیا شہد سے بھی یہ عمل ہو سکتا ہے۔ نو مولود بچہ غنودگی میں ہوتا ہے اس کے بدن کے حواس اور مشاعر اس میٹھی چیز سے بیدار بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے پیٹ میں پہلی غذا ایک عالم یا صالح آدمی کا لعاب پہنچ کر برکت بھی آ جاتی ہے اور جب نبی کسی کی تحنیک کرے اس کا کیا کہنا اور جب سید الاولین والا آخرین ہوں پھر تو تحنیک کی شان ہی اور ہوگی۔

”یبرک“ یعنی آنحضرت اس بچے کے لئے برکت کی دعا فرماتے تھے۔

## اول مولود فی الاسلام

﴿۳﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَوَلَدْتُ بِقَبَاءَ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجَرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ نَفَلَ فِيهِ ثُمَّ حَنَكُهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مُوَلُّودٍ وَلِدَ فِي الْإِسْلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ سے روایت ہے کہ مکہ میں عبداللہ بن زبیرؓ ان کے پیٹ میں آئے۔ حضرت اسماءؓ کہتی ہیں کہ قباء کے مقام پر میری ولادت ہوئی تو میں عبداللہ کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا آنحضرتؐ نے کھجور مٹگائی اور اس کو چبایا پھر اپنا آب دہن ان کے منہ میں ڈالا یعنی آپؐ نے اس کھجور کو جو آپ کے لعاب مبارک کے ساتھ مخلوط ہو گئی تھی عبداللہؓ کے منہ میں رکھا اور پھر وہ کھجور ان کے تالو میں لگائی اس کے بعد آپؐ نے ان کے لئے دعا کی اور برکت چاہی یعنی یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر برکت نازل فرمائے چنانچہ عبداللہ بن زبیرؓ پہلے شخص تھے جو اسلام کے عہد میں پیدا ہوئے۔ (بخاری، مسلم)

## توضیح

”بقباء“ مدینہ منورہ میں قباء انصار مدینہ کا ایک محلہ تھا آنحضرتؐ نے ہجرت کے موقع پر مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء میں قیام فرمایا اور وہاں مسجد قبا کی بنیاد ڈالی جو اسلام کی پہلی مسجد ہے اور رتبہ کے اعتبار سے پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے ”اول مولود“ یعنی ہجرت کے بعد مہاجرین میں جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا وہ عبداللہ بن زبیرؓ تھے اور انصار مدینہ میں اسلام کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا وہ نعمان بن بشیر انصاریؓ تھے۔

## الفصل الثانی

### عقیدہ میں کتنے بکرے ہوتے ہیں

﴿۴﴾ عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقْرِؤُا الطَّيْرَ عَلَى مَكَائِهَا قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانَا كُنَّ أَوْ إِنَاثًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ قَوْلِهِ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ إِلَى آخِرِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

حضرت ام کرز کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں قرار دو۔ ام کرز کہتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوا سنا کہ عقیدہ میں لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے اور اس میں تمہارے لئے کوئی نقصان نہیں ہے کہ وہ بکری نہ ہو یا مادہ یعنی اس بات کا لحاظ ضروری نہیں کہ لڑکے کے عقیدہ میں بکرے ذبح کئے جائیں اور لڑکی کے عقیدہ میں بکری ذبح کی جائے۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی) کی روایت میں سے آخر تک ہے نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

### توضیح

”اقروا الطیر علی ومکائہا“ اقروا امر کا صیغہ ہے قرار اور برقرار رکھنے کے معنی میں ہے، ممکنات ممکنہ کی جمع ہے گھونسلے کو کہتے ہیں بعض نے کہا انڈے کو کہتے ہیں یہ لفظ وکناات بھی ہے امرء القیس کہتے ہیں ۔

وَقَدْ اغْتَدَى وَالطَّيْرُ فِي وَكْنَائِهَا

بِمَنْجَرٍ قَدْ اَلَاوَابِدَ هِيْ كُلِّ

”ذکر انا کن“ یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ دو بکروں میں زردیا جائے یا مادہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کی طرف سے نہ ہوں اور لڑکی کی طرف سے مادہ ہو۔

عرب کی عادت تھی کہ کسی کام پر جاتے وقت گھونسلوں سے پرندوں کو اڑاتے بھگاتے تھے تاکہ اس سے کام کے انجام کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ ہو جائے اگر پرندہ گھونسلے سے دائیں طرف رخ کر کے جاتا تو عرب بہت خوش ہو جاتے اور سفر کو جاری رکھتے اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑ کر جاتا تو عرب اس سے بدشگونی لیتے اور سفر کو ختم کر کے واپس آ جاتے یہ سب اوہام پرستی تھی اس لئے حضور اکرم نے ممانعت فرمائی یہ حدیث کا ایک حکم ہے جو پورا ہو گیا کہ ایسا مت کرو آگے اس حدیث



میں دوسرا حکم عقیدہ کا بیان کیا گیا ہے۔

### عقیدہ کا طریقہ

﴿۵﴾ وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيدَتِهِ تَذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ لَكِنَّ فِي رَوَايَتِهِمَا رَهِينَةٌ بَدَلُ مُرْتَهَنٍ وَفِي رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَيُدْمَى مَكَانَ وَيُسَمَّى وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيُسَمَّى أَصَحُّ

اور حضرت حسن بصریؒ حضرت سرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیدہ کے بدلے گروی ہے اس کی پیدائش کے ساتویں دن اس کے عقیدہ کے لئے جانور ذبح کیا جائے ساتویں ہی دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے اس روایت کو احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، نے نقل کیا ہے لیکن ابوداؤد، نسائی کی روایت میں ہے اور احمد اور ابوداؤد کی ایک روایت میں تسبیح کے بجائے دیدی ہے اور ابوداؤد نے کہا ہے کہ لفظ تسبیح ہی زیادہ صحیح ہے۔

### توضیح

”مرتہن“ ایک روایت میں لفظ رہینہ بھی آیا ہے وہ روایت زیادہ محفوظ بھی ہے اور با معنی بھی ہے کیونکہ مرتہن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی کارہن رکھا ہوا ہو یہ مطلب یہاں صحیح نہیں بنتا اور اگر مرتہن کے بجائے الغلام مرہون اسم مفعول لیا جائے تو معنی صحیح ہو جائے گا لیکن روایات میں اس طرح لفظ نہیں ملتا ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ یہاں مرتہن کہہ کر کسی راوی سے سہو ہو گیا ہے اور صحیح لفظ وہی رہینہ ہے جس کو ابوداؤد اور نسائی میں ذکر کیا گیا ہے۔

بچہ اپنے عقیدہ میں گروی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقیدہ نہیں کیا اور بچہ مر گیا تو وہ قیامت میں والدین کی شفاعت نہیں کریگا تو شفاعت موقوف و مجبوس ہے عقیدہ پر۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بچے کی صحت اور اس کی نشوونما اور آفات سے اس کی حفاظت عقیدہ پر موقوف ہے۔

اس روایت میں لفظ یدمى بھی منقول ہے جس کو امام احمد نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے یہ تدمیۃ سے ہے جو خون میں لت پت کے معنی میں ہے بچے کو عقیدہ کے خون سے لت پت کیا جائے گا یہ جاہلیت کا طریقہ تھا لہذا اس لفظ میں بھی کسی راوی کی طرف سے تصرف ہو گیا ہے اصل لفظ یُسَمَّى ہے یعنی بچے کا نام رکھا جائے گا ابوداؤد نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

تلطخ بالدم جاہلیت کا طریقہ مکروہ ہے جو موقوف ہو گیا ہے اس کی جگہ اسلام میں زعفران اور خلوق کے ذریعہ سے بچہ کورنگین کیا جائے گا جیسا کہ آنے والی حدیث نمبر ۱ میں مذکور ہے۔

## حضرت حسنؑ کا عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا

﴿۶﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةً وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزَنَةِ شَعْرِهِ فَضَّةً فَوَزَنَاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضُ دِرْهَمٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ لَمْ يُذَكَّرْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

حضرت محمد بن علی ابن حسینؑ یعنی حضرت امام محمد باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسینؑ شہیدؑ حضرت علی ابن طالبؑ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے اور میرے بچے حسنؑ کے عقیدہ میں ایک بکری ذبح کی تھی اور فرمایا کہ اے فاطمہ! حسن کا سر مونڈو اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کر دو چنانچہ ہم نے ان بالوں کا وزن کیا تو وہ ایک درہم یا ایک درہم سے کم وزن کے تھے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس کی اسناد متصل یعنی مسلسل نہیں ہے کیونکہ محمد ابن علی ابن حسینؑ نے حضرت علی ابن ابی طالبؑ کا زمانہ نہیں پایا ہے۔

### توضیح

”بشاة“ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے عقیدہ میں ایک بکری کا عقیدہ کیا۔

### سوال

زیر بحث حدیث میں ایک بکری کے ذبح کرنے کا بیان ہے سنن ابوداؤد میں بھی اسی طرح ہے لیکن سنن نسائی میں دو بکری کا ذکر ہے ادھر اس سے قبل حدیث ۴ میں عقیدہ کا ضابطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کا ذکر ہے بظاہر روایات میں تعارض ہے۔

### جواب

اصل ضابطہ تو وہی ہے کہ عقیدہ میں لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے یہاں حضرت حسن کے عقیدہ میں جو ایک بکری ذبح کرنے کا ذکر ہے تو اس میں تاویل کرنی پڑیگی پہلی تاویل اور جواب یہ ہے کہ افضل تو دو ہی ہے لیکن ایک بکری کا عقیدہ جواز پر محمول ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک بکری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی اور دوسری حضرت علی یا حضرت فاطمہ کی طرف سے تھی تیسرا جواب یہ ہے کہ زیر بحث روایت غیر متصل ہے اس میں انقطاع ہے لہذا اس کے بجائے دو بکریوں والی روایت اولیٰ بالقبول ہے۔

## عقیدہ میں دو مینڈھے ذبح کئے

﴿۷﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ

اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے عقیدہ میں ایک ایک مینڈھا ذبح کیا۔ (ابوداؤد و نسائی نے دو دو مینڈھے نقل کئے ہیں۔)

## توضیح

ممکن ہے کہ بوقت ولادت ایک مینڈھا ذبح کیا ہو اور بوقت عقیدہ دوسرا ذبح کیا ہو تو اس کو ایک ایک کبش بھی کہہ سکتے ہیں اور دو دو بھی کہا جاسکتا ہے یا کوئی اور صورت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جس میں کئی احتمالات و خصوصیات آسکتی ہیں لیکن قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ضابطہ ہے جس کا ذکر حدیث نمبر ۴ میں ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری عقیدہ ہو۔

## جس کا عقیدہ ہو وہ عقوق سے بچ جاتا ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الْأَسْمَ وَقَالَ مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدًا فَأَحَبَّ أَنْ يُنْسِكَ عَنْهُ فَلْيُنْسِكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عقوق کو پسند نہیں کرتا گویا آنحضرت نے اس فعل کو لفظ عقیدہ سے موسوم کئے جانے کو ناپسند فرمایا اور پھر فرمایا کہ جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ذبح کرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔ (ابوداؤد، نسائی)

## توضیح

لفظ عقیدہ کے اطلاق پر ابتدائی مباحث میں کلام ہو چکا ہے اس حدیث کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ جب آنحضرت سے عقیدہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عقوق یعنی نافرمانی کو پسند نہیں کرتا لہذا جس کا عقیدہ ہو گیا وہ عقوق سے بچ جائے گا گویا یہ عقیدہ کرنے کی ترغیب ہے آگے روایت میں کانہ کمرہ الاسم جو تفسیر ہے یہ کسی راوی کی طرف سے ہے اس

نے سمجھ لیا کہ آنحضرت لفظ عقوق کو پسند نہیں کرتے حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے حضور اکرم نے اس اسم کو خود استعمال فرمایا ہے۔  
(ہذا ما فہمت واللہ اعلم)

## حضرت حسنؓ کے کان میں حضور اکرمؐ نے اذان دی

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُذِّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. اور حضرت ابورافعؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حسن ابن علی کے کان میں اذان دی جب کہ حضرت فاطمہؓ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی اور وہ اذان نماز کی اذان کی طرح تھی۔ (ترمذی، ابوداؤد) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

سوچنے کا مقام ہے جس کے کان میں سید الاولین والآخرین اذان دے ان کا مقام کتنا بلند ہوگا لہذا ان کو قتل کرنا کتنا برا گناہ ہوگا۔

## الفصل الثالث

### جاہلیت میں عقیدہ کا طریقہ کیسا تھا؟

﴿۱۰﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وَلَدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ كُنَّا نَذْبَحُ الشَّاةَ يَوْمَ السَّابِعِ وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلَطُّعُهُ بِرِغْفَرَانٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ رِزِينَ وَنَسَمِيَهُ.

حضرت بريدہؓ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہمارا یہ دستور تھا کہ جب ہم میں سے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کرتا اور اس بکری کا خون اس لڑکے کے سر پر لگاتا لیکن جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہم بچے کی پیدائش کے ساتویں دن بکری ذبح کرتے اس کا سر موٹتے اور اس کے سر پر زعفران لگاتے۔ (ابوداؤد) اور رزین کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم ساتویں ہی دن اس کا نام رکھتے۔

### توضیح

”بزعفران“ اسلام نے جاہلیت کے طریقے کو موقوف کر دیا اور اپنا مبارک طریقہ رائج کیا اس لئے مسلمانوں کو اسلام کا طریقہ اپنانا چاہیے جاہلیت میں لوگ بچے کو عقیدہ کے جانور کے خون سے آلودہ کرتے تھے اس سے بچے کی طبیعت میں درندگی آتی تھی اسلام نے اس کی جگہ زعفران کا حکم دیا تاکہ بچہ مشک و زعفران بن جائے اسی لئے علما نے لکھا ہے کہ عقیدہ کے کھانے کے ساتھ کچھ شرینی بھی چاہئے تاکہ بچے کے اخلاق میٹھے ہو جائیں۔

## کتاب الاطعمة

### کھانوں کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

وقال تعالى ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾

اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے وہ اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق عمدہ عمدہ ہدایات دیتا ہے اور ان کی اچھی رہنمائی کرتا ہے تاکہ مسلمان غیر اقوام کی تقلید کے بجائے دوسروں کے لئے قابل تقلید بن جائیں اسی سلسلہ میں اسلام کھانے پینے کے آداب اور اصول و قواعد بتاتا ہے ان احادیث میں انہیں چیزوں کا بیان ہے۔

### الفصل الاول

#### کھانے کے تین آداب

﴿۱﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حضرت عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و تربیت میں تھا ایک دن میں آنحضرت کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ رکابی میں جلدی جلدی گھوم رہا تھا یعنی جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ میں اپنے سامنے سے کھانے کے بجائے ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہا تھا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بسم اللہ کہو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ۔ (بخاری و مسلم)

#### توضیح

عمر و بن سلمہ ام سلمہ کے سابق شوہر کا بیٹا ہے ام سلمہ جب آنحضرت کے عقد نکاح میں آئیں تو عمرو بن سلمہ ان کے ساتھ آنحضرت کی تربیت میں آگیا اسی کی طرف ”فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ سے اشارہ کیا گیا ہے ”تطیش“ یعنی ہاتھ ادھر ادھر رکابی میں گھوم رہا تھا کبھی ادھر سے کھایا کبھی اُدھر سے کھایا جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین آداب سکھائے اول یہ کہ بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرو، دوم یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سوم یہ کہ اپنے پاس سے کھاؤ یہاں تین آداب کا بیان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے آداب یہی ہیں کوئی حصر نہیں ہے۔

بسم اللہ نہیں کہو گے تو شیطان ساتھ کھائے گا

﴿۲﴾ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر خدا کا نام نہ لیا جائے اس کو شیطان اپنے لئے حلال سمجھتا ہے۔ (مسلم)

توضیح

”یستحل“ یعنی شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ کسی طرح مسلمان غفلت کے ساتھ کھانا شروع کرے تاکہ شیطان کو موقع ملے اور وہ بھی ساتھ ہو جائے بسم اللہ پڑھنے سے یہ خبیث بھاگ جاتا ہے۔

﴿۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر یعنی اپنی خواب گاہ میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت خدا کا نام لیتا ہے یعنی بسم اللہ کہہ کر خواب گاہ میں داخل ہوتا ہے اور پھر کھانا کھاتے وقت بھی خدا کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے تابعداروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لئے نہ کوئی جگہ ہے اور نہ کھانا ہے اور جب آدمی گھر و خواب گاہ میں داخل ہوتے وقت خدا کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے تابعداروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہیں جگہ مل گئی اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت خدا کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے تابعداروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہیں جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ (مسلم)

توضیح

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گھر میں آتے وقت اور پھر کھانا کھاتے وقت جب آدمی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطانوں کی جماعت کا امیر ان سے کہتا ہے کہ یہاں نہ کھانا ہے نہ رات گزارنے کی گنجائش ہے اور اگر کوئی شخص گھر میں آتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یہی شیطان کہتا ہے لو بھائیو! رات گزارنے کا موقع مل گیا اور جب کھانے کے وقت آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا

تو شیطان کہتا ہے خوش ہو جاؤ بھائی کھانا اور رات گزارنا دونوں مل گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھر ابلیس اس شخص کے ساتھ جماع میں بھی شریک ہو جاتا ہے آج کے دور میں بوجہ جہالت یہ وباء عام ہے ماؤرن طبقہ بسم اللہ سے دور ہے۔

### کھانا پینا دائیں ہاتھ سے مسنون ہے

﴿۴﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب کوئی چیز پئے تو دائیں ہاتھ سے پئے یعنی پانی وغیرہ کا برتن داہنے ہاتھ سے پکڑے۔ (مسلم)

### توضیح

”بیمینہ“ شریعت نے انسان کی ہر جگہ رہنمائی فرمائی ہے لہذا شریعت کا حکم ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پاخانہ ٹٹی بائیں ہاتھ سے صاف کرو، اب اگر کوئی شخص اس کا الٹا چلتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو شریعت کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اس کا کھانا بھی بد مزہ ہو جائے گا کیونکہ جب اس کو یاد آجائے گا کہ ابھی ابھی بائیں ہاتھ سے ٹٹی صاف کیا ہے اور ابھی وہی ہاتھ منہ میں رکھا ہوا چاٹ رہا ہے تو اس کو گھن آئے گی کھانا بد مزہ ہو جائے گا۔

### بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے

﴿۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز پئے کیونکہ یہ شیطان کا شیوہ ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ (مسلم)

### توضیح

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں یہ درحقیقت شیطان بن چکے ہیں اگرچہ شکل آدمی کی ہے شیطان انسان کا دشمن ہے مگر نظر نہیں آتا ہے ہاں اس کا کام اور کردار نظر آتا ہے تو جو شخص شیطان کا کردار اپناتا ہے تو خوب سمجھ لو کہ وہ شیطان کا دوست اور خود پکا شیطان ہے۔

## تین انگلیوں سے کھانا اور انگلیاں چاٹنا سنت ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعٍ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانے سے فراغت کے بعد اپنے ہاتھ کی رومال وغیرہ سے پونچھنے یا دھونے سے پہلے چاٹ لیا کرتے تھے۔ (مسلم)

### توضیح

”ثلاثة“ انسان کو چاہئے کہ کھانے میں کم سے کم انگلیاں استعمال کرے چنانچہ لقمہ اٹھانے کے لئے کم از کم تین انگلیوں کی ضرورت پڑتی ہے پھر رکابی کا چاٹنا بھی باعث برکت ہے اور ہاتھ دھونے سے یا پونچھنے سے پہلے انگلیوں کا چاٹنا بھی سنت ہے اس میں برکت ہے اور اس میں کھانے کی لذت ہے بعض دفعہ ضرورت کے تحت تین انگلیوں سے زیادہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں استعمال فرمائی ہیں جس سے جواز کی طرف اشارہ ہو گیا ہے۔

”یمسحها“ پونچھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کپڑے سے صاف کیا جائے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پاؤں کی ایزیوں اور تلوؤں پر مل لیا جائے جیسا کہ صحابہ کی عادت تھی اور مسح سے دھونا بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

﴿۷﴾ وَعَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَذَرُونَ فِي أَيْةِ الْبَرَكَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور رکابی کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس انگلی یا نوالے میں برکت ہے۔ (مسلم)

## کھانے کے بعد انگلیاں چاٹو یا چٹاؤ

﴿۸﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا چکے تو وہ ہاتھ کو اس وقت تک کسی چیز سے نہ پونچھے اور نہ دھوئے جب تک کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ نہ لے یا چٹواندے۔ (بخاری و مسلم)



## توضیح

”اولیٰ علقہا“ یعنی یا خود چاٹ لے یا دوسرے سے چٹوالے چاٹنے والا ایسا آدمی ہو کہ اس کو ان انگلیوں سے گھن نہ آتی ہو مثلاً بیٹا بیٹی ہے چھوٹے بچے ہیں یا خادم و طالب علم اور غلام ہیں العاق باب افعال سے چٹوانے کے معنی میں ہے چھوٹوں کو انگلیاں چٹوانے پر میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے۔

## کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ تراشہ گر جائے تو کیا کیا جائے

﴿۹﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى ثُمَّ لِيَا كُلُّهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيُلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان تمہارے ہر کام کے وقت تمہارے پاس موجود ہوتا ہے یہاں تک کہ تمہارے کھانے کے وقت بھی تمہارے پاس موجود رہتا ہے لہذا تم میں سے جب کسی شخص کا کوئی نوالہ گر جائے تو چاہیے کہ اس کو اٹھالے اور مٹی وغیرہ جو چیز اس کو لگ گئی ہو اس کو صاف کر کے کھالے اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے نیز جب کھانا کھا چکے تو چاہیے کہ اپنی انگلیاں چاٹ لے کیونکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے کونسے کھانے میں کس حصہ میں برکت ہے۔ (مسلم)

## توضیح

”فلیمط“ اما طہ از الہ کے معنی میں ہے یعنی اگر اس کے ساتھ خس و خاشاک یا کوئی مٹی لگی ہو اور صاف کرنا ممکن ہو تو حتی الامکان اس کو صاف کر کے کھائے اور متکبر لوگوں کی طرح اس کو زمین یا دسترخوان پر نہ چھوڑے کیونکہ شیطان آکر اس کو کھاتا ہے یا اس کے ضائع کرنے سے خوش ہو جاتا ہے تو شیطان کو خوشی کا موقع نہ دو وہ تمہارا دشمن ہے اگر صاف کرنا ممکن نہ ہو تو اس کو کتے یا بلی کو کھلا دے تاکہ اللہ کا رزق ضائع نہ جائے جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو تواضع و انکساری کے طور پر اللہ کا شکر ادا کر کے انگلیاں چاٹ لے اس میں برکت ہے اور نظام ہضم کے لئے بہت مفید ہے۔

## ٹیک لگا کر کھانا کھانے کی ممانعت

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكُلُ مُتَكَبِّرًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابو جحیفہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ (بخاری)

”مکْنَا“ یعنی میں تکلیف لگا کر بے اعتنائی اور تکبر کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہوں تو میری امت کو بھی اس طرح نہیں کھانا چاہئے ایسا تکبر لوگ کرتے ہیں۔

### میز اور چوکی پر رکھ کر کھانا کھانے کا حکم

﴿۱۱﴾ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ وَلَا فِي سَكْرَجَةٍ وَلَا خُبْزٍ لَهُ مُرَقَّقٌ قَبْلَ لِقَاءِ قَتَادَةَ عَلَى مَا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت قتادہؓ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر کھانا نہیں کھایا اور نہ تشری میں کھایا اور نہ آپ کے لئے چپاتی پکائی گئی حضرت قتادہ سے پوچھا گیا کہ وہ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ دسترخوان پر۔ (بخاری)

### توضیح

”علی خوان“ خوان دراصل دسترخوان کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں خوان سے مراد چوکی یا میز ہے جس پر کھانا رکھ کر کھایا جاتا ہے تاکہ کھانے کی طرف جھکنا نہ پڑے چنانچہ مالدار عیش پرست متکبر اور غیر اسلامی تہذیب کے دلدادہ لوگوں کا شیوہ ہے کہ وہ چوکی یا میز پر کھانا رکھ کر کھاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی کھڑے کھڑے کھاتے ہیں آنحضرت نے اس طریقہ کو پسند نہیں فرمایا چوکیوں پر رکھ کر کھانے کا رواج بعض علماء میں بھی آگیا ہے۔

”ولافی سکرَجَة“ یعنی نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریٰ جمع اور ٹرے میں کھانا کھایا۔ ”سُكْرَجَة“ سین اور کاف پر پیش اور راپرزبر کے ساتھ شد ہے جیم پرزبر ہے آخر میں گول تا ہے اور ”سُكْرَجَة“ بھی ہے کاف پر سکون ہے اور راپرزبر ہے شد نہیں، منجد نے لکھا ہے ”الصحفة التي يوضع فيها الاكل“ وہ تشریٰ وہ دُش وہ جمع اور ٹرے جس میں کھانا رکھا جاتا ہے یہ بھی سامان قعیش کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز کے لئے الگ الگ برتن اور ٹرے ہوتے ہیں ممکن ہے حدیث کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہو لیکن ملا علی قاریؒ نے مرقات میں سکرَجہ سے مرہبہ اچار اور چٹنی رکھنے کے برتن مراد لئے ہیں اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کھانے سے زائد چیزیں جو کھانے کو ضم کرے اس کے لئے الگ الگ برتن نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل اس میں تماشے آگئے ہیں۔ ایک صاحب دل یحییٰ بن معاذ رازیؒ نے دنیا دار علماء کو کہا یا اصحاب العلم

(۱) قصورکم فیصریة (۲) ویونکم کسرویة (۳) واثوابکم طالوتیة (۴) واخفافکم جالوتیة (۵) واوانیکم فرعونیة (۶) ومراکبکم قارونیة (۷) وموائدکم جاهلیة (۸) ومذاہبکم شیطانیة فاین

المحمدیۃ ۹۔

”مرفق“ یعنی آپ کے لئے چپاتی روٹی کا اہتمام بھی نہیں کیا گیا ”علی السفر“ سفرۃ کی جمع ہے دسترخوان کو کہتے ہیں جو چمڑے ریگزین یا کپڑے اور پلاسٹک کا ہوتا ہے آج کل اس میں بھی تماشے آگئے ہیں البتہ مجبوری الگ چیز ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چپاتی دیکھی نہ دم پختہ بکری دیکھی

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شاةً سَمِيطًا بَعَيْنِهِ قَطُّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی چپاتی دیکھی ہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی چپاتی کی صورت بھی نہیں دیکھی چہ جائیکہ کبھی چپاتی کھائی ہو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم پختہ بکری بھی کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ (بخاری)

توضیح

”رأى“ جب یہ چیزیں دیکھی نہیں تو کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ”شاة سميطة“ اس زمانہ میں چین کے لوگوں میں اس طرح رواج تھا کہ بکری کی کھال سے بال ہٹا کر کھال کے ساتھ بکری کو گرم پانی کی بھاپ اور بھڑاس پر رکھتے تھے یہ چائیز کھانا چین کے لوگ بناتے تھے اس کے بعد عام عیاش پرستوں نے اس کو اپنالیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا بھی نہیں۔

میدہ یا چھنے ہوئے آٹے کی روٹی آنحضرتؐ نے نہیں کھائی

﴿۱۳﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَرَّ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيُّ مِنْ حَيْنٍ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَالَ مَرَّ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخَلًا مِنْ حَيْنٍ ابْتَعَثَهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ قِيلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ قَالَ كُنَّا نَطْحُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَاطَارًا وَمَا بَقِيَ ثَرِينًا فَكَلْنَاهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت سہل ابن سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب رسول بنایا آپ نے اس وقت سے کبھی میدہ کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کی، نیز حضرت سہلؓ نے کہا کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جب سے رسول بنایا آپ نے اس وقت سے کبھی چھنی کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کی یعنی آنحضرتؐ

صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ رسالت پر فائز ہونے کے وقت سے اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک میدہ کی تیار کی ہوئی کوئی چیز یا چھنی کے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی تو کیا کھاتے کبھی آپ نے ان چیزوں کی صورت بھی نہیں دیکھی حضرت ہل سے پوچھا گیا کہ پھر آپ لوگ جو کے بغیر چھنے آٹے کی روٹی کس طرح کھاتے تھے؟ حضرت ہل نے کہا کہ ہم جو کو پیسنے کے بعد اس میں پھونک مارتے چنانچہ اس میں سے جو چیز اڑنے والی ہوتی یعنی بھوسی وہ اڑ جاتی اور جو چیز باقی رہتی یعنی آٹا اس کو ہم پانی میں گوندھ لیتے اور پھر اس کی روٹی پکا کر کھا لیتے۔ (بخاری)

## توضیح

”النقی“ سفید میدہ کے آٹے کو نقی کہتے ہیں اس کی روٹی مراد ہے ”المنخل“ آٹے کی چھان کو منخل کہتے ہیں اس سے چھنے ہوئے آٹے کو منخل اور منقول کہتے ہیں۔

”الشعیر“ یعنی جو کے آٹے میں تو بہت چھلکے ہوتے ہیں وہ کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں چھنے بغیر وہ کیسے کھاتے تھے؟ فرمایا پھونک مارتے جو بڑے چھلکے ہوتے وہ اڑ جاتے باقی کو پانی میں بھگو کر پکاتے اور کھاتے تھے ”ثرینا“ بھگونا۔

## کھانے میں عیب نہ نکالو

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاعَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا اگر آپ کو رغبت ہوتی تو اس کو کھا لیتے اور اگر ناپسند فرماتے تو اس کو چھوڑ دیتے۔ (بخاری، مسلم)

## توضیح

”ماعاب“ کھانے میں عیب وہی آدمی نکالتا ہے جو پہلے سے سیر ہوتا ہے بھوکا آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے کہتے ہیں کھانا اس وقت تک کھاؤ جب پلیٹ میں انتخاب نہ ہو جب کھانے میں انتخاب شروع ہو جائے تو اس وقت ہاتھ کھینچ لینا چاہئے۔

## مومن ایک آنت سے کافرسات آنتوں سے کھاتا ہے

﴿۱۵﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْثَرًا فَاسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيلًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أُمْعَاءٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ الْمُسْنَدَ مِنْهُ فَقَطُّ وَفِي أُخْرَى لَهُ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحَلَبَتْ فَشَرِبَ حِلَابُهَا ثُمَّ أُخْرِي فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرِي فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شَيَاطِينٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحَلَبَتْ فَشَرِبَ حِلَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَمْتِمْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جو پہلے تو بہت زیادہ کھایا کرتا تھا مگر جب مسلمان ہوا تو کم کھانے لگا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ مومن تو ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔ (بخاری)

اور مسلم نے اس روایت کو حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے جس میں یہ واقعہ مذکور نہیں ہے لیکن مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک اور روایت نقل کی ہے جس میں یوں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مہمان آیا جو کافر تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ایک بکری دوہنے کا حکم دیا بکری دوہی گئی اور اس کافر نے اس دودھ کو پی لیا پھر آپ کے حکم سے دوسری بکری دوہی گئی۔ وہ اس دودھ کو بھی پی گیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس کے لئے ایک بکری دوہنے کا حکم دیا۔ بکری دوہی گئی اور اس نے اس کا دودھ پی لیا پھر آپ نے دوسری بکری دوہنے کا حکم دیا بکری دوہی گئی لیکن اب وہ اس کا پورا دودھ نہ پی سکا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سات آنتوں میں پیتا ہے۔

توضیح

”فی سبعة امعاء“ یعنی کافر سات آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے گویا کافر کے کھانے کی سات آنتیں ہیں

سوال

اس حدیث پر بظاہر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ انسان کی حیثیت سے تمام انسان ایک جیسے ہیں پھر یہ کہنا کس طرح صحیح ہوگا کہ کافر کی آنتیں سات ہیں اور مومن کی ایک آنت ہے؟ مشاہدہ بھی اس کے خلاف ہے۔

جواب

اس سوال کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں علامہ نووی نے سات جوابات دیئے ہیں علامہ طبری نے بھی جواب دیئے کی کوشش کی ہے اور قاضی عیاض مالکیؒ نے بھی جواب دیا ہے ملا علی قاریؒ نے ان تمام اقوال اور جوابات کو نقل کیا ہے لیکن جو واضح جواب

ہے اور سب نے اس کے نقل کرنے پر اتفاق بھی کیا ہے وہ قاضی عیاض کا جواب ہے فرماتے ہیں کہ مؤمن کھانے پینے میں زیادہ حرص و لالچ نہیں کرتا اس لئے اس کے کھانے پینے میں برکت آجاتی ہے اور اس کا پیٹ قلیل کھانے سے بھر جاتا ہے لیکن کافر کھانے پینے میں انتہائی حریص اور لالچی ہوتا ہے اس کا منظر ہی جانوروں کی طرح کھانا پینا ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمیان حرص اور عدم حرص کی وجہ سے کھانے پینے کے معاملہ میں اتنا تفاوت ہے گویا ایک اور سات انتوں کا تفاوت ہے مؤمن ایک آنت کی مقدار کھاتا ہے اور کافر سات انتوں کی مقدار کھاتا ہے گویا یہ ایک تمثیل ہے۔ علامہ طیبی کے کلام کا خلاصہ بھی تقریباً اسی طرح ہے تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کامل مؤمن کی شان زہد و قناعت اور ترک دنیا ہے تو وہ قوت لایموت پر صابر رہتا ہے اور کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہے اب یہ ضروری نہیں کہ ہر مؤمن کی شان زہد و قناعت ہو، ہو سکتا ہے کہ بعض مؤمن کافر سے بھی زیادہ حرص رکھتا ہو اور زیادہ کھاتا ہو، مگر وہ اپنی مومنانہ شان سے گر گیا ہے لہذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔

### قناعت ہو تو دو کا کھانا تین کے لئے کافی ہو جاتا ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ طَعَامُ الْارْبَعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کو اور تین کا کھانا چار کو کافی ہوتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ دو آدمیوں کا کھانا تین کے لئے پیٹ بھر کر کافی ہو جاتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر قناعت سے کام لیا جائے تو دو کا کھانا تین کے لئے بطور کفایت پورا ہو جاتا ہے اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے بطور کفایت کافی ہو جاتا ہے جیسے آنے والی روایت میں دو گنے کی بات کہی گئی ہے کہ چار کا کھانا آٹھ کے لئے بطور کفایت و قناعت کافی ہو جاتا ہے آدھے پیٹ کھانے سے آدمی مرتا نہیں اور دوسرا زندہ ہو جاتا ہے ان دونوں حدیثوں میں اکٹھا کھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔

﴿۱۷﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْارْبَعَةَ وَطَعَامُ الْارْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کو دو کا کھانا چار کو اور چار کا کھانا آٹھ کو کافی ہوتا ہے۔ (مسلم)

## بیمار آدمی کے لئے تلبینہ بہترین چیز ہے

﴿۱۸﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحَزَنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین و قوت دیتا ہے اور بعض غموں کو دور کرتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”التلبینہ“ یہ اس حریرہ کا نام ہے جو آٹے اور دودھ سے بنایا جاتا ہے چونکہ دودھ کا غرض زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس کو تلبینہ کہا گیا جس کا مادہ لبن ہے اس میں شہد وغیرہ میٹھا بھی ملایا جاتا ہے نرم ہوتا ہے پیا جاسکتا ہے دودھ ملا سواں جو عیدین میں ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے شیر خرمہ بھی اس کا مصداق ہے۔

”مجمة“ ای مریحۃ مفرحۃ، فرحت بخش، راحت رساں ہوتا ہے جس سے دل خوش ہو کر قوی ہو جاتا ہے اسی کا بیان اگلے جملہ میں آیا ہے گویا وہ اس کے لئے بیان ہے۔

## آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ خِيَاطًا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَطْنِ صَنْعَةٍ فَذَهَبَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ ذُبَاءٌ وَقَدِيدًا فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الذُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقِصْعَةِ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الذُّبَاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تیار کئے ہوئے کھانے پر مدعو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں بھی گیا اس نے جو کی روٹی اور شوربالا کر دسترخوان پر رکھا جس میں کدو اور خشک گوشت تھا چنانچہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو چونکہ بہت مرغوب تھا اس لئے آپ پیالے کے کناروں میں سے کدو کو تلاش کر کر کے کھاتے تھے اسی لئے اس دن کے بعد سے میں کدو کو بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”خیاط“ درزی کو کہتے ہیں اس خوش قسمت نے آنحضرت کی دعوت کی شوربے میں خشک گوشت کے ٹکڑے تھے اور کدو کے

پارچے تھے ”قدید“ خشک گوشت کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں کدو اور لوکی اور ٹینڈہ سب ایک ہی مزاج کی سبزی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غریبوں کی دعوت قبول کرنا مسنون طریقہ ہے اور اپنے خادم کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا چاہئے اور برتن کے اندر مختلف چیزیں ہوں تو اس کا انتخاب کرنا اور لینا جائز ہے بشرطیکہ شرکاء پر گراں نہ ہو۔

## آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو لازم نہیں آتا

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمِيَّةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَذَعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسَّكِينِ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عمرو بن امیہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کا شانہ جو آپ کے ہاتھ میں تھا چھری سے کاٹتے تھے پھر آپ کو اسی دوران نماز کے لئے بلایا گیا تو آپ نے شانہ کو اس چھری کو کہ جس سے وہ شانہ کاٹ رہے تھے وہیں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کی آپ نے اس وقت وضو نہیں کیا کیونکہ آپ وضو سے تھے۔ (بخاری، و مسلم)

## توضیح

”یحتز“ ای یقطع، چھری کے ساتھ کاٹنے کو کہتے ہیں اگر گوشت سخت ہو تو اس کو چھری سے کاٹنا بہتر ہے لیکن اگر گوشت نرم ہو تو اس کو چھری سے کاٹنا مناسب نہیں بلکہ اعام کا ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل حق جب نماز کی اذان سنتے ہیں تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو لازم نہیں آتا ہے جس طرح کہ بعض حضرات کا خیال ہے۔

## آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی

﴿۲۱﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو بہت پسند فرماتے تھے۔ (بخاری)

## توضیح

”الحلواء“ حلواء سے مراد مطلق میٹھی چیز ہے اس کے بعد العسل کا ذکر تخصیص بعد تعمیم ہے اور اگر حلواء سے معروف حلوہ مراد ہو تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے البتہ خاص کر نا محل نظر ہے بدعتی لوگ حلوہ کی بہت تعریف کرتے ہیں حدیث میں میٹھی چیز مراد ہے۔ عالیشان طبائع کے لوگ میٹھی چیز کو پسند کرتے ہیں مٹھاس جگر کی غذا ہے اور خوشبودل کی غذا ہے۔



## سرکہ بہترین سالن ہے

﴿۲۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُذْمَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا گھر والوں نے کہا کہ ہمارے پاس سالن نہیں ہے البتہ سرکہ ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ منگوایا اور اس کے ساتھ روٹی کھانے لگے اور یہ فرماتے تھے کہ سرکہ بہترین سالن ہے سرکہ بہترین سالن ہے۔ (مسلم)

ادام سالن کو کہتے ہیں اور الخل سرکہ کو کہتے ہیں سرکہ کم خرچ بالانشین سالن ہے ادام بھی ہے طعام بھی ہے اور بدن کے لئے مفید بھی ہے۔

## کھمبی کے فوائد

﴿۲۳﴾ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاوُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور حضرت سعید ابن زیدؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھنسی من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفاء ہے۔ (بخاری، مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ کھنسی اس من میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔

## توضیح

”الکماء“ اس کی جمع اکمؤ ہے زمین اور پہاڑ میں بوسیدہ لکڑیوں اور بعض درختوں کی جڑوں کے پاس یہ نبات پیدا ہوتا ہے اس کی کئی اقسام ہیں ہمارے ہاں دو مشہور ہیں اس کو اردو میں کھنسی اور ہماری زبان میں خرڑی کہتے ہیں یہ موسم برسات میں ہوتے ہیں آنحضرت نے فرمایا کہ یہ آنکھوں کے لئے شفاء ہے اس کو خم الارض بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جڑ بی کی مانند ایک زمینی نبات ہے دودھ میں یا پانی میں پکاتے ہیں یہ عمدہ گوشت کی طرح لذیذ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نعمت ہے جس طرح بنی اسرائیل کو صحراء میں بطور نعمت من وسلوا عطا کیا گیا۔ آنحضرت نے اس کا ایک فائدہ یہ بتایا کہ اس کے پانی کو اگر نچوڑ لیا جائے اور رات کو ایک ایک قطرہ آنکھ میں ڈالا جائے تو نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ باب الطب میں اس کا بیان انشاء اللہ آئے گا۔

## لکڑی اور کھجور ملا کر کھانے کا حکم

﴿۲۴﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عبداللہ بن جعفرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی اور تازہ کھجور ملا کر کھاتے دیکھا ہے۔ (بخاری و مسلم)  
رطب تر کھجور کو کہتے ہیں اور القشاء لکڑی کو کہتے ہیں جس کے لمبے لمبے پھل ہوتے ہیں گویا سانپ ہیں کھجور گرم ہوتی ہے اور لکڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اس طرح دونوں کو ملا کر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔

## پیلو کے پھل کا بیان

﴿۲۵﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ فَقِيلَ أَكُنْتَ تَرْغَى الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مقام مر الظہران میں تھے جو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے اور پیلو کے پکے پکے پھل جمع کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو پھل سیاہ ہو وہ لے لو کیونکہ وہ اچھا ہوتا ہے۔ اور فائدہ بھی پہنچاتا ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور کونسا نبی ہے جس نے بکریاں نہیں چرائی ہیں۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”بمر الظہران“ یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے یہیں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ ”نجنی“ چننے اور توڑ کر حاصل کرنے کے معنی میں ہے۔ ”الکباث“ پیلو کے پکے پھلوں کو کہتے ہیں ”ای النضیج من ثمر الاراک“ (مرقات)۔

”وہل من نبی“ صحابہ کرام نے جب آنحضرت سے یہ سنا کہ پیلو کے پھلوں میں سے سیاہ کھاؤ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے تو اس پر صحابہ نے اندازہ لگایا کہ یہ معلومات صرف ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو صحراء میں بکریوں کو چراتے ہیں اس وجہ سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے بکریاں چرائیں ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ کی طرف اشارہ کیا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں ہیں اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ بکری ایک عاجز اور کمزور حیوان ہے مگر طبعی طور پر چرنے میں نہایت متحرک واقع ہے درخت کا ایک پتہ ایک جگہ سے کھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے اگر معمولی پتھر سے اسے

مارا گیا تو بکری مرجاتی ہے جنگل میں بکری کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ لومڑی بھی اس کو پھاڑ سکتی ہے اس لئے بکریاں چرانے والوں کے مزاج میں عاجزی اعتدال اور سخت برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہی چیزیں ہیں جس کی ضرورت انبیاء کو پڑتی ہے تاکہ مستقبل میں عوام کے پاس جا کر کھلے سینے اور ٹھنڈے دماغ سے انہیں سمجھائیں بکریاں چرانے سے نظم و ضبط کی مہارت بھی حاصل ہو جاتی ہے جس سے انسانوں کو منظم کرنا اور انکی گرم نرم کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ملا علی قاریؒ نے مرقات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا جانتے ہو میں نے کیوں تجھے نبوت عطا کی؟ حضرت موسیٰ نے نفی میں جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دفعہ تم بکریاں چرا رہے تھے ایک بکری بھاگ کھڑی ہوئی تم اس کے پیچھے بھاگے خوب تھک گئے مگر تم نے بکری کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ او بیچارہ! تو نے اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالا اور مجھے بھی ڈالا میں نے جب دیکھا کہ حیوان پر تمہاری اس طرح شفقت ہے تو تجھے انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا۔

آج کل لوگ بغیر تربیت کے داعی بنتے ہیں اور نقصان کرتے ہیں، حدیث سے معلوم ہوا کہ نبوت ہمیشہ عاجز اور متواضع طبقات میں آئی ہے۔

### کھاتے وقت آنحضرت کی ایک کیفیت

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا وَفِي رَوَايَةٍ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقعاء کی ہیئت میں بیٹھ کر کھجوریں کھاتے دیکھا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کھجوروں کو جلدی جلدی کھا رہے تھے۔ (مسلم)

”مقعیا“ اقعاء سے ہے یہ بیٹھنے کی ایک ہیئت ہے جس میں آدمی سرین پر بیٹھ کر زانوں کو کھڑا رکھتا ہے یہ ایک متواضع صورت ہے ”ذریعاً“ جلدی جلدی کھا رہے تھے شاید کسی وجہ سے جلدی میں تھے۔

مورخہ ۶ ربیع الاول ۱۲۱۸ھ

### ساتھیوں کے ساتھ دودو کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ

﴿۲۷﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْرَنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دو کھجوروں کو جمع کرے

یعنی ایک ساتھ دو دو کھجوریں کھائے الایہ کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”ان یقرن“ ضرب و نضر دونوں سے آتا ہے قران دو کھجوروں کو ملا کر ایک ساتھ کھانے کو کہا گیا ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ کھانے میں سخت تنگی تھی، پھر جب وسعت آگئی تو یہ حکم موقوف و منسوخ ہو گیا اب دو کھجوروں کو ملا کر کھا سکتے ہیں۔ بہر حال ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں ایک ایک کھجور کھانا مستحب ہے ہاں اگر الگ کوئی کھا رہا ہو تو وہ تین تین بھی ملا کر ایک ساتھ کھا سکتا ہے اور اگر مجلس کے سارے ساتھی اجازت دیدیں پھر بھی دو کو ساتھ ملا کر کھا سکتا ہے جس طرح اسی حدیث میں مذکور ہے۔

### گھر میں کھجور رکھنے کی فضیلت

﴿۲۸﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرُ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ قَالَتْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے جس گھر میں کھجور ہو۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا۔ عائشہؓ جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر کے رہنے والے بھوکے ہیں آپ نے یہ الفاظ تین مرتبہ فرمائے۔ (مسلم)

توضیح

یعنی گھر میں اگر کھجور ہے تو گھر کے لوگ فقر و فاقہ میں نہیں ہیں اور نہ بھوکے ہیں اور اگر کھجور نہیں تو بھوکے ہیں، یہ حدیث ان لوگوں سے متعلق ہے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے ان کا گزارہ صرف کھجوروں سے ہوتا تھا۔ نیز اس حدیث میں کھجور کی فضیلت کا بیان ہے کہ گھر میں کھجور کا ہونا باعث برکت ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھجور کو گھر میں ذخیرہ کرنا جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر صرف کھجور ہو اور کچھ نہ ہو تو پھر بھی آدمی کو یہ شکایت جائز نہیں کہ گھر میں کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے۔

﴿۲۹﴾ وَعَنْ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلَا سِحْرٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت کوئی اور چیز

کھانے سے پہلے سات عجوہ کھجوریں کھائے گا اس کو اس دن کوئی زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”تمرات عجوة“ عجوہ مدینہ منورہ کی عمدۃ تر کھجوروں میں سے ہے سیاہ رنگ کی ہوتی ہے مٹھاس میں زیادہ میٹھی نہیں بلکہ معتدل ہوتی ہے اس کی گھٹلی گول ہوتی ہے دانہ بھی گول ہوتا ہے بہت مہنگی ہے ایک زمانہ میں سو ریال کے ایک کلو فروخت ہوتی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ صبح کے وقت اس کے سات دانے نہار منہ کھانے سے آدمی زہر اور سحر سے محفوظ رہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید عجوہ کے لئے دعا مانگی ہوگی کہ عجوہ میں یہ تاثیر ہو، سات کی عدد کا ذکر اللہ تعالیٰ کے علم پر ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے آئندہ عجوہ کی مزید تفصیل آرہی ہے۔

﴿۳۰﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِيْ عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً وَإِنَّهَا تَرِيَّاقٌ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالیہ کی عجوہ کھجوروں میں شفا ہے اور وہ زہر وغیرہ کے لئے تریاق کی خاصیت رکھتی ہے جبکہ اس کو دن کے ابتدائی حصے میں یعنی نہار منہ کھایا جائے۔ (مسلم)

توضیح

”العالیہ“ مدینہ منورہ کے اطراف کے علاقوں کو عوالی کہتے ہیں بعض عوالی تین سے آٹھ کلومیٹر دور تک واقع ہیں زیر بحث حدیث میں مدینہ منورہ ہی کے عوالی میں سے کسی ایک کا ذکر ہے۔

”اول البکرۃ“ یعنی صبح نہار منہ کھانے سے یہ فائدہ ہوگا تریاق ایک دوا کا نام ہے جو ہر کے لئے مفید ہوتی ہے کہتے ہیں۔

چون تریاق از عراق آوردہ شود  
ماز گزیدہ مردہ شود

آنحضرت کے گھر میں فاقے

﴿۳۱﴾ وَءَنْهَآ قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوْقِدُ فِيْهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ يُؤْتَى بِاللَّحْمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بعض مہینہ ہم پر ایسا گذرتا تھا کہ ہم اس میں آگ نہ جلاتے تھے یعنی بعض مرتبہ پورا پورا مہینہ ایسا گذرتا تھا کہ ہمارے گھر میں سامان خوراک نہ ہونے کی وجہ سے چولہے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی اور اس عرصہ میں ہماری

غذا کا انحصار صرف کھجور اور پانی پر ہوتا تھا۔ الا یہ کہ کہیں سے تھوڑا سا گوشت آجاتا تھا۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”لَحِم“ یہ لحم کی تصغیر ہے تقلیل کے لئے ہے یعنی باہر سے کبھی کوئی شخص تحفہ بھیجتا تو پھر ہم گوشت کھا لیتے ورنہ کھجور اور پانی پر گذر اوقات ہوتا تھا یاد رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فاقے اختیاری تھے یہ موجب عار نہیں بلکہ باعث فخر ہے تاکہ آپ کی ذات میں تمام انبیاء کی مختلف خوبیاں آجائیں۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری

آنچہ خواباں ہمہ دارند تو تنہا داری

آنحضرت کی شان فقیری میں شان قیصری تھی ع سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔

﴿۳۲﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ مَا شَبَعَ آلُ مُحَمَّدٍ يَوْمَئِذٍ مِنْ خُبْزٍ بَرٍّ إِلَّا وَاحِدُهُمَا تَمَرٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے دودن گیہوں کی روٹی سے اپنا پیٹ بھرا ہو اور ان دودنوں میں سے ایک دن کی غذا کھجور نہ ہوئی ہو۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”خبز بر“ یعنی گندم کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا ہاں جو سے بھرا ہوگا آنحضرت نے فقر و فاقہ اور ترک دنیا کے بارہ میں ایک ضابطہ اپنی ذات کے لئے مقرر فرمایا تھا دوسرا ضابطہ اہل بیت کے لئے تھا اور تیسرا ضابطہ عام امت کے لئے تھا اپنے لئے خالص فقر تھا اہل بیت کے لئے کچھ رکھنے کی اجازت تھی امت کے لئے آسانی رکھی۔

پانی اور کھجور سے کبھی پیٹ نہیں بھرا

﴿۳۳﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبَعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم نے آپ کی حیات میں کبھی دو سیاہ چیزوں یعنی کھجور اور پانی سے پیٹ نہیں بھرا۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”الاسودین“ دو سیاہ سے مراد پانی اور کھجور ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پانی کا ملنا کیا مشکل تھا کہ اس سے پیٹ سیر نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی نہار منہ پانی نہیں پی سکتا ہے جب پیٹ میں کھجور وغیرہ نہ ہو تو نہار منہ پانی بھی استعمال نہیں ہو سکتا

ہے اس لئے کھجور نہ ملنے سے گویا پانی بھی نہیں ملا کہ پیٹ بھرا جا سکے اسودین کا لفظ بطور تغلیب ہے ورنہ پانی کالا نہیں ہوتا۔

﴿۳۴﴾ وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَلْسْتُ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَمْلَأُ بَطْنَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت نعمان ابن بشیرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کیا تم لوگ اپنے کھانے پینے میں جس طرح چاہتے ہو عیش نہیں کرتے؟ یعنی تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اپنی خواہش کے مطابق وسعت و افراط اختیار کر کے عیش و راحت کی زندگی گزار رہے ہو جب کہ میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کونا کارہ کھجوریں بھی اس قدر میسر نہیں ہوتی تھیں جو آپ کا پیٹ بھر دیتیں۔ (مسلم)

### توضیح

”الدقل“ ردی کھجور کو قُل کہتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیرؓ نے یہ کلام یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ سے کیا ہے یا تابعین سے کیا ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی جہاں میں عیش و عشرت کے لئے نہیں آئے تھے اسی وجہ سے آپ نے دنیا کی لذتوں سے اجتناب کیا جو کچھ پاس ہوتا تھا دوسروں پر نثار کرتے تھے اور خود فقر و فاقے برداشت کرتے تھے یہ فقر اختیار ہی تھا۔

چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو صرف کھجور پر گزارہ کرنا پڑتا تھا کوئی اور غذا نہیں ہوتی تھی پھر ایک حدیث میں ہے کہ کھجوریں بھی نہایت قلیل مقدار میں ہوتی تھیں پھر فرمایا کہ وہ قلیل کھجوریں بھی ردی قسم کی ہوتی تھیں آپ نے زہد و قناعت کی زندگی گزار کر امت کو ترک دنیا کی تعلیم و تربیت کا نمونہ دیا۔ قصیدہ بردہ میں ہے۔

ظَلَمْتَ سَنَةً مِنْ أَحْيَالِ الظَّلَامِ إِلَى

أَنْ أَشْكُتَ قَدَمَاهُ الضَّرْمِ مِنْ وَرَمٍ

وَشَدَّ مِنْ سَغَبِ أَحْشَائِهِ وَطَوَى

تَحْتَ الْحَجَارَةِ كَشْحاً مَتَرَفِ الْإِذَامِ

کیا لہسن کھانا کیسا ہے؟

﴿۳۵﴾ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى وَانَّهُ بَعَثَ إِلَى يَوْمٍ بِقِصْعَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِأَنَّ فِيهَا نُومًا فَسَأَلَتْهُ أَحْرَامُ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَكْرَهَهُ

مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ایوب انصاریؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس میں کھاتے اور باقی بچا ہوا میرے پاس بھیج دیتے ایک روز آپ نے میرے پاس ایسا کاسہ بھیجا جس میں کھانا تھا اور اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا تھا اس لئے کہ اس میں لہسن تھا میں نے پوچھا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کی بولے سبب میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو ایوبؓ نے غرض کیا تو پھر میں بھی اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا کیونکہ جس چیز کو آپ نے ناپسند کیا ہے اس کو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ (مسلم)

توضیح

”اتنی بطعام“ یمن کے بادشاہ تبع نے مدینہ پر حملہ کیا جس میں اس کا بیٹا مارا گیا اس نے مدینہ منورہ کو ویران کرنے کی قسم کھالی مدینہ کے بعض علماء یہود نے ان سے کہا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ یہ نبی اخر الزمان کی ہجرت کی جگہ ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئیں گے بادشاہ نے توبہ کر لیا اور ایک مکان بنادیا کہ جب وہ نبی مدینہ آئیگا تو اس مکان میں ٹھہرے گا اس نے ایک رقعہ بھی لکھا جن میں چند اشعار تھے دو شعر یہ ہیں۔

شَهِدْتُ عَلَى أَحْمَدَانَ هـ

رَسُولَ الْمَنَ هـ بَارِي النَّسَمِ

فَلَوْ مَدَّ عَمْرَى إِلَى عَمْرَهـ

لَكُنْتُ وَزِيرًا لَهُ وَابْنِ عَمِ

حضرت ابو ایوب انصاریؓ اسی بادشاہ کے خاندان میں سے تھے اور اتفاق سے اسی مکان میں رہ رہے تھے آنحضرت جب مدینہ تشریف لائے تو ہر انصاری چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر میں ٹھہریں آنحضرت نے فرمایا میری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو یہ جہاں بیٹھ گئی میں وہیں ٹھہروں گا۔ چنانچہ اونٹنی آ کر ابو ایوب انصاریؓ کے گھر کے سامنے رک گئی انصار مدینہ جب دعوت کرتے تو کھانا پکا کر اس مکان میں لاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھاتے اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ”اذا اتی بطعام“ یعنی جب طعام لایا جاتا تھا۔

لہسن کی وجہ سے آپ نے کھانا قبول نہ کیا اور ساتھیوں کو کھلا دیا معلوم ہوا کپا لہسن کھانا حرام نہیں ہے البتہ مکروہ ہے۔



پیاز لہسن اور بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا منع ہے

﴿۳۶﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا أَوْ لِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِقَدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ كُلْ فَإِنِّي أَنُجِّئِي مَنْ لَا تُنَاجِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن یا کچکی پیاز کھائے ہوئے ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہم سے الگ رہے یعنی ہماری مجالس میں نہ آئے یا یہ فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے یعنی ہماری مسجد میں نہ آئے یا یہ فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ کہیں جانے کے بجائے اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں از قسم ترکاری سبزیاں تھیں یعنی لہسن، پیاز اور گندنا وغیرہ آپ کو اس میں بمحسوس ہوئی تو اپنے صحابہ سے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کسی خادم سے فرمایا کہ اس کو اس فلاں شخص کے پاس لے جاؤ اور پھر اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس کو تم کھاؤ میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں جس ہستی کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہوں اس کے ساتھ تم سرگوشی نہیں کرتے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”مسجدنا“ راوی اور روایت بیان کرتے ہوئے دو جگہ شک ہو گیا اس لئے ”او“ کو ذکر کیا ہے جو شک کے لئے آتا ہے ہر وہ شخص جس نے کچا پیاز یا لہسن یا مولی یا گندنا یا تمباکو یا نسوار یا پان استعمال کیا ہو اور منہ سے بدبو اٹھ رہی ہو یا ویسے بیماری کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہو تو ایسے شخص کے لئے مسجد میں جانا مکروہ ہے جب تک بدبو زائل نہیں ہو جاتی مسجد کے علاوہ عام لوگوں کے مجموعوں میں اختلاط کرنا بھی مکروہ ہے ”قربوا“ اور ”کل“ کے الفاظ میں تعارض نہیں الگ الگ مخاطب ہو سکتے ہیں جمع بھی اور مفرد بھی۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کھانے کی علت یہ بیان فرمائی کہ میری سرگوشی فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے اس لئے احتیاط کرتا ہوں تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے تم کھاؤ۔

﴿۳۷﴾ وَعَنِ الْمِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيكَرِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت مقداد ابن معدیکربؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ناپ تول کر لیا کرو تمہارے لئے اس میں برکت عطا کی جائے گی۔ (بخاری)

”کیلوا“ کیل سے ہے پیمانہ کرنے کے معنی میں ہے چونکہ جو چیز پیمانہ کی جاتی ہے وہ غلہ ہوتا ہے اور غلہ کھایا جاتا ہے اس

لئے اطعمہ میں ذکر کیا ورنہ یہ کتاب البیوع کا مسئلہ ہے وہاں لکھا گیا ہے۔

## کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا

﴿۳۸﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رُفِعَ مَائِدَتُهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرُ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودَعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں آپ اس طرح فرماتے سب تعریف اللہ کے لئے ہے ایسی تعریف جو بہت ہے اور پاکیزہ یعنی ظاہر داری اور دکھاوے سے خالی ہے جس میں برکت عطا کی گئی ہے یعنی وہ ایسی بابرکت حمد ہے کہ ہمیشہ جاری و قائم رہے اور کبھی منقطع نہ ہو وہ نہ کفایت کی گئی ہے اور نہ اس سے بے پروائی ہو اے رب ہمارے۔ (بخاری)

## توضیح

”غیر مکفی“ اس لفظ سے لیکر آخر تک سارے جملوں اور پورے کلام کو حمد کی صفت بھی بنایا جاسکتا ہے اور طعام کی صفت بھی بن سکتا ہے دونوں صورتوں میں مطلب میں فرق آئے گا اگر حمد کی صفت ہو تو مطلب اس طرح ہوگا کہ اس حمد کو ہم ہمیشہ اللہ کے لئے قائم و دائم رکھیں گے کسی مرحلہ پر اس کو ہم کافی نہیں سمجھیں گے بلکہ مسلسل جاری رکھیں گے۔ ”و لا مودع“ یعنی اس تعریف کو ہم ترک کر کے نہیں چھوڑیں گے بلکہ مسلسل جاری رکھیں گے۔ ”و لا مسغنی عنہ“ اور نہ ہم اس حمد سے مستغنی ہو سکتے ہیں بلکہ اس کی طرف ہم ہر وقت محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس حمد کو کسی حد پر نہ کافی سمجھا جائے نہ اس کو ترک کیا جائے اور نہ اس سے بے نیازی برتی جائے اگر ان جملوں کو طعام اور کھانے کی صفت بنائی جائے تو پھر ان جملوں کا مطلب اس طرح ہوگا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کسی وقت اس کو کافی نہ سمجھا جائے بلکہ ہر وقت اس کی طرف احتیاج رکھنا چاہیے، ”و لا مودع“ یعنی نہ اس کی تلاش اور طلب کو ترک کیا جاسکتا ہے اور نہ اس سے استغنا برتی جاسکتی ہے۔

## کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو

﴿۳۹﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرِبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَنَدُ كُرْحَدِيثِي عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مَاشِعَ آلِ مُحَمَّدٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا فِي بَابِ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے راضی و خوش ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ کھائے اور اس پر خدا کی حمد و ثنا کرے یا ایک مرتبہ پیئے اور اس پر خدا کی حمد و ثنا کرے۔ (مسلم)

اور دو روایتیں جن میں سے ایک روایت حضرت عائشہؓ کی ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہؓ کی ہے ان دونوں روایتوں کو ہم انشاء اللہ باب فضل الفقراء میں نقل کریں گے یعنی یہ دونوں روایتیں صاحب مصابیح نے کتاب الاطعمہ میں نقل کی تھیں لیکن ہم نے ان کو باب فضل الفقراء میں نقل کیا ہے۔

یعنی جس کا کھانا اس کا گاہِ جب وہی بادشاہ کھلا رہا ہے تو تعریف بھی اسی کی ہونی چاہئے کیونکہ ”الانسان عبد الاحسان“۔

## الفصل الثانی

### کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو

﴿۴۰﴾ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا طَعَامٌ فَلَمْ أَرِطَعَامًا كَانَ أَكْبَرَ بَرَكَتِهِ مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا وَلَا أَقَلَّ بَرَكَتِهِ فِي آخِرِهِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هَذَا قَالَ إِنَّا ذَكَّرْنَا اسْمَ اللَّهِ حِينَ أَكَلْنَا ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

حضرت ابو ایوب انصاریؓ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ کھانا سامنے لایا گیا کھانے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میں نے اس کھانے میں اس وقت جو بڑی برکت دیکھی جب کہ ہم نے کھانا شروع کیا تھا ایسی برکت میں نے کسی اور کھانے میں نہیں دیکھی اور اس کھانے کے آخر میں میں نے جو کمتر برکت دیکھی ایسی کم برکت بھی اور کسی کھانے میں نہیں دیکھی چنانچہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس کا کیا سبب تھا کہ اس کھانے میں شروع میں تو اتنی زیادہ برکت دیکھی گئی اور آخر میں اس طرح بے برکتی نظر آئی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درحقیقت کھانے کے شروع میں ہم نے اللہ کا نام لیا تھا لیکن بعد میں ایک ایسا شخص آکر بیٹھ گیا جس نے کھانا کھایا مگر اللہ کا نام نہیں لیا لہذا اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھایا اس سبب سے آخر میں بے برکتی ہوئی۔ (شرح السنہ)

### بھول جائے تو کھانے کے درمیان بھی بسم اللہ پڑھو

﴿۴۱﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے بیٹھے اور شروع میں اپنے کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے اور کھانے کے درمیان یاد آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ (ترمذی، ابوداؤد)

﴿۴۲﴾ وَعَنْ أُمِّةِ ابْنِ مُحْشِيٍّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت امیہ ابن محشیؓ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ یعنی بسم اللہ کہے بغیر کھانا کھانے لگا یہاں تک کہ جب اس کھانے میں سوائے ایک لقمہ کے کچھ باقی نہیں رہا اور اس کو یاد آیا کہ میں کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول گیا ہوں تو اس نے وہ آخری لقمہ اپنے منہ میں لے جاتے وقت کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر ہنسے اور پھر فرمایا کہ شیطان اس شخص کے ساتھ برابر کھانا کھا رہا تھا لیکن جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس شیطان نے وہ سب کچھ اگل دیا جو اس کے پیٹ میں تھا۔ (ابوداؤد)

”استقاء“ جو کچھ پیٹ میں تھا اس کو قے کر لیا جو نگلا تھا اس کو اگل دیا۔

### کھانے کے بعد کی دعا

﴿۴۳﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے ہمیں کھانے کو دیا۔ ہمیں پینے کو دیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

﴿۴۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ لَصَابِرٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارِمِيُّ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَةَ عَنْ أَبِيهِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ (ترمذی) ابن ماجہ اور دارمیؓ نے اس روایت کو سنان بن سناء سے اور انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے۔

﴿۴۵﴾ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابویوبؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے اور پیتے تو فرماتے ہر طرح کی تعریف اللہ کو سزاوار ہے جس نے کھلایا پلایا اور اس کھانے پینے کی چیز کو آسانی کے ساتھ خلق سے اتارا اور اس کے نکلنے کی راہ پیدا فرمائی۔ (ابوداؤد)

## کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھولیا کرو

﴿۳۶﴾ وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ إِنَّ بَرَكََةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكََةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے میں برکت کا ذریعہ کھانے کے بعد وضو کرنا ہے چنانچہ قبولیت اسلام کے بعد ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے اس مضمون کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں برکت کا ذریعہ کھانے سے پہلے وضو کرنا ہے اور کھانے کے بعد وضو کرنا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

### توضیح

”فی التوراة“ تورات میں کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور منہ میں کلی کرنے کا بیان تھا صحابی نے وہ پڑھا تھا تو حضور اکرم کے سامنے تذکرہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے اور کھانے کے بعد بھی۔ دونوں باعث برکت ہے گویا آنحضرت نے اشارہ کیا کہ شریعت محمدیہ کامل و مکمل بلکہ اکمل دین ہے اس لئے تکمیل شریعت کا تقاضا ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے اور بعد میں بھی ہاتھ دھونا ہے یہاں وضو سے اصطلاحی نماز والا وضو مراد نہیں ہے بلکہ اس سے لغوی وضو مراد ہے جو صرف ہاتھ دھونا اور منہ میں کلی کرنا ہے اور یہی وضو مہمامت النار کے لئے ہے جلد اول کتاب الطہارۃ میں یہ مسئلہ تفصیل سے لکھا گیا ہے۔

﴿۳۷﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَدِمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِيكَ بِوُضُوءٍ قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے واپس آئے تو آپ کے سامنے کھانا لایا گیا بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہم آپ کے سامنے وضو کا پانی لائیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے حدیث کے بعد وضو کرنے کا حکم بطریق وجوب اس صورت میں دیا گیا ہے جبکہ میں نماز کے لئے کھڑا ہونے کا ارادہ کروں۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی) اور ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے۔

یعنی اصطلاحی شرعی وضو تو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی نماز کے لئے کھڑا ہو اور وضو نہ ہو اس وقت وضو فرض ہے کھانا کھانے

کے لئے اصطلاحی وضو لازم نہیں آتا ہے۔

### اطراف سے کھاؤ نیچ کو بچاؤ

﴿۴۸﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى بِقِصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَقَالَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَهَ تَنْزُلُ فِي وَسْطِهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ يَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَهَ تَنْزُلُ مِنْ أَعْلَاهَا

اور حضرت ابن عباسؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن آپ کی خدمت میں ثرید کا ایک پیالہ لایا گیا آپ نے مجلس میں موجود صحابہؓ سے فرمایا کہ اس پیالے کے کناروں سے کھاؤ اس کے درمیان میں سے نہ کھاؤ کیونکہ برکت اس کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوداؤد کی روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے بیٹھے تو اس کو چاہئے کہ وہ پیالہ کے اوپر سے نہ کھائے البتہ پیالے کے نیچے سے کھائے کیونکہ برکت اوپر کے حصے میں نازل ہوتی ہے۔

### توضیح

”کلو امن جوائبہا“ رکابی کے درمیان میں کھانے کا بڑا حصہ ہوتا ہے برکت و ادب طعام یہ ہے کہ اس بڑے حصہ کے اطراف و جوائب سے کھایا جائے یہ نہیں کہ کھانے کی ابتدا ہی درمیان سے کرے اور اس کو گرائے اس میں گنوار پن بھی ہے اور برکت کے لئے نقصان بھی ہے اعلیٰ رکابی سے یہی اوپر والا حصہ مراد ہے اور اسفل رکابی سے نچلا حصہ اور اطراف مراد ہیں ”ثرید“ اس کھانے کو ثرید کہتے ہیں کہ روٹیاں شوربے میں ڈال کر خوب نرم کیا جائے اور پھر کھایا جائے لذیذ بھی ہے زود ہضم بھی ہے اور کم خرچ بالانشین بھی ہے۔

### آنحضرت نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا

﴿۴۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَارَوْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَكِنًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو آدمی بھی نہیں چلتے تھے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”متکاً“ ایک لگا کر کھانا متکبرین مقبرین کی عادت ہے کہ کھا بھی رہے ہیں اور بے احتیاجی بھی ظاہر کر رہے ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رزق سے بالکل بے نیاز ہیں۔

”ولا یطاعقبہ رجلاً“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آگے آگے ساتھیوں کے جلوہ میں نہیں جاتے تھے بلکہ وسط میں ہوتے تھے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ بالکل آخر میں ہوتے تھے اور دو آدمی بھی آپ کے پیچھے نہیں ہوتے تھے زیادہ کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ہاں اگر ایک آدمی ہوتا تو اس کی نفی نہیں ہے جیسے حضرت انسؓ اکیلے ہوتے تھے۔ بہر حال یہ عام معمول کا ضابطہ نہیں ہے۔ بلکہ کبھی ایک صورت ہوتی تھی کبھی دوسری صورت ہوتی۔ ”عقب“ ایڑی کو کہتے ہیں مراد پیچھے ہونا ہے۔

## مسجد میں کھانے کا مسئلہ

﴿۵۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَلَمْ نَزِدْ عَلَى أَنْ مَسَحْنَا أَيْدِينَا بِالْحَصْبَاءِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

اور حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی اور گوشت پر مشتمل کھانا لایا گیا جب کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے چنانچہ اس کھانے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور آنحضرت کے ہمراہ ہم نے بھی کھایا پھر کھڑے ہوئے اور آنحضرت نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ ہم نے بھی نماز ادا کی اور اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ان کنکریوں سے پونچھ ڈالا تھا جو مسجد میں تھیں۔ (ابن ماجہ)

## توضیح

”فاسکل“ اگر مجبوری اور ضرورت ہو تو مسجد میں کھانا پینا جائز ہے یا کوئی مسافر ہے اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا دینی طلبہ ہیں یا محلہ کا آدمی ہے مگر گھر میں جگہ تنگ ہے اور وہ مجرد ہے غیر شادی شدہ ہے یا کوئی معتکف ہے تو ان لوگوں کے لئے مسجد میں کھانا جائز ہے بشرطیکہ مسجد میں کسی گندگی پھیلنے کا احتمال نہ ہو اگر گندگی پھیلتی ہو تو پھر کھانا حرام یا مکروہ ہے آج کل لوگ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں کھانے کو جائز کرواتے ہیں تو ان کو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہئے ایک یہ کہ اعتکاف اگر چوبیس گھنٹے کا ہے تو روزہ رکھنا لازم ہے۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف برائے عبادت ہوتا ہے اکل و شرب کو جائز کرنے کی نیت سے اعتکاف نہیں

ہوتا لہذا عبادت کی غرض سے اعتکاف کریں کھانا خود آجائے گا پھر اعتکاف میں فضول گپ شپ کرنا بھی ممنوع ہوگا۔  
 ﴿۵۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تَعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکایا بھنا ہوا گوشت لایا گیا۔ اس میں سے آپ کو دست کا حصہ دیا گیا کیونکہ دست کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا چنانچہ آپ نے اس کو دانتوں سے نوح نوح کے کھایا۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

### توضیح

بے تکلفی اور سادگی کی غرض سے آنحضرت نے منہ سے گوشت کاٹ کر کھایا ہے اگر گوشت نرم ہے تو ایسا ہی کرنا چاہئے۔  
 ”فہس“ دانتوں سے نوح نوح کر کھانے کو ہس کہتے ہیں۔

﴿۵۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ وَانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّبَهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ لَا يَسَ هُوَ بِالْقَوِي

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو چھری سے نہ کاٹو یعنی چھری سے کاٹ کاٹ کر نہ کھاؤ کیونکہ یہ عجیبوں کا طریقہ ہے بلکہ گوشت کو دانتوں سے نوح نوح کر کھاؤ کیونکہ دانتوں سے نوح کر کھانا زیادہ لذت بخش اور زیادہ خوش گوار ہے۔ اس روایت کو ابو داؤد نے اور تبہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور دونوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث باعتبار سند کے قوی نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے۔

### توضیح

”لا تقطعوا“ یعنی بغیر ضرورت گوشت کو چھری سے کاٹ چھانٹ کر کھانا متکبر اعاجم کا کام ہے گوشت اگر خوب پکا ہو نرم ہے تو منہ میں رکھ کر دانتوں سے کاٹنا چاہئے اس میں کئی فوائد ہیں چاقو سے زخمی ہونے کا خطرہ نہیں تکبر و غرور کا خطرہ نہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا خطرہ نہیں اور اگر مجبوری ہے تو مجبوری ہے اس میں نرمی ضروری ہے۔

”وانهسوه“ نہس دانتوں کے کناروں سے کاٹنے اور نوح کر کھانے کو کہتے ہیں ”اھنا“ ہنا سے ہے لذیذ اور موافق طبع کھانے کو کہتے ہیں ”وامرأ“ جو آسانی سے گزر جائے بوجھ نہ بنے یعنی فرحت بخش اور خوش گلوڑ دھضم ہے ایت ﴿هنيأمرأ﴾ کی طرف اشارہ ”فانہ“ نہس کی طرف ضمیر راجع ہے۔



## بیماری کے لئے پرہیز ضروری ہے

﴿۵۳﴾ وَعَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَالٌ مُعَلَّقَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ مَهْ يَاعَلِيٍّ فَإِنَّكَ نَاقَةٌ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سَلْقًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَلِيٍّ مِنْ هَذَا فَأَصْبَ فَإِنَّهُ أَوْفَقَ لَكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ

اور حضرت ام منذر انصاریہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے آپ کے ہمراہ حضرت علیؓ بھی تھے اس وقت ہمارے گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوشوں میں سے کھانا شروع کیا اور آپ کے ساتھ حضرت علیؓ بھی کھانے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ اے علیؓ تم ان کھجوروں کو کھانے سے اجتناب کرو کیونکہ تمہیں کمزوری لاحق ہے یعنی تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور تم پر ضعف کا اثر غالب ہے اس لئے تمہارے لئے پرہیز ضروری ہے حضرت ام منذرؓ کہتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء کے لئے چند روز اور جو تیار کئے تھے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیؓ تم اس میں سے کھاؤ اس لئے کہ یہ تمہارے لئے بہت مفید اور موافق ہے۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

## توضیح

”دوال“ اس کا مفرد دالیہ ہے کھجور کے کھجوں اور نیم پختہ خوشوں کو کہا جاتا ہے جس کو بُسر کہتے ہیں جب پک جائے تو اس کو رطب کہتے ہیں۔

”مہ یاعلیٰ“ یعنی مت کھاؤ، نہ کر (مہ کوہ) ”ناقہ“ نقاہت کمزوری کو کہتے ہیں بیمار آدمی جب صحت یاب ہو جاتا ہے مگر کمزور رہتا ہے اس کو ناقہ کہتے ہیں چونکہ بیماری کی وجہ سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے تو ثقیل چیز کا ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔

## نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھر چن پسند تھی

﴿۵۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الثُّفْلُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھر چن یعنی تہ دیگی اچھی لگتی تھی۔ (ترمذی، بیہقی)

## توضیح

کھرچن اور کھرچل اصل میں ہانڈی کی تہہ میں لگی ہوئی چیز کا نام ہے جس کو تہہ دیگی بھی کہتے ہیں اس میں معمولی سی جلن کا اثر بھی ہوتا ہے یہ لذیذ ہوتی ہے اور اس کے کھانے میں تواضع و انکساری بھی ہے متکبر لوگ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں تہہ دیگی زیادہ تر چاول کے پکانے میں ہوتی ہے۔

## کھانے کے بعد برتن صاف کرنا مغفرت کا ذریعہ ہے

﴿۵۵﴾ وَعَنْ نُبَيْشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ فِي قِصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقِصْعَةُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهَ وَاللَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ اور حضرت نبیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی پیالے یا تشری میں کھائے اور پھر اس کو انگلیوں سے چاٹ لے تو وہ پیالہ اس کے لئے استغفار کرتا ہے۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

”لحسها“ یعنی انگلیوں سے برتن کو چاٹ لیا اور برتن کو صاف کیا۔

## کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر سویا کرو

﴿۵۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ عَمْرٌ لَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی ہو کہ کھانے کے بعد اس نے اس کو دھویا نہ ہو اور پھر اس کو کوئی ضرر پہنچ جائے یعنی ایذا پہنچانے والے جو جانور کھانے کی بویا چکنائی پر آتے ہیں وہ اس کو ضرر پہنچائیں تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کیونکہ چکنے ہاتھوں کے ساتھ سو کر وہ اس ضرر کا خود سبب بنا ہے۔ (ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ)

## توضیح

”فلا یلومن“ یعنی کھانا کھایا اس کی وجہ سے ہاتھ پر دوسمٹ و چکنائیت آگئی اس کو دھوئے بغیر دو پہریا عشا کے وقت سو گیا اور کسی حشرات الارض چوئی وغیرہ نے آکر کاٹ لیا یا کھانے کی خوشبو کی وجہ سے چاٹ لیا اور نقصان پہنچ گیا تو یہ آدمی صرف اپنے آپ کو ملامت کرے کیونکہ شریعت نے اس کی رہنمائی کی تھی اس نے عمل نہیں کیا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

۱۹۷۲ء میں دارالعلوم کراچی میں میرے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیات کو سویا ہاتھ کے ساتھ سالن کی خوشبو باقی تھی صبح تک نیند کی حالت میں چیونٹیوں نے برا حشر کیا تھا اور ہاتھ سو جا ہوا تھا۔

### آنحضرت کو خرید پسند تھا

﴿۵۷﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرِيدُ مِنَ الْخُبْزِ وَالثَّرِيدُ مِنَ الْحَيْسِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک روٹی کا خرید اور حیس کا خرید سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا تھا۔ (ابوداؤد)

### توضیح

خرید دو قسم کا ہوتا ہے ایک روٹی اور شوربا کا خرید ہے یہ بھی آپ کو پسند تھا دوسرا ”حیس“ کے نام سے خرید ہوتا ہے۔ روٹی کا خرید اس طرح ہے کہ روٹی کے ٹکڑے شوربے میں توڑ کر ڈال کر بھگو دیا اور خرید بنالیا اور پھر کھالیا۔ حیس کا خرید اس کھانے کو کہتے ہیں جو چھوہارے، گھی اور پیرو وغیرہ کو ملا کر مالیدہ کی طرح بنایا جائے یہ بھی حضور اکرم کو پسند تھا دونوں زود مضم فرحت بخش اور کم خرچ بالائین ہیں۔

### زیتون کی فضیلت

﴿۵۸﴾ وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتُ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ

اور حضرت ابواسید انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیت یعنی روغن زیتون کو کھایا کرو اور بدن پر اس کی مالش کیا کرو کیونکہ وہ ایک بابرکت درخت زیتون کا تیل ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

### توضیح

زیتون کھایا بھی جاتا ہے اور جسم پر اس کے تیل سے مالش بھی کی جاتی ہے ”شجرۃ مبارکہ“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ حدیث میں اسی آیت کی طرف اشارہ ہے۔

## سرکہ سالن ہے

﴿۵۹﴾ وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعِنْدَكَ شَيْءٌ قُلْتُ لَا إِلَّا خُبْزٌ يَابِسٌ وَخَلٌّ فَقَالَ هَاتِنِي مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أَذْمٍ فِيهِ خَلٌّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ اور حضرت ام ہانی جو ابوطالب کی بیٹی اور حضرت علیؑ کی ہمیشہ تھی کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کھانے کے لئے تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ سوکھی روٹی اور سرکہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا وہی لے آؤ وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکہ ہو۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

یعنی جس گھر میں سرکہ موجود ہو تو نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں سالن نہیں ہے خود یہ سرکہ بہترین سالن ہے دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے اور کم خرچ بالانشین بھی ہے۔

## کھجور بھی سالن کا کام کرتی ہے

﴿۶۰﴾ وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً فَقَالَ هَذِهِ إِذَا مَ هَذِهِ وَأَكَلْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ اور حضرت یوسف بن عبد اللہ ابن سلامؓ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھ کر فرمایا کہ یہ کھجور روٹی کے ٹکڑے کا سالن ہے۔ (ابوداؤد)

## غیر مسلم معالج سے رجوع کرنا جائز ہے

﴿۶۱﴾ وَعَنْ سَعْدِ قَالَ مَرَضْتُ مَرَضًا أَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِي وَقَالَ إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْتُودٌ إِنَّتِ الْحَارِثُ بْنُ كُلْدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَاهُنَّ بَنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيْلِكَ بِهِنَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت سخت بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کی غرض سے میرے پاس تشریف لائے آپ نے اس وقت میری دونوں چھاتیوں کے درمیان یعنی سینہ پر اپنا دست مبارک رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل پر محسوس کی پھر آپ نے فرمایا کہ تم ایک ایسے شخص ہو جو دل کے درد میں مبتلا ہے یعنی تم قلب کے مریض ہو لہذا تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ جو قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ وہ شخص طب علاج معالجہ کرنا جانتا ہے اس کو

چاہئے کہ وہ مدینہ کی سب سے اعلیٰ قسم کی کھجور بچوہ میں سے سات کھجوریں لے پھر ان کو گھٹلیوں سمیت کوٹ لے اور اس کے بعد ان کو دوا کی صورت میں تمہارے منہ میں ڈالے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”مفنود“ یہ فواد سے ہے دل کے مریض کو کہتے ہیں گویا آنحضرت نے صحیح تشخیص فرمائی کہ تم دل کے مریض ہو ”حارث بن کلدہ“ یہ عرب کا مشہور حکیم تھا جن کا تعلق بنو ثقیف سے تھا۔

اب سوال یہ ہے کہ آنحضرت نے حضرت سعد کو پہلے حکیم کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور پھر خود ہی دوا تجویز فرمائی اور پھر نسخہ بنانے کا کام حکیم کے سپرد کیا ایسا کیوں کیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت نے پہلے سعد کو حکیم کے پاس جانے کا مشورہ دیا لیکن پھر آپ کو نسخہ کا علم ہو گیا کہ دل کے بیمار کے لئے یہ نسخہ آسان اور مفید ہے تو آنحضرت نے نسخہ تجویز فرما دیا تاکہ حکیم ان کو لمبے چوڑے جڑی بوٹیوں کے چکر میں نہ ڈالے پھر آپ نے نسخہ کی ترکیب اور معجون بنانے کا کام حکیم پر چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس میں ماہر تھا اور اس کا پیشہ تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم ڈاکٹر اور حکیم سے علاج کرانا اور اس کے پاس جانا جائز ہے اس حدیث میں فلیأخذ سے آخر تک غائب کے تمام ضماائر طبیب کی طرف لوٹتی ہیں۔

”یتطب“ یعنی وہ آدمی طبابت کے عمل میں ماہر ہے ”عجوة المدينة“ معلوم ہوا اس نسخہ کے لئے مدینہ کا بچوہ ضروری ہے۔ ”فلیجأ“ و جاء یو جاء سے ہے توڑنے اور کوٹنے کے معنی میں ہے ”بنواھن“ نواۃ کی جمع ہے کھجور کی گھٹلی کو کہتے ہیں یعنی بچوہ کھجور کو اس کی گھٹلیوں کے ساتھ پیس کر سفوف بنا لے اور سفوف مریض کو کھلا دے۔

”لَیْلُذَکَ“ نصر بنصر سے لدو د اُس دوا کو کہتے ہیں جو منہ کے ذریعہ سے مریض کو دیا جائے۔

## غذا کو معتدل بنا کر کھانا چاہئے

﴿۶۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْبَطِیْخَ بِالرُّطْبِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَيَقُولُ يُكْسَرُ حَرُّ هَذَا بَبَرْدِ هَذَا وَبَرْدُ هَذَا بِحَرِّ هَذَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ تازہ کھجوروں کے ساتھ کھاتے تھے۔ (ترمذی) اور ابوداؤد نے اس روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ اس کھجور کی گرمی اس خربوزے کی سردی سے توڑی جاتی ہے اور خربوزے کی سردی کھجور کی گرمی سے توڑی جاتی ہے نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

## توضیح

”اللطیخ“ تربوز کو عربی میں بطیخ کہتے ہیں اس کا مزاج سرد ہوتا ہے۔ اور ”الرطب“ یہ تازہ کھجور کو کہتے ہیں جس کا مزاج گرم تر ہوتا ہے ان دونوں کو ملانے سے غذا میں اعتدال آتا ہے دونوں ایک دوسرے کی گرمی سردی کو ختم کر دیتی ہے۔ مظاہر حق میں بطیخ کا ترجمہ خر بوزہ کیا ہے جو کل تامل ہے۔

## پھلوں میں کیڑا پڑنے سے پھل نجس نہیں ہوتا

﴿۶۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفْتِشُهُ وَيُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرانی کھجور لائی گئی جس میں کیڑے پڑ گئے تھے چنانچہ آپ اس کو چیرتے اور اس میں سے کیڑا نکال کر پھینک دیتے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”السوس“ پھلوں میں بعض دفعہ کیڑے پڑ جاتے ہیں اور کھانے میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا آنحضرت کی ایک حدیث میں ہے کہ ”دود الثمر كالشمر“ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پھل نجس نہیں ہوتا لہذا اگر کیڑے کے ساتھ کسی نے غفلت سے پھل کھالیا تو حرج نہیں۔

زیر بحث حدیث میں اتنی بات ہے کہ آنحضرت نے کھجوروں سے کیڑے صاف کر کے کھجور استعمال فرمائے ہیں جس سے اس قسم کی کھجور استعمال کرنے کا جواز پیدا ہوتا ہے ”سوس“ پھلوں اور غلہ میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کو سوس کہتے ہیں عتیق پرانی کھجور کو کہتے ہیں۔ کیڑوں سے پھلوں کو صاف کر کے کھانا نظافت اور نفاست ہے جو شرعاً مطلوب ہے۔

﴿۶۴﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكٍ فَدَعَا بِالسَّكِينِ فَسَمَّى وَقَطَعَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دوران ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر کا ایک ٹکڑا لایا گیا تو آپ نے چھری منگوائی اور بسم اللہ کہہ کر اس کو کاٹا۔ (ابوداؤد)

”جبنہ“ پنیر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں نون پر شد بھی پڑھا گیا ہے اور بغیر شد بھی ہے۔

## اسلام نے جن چیزوں کو حرام کہا وہی حرام ہیں

﴿۶۵﴾ وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَوْقُوفٌ عَلَى الْأَصَحِّ

اور حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور پوستین یا گورخر کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حلت و حرمت کے سلسلے میں یہ اصول مد نظر رکھو کہ حلال وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے یعنی جس کا حلال ہونا قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اور حرام وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے اور جس چیز سے سکوت فرمایا یعنی جس چیز کو نہ حلال فرمایا اور نہ حرام وہ اس قسم سے ہے جو معاف رکھا گیا ہے یعنی اس کے استعمال کرنے کو مباح رکھا ہے اس روایت کو ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے لیکن زیادہ صحیح یہ بات ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔

## توضیح

”السمن“ گھی کو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو شبہ ہوا ہوگا اس لئے گھی کے بارے میں سوال کیا اور نہ محل سوال نہیں ہے۔  
 ”الجبن“ یہ لفظ نون کے شد کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور بغیر شد بھی ہے پنیر کو کہتے ہیں اس کے بارے میں سوال اس لئے کیا گیا ہے کہ اس زمانہ میں پنیر بنانے کے لئے اونٹ یا بکری کے اوجھ کو استعمال کرنا پڑتا تھا ظاہر ہے یہ محل سوال ہے۔  
 ”الفراء“ یہ لفظ دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے عام شارحین نے لکھا ہے کہ الفراء فاکے کسرہ اور مد کے ساتھ جمع ہے اور الفراء فاکے فتح کے ساتھ مفرد ہے جنگلی گدھے ہمارا وحشی زبیرا کو کہتے ہیں۔ اس کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں سوال کی ضرورت تھی۔ بعض شارحین نے الفراء کو ”فسرو“ کی جمع قرار دیا ہے جو پوستین کے معنی میں ہے اس صورت میں سوال اس لئے کیا گیا کہ کھال سے کفار پوستین تیار کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ مردار کی کھال ہو، آنحضرت نے صحابہ کو زیادہ سوالات اور کھود کرید سے منع کر کے فرمایا کہ حرام اشیاء اور حلال اشیاء کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آگیا ہے جیسے ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْهَاهُ كُمْ عَنْهُ فَأْتُوا﴾ اور جن اشیاء سے قرآن و حدیث خاموش ہیں وہ مباح ہیں اس حدیث سے فقہاء نے یہ ضابطہ نکالا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے حرمت وحلت کا حکم ثانوی امر ہے۔

## عمدہ کھانے کی خواہش جائز ہے

﴿۶۶﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْتُ أَنْ عِنْدِي خُبْزَةٌ بَيْضَاءُ

مِنْ بُرَّةٍ سَمَرَاءَ مَلْبَقَةً بِسْمَنِ وَلَبَنٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ فِي عُكَّةٍ ضَبَّ قَالَ ارْفَعَهُ.

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے سامنے سفید گجر گیہوں کی روٹی ہو جس کو گھی اور دودھ میں ترکیا گیا ہو۔ یہ سن کر جماعت میں سے ایک شخص اٹھ کر چلا گیا اور مذکورہ روٹی تیار کر کے لایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس روٹی کو جو گھی لگا ہوا ہے وہ کس برتن میں تھا؟ اس نے کہا کہ گوہ کی کھال کے پٹے میں تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا اس کو میرے سامنے سے اٹھا لو۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ) ابوداؤد نے کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔

## توضیح

”حبزة بیضاء“ یعنی سرخ گندم کی سفید روٹی ہو دودھ اور گھی میں ترتر ہو، عمدہ سرخ گندم کا آٹا سفید ہوتا ہے لوگ آج کل اشتہاروں میں لکھتے ہیں سونے جیسی گندم چاندی جیسا آٹا۔

”ملبقة“ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے غلط ملط کر کے نرم بنانے کے معنی میں ہوتا ہے یہاں گھی اور دودھ میں ترتر کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے ”عکة“ پٹے کو کہتے ہیں جس میں گھی رکھا جاتا ہے۔

”ضرب“ گوہ کو ضرب کہتے ہیں، اس کے حلال اور مکروہ ہونے سے متعلق بحث باب ما تحل اکلہ الخ کی حدیث نمبر ۸ اور حدیث نمبر ۲۳ میں ہو چکی ہے احناف کے ہاں گوہ حلال نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ سے طبعی نفرت تھی شاید اس وجہ سے اس کی کھال میں رکھے ہوئے گھی کو استعمال نہیں کیا لیکن اس حدیث سے حرمت پر استدلال مشکل ہے کیونکہ ابوداؤد نے اس روایت کو منکر کہا ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے طعام کی چاہت کو کسی طرح مکر کر دیتا ہے تاکہ دنیا کی لذائذ کی طرف التفات ہی نہ ہو جب آنحضرت نے خود فرمایا ”مالی وللدنیا“ الخ اس کے بعد ان لذائذ سے لطف اندوز ہونا سمجھ سے بالاتر تھا اس لئے اس میں ایک غیبی روکاٹ آگئی لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اچھے کھانے کی خواہش کرنا جائز ہے۔

## کچا لہسن کھانا منع ہے

﴿٦٤﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن کھانے سے منع فرمایا الا یہ کہ وہ پکا ہوا ہو۔ (ترمذی)



## توضیح

”الشم“ اس حدیث میں کپا لہسن ممنوع قرار دیا گیا ہے اور پکا لہسن جائز قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پک جانے کے بعد لہسن میں بد بو نہیں رہتی ہے بد بو کا تعلق صرف لہسن یا پیاز وغیرہ سے نہیں ہے بلکہ ان اشخاص کو بھی مسجد میں نماز کے لئے آنے سے روکا جاسکتا ہے جن کی منہ سے بوجہ گندہ دہنی بد بو اٹھ رہی ہو۔

## پیاز کھانے کا مسئلہ

﴿۶۸﴾ وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصْلِ فَقَالَتْ إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ فِيهِ بَصْلٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو زید کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے پکی ہوئی پیاز کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ حرام ہے یا حلال؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو سب سے آخری کھانا کھایا تھا اس میں پکی ہوئی پیاز تھی۔ (ابوداؤد)

## توضیح

اس حدیث کو اگر پیاز کھانے کے جواز پر حمل کیا جائے اور ممانعت کی احادیث کو مکروہ تنزیہی پر حمل کیا جائے تو کوئی تعارض نہیں رہیگا کیونکہ مکروہ تنزیہی کا مطلب خلاف اولیٰ ہے یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ زیر بحث حدیث کا تعلق پکے ہوئے پیاز کے ساتھ ہے ظاہر ہے کہ اس کی اجازت ہے۔

## آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھن کے ساتھ کھجور پسند تھا

﴿۶۹﴾ وَعَنْ ابْنِ أَبِي بَسْرٍ السُّلَمِيِّ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور بسر کے دونوں بیٹوں یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت عطیہ سے جو اسلمی اور صحابی ہیں روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم نے آپ کے سامنے مکھن اور کھجوریں پیش کیں جن کو آپ نے کھایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکی اور کھجور کو پسند فرماتے تھے۔ (ابوداؤد)

## برتن میں مختلف اشیاء ہوں تو پسند کی چیز لو

﴿۷۰﴾ وَعَنْ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ أَتَيْنَا بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالْوَدْرِ فَخَبَطْتُ بِيَدِي فِي نَوَاحِيهَا

وَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَبَضَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِي الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ يَاعِكَرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ أَتَيْنَا بِطَبَقٍ فِيهِ الْوَأْنُ التَّمْرُ فَجَعَلْتُ أَكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَقِ فَقَالَ يَاعِكَرَاشُ كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَتَيْنَا بِمَاءٍ فَعَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَلَلِ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَقَالَ يَاعِكَرَاشُ هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت عکراش بن زویبؓ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہمارے سامنے ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں بہت سا ترید یعنی شوربے میں بھیکے ہوئی روٹی کے ٹکڑے اور گوشت کی بوٹیاں تھیں کھانے کے دوران میں اپنا ہاتھ پیالے کے ہر طرف دوڑانے لگا یعنی اپنے سامنے لقمہ اٹھانے کے بجائے ہر طرف ہاتھ ڈالنے لگا جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے سے کھا رہے تھے چنانچہ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا داہنا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ عکراش ایک جگہ سے یعنی اپنے آگے سے کھاؤ کیونکہ یہ ایک ہی طرح کا کھانا ہے پھر ہمارے آگے ایک طباق لایا گیا جس میں قسم قسم کی کھجوریں تھیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے سامنے سے کھجوریں اٹھا اٹھا کر کھانا شروع کیا لیکن اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ طباق میں ہر طرف گردش کرنے لگا یعنی آپ اپنی طبعی پسند کے مطابق طباق کے ہر کنارے سے کھجوریں اٹھا اٹھا کر کھانے لگے اور اس کا مقصد لوگوں پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو کھجوریں ہر طرف سے اٹھا کر کھا سکتے ہیں اور پھر آپ نے محض اپنے اس فعل کے ذریعہ ہی بیان نہیں کیا بلکہ قول کے ذریعہ بھی تعلیم دی اور فرمایا عکراش! جس طرف سے چاہو کھاؤ کیونکہ یہ ایک ہی قسم کی نہیں ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پانی لایا گیا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنے ہاتھوں کی تری اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں پر اور سر پر مل لی اور کہا کہ عکراش یہ اس کھانے کے بعد کا وضو ہے جس کو آگ نے متغیر کیا ہے یعنی یہ ہاتھ اور منہ دھونا کہ جس کو وضو طعام کہا جاتا ہے اس کھانے کی وجہ سے ہے جو آگ پر پکایا گیا ہے۔ (ترمذی)

## توضیح

”الوذر“ یہ وذرة کی جمع ہے گوشت کے ان ٹکڑوں کو کہتے ہیں جن میں ہڈی نہ ہو ”خبطت“ ہاتھ ڈالنے کو کہتے ہیں یعنی میں نے پیالہ کے ہر جانب میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا حضور اکرم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ یہ ایک قسم کا کھانا ہے لہذا اپنے سامنے سے کھاؤ اس کے بعد مختلف قسم کی کھجوروں کا ایک طبق لایا گیا میں نے اپنے سامنے سے کھجور اٹھا کر ہاتھ اور حضور اکرم مختلف جگہوں میں ہاتھ گھما کر اٹھا رہے تھے آنحضرت نے فرمایا کہ اس کو جہاں سے چاہو کھاؤ کیونکہ یہ ایک قسم چیز نہیں بلکہ الگ الگ رنگوں پر مشتمل ہے پھر اس کے بعد پانی لایا گیا آنحضرت نے منہ ہاتھ دھو لیا اور پھر فرمایا عکراش! ماست النار سے جس

وضو کا حکم ہے وہ یہی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے یعنی وضو لغوی مراد ہے توضیحات جلد اول کتاب الطہارۃ میں یہ مسئلہ گزرا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوگئی کہ ایک قسم کا کھانا ہو تو سامنے سے کھایا جائے اور اگر مختلف قسم کے پھل وغیرہ ہوں تو ہر جگہ سے کھایا جاسکتا ہے دوسری بات یہ معلوم ہوگئی کہ ماست النار جس وضو کا حکم ہے وہ لغوی وضو ہے اصطلاحی نہیں۔

### حریرے کا فائدہ

﴿۱۷﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوُغْكَ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ فَصْنَعَتْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرْتُو فُؤَادَ الْحَزِينِ وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسْخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بخار آجاتا تو آپ حساء تیار کرنے کا حکم دیتے چنانچہ وہ تیار کیا جاتا اور پھر آپ مریضوں کو اس حساء کے پینے کا حکم دیتے جس کو وہ مریض پیتے آپ فرمایا کرے تھے کہ در حقیقت حساء غمزہ دل کو طاقت پہنچاتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج و کلفت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح تم عورتوں میں سے کوئی اپنے منہ کے میل کو پانی سے صاف کر ڈالتی ہے ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

### توضیح

”الوِغْكَ“ شدید بخار کو کہتے ہیں ”الحساء“ کھانے کی ایک رقیق قسم کو حساء کہتے ہیں جو آٹا پانی اور گھی کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے کبھی اس میں شکر بھی ملایا جاتا ہے اہل مکہ اس کو حریرہ کہتے ہیں۔ ”فحسوا“ یعنی لوگوں نے اسے پی لیا یہ جمع کا صیغہ اس لئے ہے کہ بخار میں سب شریک تھے یا اس حریرہ کے پینے میں سب شریک تھے ”وَكَانَ يَقُولُ“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”انہ“ یعنی یہ حساء اور حریرہ ”لیرتو“ لام ابتدائیہ تاکید یہ ہے ”رتی یرتو“ نصرینصر سے ہے جس کا معنی دل کو قوی کرنا ہے ای ”يقوى القلب“ یعنی غمگین کے دل کو قوی کرتا ہے ”ويسرو“ (يسرو ويكشف ويرفع) کے معنی میں ہے یعنی بوجھ کو ہٹا دیتا ہے ”کما تسرو“ یعنی جس طرح تم عورتیں اپنے چہروں سے پانی کے ذریعہ میل پچیل دور کرتی ہوں، چونکہ سامنے عورتیں تھیں اس لئے ان سے خطاب کیا گیا۔

### عجوة جنت کی کھجور ہے

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ وَالْكُمَاةِ مِنَ الْمَمْنِ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ جنت کی کھجور ہے اور اس میں زہر کی شفاء ہے اور کھبی من کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفاء ہے۔ (ترمذی)

مطلب یہ کہ اس کی اصل جنت سے آئی ہے یا جنت میں جو کھجوریں ہوں گی وہ عمدہ عمدہ عجوہ ہوں گی۔

### الفصل الثالث

﴿۷۳﴾ عَنْ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبِ فُشْوَى ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْزُلُنِي بِهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ فَقَالَ مَا لَهُ تَرَبَّتْ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبُهُ وَفَاءً فَقَالَ لِي أَقْصَهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ أَوْ قُصِّهِ عَلَى سِوَاكِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی شخص کے ہاں مہمان ہوا۔ اس شخص نے ہمارے لئے ایک بکری ذبح کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ایک پہلو بھوننے کا حکم دیا۔ جب وہ پہلو بھون دیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھری لی پھر اس کے ذریعہ اس پہلو میں سے میرے لئے بوٹیاں کاٹنے لگے اتنے میں حضرت بلالؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے کیلئے آگئے آپ نے چھری کو ڈال دیا اور بطریق تعجب فرمایا کہ بلالؓ کو کیا ہوا؟ کہ ایسے وقت بلانے آگیا اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی لہیں یعنی مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے تمہاری لہیں مسواک پر کتر دوں یا یہ فرمایا کہ لہیں مسواک پر رکھ کر کتر ڈالو۔ (ترمذی)

توضیح

”ضفت“ یعنی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی شخص کے ہاں مہمان بنا۔

”یحز“ چھری سے گوشت کاٹنے کے معنی میں ہے جب گوشت سخت ہو تو چھری کا استعمال جائز ہے ورنہ یہ طریق اعاجم اہل فارس کا ہے۔ ”یؤذنه“ یہ ایذاں سے ہے اطلاع دینے کے معنی میں ہے یعنی حضرت بلالؓ آنحضرت کو اطلاع دے رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ”فشوی“ بھوننے کے معنی میں ہے یعنی آنحضرت نے میزبان سے کہا کہ پہلو کو بھون لو تو اس نے بھون لیا۔

”شاربہ وفاء“ یعنی مغیرہ بن شعبہ کی مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں اس میں مغیرہ بن شعبہ نے شاربہ کی جگہ شاربہ کہا ہے یہ التفات ہے ”اقصہ لك على سواك“ یعنی میں تیری مونچھوں کو مسواک پر رکھ کر کاٹ دوں گا یا تم خود مسواک پر رکھ کر کاٹ دو یہ بھی ممکن ہے کہ لبوں پر مسواک ہو اور اس کے ساتھ برابر رکھ کر مونچھوں کے بال قینچی سے کاٹا جائے تاکہ ایک لائن میں کٹ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ قینچی نہ ہو بلکہ مسواک پر بالوں کو برابر رکھ کر چھری چاقو سے کاٹا جائے۔

## اگر کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا تو شیطان ساتھ کھاتا ہے

﴿۷۴﴾ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ نَضْعُ أَيْدِنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَانَتْهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أُعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهِذَا الْأُعْرَابِيُّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا، زَادَ فِي رِوَايَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَآكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے پر ہوتے تو ہم اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہ فرماتے جب آپ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو اس کے بعد ہم اپنا ہاتھ بڑھاتے چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی کھانے پر اس طرح آئی کہ گویا وہ دھکیل دی گئی ہو یعنی وہ بھوک کی شدت سے بے اختیار ہو کر کھانے پر اس طرح ٹوٹی جیسے اسکو کسی نے پیچھے سے دسترخوان پر دھکیل دیا ہو پھر اس نے جوں ہی یہ چاہا کہ بسم اللہ کہے بغیر کھانے پر ہاتھ ڈالے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک دیہاتی بھی اسی طرح بیتابی کے ساتھ آیا کہ گویا اس کو کھانے پر دھکیل دیا گیا ہو اور اس نے بھی بسم اللہ کہے بغیر کھانے پر ہاتھ ڈالنا چاہا کہ آپ نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لئے حلال کرتا ہے اور اس کے کھانے پر قادر ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا چنانچہ شیطان اس لڑکی کو لے کر آیا تا کہ اس کے بسم اللہ نہ پڑھنے کے سبب سے کھانے کو اپنے لئے حلال کرے لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر شیطان اس دیہاتی کو لایا تا کہ اسکے ذریعہ کھانے کو اپنے لئے حلال کرے مگر میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے بلاشبہ اس وقت شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک روایت میں حذیفہؓ یا مسلم نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا یعنی بسم اللہ پڑھی اور کھانا کھایا۔ (مسلم)

”تدفع“ مار بھگانے کے معنی میں ہے گویا وہ لونڈی اور اعرابی کو کوئی دھکے دے دے کر کھانے کے لئے حاضر کر رہا تھا۔

”یستحل“ تا کہ شیطان اپنے لئے کھانا ممکن بنادے۔

## زیادہ کھانا نحوست کی علامت ہے

﴿۷۵﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ غُلَامًا فَأَلْقَى بَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرًا فَأَكَلَ الْغُلَامُ فَأَكْثَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ شُوْمٌ وَأَمْرٌ بِرَدِّهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو خریدنے کا ارادہ فرمایا تو آزمائش کے طور پر اس کے آگے کھجوریں رکھ دیں چنانچہ وہ غلام خوراک سے بہت زیادہ کھجوریں کھا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ زیادہ کھانا بے برکتی کا سبب اور بے برکتی کی علامت ہے پھر آپ نے اس غلام کو واپس کر دینے کا حکم دیا۔ (بیہقی)

## نمک بہترین سالن ہے

﴿۷۶﴾ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ إِذَا مَكُمُ الْمِلْحُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

اور حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سالنوں میں بہترین سالن نمک ہے۔ (ابن ماجہ)

مثلاً گھر میں سالن نہیں ہے مگر نمک موجود ہے تو کئی یا گندم کی روٹی کو نمک میں ڈبو کر بہتر طریقہ سے کھایا جاسکتا ہے شکار کے موقع پر جنگلات میں لوگ اسی طرح روٹی کھاتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے۔

## جو تارک کھانے سے قدموں کو راحت ملتی ہے

﴿۷۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ الطَّعَامُ فَأَخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لَأَقْدَامِكُمْ

اور حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے کھانا رکھا جائے اور تم کھانے بیٹھو تو اپنے جوتے اتار دو کیونکہ جوتے اتار دینا پیروں کیلئے بہت راحت بخش ہے۔

## توضیح

جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو جسم کے تمام اعضا کو لذت حاصل ہوتی ہے یہاں تک کہ پاؤں کو بھی راحت پہنچتی ہے اگر پاؤں جوتوں میں محبوس اور بند ہوں تو وہ راحت سے محروم ہو جاتے ہیں جس سے پورے جسم کی لذت کم رہ جاتی ہے۔

## کھانا کچھ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہئے

﴿۷۸﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِشَرِيدٍ أَمَرَتْ بِهِ فَعُطِيَ حَتَّى تَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ وَتَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ. رَوَاهُمَا الدَّارِمِيُّ

اور حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کے بارے میں روایت ہے کہ جب ان کے سامنے شریدا لایا جاتا تو وہ اس کو ڈھانک دینے کا حکم دیتیں چنانچہ اس کو ڈھانک کر رکھ دیا جاتا یہاں تک کہ اس کے دھوئیں اور بھاپ کا جوش نکل جاتا تھا یعنی اس کی گرمی کی شدت ختم ہو جاتی تھی اس کے بعد وہ اس کو کھاتی تھیں۔ نیز وہ فرماتی تھیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کھانے میں سے گرمی کا نکل جانا برکت میں زیادتی کا موجب ہے۔ (ان دونوں روایتوں کو دارمی نے نقل کیا ہے)

## توضیح

”فورة دخانه“ یعنی جو بھڑاس اور بھاپ گرمی کی وجہ سے اٹھتا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اوپر ڈھانک رکھتی تھی تاکہ کھانا کچھ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر کھایا جائے کیونکہ زیادہ گرم کھانے سے منہ بھی جلتا ہے اور آنتوں کے لئے بھی مضر ہے کچھ انتظار کر کے ہانڈی کو دم دیکر کھانا مفید اور لذیذ ہو جاتا ہے اور اس میں برکت آ جاتی ہے، جامع صغیر میں لکھا ہے ”ابردوا بالطعام فان الحار لا بركة فيه“۔

## کھانے کا برتن دعا بھی دیتا ہے اور بددعا بھی کرتا ہے

﴿۷۹﴾ وَعَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ فِي قُصْعَةٍ ثُمَّ لَحِسَهَا تَقُولُ لَهُ الْقُصْعَةُ أُغْتَقِكَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ كَمَا أُغْتَقِنِي مِنَ الشَّيْطَانِ. رَوَاهُ رَزِينٌ.

اور حضرت نبیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیالے یا شستری وغیرہ کھائے اور پھر اس کو انگلیوں سے چاٹ لے تو وہ پیالہ زبان حال سے یا زیادہ صحیح یہ ہے کہ زبان قال سے اس شخص سے کہتا ہے کہ جس طرح تو نے شیطان کے کھانے یا اس کے خوش ہونے سے مجھ کو نجات دی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھ کو دوزخ کی آگ سے نجات دے۔ (رزین)

## توضیح

”تقول“ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کا برتن دعا بھی دیتا ہے اور بددعا بھی کرتا ہے کیونکہ جب یہ برتن گنداپڑا رہتا ہے تو شیطان آکر اس کو چاٹتا ہے اس وقت برتن بددعا کرتا ہے کہ مجھے شیطان کا تختہ مشق کیوں بنالیا اور اگر چاٹ کر دھولیا تو برتن دعا کرتا ہے کہ مجھے شیطان کے تسلط سے بچالیا۔

## باب الضیافۃ

## مہمان نوازی کا بیان

قال الله تعالى ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾  
ضاف یضیف ضیفا و ضیافۃ کے اصل معنی مائل ہونے کے ہیں مہمان بھی کسی طرف مائل ہوتا ہے ضیف مہمان کو کہتے ہیں اور مضیف میزبان کو کہتے ہیں اور ضیافت مہمان داری کو کہتے ہیں۔  
جمہور علماء کے نزدیک خندہ پیشانی کیسا تھ مہمان داری کرنا مستحب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مہمان داری کرنا ایک دن تک واجب ہے پھر مستحب ہے ان علماء میں شیخ لیت بھی شامل ہیں۔

لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مہمان داری اخلاقیات کے قبیل سے ہے لہذا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اور جن روایات میں واجب یا لازم کے الفاظ آئے ہیں وہ یا تو حالت اضطرار پر محمول ہیں یا اس سے مراد وہ خاص ٹیکس اور جزیہ ہے جو کھانے کی صورت میں ذمیوں پر مقرر کیا جاتا تھا یا ابتداء اسلام میں ضیافت واجب تھی پھر وجوب منسوخ ہو کر استحباب باقی رہ گیا۔ بہر حال ضیافت اور مہمان داری اسلام کی خاص پہچان ہے جن علاقوں میں انسانیت موجود ہوتی ہے اور جدید تعلیم سے فطرت مسخ ہونے سے محفوظ رہ چکی ہے وہاں ضیافت اور مہمان داری بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، اسلام نے کچھ آداب و قواعد بھی مہمانوں کو سکھائے ہیں اسی طرح میزبان کو بھی چند آداب و قواعد کا پابند بنایا ہے آنے والی احادیث میں یہی بیان ہے۔

## الفصل الاول

## مہمان کا اکرام کرنا ایمان کی علامت ہے

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَفِي رِوَايَةٍ بَدَلَ الْجَارِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر کرے جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے



اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ بھلی بات کہے یا چپ رہے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں یعنی پڑوسی کا ذکر کرنے کے بجائے یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے ناتے کو باقی رکھے یعنی اپنے ناتے داروں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرے۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”فلیکرم“ اس حدیث میں تین اچھی خصلتوں کی ترغیب دی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن اشخاص میں یہ تین خصلتیں نہ ہوں وہ مؤمن نہیں ہیں یہ ترغیب کا ایک انداز ہے اور ان خصال کے اپنانے پر ابھارنا مقصود ہے جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے سے کہتا ہے ”ان كنت ابني فاطمعتني“ یہ کھلانے کی ترغیب ہے۔

اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں کامل مؤمن کی بات کی گئی ہے کہ کامل مؤمن وہی ہے جس میں یہ تین خصال موجود ہوں۔ علماء نے لکھا ہے تین دن تک خندہ پیشانی اور نرم اخلاق سے مہمان کو کھلانا میزبان کا اخلاقی فریضہ ہے اس کے بعد کھانا صدقہ و خیرات ہے چاہے کھلائے چاہے نہ کھلائے ضیافت میں ایک بار کھانے کا اعلیٰ انداز ہو باقی دعوت شیراز ہو۔ ”فلا یؤدجارہ“ اصل میں شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ پڑوسی کے سارے حقوق کا خیال رکھا جائے کیونکہ ”فلیکرم جارہ“ فلیحسن جارہ“ کے الفاظ حدیث میں ہیں لیکن اگر کوئی شخص حقوق کا خیال نہیں رکھتا تو کم از کم پڑوسی کو ایذا تو نہ پہنچائے۔

## مہمان میزبان پر بوجھ بن کر نہ رہے

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ  
أَنْ يَتَوَلَّى عِنْدَهُ حَتَّى يُحَرِّجَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت شریح کعبیؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی تعظیم و خاطر داری کرے مہمان کے ساتھ تکلف و احسان کرنے کا زمانہ ایک دن و ایک رات ہے اور مہمان داری کرنے کا زمانہ تین دن ہے اور تین دن کے بعد جو دیا جائے گا وہ ہدیہ و خیرات ہوگا اور مہمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میزبان کے ہاں تین دن کے بعد اس کی استدعا کے بغیر ٹھہرے کہ وہ تنگی میں مبتلا ہو جائے۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”جائزتہ“ ای عطیتہ، مہمان کی مہمان داری میں پہلے دن دعوت میں اہتمام کرنا چاہئے اور پھر عام عادت کے مطابق کھانا کھانا چاہئے تین دن کے بعد جب وہ رخصت ہوگا تو اس کو ایک دن رات کا جائزہ یعنی سفر خرچ دیا جائے۔ علامہ ابن اثیر

جزری نے نہایہ میں لکھا ہے کہ جائزہ کا یہی مطلب ہے لیکن ابن اثیر کے علاوہ شارحین لکھتے ہیں کہ مہمان کو پہلے دن جو تکلف کا کھانا دیا گیا ہے وہی اس کا انعام اور جائزہ ہے یہ معنی زیادہ واضح اور رائج ہے آج کل لوگوں کو یہ عجیب معلوم ہوتا ہے کہ تین دن تک کسی مہمان کو کیسے کھلایا جائیگا اور کیسے گھر میں ٹھہرایا جائے گا لیکن اگر سابقہ دور کے انسانوں کی تاریخ کو پڑھا جائے اور آج کل کے قبائلی لوگوں کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی بعد محسوس نہیں ہوگا۔ بہر حال لوگ گر گئے ہیں مگر انسانی شرافت اور اس کی تاریخ تو نہیں گری تاریخ تو برقرار ہے پھر بھی علاقوں اور حالات کے پیش نظر خود مہمان کو نہایت احتیاط سے کام لینا چاہئے تاکہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے نہ ہر روز آئے اور جب آئے تو جلدی واپس جائے۔

### ذمیوں پر مجاہدین کی ضیافت لازم ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخَذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ، الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ور حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب آپ ہمیں جہاد یا کسی اور کام کیلئے کہیں بھیجتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں میں بھی قیام کرنا پڑتا ہے جو ہماری مہمانداری نہیں کرتے ایسی صورت میں آپ کیا حکم دیتے ہیں آیا ہم ان سے زبردستی اپنی مہمان داری کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اگر تم اپنے سفر کے دوران کسی قوم کے درمیان قیام کرو اور وہ تمہیں وہ چیز دیں جو ایک مہمان کو دینے کے لائق ہے تو تم اس کو قبول کرو اور اگر ایسا نہ کریں یعنی مہمان داری کا حق ادا نہ کریں۔ تو تم ان سے مہمان کا وہ حق لے سکتے ہو جو ایک مہمان کے لائق ہے۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”لا یقروننا“ یہ قرآن سے بنا ہے مہمان داری کو کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر میزبان مہمان داری کے حقوق ادا نہ کرے تو مہمان اس سے اپنا حق زبردستی لے سکتا ہے یہ حدیث ان حضرات کی دلیل ہے جو ایک دن کی مہمان داری کو واجب کہتے ہیں۔ لیکن جمہور فقہاء فرماتے ہیں کہ ضیافت مستحب ہے اور یہ حدیث ان ذمیوں کے بارے میں ہے جن پر جزیہ مقرر کرتے وقت یہ بھی مقرر کیا جاتا تھا کہ اگر مجاہدین کا تم پر گزر ہو تو تم ان کو کھانا کھاؤ گے تو یہ عام ضیافت نہیں ہے بلکہ جزیہ کا ایک حصہ ہے یا اس سے مراد حالت اضطرار ہے یا مراد یہ ہے کہ ان سے کھاؤ اور بعد میں قیمت ادا کرو سب سے اچھا جواب پہلا والا ہے اس لئے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر کھانا حرام ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حکم ابتدا میں ہو پھر منسوخ ہو گیا ہو،

باب الاعتصام جلد اول میں یہ مسئلہ گزر گیا ہے۔

## مہمان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہئے

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ مَا أَخْرَجَ جُكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَا الْجُوعُ قَالَ وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قَوْمُوا فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرَحِبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ فُلَانٌ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعِذُّ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبِيهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمُ أَضْيَافًا مِنِّي قَالَ فَاَنْطَلَقَ فَعَجَّاهُمْ بِعِدْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطْبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَ الْمُدِيَّةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكَ وَالْحُلُوبُ فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِدْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوَوْا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلَنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَابِ الْوَلِيْمَةِ.

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یارات کے وقت کہیں جانے کے لئے گھر سے نکلے کہ اچانک حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے ملاقات ہو گئی۔ آنحضرت نے پوچھا کہ تم کو کس چیز نے تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے یعنی اس وقت چوں کہ گھر سے نکلنے کی تم لوگوں کی عادت نہیں ہے اس لئے ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی جو تمہارے گھر سے نکلنے کا باعث ہوئی ہے ان دونوں نے عرض کیا کہ بھوک نے ہمیں گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے یعنی ہم بھوک کی شدت سے بیتاب ہو کر گھر سے نکلے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مجھے بھی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اسی چیز نے گھر سے نکالا ہے جس چیز نے تمہیں نکالا ہے یعنی میں بھی بھوک ہی کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں اٹھو میرے ساتھ چلو چنانچہ وہ دونوں بھی اٹھے اور آپ کے ساتھ ہو لئے پھر آپ ایک انصاری کے گھر پہنچے جن کا نام ابو الہیثم تھا مگر وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے ان کی بیوی نے آنحضرت کو دیکھا تو کہا کہ خوش آمدید آپ اپنے ہی لوگوں میں آئے ہیں آپ کا تشریف لانا مبارک۔ آنحضرت نے پوچھا فلاں شخص یعنی تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ وہ ہمارے لئے میٹھا پانی لانے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری یعنی صاحب خانہ بھی آ گئے انہوں نے جب رسول کریم

اور آپ کے دونوں صحابہ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ کو اپنے گھر میں دیکھا تو اپنی اس خوش بختی پر پھولے نہیں سمائے اور کہنے لگے الحمد للہ خدا کا شکر ہے بزرگ تر مہمانوں کے اعتبار سے آج کے دن مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے یعنی آج کے دن میرے مہمان دوسرے لوگوں کے مہمانوں سے زیادہ بزرگ و معزز ہیں راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ انصاری خود کھجوروں کے درختوں کے پاس گئے اور ان مہمانوں کیلئے کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آئے جس میں نیم پختہ، پختہ اور تر و تازہ ہر طرح کی کھجوریں تھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس میں سے کھائیے اس کے بعد انہوں نے چھری لی اور ایک بکری ذبح کرنا چاہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دودھ والی بکری ذبح کرنے سے اجتناب کرو آخر کار انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کے لئے ایک بکری ذبح کی اور جب اس کا گوشت پک گیا تو سب نے اس بکری کا گوشت کھایا اور اس خوشہ میں سے کھجوریں کھائیں۔ اور پانی پیا اس طرح جب کھا نے پینے سے پیٹ بھر گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کی بابت پوچھا جائے گا بھوک نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تھا لیکن تم اپنے گھروں کو واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ خدا کی طرف سے تمہیں یہ نعمتیں مرحمت ہو گئیں۔ (مسلم)

## توضیح

”مرحبا و اہلا“ یعنی خوش آمدید آپ اپنے ہی گھر میں آئے ہیں، یہ خطہ زمین آپ کے لئے ہموار اور خوش گوار ہے۔ اس حدیث سے آداب ضیافت کے کئی زرین اصول سامنے آتے ہیں اول یہ کہ اپنی بھوک و پیاس اور تکلیف و پریشانی کا اظہار اپنے احباب کے سامنے کرنا جائز ہے جس طرح حضور اکرم اور صدیق و فاروق نے کیا۔ دوم یہ کہ اپنے قابل اعتماد ساتھی اور دوست کے پاس بلائے بغیر خود بھی آدمی جاسکتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے جاسکتا ہے جس طرح حضور اکرم لے گئے۔ سوم یہ کہ اپنی پسند کی چیز طلب کرنا اور میزبان کو عمدہ چیز دینے سے روکنا جائز ہے جس طرح حضور اکرم نے منع فرمایا۔ چہارم یہ کہ مہمان سے یہ پوچھنا کہ آپ کھانا کھاؤ گے یا نہیں مناسب نہیں بلکہ فوراً کچھ کھلانے کی فکر کرنی چاہئے جس طرح اس انصاری صحابی نے کیا کہ کھجوریں سامنے رکھ دیں اور بکری ذبح کرنے کے پیچھے دوڑے۔ پنجم یہ کہ دنیوی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے پر قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔

## الفصل الثانی

﴿۵﴾ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا مُسْلِمٍ صَافٍ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ لَهُ بِقِرَاءَةِ مِنْ مَالِهِ وَزَرْعِهِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ صَافٍ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُؤْهُ كَانَ

لَهُ أَنْ يُعَقِّبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ

حضرت مقدم ابن معدیکربؒ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی قوم میں کسی کے یہاں مہمان ہوا اور اس نے محرومی کی حالت میں صبح کی یعنی اس کے میزبان نے رات میں اس کی مہمانداری نہیں کی تو ہر مسلمان پر یہ حق ہوگا کہ وہ اس کی مدد کرے یہاں تک کہ وہ جس شخص کے یہاں مہمان ہوا ہے اس کے مال اور اس کی کھیتی باڑی سے مہمانداری کے بقدر یعنی ایک مہمان کے کھانے پینے کے بقدر وصول کرے (داری، ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ جو شخص کسی قوم میں مہمان ہوا اور ان لوگوں نے اس کی مہمان داری نہیں کی تو اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان لوگوں کا پیچھا پکڑ لے اور ان کے مال و اسباب سے اپنی مہمان داری کے بقدر وصول کر لے۔

اس حدیث کا تعلق بھی بظاہر ان ذمیوں سے ہے جن پر بطور جزئیہ مجاہدین کی مہمان داری لازم کر دی گئی تھی۔ مہمان کے کھانے پینے کو ”قرا“ کہتے ہیں۔

برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِنِي وَلَمْ يُضْفِنِي ثُمَّ مَرَّ بِى بَعْدَ ذَلِكَ أَقْرِيهِ أَمْ أَجْزِيهِ قَالَ بَلْ أَقْرِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابوالاحوصؒ نے اپنے والد حضرت مالک ابن فضلہ صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں کسی شخص کے ہاں سے گزروں یعنی اس کے یہاں مہمان ہوں اور وہ میری مہمانداری نہ کرے اور نہ میری مہمان داری کا حق ادا کرے اور پھر اس کے بعد ان کا گزر میرے یہاں ہو یعنی وہ میرے ہاں آکر مہمان ہو تو کیا میں اس کی مہمان داری کروں یا اس سے بدلہ لوں یعنی میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو وہ میرے ساتھ کر چکا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اس سے بدلہ نہ لو بلکہ اس کی مہمان داری کرو۔ (ترمذی)

کھانا کھانے کے بعد کی دعا

﴿۷﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ سَعْدٌ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَلَّمَ ثَلَاثًا وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يُسْمِعْهُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبَى أَنْتَ وَأُمِّى مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةَ الْآوْهِى بِأَذْنَى وَلَقَدْ رَدَدْتُ

عَلَيْكَ وَلَمْ أَسْمِعْكَ أَحَبِّتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنْ الْبَرَكَةِ ثُمَّ دَخَلُوا الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيئًا فَأَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَكَلْتُ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارَ وَصَلْتُ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

اور حضرت انسؓ یا ان کے علاوہ کسی اور صحابیؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہؓ کے ہاں پہنچ کر ان سے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی چنانچہ آپ نے دروازہ پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تم پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت نازل ہو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سعدؓ نے گھر میں سے جواب دیا کہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت نازل ہو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سعدؓ نے گھر میں سے جواب دیا کہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب نہیں سنایا یہاں تک کہ آنحضرتؐ نے تین مرتبہ سلام کیا اور سعدؓ نے بھی آپ کو تین مرتبہ جواب دیا۔ لیکن آپ کو سنایا نہیں، یعنی حضرت سعدؓ نے آپ کے سلام کا جواب تینوں مرتبہ قصداً بہت آہستہ آواز میں دیا تا کہ آپ سن نہ سکیں چنانچہ آنحضرتؐ ان کا جواب نہ سن کر واپس لوٹ پڑے۔ حضرت سعدؓ نے جب یہ دیکھا کہ جس چیز کو میں نے حصول سعادت میں زیادتی کا ذریعہ بنانا چاہا تھا وہ میرے لئے بالکل ہی محرومی کا باعث بنی جا رہی ہے اور ایک طرح سے سوء ادبی کی صورت بھی پیدا ہو گئی ہے تو وہ لپک کر گھر سے نکلے اور آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ نے جتنی بار سلام کیا میرے دونوں کانوں نے سنا اور حقیقت یہ ہے کہ میں ہر بار جواب بھی دیتا تھا البتہ میں اس جواب کو آپ کے کانوں تک نہیں پہنچنے دیتا تھا کیونکہ میں آپ کے زیادہ سے زیادہ سلام و برکت کا خواہش مند تھا یعنی میرا مقصد یہ تھا کہ میرا جواب آپ کے کانوں تک پہنچے تا کہ آپ جتنا زیادہ سلام کریں گے میرے حق میں اتنا ہی زیادہ حصول برکت و سعادت کا ذریعہ ہوگا چنانچہ حضرت سعدؓ کی طرف سے اس اظہار حقیقت اور عذر خواہی کے بعد آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سعدؓ مکان میں داخل ہوئے اور حضرت سعدؓ نے آپ کے لئے خشک انگور پیش کئے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت سعدؓ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں فرشتے تمہارے لئے استغفار کریں اور روزے دار تمہارے ہاں افطار کریں۔ (شرح السنۃ)

توضیح

”اکل طعامکم الابرار“ یہ صیغہ ماضی کا ہے مگر انشاء اور دعا کے لئے بطور استقبال استعمال کیا گیا ہے یعنی اللہ کے نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں۔

”وصلت علیکم الملائکۃ“ یہ بھی بطور دعا ہے یعنی فرشتے تمہارے لئے استغفار کریں۔

”وافطر عندکم الصائمون“ صائمون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ہو خواہ پہلے روزے سے ہوں یا نہ

ہوں یہ جملہ بھی بطور دعا ہے یعنی روزے دار تمہارے ہاں افطار کریں۔ کھانے کے بعد یہ دعائیں زبانی ہوتی ہیں کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں معلوم نہیں وہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں۔

کھانے کے بعد یہ دعا بھی منقول ہے ”الحمد لله الذی اطعمنی هذا ورزقیہ من غیر حول منی ولا قوۃ“ اور میزبان کے لئے یہ دعا ہے ”اللہم بارک لہ فی اموالہ واولادہ“۔

### پرہیزگار لوگوں کی ضیافت زیادہ بہتر ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ فَاطْعُمُوا طَعَامَكُمْ الْأَتْقِيَاءَ وَأُولُوا مَعْرُوفِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ اور حضرت ابوسعید خدریؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو اپنی رسی میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور ادھر ادھر چکر لگانے کے بعد پھر اپنی رسی کے پاس آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح مومن غفلت کو تباہی کرتا ہے لیکن پھر ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ لہذا تم اپنا کھانا متقی و پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ اور اپنے عطایا سے سب مسلمانوں کو نوازو۔ اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابونعیم نے حلیہ میں نقل کیا ہے۔

### توضیح

”آخِیَّتِہ“ ہمزہ پر مد ہے خا پر کسرہ ہے یا پر شد ہے پھر ’تا‘ ہے اس کا آسان ترجمہ رسی اور کنڈا ہے لیکن اصل میں ”اخیۃ“ کا بہترین مصداق جانوروں کے باڑہ میں جو سائیکل کا ٹائر زمین میں گاڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھ رسی باندھ کر جانور کو باندھا جاتا ہے وہی ہے اس کو کُلّہ بھی کہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے مرکز ایمان کے ساتھ باندھا ہوا ہے جانور اس کُلّہ سے کافی دور بھی جاتا ہے لیکن رسی موجود ہوتی ہے تو آخر میں پھر واپس کُلّہ پر آ جاتا ہے اسی طرح مثال مومن کی ہے جو ایمان کے کُلّے کے ساتھ باندھا ہوا ہے اگر معاصی کی طرف غلطی سے چلا جاتا ہے تو پھر اپنے مرکز ایمان کی طرف واپس لوٹ کر آتا ہے مسلمان کا مرکز، ایمان اور قرآن ہے، بیت اللہ اور مدینۃ الرسول ہے مساجد مدارس اور علماء ہیں بھٹکا ہوا مسلمان انہیں مقامات سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔

”فاطعموا“ یہ فاجزائیہ ہے اس کی شرط محذوف ہے یعنی جب مسلمانوں کا مرکز ایک ہے تو اس مرکز پر سب کو جمع ہونا چاہئے لہذا اس مرکز کو مضبوط کر داس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کی ضیافت کرو تا کہ محبت اور اتحاد پیدا ہو پرہیزگاروں کو کھلانے کی تخصیص اس لئے کی گئی کہ جب وہ کھائیں گے تو عبادت کریں گے اور تمہیں دعائیں دیں گے اور ان کی دعائیں

قبول ہوتی ہیں۔

”واولوا“ یہ ایلاء سے ہے والی اور متولی بنانے کے معنی میں ہے یعنی مسلمانوں کو اپنے عطا کے ساتھ خاص کرو منافقین اور کافرین کے چکر میں نہ پڑو۔

## گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھانا تو اضع ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُسْرِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رَجَالٍ يُقَالُ لَهَا الْغَرَاءُ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الصُّحْحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا فَالْتَفُوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجَلْسَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ثُمَّ قَالَ كُلُّوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُّوْا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبداللہ ابن بسر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک کٹھڑا چوبی ناند تھا جس کو چار آدمی اٹھاتے تھے یعنی جب اس میں کھانا رکھا جاتا تو وہ اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ اس کو چار آدمی اٹھاتے تھے یا وہ خالی ہی اتنا بڑا یا بھاری تھا کہ چار آدمیوں کے بغیر نہیں اٹھتا تھا اس کٹھڑے کو غراء کہا جاتا تھا چنانچہ جب چاشت کا وقت ہو جاتا اور لوگ چاشت کی نماز پڑھ لیتے تو وہ کٹھڑا لایا جاتا اور اس میں شریذ تیار کیا جاتا پھر لوگ جمع ہو کر اس کے گرد بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی تھی۔ اور بیٹھنے کی جگہ تنگ ہو جاتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں پر بیٹھتے ایک دن آپ کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر ایک دیہاتی نے کہا کہ یہ نشست کیسی ہے؟ یعنی اس طرح بیٹھنا آپ کے شایان شان نہیں ہے یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تواضع و انکساری کرنے والا بنایا ہے سرکش و ضدی نہیں بنایا ہے اور اس طرح بیٹھنا تواضع و انکساری اختیار کرنے کا قریبی راستہ ہے پھر آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس کے کناروں یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ اسکی بلندی کو چھوڑ دو یعنی درمیانی حصے کے کھانے پر پہلے ہاتھ نہ ڈالو تمہارے لئے اس میں برکت عطا کی جائے گی۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”الغراء“ روشن کے معنی میں ہے مراد بڑا اتھال چوبی ناند ہے ”جشی“ زانو کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ تکیہ لگا کر کھانا نہیں چاہئے اس کے علاوہ جس صورت میں بیٹھ جائے جائز ہے البتہ نبی پاک کے انداز میں بیٹھنا مسنون ہے لیکن یہ سنن زوائد میں سے ہے اگر ثواب کی نیت کی تو ثواب ملے گا ورنہ عادت پر بیٹھنے سے ثواب نہیں ملتا ہے۔



## جمع ہو کر کھانے سے برکت نازل ہوتی ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت وحشی ابن حربؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد اور وحشی کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہؓ نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم اگرچہ خاصی تعداد میں کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا جب کہ ہم چاہتے ہیں کہ یا تو ہمارا پیٹ بھر جایا کرے کہ ہم عبادت و طاعت کی طاقت حاصل کر سکیں۔ یا پھر ہمیں قناعت کی دولت میسر ہو جائے آپ نے فرمایا کہ خاصی مقدار میں کھانا کھانے کے باوجود پیٹ نہ بھرنے کی ظاہری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ تم لوگ شاید الگ الگ کھانا کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا تو پھر تم لوگ اپنے کھانے پر اکٹھے بیٹھا کرو اور اس پر کھاتے وقت اللہ کا نام لیا کرو تمہارے لئے اس کھانے میں برکت عطا کی جائے گی۔ (ابوداؤد)

توضیح

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانے کو اکٹھا کھانا کہا گیا ہے شاید صرف دسترخوان پر بیٹھ کر الگ پلیٹوں میں کھانے سے یہ شرط پوری نہیں ہوگی۔ عرب لوگ دس دس آدمی ایک ساتھ بیٹھ جاتے تھے اب بھی قبائل میں ایسا ہی رواج ہے۔

## الفصل الثالث

### تعیش کی زندگی کا قیامت میں سوال ہوگا

﴿۱۱﴾ عَنْ أَبِي عَسِيْبٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا فَمَرَّ بِى فَدَعَانِى فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِأَبِى بَكْرٍ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِإِسْحَابِ الْحَائِطِ أَطْعَمْنَا بُسْرًا فَجَاءَ بَعْدُ قَوْضَعُهُ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَ فَقَالَ لِنِسَائِنَ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِدْقَ فَضْرَبَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّى تَنَاطَرَ الْبُسْرُ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَمَسُوؤُلُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ خِرْقَةٌ لَفَّ بِهَا الرَّجُلُ

عَوْرَتَهُ أَوْ كِسْرَةً سَدَّ بِهَا جَوْعَتَهُ أَوْ حُجْرٌ يَتَدَخَّلُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْقَرِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

حضرت ابو عسیبؒ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور میرے ہاں تشریف لائے اور مجھے بلایا میں اپنے گھر سے نکل کر آپ کے ساتھ ہوا لیا پھر آپ حضرت ابوبکرؓ کی ہاں تشریف لے گئے اور ان کو بلایا وہ بھی اپنے گھر سے نکل کر آپ کے ساتھ ہوئے اس کے بعد آپ حضرت عمرؓ کے ہاں تشریف لے گئے اور ان کو بلایا وہ بھی اپنے گھر سے نکل کر آپ کے ساتھ ہوئے پھر آپ ہم سب کو لے کر روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک باغ میں پہنچے جو ایک انصاری صحابی کا تھا آپ نے باغ کے مالک سے فرمایا کہ ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ باغ کے مالک نے کھجوروں کا ایک خوشہ لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا اس میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور آپ کے صحابہ یعنی ہم لوگوں نے بھی کھایا پھر آپ نے ٹھنڈا پانی منگوایا جس کو آپ نے اور ہم نے پیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یقیناً قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کھجوروں کا خوشہ لیا اور اس کو زمین پر دے مارا یہاں تک کہ اس کی کچی کھجوریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکھر گئیں پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں! ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا خواہ وہ کم ہو یا زیادہ البتہ تین چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا ایک تو کپڑا کہ جس سے آدمی اپنا ستر ڈھانکے اور دوسری روٹی کا ٹکڑا کہ جس کے ذریعہ اپنی بھوک کو دور کرے اور تیسرے گھر اور حجرہ کہ جس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لئے گھس جائے۔ (احمد، بیہقی)

توضیح

”قناتر“ بکھرنے کے معنی میں ہے ”قبل“ طرف کے معنی میں ہے یعنی حضور کی طرف دانے بکھر گئے۔  
 ”حجر“ اگر ”ح“ پہلے ہو تو یہ حجرہ کمرہ کے معنی میں ہے اور اگر ”ج“ پہلے ہو تو یہ سوراخ کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں حجرہ چھوٹا سا کمرہ مراد ہے۔ ”يتدخل“ یعنی مشکل سے اس میں داخل ہوتا ہے گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لئے کافی ہو ”قر“ سردی کو کہتے ہیں۔

اگر ساتھیوں کے ساتھ کھا رہا ہے تو کھانے سے ایک ساتھ ہاتھ کھینچو

﴿۱۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعْتَ الْمَائِدَةَ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تَرْفَعَ الْمَائِدَةَ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبَعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْجَلُ

جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ هَيْثَمٍ فِي

شُعَبِ الْإِيمَانِ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دسترخوان بچھا دیا جائے اور لوگ اس پر کھانے کے لئے بیٹھیں۔ تو کوئی شخص اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھا دیا جائے اور کھانے سے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ کھینچے جب تک کہ سب لوگ کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں اگرچہ اس کا پیٹ بھر گیا ہو اور اگر کسی عذر کی بنا پر دسترخوان سے پہلے اٹھنا ضروری ہو یا دوسرے لوگوں کے کھانے سے فارغ ہونے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچنا ہو تو چاہئے کہ اس عذر کو بیان کر دے یعنی معذرت طلب کر کے دسترخوان پر سے اٹھے یا اپنا ہاتھ کھینچے کیونکہ یہ اپنے ہم نشین کو شرمندہ کر دینا ہے چنانچہ جب ایک شخص یہ دیکھے گا کہ اس کے ساتھی نے کھانا چھوڑ دیا ہے تو شرماء حضوری میں وہ بھی اپنا ہاتھ کھینچ لے گا جب کہ بہت ممکن ہے کہ وہ ابھی اور کھانے کی خواہش رکھتا ہو یعنی اس کا پیٹ نہ بھرا ہو۔ (ابن ماجہ، بیہقی)

توضیح

”فلا یقوم“ کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مانوس احباب کو ایک ساتھ بٹھایا جائے ڈاکٹر مع ڈاکٹر، مولوی مع مولوی طالب علم مع طالب علم کسان مع کسان وغیرہ وغیرہ۔ کدہم جنس باہم جنس پرواز۔ کبوتر با کبوتر باز باباز۔ اور میزبان ان کے ساتھ بیٹھ جائے جن سے وہ مانوس ہو، تاکہ مہمان کو کھانے میں ان کی وجہ سے وحشت و کلفت نہ ہو۔ کھانے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اجتماعی کھانے میں کوئی شخص دوسرے احباب سے پہلے کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے بلکہ آخر تک ویسے شغل رکھے تاکہ شرم کے مارے دوسرے بھی کھانا نہ چھوڑ دیں۔

”و یعذر“ یعنی اگر کسی شخص کو جلدی اٹھنا ہو یا کوئی مجبوری ہو تو وہ اپنے ساتھیوں سے معذرت کر لے اور کہے کہ بھائیو تم کھاؤ میں نے پہلے کھایا ہے، مجھے جلدی کہیں جانا ہے یہ اس لئے تاکہ دوسروں کو شرم حضوری کی وجہ سے کھانے میں دقت نہ ہو، کہ ابھی تک کھانے کی چاہت باقی ہے مگر دوسروں کے ہاتھ کھینچ لینے کی وجہ سے سے ہاتھ کھینچتا ہے۔

﴿۱۳﴾ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرُهُمْ أَكْلًا. رَوَاهُ ابْنُ هَيْثَمٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا

اور حضرت امام جعفر صادقؑ ابن محمدؑ اپنے والد یعنی امام محمد باقرؑ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تو آپ سب سے آخر تک کھانے والے شخص ہوتے تھے اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

بھوک ہو تو کھانے میں تکلف نہیں کرنا چاہئے

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا نَشْتَهِيهِ قَالَ لَا تَجْتَمِعَنَّ جُوعًا وَكَذِبًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ

اور حضرت اسمان بنت یزید کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا۔ اور پھر وہ کھانا ہمارے سامنے رکھا گیا ہم اگرچہ بھوکے تھے اور کھانے کی خواہش رکھتے تھے مگر جیسا کہ عادت ہوتی ہے محض تکلفاً ہم نے کہا کہ ہم کو کھانے کی خواہش نہیں ہے آنحضرت نے یہ سن کر فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ (ابن ماجہ)

توضیح

”لا نشتہیہ“ یعنی ہمیں چاہت نہیں حالانکہ چاہت تھی مطلب یہ ہے کہ بھوک لگی ہے مگر تکلف کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھوک نہیں لگی ہے تو اس میں دو چیزوں کا نقصان ہے ایک تو دنیا کا کہ کھانا نہیں کھایا دوسرا آخرت کا کہ جھوٹ کا ارتکاب کیا یہ امت کے ایسے اشخاص کے لئے تنبیہ ہے جو ایسا کرتے ہیں۔

﴿۱۵﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَهَ مَعَ الْجَمَاعَةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ

اور حضرت عمر ابن خطابؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا مل کر کھاؤ الگ الگ مت کھاؤ کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ)

مہمان کو گھر کے دروازہ تک چھوڑ آؤ

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ہے کہ آدمی اپنے مہمان کا استقبال کرنے یا اس کو رخصت کرنے کے لئے گھر کے دروازے تک نکل کر آئے۔ (ابن ماجہ) بیہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے نیز بیہقی نے کہا ہے کہ اس سلسلہ سند میں ضعف ہے۔

## توضیح

”من السنة“ کا مطلب یہ ہے کہ مہمان کو رخصت کرتے وقت ان کے ساتھ دروازہ تک جانا قدیم زمانہ کی ایک عادت ہے جو تہذیب و شائستگی کا ایک حصہ ہے یا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ یہ عمل میرے طریقے کے مطابق ہے۔

## ضیافت میں برکت ہی برکت ہے

﴿۱﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ مِنَ الشَّفْرَِةِ إِلَى سَنَامِ الْبُعِيرِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه .

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ وہاں خیر یعنی رزق برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ (ابن ماجہ)

## توضیح

”الی سنام البعیر“ اونٹ کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کے بعد سب سے پہلے جلدی جلدی اس کے کوہان سے گوشت کاٹ کر پکایا جاتا ہے اور شوق سے کھایا جاتا ہے اس حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں مہمان کو کھانا کھلایا گیا اس گھر کی طرف خیر و برکت اس سے بھی زیادہ جلدی آتی ہے جس طرح چھری ذبح شدہ اونٹ کے کوہان کی طرف جلدی جاتی ہے۔

## باب (المضطر)

## وهذا الباب خال عن الفصل الاول والثالث

## مضطر کا بیان

اس باب کے تحت صاحب مشکوٰۃ نے کوئی عنوان نہیں باندھا گویا یہ باب سابق کے لواحقات میں سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس باب میں فصل اول اور فصل ثالث دونوں غائب ہیں صرف فصل ثانی مذکور ہے چونکہ صاحب مشکوٰۃ صاحب مصابیح کی پیروی کرتے ہیں اور صاحب مصابیح کو اس کے متعلق کوئی حدیث نہیں ملی لہذا فصل اول نہیں رکھا باقی فصل ثالث لانا صاحب مصابیح کے ہاں نہیں ہے اس لئے اس کی نفی کی ضرورت نہیں تھی بہر حال اگر یہ باب ہی نہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا یہ احادیث سابق باب کے فصل ثانی میں درج ہو جاتیں لیکن چونکہ مضامین کے اعتبار سے یہ احادیث بالکل مختلف ہیں اس لئے علامہ طیبی اور ملا علی قاری نے باب المضطر کا عنوان باندھا ہے جو بہت اچھا ہے۔

## الفصل الثانی

## حالت اضطرار میں مردار کھانے کا مسئلہ

﴿۱﴾ وَعَنِ الْفَجِيعِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ مَا طَعَمُكُمْ قُلْنَا نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فَسَرَّهُ لِي عُقْبَةُ قَدْ حُ غَدُوَّةٌ وَقَدْ حُ عَشِيَّةٌ قَالَ ذَاكَ وَأَبَى الْجُوعُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت فجیع عامریؒ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہمارے لئے مردار میں سے کیا حلال ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کھانا کس مقدار میں ملتا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم کو ایک پیالہ دودھ کا شام کو اور ایک پیالہ دودھ کا صبح کو ملتا ہے۔ حدیث کے راوی ابو نعیمؒ کہتے ہیں کہ میرے استاد شیخ حضرت عقبہؒ نے غتبق اور نسطبح کی یہ وضاحت کی ہے کہ ایک پیالہ دودھ کا صبح کو اور ایک پیالہ دودھ کا شام کو۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجیعؒ کا جواب سن کر فرمایا کہ کھانے کی یہ مقدار اپنے باپ کی قسم بھوک کو واجب کرتی ہے یعنی صبح و شام محض ایک ایک پیالہ دودھ کا ملنا بھوک کو ختم کر کے انسانی زندگی کی بقاء کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں ان کے لئے مردار کا حلال قرار دیا۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”ماطعامکم“ یعنی تمہیں کھانے میں کیا ملتا ہے؟ ”نغبتق ونصطبح“ حدیث کے راوی ابو نعیم کہتے ہیں کہ میرے استاد عقبہ نے ان دونوں کلمات کا اس طرح مطلب بیان کیا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ صبح کو اور ایک شام کو ملتا تھا صبح صبح اور غروب شام کو کہتے ہیں ”ذاک و ابی الجوع“ ذاک مبتداء ہے اور الجوع اس کی خبر ہے اور و ابی درمیان میں جملہ معترضہ قسمیہ ہے، علامہ طیبی فرماتے ہیں ”و ابی جملة قسمیة معترضة بین المبتداء والخبر“ (طیبی) یعنی خدا کی قسم یہ تو خالص بھوک ہے یعنی حالت اضطرار ہے لہذا مردار کھاؤ اور جان بچاؤ۔

## سوال

اس حدیث کا آنے والی حدیث کے ساتھ واضح تعارض ہے کیونکہ زیر بحث حدیث میں ہے کہ اگر دودھ کا ایک پیالہ صبح و شام ملتا ہے تو یہ حالت اضطرار ہے اور مردار کھانا جائز ہے اور آنے والی حدیث میں مذکور ہے کہ جب تک گھاس پر بھی گزارا ہو سکتا ہو اس وقت تک مردار کا استعمال ناجائز ہے اس تعارض کے دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

## جواب

اس تعارض کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اضطرار متحقق ہونے کی حد تو وہی ہے جس کا ذکر آنے والی ابواب کی حدیث نمبر ۲ میں ہے کہ گھاس بھی ملتی ہو وہ کھائے اور مردار نہ کھائے اور زیر بحث حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس میں ایک پیالہ دودھ کا جو ذکر ہے یہ ایک ایک آدمی کے لئے نہیں تھا بلکہ پوری قوم کے لئے صبح ایک پیالہ اور شام کو ایک پیالہ تھا تو پوری قوم کے لئے ایک پیالے سے کیا ملیگا؟ ایک گھونٹ ملنا بھی مشکل ہے یہ تو خالص اضطراری حالت ہے لہذا اس حدیث اور آنے والی حدیث کا مفہوم و مضمون ایک ہی ہے اس حدیث کے چند الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ کا یہ پیالہ پوری قوم کے لئے تھا مثلاً ”ماطعامکم“ میں پوری قوم کو خطاب ہے اسی طرح راوی کا سوال ”ما یحل لنا“ میں پوری قوم کے بارہ میں سوال تھا ایک آدمی کے لئے نہیں تھا۔

باقی دونوں حدیثوں کے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ثبوت اضطرار کے بارہ میں فقہاء کرام کا اختلاف بیان کیا جائے کیونکہ اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

## فقہاء کا اختلاف

امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور ایک قول میں امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی طبعی خواہش کے مطابق اتنا کھانا نہیں

پاتا جس سے شکم سیری ہو جائے تو اس شخص کو مردار کھانا جائز ہے، مردار کے کھانے اور تحققِ اضطرار کے بارے میں ان حضرات کے ہاں بڑی وسعت ہے۔

امام ابو حنیفہؒ اور ایک قول میں امام شافعیؒ کے ہاں اضطراری حالت اس وقت تحقق ہوگی کہ آدمی کی جان کو بھوک کی وجہ سے ہلاکت کا خطرہ لاحق ہو جائے پھر مردار اتنا کھائے کہ جان میں جان باقی رہے صرف قوتِ لایموت اور سیدہٗ رفق کی حد تک کھائے۔

## دلائل

جمہور نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے ائمہ احناف نے آنے والی حضرت ابو واقد لیثیؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے احناف کی طرف سے زیر بحث حدیث کا جواب اس سے پہلے سوال و جواب کے ضمن میں ہو گیا ہے کہ یہ ایک پیالہ پوری قوم کے لئے تھا یہ تو عینِ اضطرار ہے۔

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ فَتُصَيَّنُ بِهَا الْمَخْمَصَةُ فَمَتَى يَجِلُّ لَنَا الْمَيْتَةُ قَالَ مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفُوا بِهَا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ تَجِدُوا صَبُوحًا أَوْ غُبُوقًا وَلَمْ تَجِدُوا بَقْلَةً تَأْكُلُونَهَا حَلَّتْ لَكُمْ الْمَيْتَةُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

اور حضرت ابو واقد لیثیؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم کبھی ایسی زمین میں یعنی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا جس کی وجہ سے ہم وہاں مخمصة بھوک کی حالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس صورت میں مردار کھانا ہمارے لئے کب حلال ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم صبح تک یا شام تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پاؤ یا اس زمین یعنی اس جگہ کہ جہاں تم ہو ترکاری کی قسم سے بھی کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو تم مردار کھا سکتے ہو حاصل یہ کہ تمہیں ایسی کوئی بھی چیز میسر نہ ہو جو بھوک کو ختم کرنے والی یا پیٹ کو سہارا دینے والی ہو تو تمہاری حالت مردار سے متعلق ہوگی یعنی ایسی صورت پیش آنے پر مردار کھانا تمہارے لئے حلال ہوگا۔ (دارمی)



## باب الاشربة

### پینے کی چیزوں کا بیان

قال الله تعالى ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾

اشربة۔ شراب کی جمع ہے اور شراب مشروب کے معنی میں ہے مشروب ہر پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے خواہ پانی ہو، نبیذ ہو، شربت ہو یا جوس ہو، مشروب چونکہ طعام کے تابع ہوتا ہے اس لئے کتاب الاطعمہ کے ذیل میں تابع ذکر کیا اور لباس طعام کے تابع نہیں تھا اس لئے اس کو الگ کتاب کے عنوان میں ذکر کیا اس باب میں پانی پینے کے آداب مستحبات اور مکروہات کو ذکر کیا گیا ہے۔

## الفصل الاول

### تین سانس میں پانی پینے کے فوائد

﴿۱﴾ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ وَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ أَرَوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرًا .

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے درمیان تین مرتبہ سانس لیتے تھے۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم نے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ اور آپ فرماتے تھے کہ اس طرح کئی سانس میں پانی پینا اچھی طرح سیراب کرتا ہے اور پیاس کو بجھاتا ہے۔ بدن کو صحت بخشتا ہے اور خوب ہضم ہوتا ہے اور معدہ میں بڑی آسانی کے ساتھ جاتا ہے۔

### توضیح

”ثلاثاً“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس میں پانی پیتے تھے یہ غالب احوال کی بات ہے ورنہ ترمذی کی روایت میں دو سانس میں پینے کی بات بھی ملتی ہے وہ بھی کبھی کبھی ہوا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ پانی اونٹ کی طرح نہ پیو بلکہ دو سانس اور تین سانس میں پیو اس میں بھی دو سانس کا ذکر ہے (مرقات) پانی کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جب سانس لیتا ہو تو برتن کو منہ سے الگ کرے تاکہ سانس لینے کی وجہ سے برتن میں منہ سے کوئی الاش نہ گرے۔

قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ تین سانس سے پانی پینے کے فوائد میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے پیاس اچھی طرح بجھتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہضم کے لئے مفید ہے کیونکہ اس طرح پانی کی ٹھنڈک معدہ اور اعصاب کو نسبتاً کم نقصان پہنچاتی ہے

اور اگر ایک سانس سے پانی معدہ میں انڈیل دیا تو معدہ ایک دم ٹھنڈا ہو جائیگا اور نقصان ہوگا اس حدیث کے آخری جملوں میں انہیں فوائد کا بیان ہے مگر سنت نبوی پر عمل کرنا سب سے بڑا فائدہ ہے۔

”اروی“ ای اشدر واء یعنی اچھی طرح سیراب کرتا ہے ”ابراً“ یہ براءت سے ہے یعنی اس طرح پانی پی لینا بدن کے لئے صحت بخش اور بیماری سے برأت کا باعث ہے ”امراً“ ای اقویٰ ہضمًا، خوب ہضم ہوتا ہے۔

## مشکیزہ کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت

﴿۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے دہانے سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”من فی السقاء“ فی لفظ مشدد ہے اصل میں فوہ سے ہے جو فم کے معنی میں ہے ای من فم القریۃ مشکیزہ کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے کو اس لئے منع کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ مشکیزہ کے منہ میں کوئی کچرہ ہو یا موذی جانور کیڑا مکوڑا چھپا پڑا ہو، یا اندر پانی میں کوئی لال بیگ یا گندگی ہو اور اس طرح اندھا دھند پینے سے وہ منہ میں چلا جائے نیز پانی کو مشکیزہ کے اندھیرے سے پیٹ کے اندھیرے میں ایک دم انڈیلنے سے معدہ کی خرابی کا خطرہ بھی ہے۔ نیز اس طرح انڈیلنے سے پانی کے ساتھ اس کی گیس اندر چلی جائے گی جو صحت کے لئے مضر ہو سکتی ہے۔ نیز اس طرح پینے سے بسا اوقات کپڑوں پر پانی گر جاتا ہے داڑھی تر بتر ہو جاتی ہے نیز کبھی کبھی منہ سے کھانے کی ذرات پانی کے برتن میں اندر چلے جاتے ہیں جو نظافت کے خلاف ہے یہ تمام وجوہات اپنی جگہ لیکن ایک مسلمان کے لئے اس ممانعت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے اور یہ مسنون طریقہ کے خلاف ہے مشکیزہ کی طرح یہ حکم لوٹے کا بھی ہے تھیلی، ٹونٹی، بوتل یا ہر اس برتن کا بھی ہے جس کی اندرونی حالت کا علم کسی کو نہ ہو، ساتھ والی حدیث کی تشریح و توضیح بھی اسی طرح ہے۔

## سوال

اب سوال یہ ہے کہ اسی باب کی آئندہ حدیث ۱۹ میں حضرت کبشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت نے مشکیزہ کے منہ سے خود پانی پی لیا تو اس تعارض کا کیا جواب ہے؟

## جواب

اس کا جواب یہ ہے کہ بوقت ضرورت مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے ورنہ نہیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک چھوٹا مشکیزہ ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے چھوٹے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے جس میں یقینی طور پر کسی موذی حشرات کے وجود کا خطرہ نہیں تھا تیسرا جواب یہ ہے کہ عام عادت بنانا ممنوع ہے ایک آدھ بار پینے کی گنجائش ہے۔

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأُسْقِيَةِ زَادَ فِي رِوَايَةٍ وَاخْتِنَاثُهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کا منہ موڑنے یعنی اس کا منہ موڑ کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے اور راوی نے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ مشک کا منہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مشک کا سرا یعنی منہ الٹ دیا جائے اور پھر اس سے پانی پیا جائے۔ (بخاری و مسلم)

”اختنات“ یہ خنٹ سے ہے جس کے معنی مشکیزہ کے منہ کو موڑ کر اپنے منہ کے ساتھ لگا دینا ہے یعنی اس طرح کر کے پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے وجوہات اوپر بیان ہو گئیں۔

## کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت

﴿۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت انسؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیئے۔ (مسلم)

## توضیح

”قائمًا“ اس حدیث میں کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت کا ذکر ہے اور ساتھ والی روایت میں ہے کہ اگر کسی نے بھول کر اس طرح پیا تو اس کو چاہئے کہ پانی کو قے کر لے۔ اس جیسی احادیث کا تعلق اصل اور قاعدہ کے ساتھ ہے کہ شریعت کا قاعدہ یہی ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے اور یہی آنحضرت کی عادت شریفہ تھی اور امت محمدی کا عمل بھی اسی پر ہے اس کے برعکس فصل ثانی میں حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ۱۳ میں کھڑے ہو کر پانی پینے کا جو ذکر موجود ہے تو اس حدیث کا تعلق بیان جواز سے ہے کہ اگر بدرجہ مجبوری ایسا ہو تو وہ جائز ہے کبھی جگہ نہیں ہوتی کبھی جلدی ہوتی ہے کبھی کوئی اور مجبوری ہوتی ہے جو استثنائی صورتیں ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ زیر بحث حدیث کی ممانعت کراہت تنزیہی پر محمول ہے اور آنے والی ابن عمرؓ کی حدیث جواز پر محمول ہے اور کراہت تنزیہی اور جواز کے درمیان منافات نہیں دونوں ایک ہی چیز ہے۔

بہر حال اصل قاعدہ اور قانون بیٹھ کر پینے کا ہے اور گاہ گاہ اس قانون کے برعکس اگر ہوا ہو تو وہ مجبوری کی استثنائی صورت ہوگی کہ کبھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی کبھی جلدی ہوتی ہے کبھی کچھ اور مجبوری ہوتی ہے۔ استثنائی صورتوں میں سے ایک صورت زمزم کے پانی کی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے کیونکہ وہ مبارک پانی ہے جتنا زیادہ پیا جائے وہ نقصان نہیں کرتا منافق اسے کم پیتا ہے تو مسلمان کو حکم ہے کہ کھڑے ہو کر خوب پیئے کہ پسلیاں بھر جائیں قیام کی حالت میں دیگر پانی اگر پیٹ بھر کر پیا جائے تو بیٹھنے سے پیٹ پر بوجھ پڑیگا لیکن زمزم سے پیٹ پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا اسی طرح وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے وہ بھی مبارک پانی ہے ضرر نہیں کریگا عجیب حکمت ہے کہ بیٹھنے کی حالت میں پیٹ میں شکنیں بن جاتی ہیں پیٹ بھر کر پانی پینے کے بعد جب آدمی کھڑا ہوگا تو پانی پیٹ میں پھیل جائے گا اور گنجائش پیدا ہو جائے گی کوئی بوجھ نہیں ہوگا مگر قیام کی حالت میں پانی پینے سے یہ فائدہ مفقود ہوگا۔

﴿۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْرِبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَقِفْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر نہ پیئے اگر کسی شخص نے بھول سے کھڑے ہو کر پی لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ تے کر ڈالے۔ (مسلم)

کھڑے ہو کر زمزم کا پانی استعمال کرنا مستحب ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ زَمْزَمٍ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زمزم کے پانی کا ایک ڈول لے کر آیا تو آپ نے اس کو اس حالت میں پیا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ (بخاری و مسلم)

وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا جاسکتا ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحْبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أَتَى بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرَجُلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُنَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ ایک دن انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر لوگوں کے معاملات و مقدمات کا فیصلہ کرنے

کے لئے کوفہ کی ایک بلند و کشادہ جگہ پر اپنی مجلس قائم کی اور وہاں لوگوں کے جھگڑوں اور معاملوں کو سن کر فیصلہ کرتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت آگیا جب وضو کے لئے پانی لایا گیا تو انہوں نے اپنی پیاس بجھانے کے لئے وضو سے پہلے اس پانی میں سے پیا اور پھر انہوں نے وضو کے لئے اپنا منہ اور اپنے ہاتھ دھوئے۔ اور راوی نے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے اپنا سر کا مسح اور اپنے پاؤں دھوئے اس کے بعد حضرت علیؓ کھڑے ہوئے اور وضو کا بچا ہوا پانی اس حالت میں پیا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور پھر فرمایا کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر پینے کو کراہت پر محمول کرتے ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے کہ جیسا کہ ابھی میں نے کیا۔ (بخاری)

## توضیح

”و ذکر را سہ“ یعنی راوی نے اس وضو میں سر کا مسح بھی بیان کیا اور پاؤں دھونے کا ذکر بھی کیا ”مَا صَنَعْتُ“ حضرت علیؓ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے جس طرح وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا ایسا ہی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، بہر حال اس سے عام پانی کے کھڑے ہو کر پینے کے جواز کی بات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ زمزم اور وضو کے پانی کی صورت تو استثنائی صورتوں میں سے ہے۔

## مجبوری میں منہ لگا کر تالاب یا نہر سے پانی پیا جاسکتا ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ فَرَدَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شِنَةٍ وَلَا كَرَعْنَا فَقَالَ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَيْنٍ فَأَنْطَلِقُ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری یعنی ابوالہیثم جن کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے کے باغ میں تشریف لے گئے آپ کے ہمراہ آپ کے ایک صحابی یعنی حضرت ابوبکرؓ بھی تھے آنحضرت نے باغ میں پہنچ کر سلام علیک کی ان انصاریؓ نے جو اس وقت باغ میں سے پانی دے رہے تھے آپ کے سلام کا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پرانی مشک میں باسی پانی ہو تو لاؤ تاکہ ہم ہمیں اور اگر تمہارے پاس ایسا پانی نہ ہو تو پھر ہم ندی یا نہر سے منہ لگا کر پانی پی لیں گے انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں میرے پاس پرانی مشک میں باسی پانی موجود ہے چنانچہ وہ جھونپڑی میں گئے جو انہوں نے اس باغ میں ڈال رکھی تھی اور ایک پیالہ میں پانی لے کر پھر اس پر یعنی

اس پیالہ میں گھر کی پلی ہوئی بکری کا دودھ دوہا اور اس پیالہ کو آنحضرت کی خدمت میں پیش کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اس کے بعد وہ انصاری پہلے پیالہ کی طرح ایک اور پیالہ لے کر آئے جس کو ان صاحب نے پیا جو آنحضرت کے ہمراہ آئے تھے۔ (بخاری)

## توضیح

”ومعه صاحب له“ شارحین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کے لقب سے یاد کیا ہے ”اذیقول لصحابہ“ شارحین کا قول سر آنکھوں پر قبول ہے لیکن میں نے اپنے دل و دماغ پر جتنا زور دیا اتنا دماغ نے انکار کیا کہ یہ شخص صدیق اکبر ہوں کیونکہ اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں فشرب الرجل الذی جاء معه ایسے الفاظ صدیق کے لئے کس طرح استعمال ہو سکتے ہیں یہ تو ایک غیر معروف اجنبی آدمی کے لئے استعمال کے الفاظ ہیں واللہ اعلم۔

”ماء باث“ یعنی رات کا رکھا ہوا پانی ہو تو دید و ”شنة“ پرانے مشکیزے کو شنة کہتے ہیں ”والا کرعنا“ یعنی اگر اس طرح پانی اور برتن میسر نہ ہو تو پھر ہم کسی تالاب یا نہر کے پانی کو منہ لگا کر پی لیں گے، پانی پینے کی ترتیب اس طرح ہے کہ اگر برتن ہے تو اس سے لیکر پی لیا جائے اگر برتن نہیں ہے تو پھر دونوں چلوؤں میں لیکر پی لیا جائے اگر اس سے بھی مشکل ہو تو پھر منہ لگا کر پینا جائز ہے جس طرح اس روایت سے معلوم ہوتا ہے مجھے پہاڑوں کے پانیوں کے دیکھنے کا تجربہ ہے وہاں بعض پانی ایسا ہوتا ہے کہ برتن اور چلو سے اٹھانا اور پینا ممکن نہیں ہوتا ایسی مجبوری میں منہ لگا کر پینے کی اجازت ہے ابن ماجہ کی ایک روایت میں منہ کے ذریعے پانی پینے کو ممنوع کہا گیا ہے وہ نہی کر اہت تنزیہی پر محمول ہے اور زیر بحث حدیث بیان جواز کے لئے ہے یعنی مجبوری ہو تو منہ لگا کر پانی پیا جاسکتا ہے۔ ”داجن“ گھر کی پلی ہوئی بکری کو داجن کہتے ہیں۔

## سونے چاندی کے برتن میں پانی پینا حرام ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يَجْرُجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ

اور حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پینے کی کوئی چیز پیتا ہے تو اس کا یہ پینا اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گا کہ اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو غٹ غٹ اٹارے گا۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص چاندی اور سونے کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہے اس کا حشر بھی یہی ہوگا۔

## توضیح

”یجر جر“ اونٹ کو ہنکاتے وقت اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسکو جر جرہ کہتے ہیں یہاں غٹ غٹ کر آگ کو پیٹ میں داخل کرنا مراد ہے اس داخل کرنے سے جر جرہ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔

”نار جہنم“ رانج اور واضح اور آسان ترکیب یہی ہے کہ نار جہنم کا کلمہ یجر جر کا مفعول بہ ہے ای یجر جر نار جہنم فی بطنہ، یعنی مسلسل دوزخ کی آگ پیٹ میں بھر رہا ہے۔

اب اس حدیث کا حکم اور فقہ یہ ہے کہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر مرد وزن کے لئے سونے چاندی کی برتنوں کا استعمال ہر حال میں ناجائز اور حرام ہے خواہ کھانے پینے میں استعمال ہوں یا کسی اور مقصد کے لئے ہوں البتہ عورتوں کے لئے سونے اور چاندی کے زیورات استعمال کرنا جائز ہے زیورات کا تعلق اس کی ذاتی خوبصورتی سے ہے جو مطلوب ہے برتنوں میں یہ چیز نہیں ہے اس لئے عورتوں کے لئے بھی منع ہے اگر کسی برتن کے کناروں پر چاندی لگی ہو یا کوئی پترا لگا ہوا ہو تو مسلمان کو چاہئے کہ منہ وہاں پر لگائے جہاں چاندی نہ ہو۔

﴿۱۰﴾ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ریشمی کپڑا نہ پہنو اور نہ دیباچ پہنو جو ایک طرح کا ریشمی ہی کپڑا ہوتا ہے اسی طرح نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پینے کی کوئی چیز پیو۔ اور نہ سونے چاندی کی رکابیوں اور پیالوں میں کھاؤ کیوں کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں کافروں کے لئے ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔ (بخاری و مسلم)

## دائیں طرف سے جام کا گھومنا چاہئے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ حَلَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً دَاجِنَ وَشَيْبَ لَبْنِهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبُسْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدْحَ فَشَرِبَ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ عُمَرُ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَارَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ الْأَيْمَنُ فَلَا أَيْمَنُ وَفِي رِوَايَةٍ الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کے لئے گھر کی پلی

ہوئی ایک بکری کا دودھ دوبا گیا اور اس دودھ کو اس کنویں کے پانی میں ملایا گیا جو انسؑ کے گھر میں تھا پھر یہ دودھ کا پیالہ آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش کیا گیا جس میں سے آپؐ نے کچھ دودھ پیا اس وقت آنحضرتؐ کے بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیقؓ بیٹھے تھے اور دائیں طرف ایک دیہاتی بیٹھا تھا حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ بچا ہوا دودھ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو دیجئے لیکن آپؐ نے اس دیہاتی کو عنایت فرمایا جو آپؐ کی دائیں طرف بیٹھا تھا پھر فرمایا کہ دایاں مقدم ہے اور پھر دایاں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ یاد رکھو دائیں طرف کے زیادہ حق دار ہیں اور دائیں طرف کے زیادہ حقدار ہیں لہذا دائیں طرف والوں کو دیا کرو یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ دائیں طرف والے زیادہ حق دار ہیں تو تم بھی دائیں طرف والوں کی رعایت ملحوظ رکھا کرو کہ دینے میں انہی سے ابتداء کرو۔ (بخاری و مسلم)

”الایمنون“ یہ سارے الفاظ یمنین کے مادہ سے ماخوذ ہیں یعنی دائیں طرف سے پانی کا جام گھومنا چاہئے دایاں طرف زیادہ حقدار ہے۔

﴿۱۲﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَوْثَرٍ بِفَضْلِ مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ سَنَدُهُ كَرُ فِي بَابِ الْمُعْجَزَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

اور حضرت سہل ابن سعدؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ یا پانی کا ایک پیالہ لایا گیا جس میں سے آپؐ نے پیا اس وقت آپؐ کے دائیں طرف ایک نو عمر تھا جو حاضرین مجلس میں سب سے چھوٹا تھا یعنی حضرت ابن عباسؓ اور جو بڑے بوڑھے لوگ تھے وہ بائیں طرف تھے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اے لڑکے کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں اس باقی ماندہ دودھ یا پانی کو ان بوڑھوں کو دے دوں؟ اس نو عمر نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ! میں آپؐ کے بچے ہوئے دودھ یا پانی کو دینے کے سلسلے میں اپنے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے اس بچے ہوئے دودھ یا پانی کو اسی نو عمر کو دے دیا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”غلام“ غلام سے حضرت ابن عباسؓ مراد ہیں یہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے ”لا وثر“ یعنی میں آپؐ کے بچے ہوئے پانی یا دودھ کے دینے میں اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا اس حدیث سے ایثار بالاطاعات کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے ایثار بالاطاعات کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو نیکی مل رہی ہے وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسرے کو موقع دیتا ہے تاکہ یہ نیکی اس کو ملے مثلاً جماعت کی پہلی صف میں ایک شخص کھڑا ہو پیچھے صف میں ایک بزرگ آجائے تو وہ شخص پیچھے ہٹ گیا اور بزرگ



کو صف اول کے ثواب کا موقع دیدیا یہ ایثار بالطاعات کہلاتا ہے ایثار طاعات اگر واجبات میں ہو تو یہ ناجائز ہے اور اگر طاعات غیر واجبہ میں ہیں ہو تو مکروہ ہے یہ تو ایثار بالطاعات کی بات تھی لیکن اگر دنیوی امور میں کوئی شخص ایثار کرتا ہے تو یہ مستحب ہے مثلاً اپنا حق دوسرے کے لئے چھوڑ دیا اپنی باری دوسرے کو دیدی اپنی جگہ پر دوسرے کو بٹھادیا تو اس میں ادب کا ثواب ملتا ہے۔

## الفصل الثانی

### ضرورت کے پیش نظر چلتے پھرتے کھانا پینا جائز ہے

﴿۱۳﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم چلتے پھرتے کھاتے تھے اور کھڑے ہونے کی حالت میں پانی وغیرہ پی لیا کرتے تھے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی) اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

### توضیح

”قیام“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے کھانا پینا بلا کراہت جائز ہے لیکن اس سے استدلال کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ عمل حضور اکرمؐ کے علم میں آچکا ہو اور آپؐ نے اس کی تصویب فرمائی ہو اور تقریر رسولؐ کا ضابطہ پورا ہو چکا ہو اگر ایسا نہیں ہے تو صحابی کے اس عمل کو ضرورت اور مجبوری پر حمل کیا جائے گا اس لئے کہ تمام علماء اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ کھڑے کھانے پینے کے آداب کے خلاف ہے اس باب کی حدیث ۴ کے تحت اس مسئلہ کی مکمل تفصیل گزر چکی ہے اور کئی احادیث میں کھڑے کھانے پینے کی ممانعت آئی ہے کھانے کا معاملہ تو زیادہ اہم ہے اس لئے زیر بحث روایت میں تاویل ہوگی نیز کھانے کی اشیاء کا حال بھی مختلف ہے اگر کھجور ہے یا انگور ہے تو یہ روٹی سے مختلف ہیں۔

﴿۱۴﴾ وَعَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت عمر و ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر بھی پیتے دیکھا ہے اور بیٹھے ہوئے بھی۔ (ترمذی)

”قائماً وقاعداً“ عام عادت بیٹھنے کی تھی قیام کی حالت میں پانی پینا بیان جواز یا دیگر مجبوریوں کی وجہ سے گاہ گاہ ہوا ہے۔

## پیتے وقت برتن میں سانس مت لو

﴿۱۵﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ پانی وغیرہ پیتے وقت برتن میں یا پیالہ وغیرہ میں سانس لیا جائے یا پھونک ماری جائے۔ (ابوداؤد، وابن ماجہ)

## توضیح

”یتنفس“ برتن میں سانس لینے سے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ منہ سے کوئی تھوک یا دیگر آلاش پانی میں گر جائے اور طبیعت مکدر ہو جائے یا اگر آدمی کی منہ میں بدبو ہو اور وہ پانی میں پہنچ جائے تو یہ مضرت بھی ہے اور مکرر طبیعت بھی ہے۔ نیز پانی کے اندر سانس لینا جانوروں کی عادت ہے لہذا انسان کو سانس لیتے وقت منہ کو برتن سے الگ کرنا چاہئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گرم چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لئے پھونک مارنا بھی منع ہے اسی طرح پینے کی اشیاء میں اگر کوئی تنکا ہو تو اس کو پھونک کے ذریعہ سے دور کرنا بھی منع ہے۔

## ایک سانس میں پانی مت پیو یہ جانوروں کا کام ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشَرْبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثَلَاثَ وَسَمُوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ تم ایک سانس میں پانی مت پیو جس طرح اونٹ پیتا ہے بلکہ دو سانس یا تین سانس میں پیو اور جب تم پانی پینے لگو تو بسم اللہ کہو اور جب پینے کے بعد برتن کو اپنے منہ سے ہٹاؤ تو حمد کرو۔ یعنی ہر بار میں یا آخری بار میں۔ (ترمذی)

”وسموا“ یعنی ابتدا میں بسم الرحمن الرحیم کہو اور آخر میں اس طرح حمد و ثنا پڑھو

الحمد لله الذي جعله عذاباً فارتأى رحمة ولم يجعله ملحاً اجاباً بذنوبنا.

## پانی سے تنکا وغیرہ ہٹانے کا طریقہ

﴿۷۱﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلٌ الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ أَهْرِقُهَا قَالَ فَإِنِّي لَا أُرْوِي مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَأَبْرِ الْقَذَحَ عَنْ فَيْكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ایک شخص نے یہ ممانعت سن کر عرض کیا کہ اگر میں پانی میں تنکے و نکلے پڑے ہوئے دیکھوں تو کیا کروں؟ کیونکہ اگر پھونک نہیں ماروں گا تو وہ تنکے کیسے نکلیں گے؟ آپ نے فرمایا تم اس کو پھینک دو یعنی اوپر سے تھوڑا سا پانی پھینک دو تا کہ وہ تنکے وغیرہ نکل جائیں اور چونکہ وہ شخص پھونک مارنے کی ممانعت سے یہ بھی سمجھا ہوگا کہ اس سے یہ بات بھی ضروری ہوئی کہ پانی پیتے وقت درمیان میں سانس نہ لیا جائے بلکہ ایک ہی سانس میں پانی پیا جائے اس لئے اس نے عرض کیا کہ میں ایک دم یعنی ایک سانس میں پینے سے سیراب نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح پانی پیو کہ پہلے تھوڑا سا پی کر پیالہ کو منہ سے ہٹاؤ اور برتن سے باہر سانس لو اور پھر ایسے ہی دوسرے اور تیسرے سانس میں باقی پانی پی لو۔ (ترمذی، دارمی)

## توضیح

”القذاة“ اس کا معنی تنکا ہے۔ ”قال“ چونکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ برتن میں سانس لیا جائے یا پھونک ماری جائے تو اس شخص نے شاید یہ سمجھ لیا کہ پانی ایک ہی سانس سے پینا چاہئے اس لئے اس نے سوال کیا کہ ”فانی لا اروی“ یعنی میں تو ایک سانس میں سیر نہیں ہوتا ہوں حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ برتن کو منہ سے الگ کرو اور سانس لو۔ اس شخص نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ میں برتن کے پانی وغیرہ میں کبھی کوئی تنکا دیکھتا ہوں تو اس کو کیسے ہٹاؤں آنحضرتؐ نے فرمایا کہ پانی کو اوپر سے گراؤ تنکا پہلے گر جائے گا علماء نے لکھا ہے کہ تنکا ہٹانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی دوسری لکڑی وغیرہ سے تنکا ہٹایا جائے۔

## برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہ پیو

﴿۷۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ کے سوراخ سے پانی پینے سے منع فرمایا نیز آپ نے پانی میں پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا۔ (ابوداؤد،)

## توضیح

”ثلثة القدح“ پیالہ کی ٹوٹی ہوئی جگہ کو ”ثُلْمَةٌ“ کہتے ہیں جس کو پیالہ کا سوراخ بھی کہتے ہیں اس وقت لکڑی کے برتن ہوتے تھے اس کے پیالوں کے کنارے عموماً ٹوٹ جاتے تھے ایسی جگہ سے پانی پینے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ میلی کچیلی رہتی ہے اور منہ میں صحیح بھی نہیں آتی تو پانی وغیرہ کپڑوں پر گزرتا ہے نیز ویسے بھی یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر برتن کا کوئی حصہ ٹوٹا ہو تو اس برتن کو استعمال نہ کرو بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی جگہ کو استعمال نہ کرو۔

### بوجہ ضرورت کبھی مشکیزہ سے منہ لگا کر پانی پینا جائز ہے

﴿۱۹﴾ وَعَنْ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ

اور حضرت کبشہؓ (صحابیہ) کہتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو آپ نے کھڑے کھڑے لنگی ہوئی مشک کے منہ سے پانی پیا چنانچہ میں مشک کے منہ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور اس کو کاٹ لیا۔ (ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔

## توضیح

”قربة“ حضور اکرمؐ نے اختناث سے منع کیا ہے اور یہاں خود اختناث کیا اس کی تفصیل حدیث نمبر ۳ کے تحت گذر چکی ہے شاید کسی مجبوری کی وجہ سے یا بیان جواز کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ ”فقطعتہ“ حصول برکت کے لئے اس حصہ کو کاٹ کر اپنے پاس رکھا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے اس جگہ کو اس لئے کاٹ دیا تاکہ اس جگہ پر کسی کا منہ نہ لگے جہاں سرور کونین کے ہونٹ مبارک لگے تھے۔

### حضور اکرم کو ٹھنڈا میٹھا مشروب پسند تھا

﴿۲۰﴾ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُو الْبَارِد. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ الصَّحِيحُ مَا رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

اور حضرت زہریؒ حضرت عروہؒ سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی حضرت عائشہؓ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پینے کی چیزوں میں ٹھنڈی میٹھی چیز بہت زیادہ پسندیدہ تھی۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ روایت صحیح ہے جو بحوالہ زہری آنحضرت سے بطریق ارسال نقل کی گئی ہے۔

توضیح

”الحلو البارد“ ٹھنڈے میٹھے مشروب کے لئے یہ ضروری نہیں کہ صرف پانی ہو بلکہ دودھ بھی ہو سکتا ہے اور شہد کا شربت بھی ہو سکتا ہے اس طرح مطلب لینے سے کئی احادیث کے درمیان تطبیق آجائے گی جیسے بعض روایات میں آیا ہے کہ آنحضرت کو مشروبات میں دودھ سب سے زیادہ پسند تھا ایک روایت میں شہد کا بھی ذکر آیا ہے یعنی آپ کو ٹھنڈا میٹھا مشروب پسند تھا خواہ شہد کے ساتھ ہو خواہ دودھ یا پانی کے ساتھ ہو۔

### کھانے پینے میں دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں

﴿۲۱﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَإِذَا سَقَى لَبَنًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْ نَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزَى مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو یوں کہے یعنی یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ اے اللہ ہمیں ہمارے اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہم کو اس سے بھی اچھا کھانے کو دے اور جب تم میں سے کسی شخص کو دودھ پینے کو ملے تو وہ یوں کہے یعنی یہ دعا پڑھے۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اے اللہ ہمیں ہمارے اس دودھ میں برکت عطا فرما اور ہم کو اس سے زیادہ پینے کو دے اور دودھ پینے کی اس دعا سے بھی اچھا پینے کو دے کے الفاظ نہ کہے کیوں کہ دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو خدا سے مانگی جاسکے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے کا بدل بن سکے علاوہ دودھ کے کہ وہ شکم سیر کرنے کی بھی خاصیت رکھتا ہے اور سیراب کرنے کی بھی۔ (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح

یعنی دودھ کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مشروبات میں اس سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے کیونکہ دودھ دفع عطش کے لئے پانی کا کام بھی کرتا ہے اور دفع جوع کے لئے طعام کا کام بھی کرتا ہے اس لئے دعا میں زدنا کہنا چاہئے خیر انہیں کہنا چاہئے ”یجزی“ ای یکفی کافی ہو جانا۔

## ۲۲ آنحضرتؐ کے لئے میٹھے پانی کا خاص اہتمام

﴿۲۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَعْدَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنَ السَّقِيَا قِيلَ هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میٹھا پانی سقیا سے لایا جاتا تھا بعض حضرات نے بیان کیا کہ سقیا ایک چشمہ کا نام ہے جو مدینہ سے دو منزل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ (ابوداؤد)

## الفصل الثالث

﴿۲۳﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجْرُ جُرٌّ فِي بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ. رَوَاهُ الدَّارِ قُطْنِي.

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں پیئے گا یا کسی ایسے برتن میں پیئے گا جو اگرچہ کلیہ سونے یا چاندی کا نہ ہو مگر اس میں سونے یا چاندی کا کچھ حصہ ہو تو اس کا یہ پینا اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گا کہ اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو غٹ غٹ اتارے گا۔ (دارقطنی)

## باب النقیع والانبذة

### نقیع اور نبیذوں کا بیان

قال الله تعالى ﴿تَتَخَذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾

نقیع اور نبیذ پینے کے شربتوں کی اقسام میں سے ہیں ”نقیع“ بنانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انگور یا کھجوروں کو پانی میں ڈال کر صرف بھگو دیا جائے اور کچھ وقت کے لئے چھوڑ دیا جائے تاکہ پانی میں مٹھاس آجائے بس یہی نقیع ہے اس کا پینا جائز اور بدن اور نظام ہضم کے لئے بہت مفید ہے۔

”نبیذ“ بمعنی منبوذ پھینکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھجوروں کو پانی میں ڈال دیا جائے اور دیر تک پانی میں چھوڑ دیا جائے کہ پانی میں ہلکی سی تیزی آجائے لیکن اتنی تیزی اور تغیر نہ آئے کہ مسکربن جائے یہ نبیذ ہے اس کا پینا جائز اور حلال ہے اگر مسکربن گیا تو حرام ہے۔

### نبیذ کی اقسام

- ۱۔ اگر کھجور اور انگور وغیرہ کو پانی میں ڈال کر حلاوت آنے سے پہلے پہلے استعمال کیا گیا تو یہ پانی ہمہ کے حکم میں ہے سب کے نزدیک اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے اور عام استعمال بھی جائز ہے۔
- ۲۔ اگر کھجور و انگور وغیرہ پانی میں ڈال دیا اور دیر تک چھوڑ کر پانی میں سکر آ گیا یا آگ پر پکایا اور پانی میں جوش اور سکر آ گیا تو یہ سب کے نزدیک حرام ہے نہ اس سے وضو جائز ہے اور نہ استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔
- ۳۔ اگر پانی میں کھجور و انگور وغیرہ ڈال دیا گیا پانی میں معمولی سی حلاوت آگئی جوش بھی نہیں آیا مگر ابوبہ نے کہا اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے جمہور اور صاحبین کے نزدیک اس کو وضو میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کا عام استعمال بھی جائز ہے اور وضو کے لئے استعمال بھی جائز ہے۔ وفات سے کچھ قبل امام ابوحنیفہؒ نے صاحبین اور جمہور کے قول کی طرف رجوع کیا کہ اس سے وضو ناجائز ہے توضیحات جلد اول ص ۶۳۳ پر یہ مسئلہ نہایت تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔

### الفصل الاول

﴿۱﴾ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلِ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیالہ میں پینے کی ساری چیزیں پلائی ہیں جیسے شہد، نبیذ، پانی اور دودھ۔ (مسلم)

توضیح

”بقدرحیٰ هذا“ حضرت انسؓ نے آنحضرتؐ کو جس پیالہ سے یہ چیزیں پلائی تھیں وہ پیالہ آپ کے پاس تھا پھر اس کو حضرت نصر بن انسؓ نے حضرت انسؓ سے آٹھ لاکھ درہم کے عوض خریدا تھا حضرت امام بخاریؒ نے بصرہ میں اس پیالہ کو دیکھا تھا اور ان کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ ان کو اس مبارک پیالے میں پانی پینے کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ (کذا فی المرات)

### حضور اکرم کے لئے نبیذ بنانے کا طریقہ

﴿۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ أَغْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ نَبِذَهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَبِذَهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مشک میں نبیذ بنایا کرتے تھے جس کو اوپر سے باندھ کر بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے نیچے کے حصے میں بھی اس کا دہانہ تھا ہم اس مشک میں کھجور وغیرہ صبح کے وقت ڈال دیتے تھے تو آپ رات کے وقت اس کو پیتے اور اگر اس میں کھجور وغیرہ رات میں ڈالتے تھے تو آپ اس کو صبح کے وقت پیتے تھے۔ (مسلم)

توضیح

”سقاء“ مشکیزہ کو کہتے ہیں ”یوکا“ تمہ کے ساتھ باندھنے کو کہتے ہیں مشکیزہ کا ایک حصہ اوپر کا ہے جو اس کا دہانہ ہوتا ہے یعنی اوپر کا حصہ تمہ سے باندھ کر بند کیا جاتا تھا۔

”عزلاء“ مشکیزہ کے نیچے حصہ میں جو دہانہ ہوتا ہے اس کو عزلا کہتے ہیں۔

سمجھنا چاہئے کہ مشکیزے کا ایک اوپر کی طرف سے دہانہ ہوتا ہے وہ تو ہر مشکیزہ میں ہوتا ہے لیکن اس مشکیزہ کا ایک دہانہ نیچے کی طرف بھی تھا جو نسبتاً چھوٹا تھا اوپر کے دہانہ کو باندھ کر نیچے والے دہانہ سے نبیذ پلایا جاتا تھا یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ نبیذ بنانے کا یہ طریقہ شاید گرمی کے زمانہ کا تھا جس میں صبح و شام نبیذ تیار ہو سکتا ہے ٹھنڈے موسم میں کبھی ایک دن اور کبھی تین دن بھی لگ جاتے ہیں جس طرح دیگر احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ ”نبیذ“ بنانے کے معنی میں ہے یعنی ہم نبیذ بنایا کرتے تھے۔



## نبیذ کب تک رکھا جاسکتا ہے؟

﴿۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْذِلُهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَّ وَاللَّيْلَةَ الْآخِرَى وَالْغَدَّ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصَبَّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جو نبیذ رات کے ابتدائی حصے میں ڈالی جاتی تھی اس کو آپ آنے والے دن کی صبح کو پیتے پھر آنے والی رات میں پیتے پھر دوسرے دن اور دوسری رات میں پیتے اور پھر اس کے بعد آنے والے یعنی تیسرے دن عصر کے وقت تک پیتے اور اگر اس کے بعد بھی اس میں سے کچھ باقی رہ جاتی تو خادم کو پلا دیتے یا پھینک دینے کا حکم دے دیتے چنانچہ وہ پھینک دی جاتی تھی۔ (مسلم)

توضیح

”او امر بہ“ یہ او شک کے لئے نہیں بلکہ تنويع کے لئے ہے یعنی آنحضرت کو تین دن تک تیار شدہ نبیذ پلایا جاتا تھا تیسرے دن عصر کے بعد چونکہ نبیذ کی تلچٹ رہ جاتی تھی اس لئے وہ خادم کو پلائی جاتی تھی لیکن اگر اس تلچٹ میں سکر آ جاتا تو پھر اسے ضائع کیا جاتا تھا معلوم ہوا کہ تین دن تک نبیذ رکھنا آخری حد ہے۔

علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ غلام اور خادم کو کھانے پینے کا ماقی دیا جاسکتا ہے اور یہ عمل بھی جائز ہے جو حدیث میں ہے۔

﴿۴﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يُبْذِلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً يُبْذِلُهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حَجَارَةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشک میں نبیذ بنائی جاتی تھی اور اگر کسی وقت مشک نہ ملتی تو پھر آپ کے لئے پتھر کے برتن میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔ (مسلم)

”تور“ تور پتھر اور پیتل کے برتن کو کہتے ہیں من حجارة پتھر کا تعین کیا گیا ہے پہلے زمانہ میں لکڑی لوہے، پیتل اور پتھر سے برتن بنائے جاتے تھے۔

## کن کن برتنوں میں نبیذ بنانا منع ہے

﴿۵﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَأَمَرَ أَنْ يُبْذَلَ فِي أُسْقِيَةِ الْأَدَمِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے توبے، سبز لاکھی گھڑے، رال ملے ہوئے برتن اور لکڑی کے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا اور یہ حکم دیا کہ چڑے کے مشکک میں نبیذ بنائی جائے۔ (مسلم)

توضیح

”المدباء“ آنحضرتؐ نے اسلام کے ابتدائی دور میں اس قسم کے برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت فرمائی تھی تاکہ برتنوں کو دیکھ کر دوبارہ شراب میں رغبت پیدا نہ ہو نیز ان برتنوں کی خاص تاثیر سے نبیذ شراب میں بدل نہ جائے جب شراب کی نفرت دلوں میں بیٹھ گئی اور مسکر اور غیر مسکر میں فرق کرنا آسان ہو گیا تو آنحضرتؐ نے ہر قسم کے برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت دیدی جس طرح ساتھ والی روایت میں اس کا ذکر ہے۔

خشک کھوکھلے کدو کو مدباء کہتے ہیں بڑے مٹکے کو ”حنتم“ کہتے ہیں رال ملی روغنی ہانڈی کو ”مزفت“ کہتے ہیں تراشیدہ کھوکھلی لکڑی کے برتن کو ”نقییر“ کہتے ہیں اس زمانہ میں خاص طور پر ان برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی۔  
”آدم“ یہ لفظ مفرد ہے، ہمزہ اور دال پر فتح ہے چڑے کو کہتے ہیں مراد چڑے کا بنا ہوا مشکلیزہ ہے توضیحات جلد اول کتاب الایمان میں اس حدیث کی تفصیل گزر چکی ہے۔

برتنوں کے بارہ میں ایک حکم منسوخ ہو گیا

﴿۶﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَإِنَّ ظُرْفًا لَا يَحِلُّ شَيْئًا وَلَا يَحْرِمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْآدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اور حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں مذکورہ بالا بعض برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا اور تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ حلت و حرمت کا حکم برتنوں سے تعلق رکھتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کو کوئی برتن حلال نہیں کر دیتا اور جو چیز حلال ہے اس کو کوئی برتن حرام نہیں کر دیتا۔ اصل حکم تو یہ ہے کہ جو چیز نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے خواہ وہ کسی بھی برتن میں پی جائے جو چیز نشہ پیدا نہ کرے وہ حلال ہے خواہ وہ کسی بھی برتن میں ہو۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپؐ نے فرمایا میں نے مذکورہ بالا بعض برتنوں میں تمہیں نبیذ بنانے اور پینے سے منع کیا تھا علاوہ چڑے کے برتنوں کے لیکن اب میں اس حکم کو منسوخ قرار دے کر ہر طرح کے برتن میں نبیذ بنانے اور پینے کو مباح قرار دیتا ہوں لہذا تم ہر طرح کے برتن میں پی سکتے ہو لیکن جو چیز نشہ پیدا کرنے والی ہو اس کو ہرگز مت پیو۔ (مسلم)

توضیح

”نہیتکم“ ابتداء اسلام میں مدینہ منورہ میں جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو مسلمانوں کو شراب سے نفرت دلانے کی غرض سے آنحضرتؐ نے ان برتنوں کے توڑنے کا اور استعمال نہ کرنے کا حکم دیدیا جب شراب کی حرمت دلوں میں بیٹھ گئی

تو آپؐ نے ہر قسم برتنوں کے استعمال کی اجازت دیدی اور فرمایا برتن کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتا اب ہر قسم برتن استعمال کرو لیکن مسکرات سے اجتناب کرو۔

## الفصل الثانی

### شراب کا نام بدل کر لوگ شراب پیئیں گے

﴿۷﴾ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيُشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ .

حضرت ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت کے بعض لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام شراب کے بجائے کچھ اور رکھیں گے۔ (ابوداؤد)

توضیح

یہ زمانہ آگیا ہے بلکہ اس سے بھی آگے چلا گیا ہے آج کل تو حالت یہ ہے کہ اگر کسی میں معمولی سی شرافت ہے تو وہ نام بدل کر پیتا ہے مثلاً شراب کو نبیذ کہیں گے یا ماء العسل کہیں گے یا آب جوار ہنزہ واٹر کہہ کر پیئیں گے لیکن جن میں شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی نہ خوف خدا کا کوئی تصور ہوتا ہے تو وہ شراب کہہ کر پیتے ہیں بلکہ پیئے کو جائز قرار دیتے ہیں ”انا للہ وانا الیہ راجعون“۔

## الفصل الثالث

﴿۸﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ أَتَشْرَبُ فِي الْأَبْيَضِ قَالَ لَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

حضرت عبداللہ بن ابی اوفیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹھلیا میں بنی ہوئی نبیذ پینے سے منع فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ کیا ہم سفید ٹھلیا میں بنی ہوئی نبیذ پی سکتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا نہیں۔ (بخاری)

توضیح

”عن نبیذ الجر الأخضر“ یعنی سبز ٹھلیا اور خم، برتن کے لئے سبز ہونا کوئی قید احترازی نہیں تھی بلکہ زمانہ کے لحاظ سے یہ قید اتفاقی تھی کیونکہ عموماً اس وقت شراب کے برتن سبز اور مرغن ہوتے تھے حضرت عبداللہ بن ابی اوفیؓ نے اس کو قید احترازی سمجھ لیا تو سوال کیا کہ کیا سفید برتن میں بنی ہوئی نبیذ پی سکتے ہیں؟

آنحضرتؐ نے جواب دیا کہ نہیں، چونکہ اس وقت یہ سب برتن نبیذ وغیرہ کے استعمال کے لئے بھی ممنوع قرار دیئے گئے تھے اس لئے آنحضرتؐ نے سفید ٹھلیا کی بھی ممانعت فرمادی پھر یہ ممانعت منسوخ ہوگئی۔

## باب تغطية الأواني وغيرها

### برتنوں کے ڈھانکنے کا بیان

اس باب کی احادیث میں برتنوں اور دیگر اشیاء کے ڈھانکنے کا بیان ہے اس کے علاوہ گھر کے دروازوں کے بند کرنے اور رات کی تاریکی پھیلنے کے وقت بچوں کو گھروں میں بند رکھنے اور سوتے وقت گھر کی آگ بجھانے وغیرہ کے مسائل و فضائل کا بیان ہے جس میں امت کے فائدے ہی فائدے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ ان احادیث میں جن ادا امر و نواہی کا ذکر ہے یہ ادا امر و نواہی ارشادی اور استحبابی ہیں۔ ارشادی کا مطلب یہی ہے کہ اس میں امت کی رہنمائی اور بھلائی مقصود ہوتی ہے۔

### الفصل الاول

#### مسلمان کی رات کے لئے اسلام کے رہنما اصول

﴿۱﴾ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قَرَبَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا آيَتَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ تَعْرَضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا وَأَطَفْتُمْ مَصَابِيحَكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ خَمِّرُوا الْآيَةَ وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَأَجِفُّوا الْأَبْوَابَ وَاكْفُتُوا صَبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَأَطَفْتُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ فَإِنَّ الْفُؤَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَطَفْتُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْزُضَ عَلَى إِنَائِهِ عَوْدًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُؤَيْسِقَةَ تَضُرُّ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَا تَرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصَبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحِمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحِمَةُ الْعِشَاءِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ الْآنَزَلُ فِيهِ

## مِنْ ذَلِكِ الْوَبَاءِ

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریکی پھیل جائے یا یہ فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے اور گلی کو چوں میں پھرنے سے روک دو کیونکہ اس وقت شیطان یعنی جنات چاروں طرف پھیل جاتے ہیں پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو بچوں کو کہیں آنے جانے کے لئے چھوڑ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں نیز اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دروازوں کو بند کر دو کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کئے گئے دروازوں کو شیطان نہیں کھولتا (باوجودیکہ شیاطین اور جنات کو اس پر قدرت حاصل ہے کہ وہ دروازوں اور دیواروں میں بیٹھ جائیں لیکن اللہ کے ذکر کے سبب وہ بیٹھنے کی مجال نہیں رکھتے) اور اللہ کا نام لے کر ان مشکیزوں کے منہ باندھ دو جن میں پانی موجود ہوتا ہے کہ ان میں کیڑا و پتنگا وغیرہ نہ ٹھس جائے اور اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں پر ڈھانکنے کے لئے کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جس سے اس برتن کا پورا منہ چھپ سکے تو اس پر عرضاً کوئی لکڑی وغیرہ رکھ دو اگرچہ اس صورت میں برتن پوری طرح نہیں ڈھکے گا لیکن اس طرح کم سے کم کراہت تو ختم ہو ہی جائے گی اور اس حکم کی برکت سے برتن میں موجود کھانے پینے کی چیز اس ضرورت نقصان سے بچ جائے گی جو برتن کے بالکل کھلے ہوئے ہونے کی صورت میں یقینی ہوتا ہے جیسے شیطان کا تصرف اور سوتے وقت اپنے چراغوں کو بجھا دو۔ (بخاری و مسلم)

اور مذکورہ بالا روایات تو یکساں الفاظ میں بخاری و مسلم میں منقول ہے ہی لیکن یہ مضمون مختلف الفاظ کے ساتھ بخاری و مسلم نے الگ الگ بھی نقل کیا ہے چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا برتنوں کو ڈھانک دیا کرو مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو دروازوں کو بند کر دیا کرو اور اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائے رکھو ان کو ادھر ادھر نہ جانے دو جب کہ شام ہو جائے کیونکہ اس وقت جنات چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور اچک لیتے ہیں اور سوتے وقت چراغوں کو بجھا دیا کرو کیونکہ اکثر یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چوہا بیتی کو کھینچ لے جاتا ہے اور گھر والوں کو جلا دیتا ہے۔

اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا برتنوں کو ڈھانک دیا کرو مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو دروازوں کو بند کر دیا کرو اور چراغوں کو بجھا دیا کرو کیوں کہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے شیطان بندھے ہوئے مشکیزوں کو نہیں کھولتا اور نہ بند دروازوں کو کھولتا ہے اور نہ ڈھانکنے ہوئے برتنوں کو کھولتا ہے اگر تم میں سے کسی کو ڈھانکنے کیلئے کوئی چیز نہ ملے الا یہ کہ وہ اللہ کا نام لے کر برتن کے منہ پر عرضاً کوئی لکڑی ہی رکھ سکتا ہو تو وہ ایسا ہی کر لے یعنی بسم اللہ پڑھ کر برتن کے منہ پر کوئی لکڑی ہی رکھ دے اور سوتے وقت چراغ کو اس لئے بجھا دیا کرو کہ چوہا چراغ کی بیتی کو کھینچ کر گھر والوں پر ان کے گھر کو بھڑکا دیتا ہے یعنی چوہا جلتی ہوئی بیتی کو لے جا کر کسی ایسی جگہ ڈال دیتا ہے جہاں کسی چیز میں آگ لگ جاتی ہے اور پھر سارا گھر جل جاتا ہے) اور مسلم کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپؐ نے فرمایا جب سورج ڈوب جائے تو اپنے جانوروں اور بچوں کو گھر سے نکلنے کے لئے نہ چھوڑو یہاں تک کہ رات کے ابتدائی حصے کی تاریکی جاتی رہے یعنی کچھ رات گزر جائے کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد سے رات کے ابتدائی حصے کے گزرنے کے وقت تک شیطان یعنی جنات کو پھیلنے دیا جاتا ہے۔

اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت نے فرمایا برتن کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزہ کے منہ کو باندھ دیا کرو کیونکہ سال بھر میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں وہاں نازل ہوتی ہے اور جو برتن کھلا ہوا ہوتا ہے یا جس مشکیزہ کا منہ بند نہیں ہوتا اس و با کا کچھ حصہ اس میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔

## توضیح

”جنح“ رات کا ابتدائی حصہ مراد ہے ”او امسیتم“ لفظ او روای کے شک کے لئے ہے ”یمنتشر“ یعنی شام کے وقت جنات اور شیاطین پھیلنے ہیں اس وقت وہ بچوں کو آسیب زدہ کر کے نقصان پہنچا سکتے ہیں اچک سکتے ہیں اسی طرح جانوروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لئے اندھیرا پھیلنے وقت بچوں اور جانوروں کو باہر نکلنے سے روکو کچھ دیر بعد چھوڑ دو ”بسا مغلغلاً“ یعنی جس دروازہ کے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہو اس کو شیطان نہیں کھولتا اس کے کھولنے پر قادر نہیں ہوتا۔ ”او کو“ ایکاء سے ہے تمہ کے ذریعہ سے باندھنے کو کہتے ہیں۔

”خمر و“ برتن ڈھانکنے کو کہتے ہیں ”ان تعرضوا“ نصرہ نصر سے ہے برتن پر لکڑی کو چوڑائی میں رکھنے کو کہتے ہیں یعنی اگر برتن ڈھانکنے کے لئے پورا ڈھکن نہیں ملتا تو لکڑی کا تیکا بسم اللہ پڑھ کر برتن کے منہ پر چوڑائی میں رکھ دو یہ لکڑی بسم اللہ کی نشانی ہوگی تو شیطان بھاگے گا قریب نہیں آئے گا ”اطفئوا“ چراغ وغیرہ بجھا دو۔

”اجیفوا“ دروازہ لوٹانے کے معنی میں ہے یعنی بند کر دو ”اکفئوا“ باب افعال سے اکفات اپنے پاس بٹھائے رکھنے اور بند کرنے اور اپنی طرف ضم کرنے کے معنی میں ہے ”الجن“ جنات میں سے جو حد اعتدال سے زیادہ سرکش ہو جاتا ہے وہ شیطان بن جاتا ہے اور جو اعتدال سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے وہ پری بن جاتا ہے اور جس میں اعتدال کے ساتھ شرارت ہو وہ جن رہتا ہے جو بھی جن ہے شرارت اس میں ضرور ہوگی خواہ مسلم ہو یا کافر ہو۔ ”الرقاد“ یعنی سونے کے وقت ”الفویسقة“ یہ فاسقہ کی تصغیر ہے مراد چوہا ہے جو بل سے نکل کر شرارت کرتا رہتا ہے ”اجتورت“ اجتراء سے ہے کھینچنے کے معنی میں ہے ”الفتیلة“ اس بنی کو قلیلہ کہتے ہیں جس میں آگ لگی ہوئی ہو ”لا یحعل“ کھولتا نہیں مشکیزہ کو بشرطیکہ بسم اللہ کے ساتھ بند کیا ہو۔

”تضرم“ باب افعال سے ہے آگ بھڑکانے کو اضرام کہتے ہیں ”فحمة العشاء“ رات کی تاریکی کو فحمة کہتے ہیں یبعث مجہول کا صیغہ ہے یعنی شیاطین پھیلانے جاتے ہیں اور پھیلنے دیا جاتا ہے ”وباء“ وبائی مرض ہیضہ وغیرہ مراد ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا نام بسم اللہ کو ہر وقت ہر مطلب کے لئے استعمال کرو یہ تمہاری دنیاوی اور اخروی آفات سے بچنے کے لئے مفید تر ہے یہ تمام اوامر و نواہی ارشادی ہیں و جو بنی نہیں ہیں۔

جس برتن میں کھانے پینے کی چیز ہو اسے ڈھانکا کرو

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ أَبُو حَمِيدٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا خَمْرُتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن ابو حمید جو ایک انصاری شخص تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقام نقیع سے

دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن لے کر آئے آنحضرتؐ نے جب اس برتن کو کھلا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ تم نے اس برتن کو ڈھانکا

کیوں نہیں اگرچہ ڈھانکنے کی یہی صورت کیوں نہ ہوتی کہ تم اس برتن پر عرضا کوئی لکڑی رکھ دیتے۔ (بخاری و مسلم)

مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ کا نام ”نقیع“ ہے یہ شخص اسی جگہ سے آیا تھا ”الاخمرتہ“ یعنی تم نے ڈھانکا کیوں نہیں؟ یہ تخمیر سے ہے ڈھانکنے کے معنی میں ہے ”یودا“ چھوٹی لکڑی کو کہا گیا ہے۔

سونے وقت گھر کی آگ بجھایا کرو

﴿۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابن عمرؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم سونے لگو تو گھروں میں آگ نہ

چھوڑو۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

آگ سے مراد ایسی آگ ہے جس سے کسی چیز کے جل جانے کا خطرہ ہو جیسے چراغ یا چولہے کی آگ یا گیس کا جلتا ہوا سلنڈر جس سے ہزاروں لوگ مر چکے ہیں، اس سے وہ آگ مراد نہیں جو بجلی کے بلب کی صورت میں ہو یا قندیل کے اندر ہو جس میں خطرہ نہیں ہوتا ہے۔

﴿۴﴾ وَعَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحَدَّثَ بِشَأْنِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَذَابٌ لَكُمْ فَادْنِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رات میں ایسا ہوا کہ مدینہ میں ایک شخص کا گھر جل گیا اور گھر والوں پر گر پڑا چنانچہ اس کے

بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آگ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ یہ

تمہارے حق میں ایک دشمن ہے جو جان و مال کو جلا دیتی ہے لہذا جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دو (اور اس کے ضرر و نقصان

سے اپنے کو محفوظ رکھو)۔ (بخاری و مسلم)

## الفصل الثانی

### کتے اور گدھے کی آواز سنو تو تعوذ کرو

﴿۵﴾ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بُنَاحَ الْكِلَابِ وَنَهْيَ الْحَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَقْلُوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَّاتِ الْأَرْجُلُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَبُتُّ مِنْ خَلْقِهِ فِي لَيْلَتِهِ مَا يَشَاءُ وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا إِذَا أُجِيفَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَغَطُّوا الْجِرَارَ وَاكْفَنُوا الْآنِيَةَ وَأَوْكُوا الْقُرْبَ . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم رات میں کتوں کے بھونکنے اور گدھوں کے ریگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو کیونکہ وہ کتے اور گدھے جس چیز کو دیکھتے ہیں (یعنی شیطان اور اس کی ذریت کو) اس کو تم نہیں دیکھتے اور جب لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو جائے تو اس وقت تم بھی گھر سے کم نکلو کیونکہ اس وقت رات میں اللہ عزوجل اپنی مخلوقات میں سے جن کو چاہتا ہے یعنی جنات و شیاطین اور موزی جانور وغیرہ ان کو چاروں طرف پھیل جانے دیتا ہے اور اپنے دروازوں کو اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کرو کیونکہ جس دروازے کو اللہ کا نام لے کر بند کیا جاتا ہے اس کو شیطان کھولنے پر قادر نہیں ہوتا اور ان برتنوں کو ڈھانک دیا کرو جن میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو اور جن برتنوں میں کچھ نہ ہو یعنی وہ خالی ہوں ان کو الٹ دیا کرو اور مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو (شرح السنۃ)

### توضیح

کتے اور گدھے کا شیطان کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے یہ جب شیطان کو دیکھتے ہیں تو خوشی کے مارے اچھلتے کودتے ہیں اور بھونکتے ہنہناتے ہیں۔

”ہدأت الارجل“ جب قدم پُر سکون ہو جائیں یعنی لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو جائے۔

### چوہے نے آنحضرت کے مصلیٰ پر آگ کی بتی ڈال دی

﴿۶﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ فَارَةٌ تَجْرُ الْفَتِيلَةَ فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدَّرْهِمْ فَقَالَ إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَيَحْرِقُكُمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ



اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک چوہا چراغ کی جلتی ہوئی بتی کھینچ لایا اور اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ اس طرح اس نے ایک درہم کے بقدر چٹائی کو جلادیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو چراغ کو گل کر دو کیونکہ شیطان اس چوہے جیسے موذی جانور کو ایسی حرکت پر آمادہ کرتا ہے اور اس صورت میں گویا وہ شیطان تمہیں جلادیتا ہے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

پوہ ہے کی شرارت کو دیکھو کہ آنحضرتؐ کی چٹائی پر آگ ڈال دی اور بھاگ کھڑا ہوا ایک درہم کی مقدار چٹائی جلادالی حضور اکرمؐ نے اس کے بعد اپنی امت کو حفاظتی تدابیر سے آگاہ کیا۔  
(اس باب میں تیسری فصل نہیں ہے)

## کتاب اللباس

### لباس کا بیان

قال اللہ تعالیٰ ﴿یابنی آدم قد أنزلنا علیکم لباساً یواری سواکم وریشاً ولباس التقویٰ ذلک خیر﴾ (اعراف ۲۶)

وقال تعالیٰ ﴿یابنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد﴾ (اعراف)

لباس مصدر بمعنی ملبوس ہے جیسا کہ کتاب بمعنی مکتوب استعمال ہوتا ہے سمع سمع سے ہے اس کا اصل مصدر لبساً ہے لام پر پیش ہے اگر لام پر زبر پڑھا جائے تو وہ التباس اور خلط ملط ہونے کے معنی میں ہے۔

لباس انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبہ کی کفالت کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باحیا اور مہذب انسانوں کو باپردہ لباس کی ہدایت اس وقت فرمائی کہ جب شیطان نے انسانوں کو رسم رواج اور عقیدہ کے راستہ سے لباس کا دشمن بنا دیا تھا۔ یہاں تک کہ عرب کے لوگ جب عبادت کے لئے بیت اللہ آتے اور طواف کرتے تو لباس اتار کر ننگے طواف کرتے تھے اور فخر کے ساتھ اشعار گاتے رہتے عورت اپنے فرج پر معمولی سی پٹی چکا دیتی اور بطور فخر اس طرح شعر گاتی تھی۔

الیوم یدوبعضہ او کلہ ☆ وما یدامنہ فلا حلة.

(ابن کثیر)

یعنی آج جسم اور فرج کا کچھ حصہ کھلا ہے یا پورا کھلا ہے جتنا کھلا ہے دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔

بیت اللہ کے طواف کے علاوہ زندگی کے جس مرحلہ میں وہ چاہتے لباس سے الف کی طرح صاف ہو جاتے جس طرح جاہلیت جدیدہ کے ایک شاعر نے دوسرے شاعر کو طعنہ دیا۔

یاد ہے جب جگر چڑھاتے تھے ☆ کیا الف ہو کے نہناتے تھے

آج کل کی جاہلیت جدیدہ سابقہ جاہلیت سے اس میدان میں چند قدم آگے ہے اور بطور فخر اعلان ہوتا ہے کہ ہم اعتدال پسند ہیں ہم روشن خیال ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس طرح تہذیب و شائستگی کی تعلیم دیتا ہے ارشاد عالی ہے۔ ﴿یابنی آدم قد أنزلنا علیکم لباساً یواری سواکم وریشاً﴾ مطلب یہ کہ پردہ بھی ہے اور زیب و زینت بھی ہے پھر ارشاد عالی ہے ﴿یابنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد﴾ یعنی عبادت گاہوں اور ہر عبادت کے دوران خاص اہتمام کے

ساتھ لباس اپناؤ۔

پھر ارشاد عالی ہے ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ یعنی جس زیب و زینت اور پردہ کے لباس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کس نے اس کو حرام کیا ہے؟  
ان آیات سے اسلامی شرعی لباس کی ترغیب کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے۔

## اسلامی لباس کا خاکہ

اسلام اور اسلامی معاشرہ میں لباس کا اجمالی خاکہ اور تصور اس طرح ہے کہ۔

- ۱۔ مردوں اور عورتوں کے لباس کے رنگ میں فرق ہونا چاہئے۔
- ۲۔ اعضائے جسم کے ڈھانکنے میں مردوں اور عورتوں کے لباس میں فرق ہے مردوں کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہ ہو اور عورتوں کا ٹخنوں سے اوپر نہ ہو۔

- ۳۔ ہر مرد وزن کو اسلام نے اس کا پابند بنایا ہے کہ ان کے لباس میں غیر مسلم اقوام کے شعار کے ساتھ کوئی خاص مشابہت نہ ہو۔
- ۴۔ مسلمانوں کا لباس ایسا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہئے جس میں جسم کے اعضاء کی نمائش نہ ہو یعنی ایسا پارہ ہو کہ اس کے پہننے کے بعد الگ الگ اعضا کا پتہ نہیں چلتا ہو۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے اپنے ملفوظات وغیرہ میں لباس کے چند درجات کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ لباس کے چار درجات ہیں (۱) پہلا درجہ ضرورت ہے، یہ وہ لباس ہے جو واجب کے درجہ میں ہے یہ وہ ہے جو جسم کے مستورہ اعضاء کو ڈھانک لے (۲) درجہ آسائش، یہ وہ لباس ہے جو انسان کو گرمی و سردی سے بچالے۔

- ۳۔ درجہ آرائش و زیبائش، یہ وہ درجہ ہے جس سے زیب و زینت حاصل ہو قرآن کریم میں اسی کو ”ریشا“ کہا گیا ہے۔

- ۴۔ درجہ نمائش یعنی جس میں تفاخر اور دکھاوا مقصود ہو۔

پہلے دو درجے تو بے غبار و بے کلام ہیں تیسرے درجے کا لباس بطور تحدیث نعمت مستحب ہے اور بطور لذت و مسرت مباح ہے اور بطور فخر و تکبر حرام ہے اور چوتھے درجے کا لباس مطلقاً ناجائز ہے۔ کتاب اللباس میں وہ احادیث درج ہیں جن میں جائز اور ناجائز لباس کا تعین کیا گیا ہے لباس پہننے اور اتارنے کے آداب اور کیفیات کا بیان ہے اس کے ضمن میں برتنوں سے متعلق بھی کچھ تذکرہ ہے۔

## الفصل الاول

### یمنی ”حبرہ“ چادر آنحضرتؐ کو بہت پسند تھی

﴿۱﴾ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحَبْرَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  
حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کپڑوں میں پہننے کے لئے حبرہ چادر سب سے زیادہ  
پسند تھی۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”الحبرہ“ ح پر زیر ہے با پر زبر ہے عنبۃ کے وزن پر ہے یہ یمن میں بننے والی ایک خاص قسم کی منقش چادر ہوتی تھی جو اس  
زمانہ میں سب سے عمدہ چادروں میں شمار ہوتی تھی بعض میں سرخ اور بعض میں سبز دھاریاں ہوتی تھیں تحمیر اسی نقش و نگار  
کو کہتے ہیں سلیم الفطرت با ذوق لوگ اسے پسند کرتے ہیں یہ بھی لکھا ہے کہ قطن اور سوتی تاگہ کی وجہ سے محبوب تھی اب سوال  
یہ ہے کہ آئندہ حدیث نمبر ۲۲ میں ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آنحضرتؐ کو تمام کپڑوں میں قمیص زیادہ پسند تھی یہاں یمنی چادر کے پسند  
ہونے کی بات ہے یہ بظاہر تعارض ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اوڑھنے والی چادروں کی انواع میں یمنی چادر سب سے زیادہ محبوب تھی اور پہننے والی اشیاء میں قمیص کی  
نوع سب سے زیادہ محبوب تھی کوئی تعارض نہیں ہے۔

### آنحضرتؐ نے تنگ آستینوں والا جبہ پہنا

﴿۲﴾ وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةً الْكُمَيْنِ  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومی جبہ پہنا جس کی آستین تنگ تھی۔  
(بخاری و مسلم)

### توضیح

سفر میں آپؐ نے تنگ آستینوں والا جبہ پہنا ہے اور حضر میں کھلی آستینوں والا استعمال کیا ہے دونوں جائز ہے حالات کے تحت  
جو مناسب تھا وہ زیب تن فرمایا یہاں مظاہر حق والے نے حدیث ۲ کے تحت حضرت عائشہؓ کی ایک حدیث غلطی سے نقل کیا  
ہے وہ حدیث باب مناقب اہل البیت مشکوٰۃ ص ۵۶۸ پر ہے کتاب اللباس میں نہیں ہے اگرچہ مصانح میں یہاں مذکور ہے

طبی نے بھی نقل کیا ہے شیخ عبدالحق نے اس پر مکمل بحث کی ہے۔ (تدبر)

## سفر آخرت کے وقت آنحضرتؐ کے کپڑے

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجْتُ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلْبَدًا وَإِزَارًا غَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو بردہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہؓ نے ہمیں دکھانے کیلئے ایک پیوند لگی چادر اور ایک موٹا تہبند نکالا اور فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کی گئی تو آپ ان ہی دو کپڑوں میں تھے۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”کساء ملبد“ تلبد سے ہے پیوند لگی چادر کو کہتے ہیں ”ازار غلیظاً“ موٹا تہبند اس حدیث سے امت کو یہ تعلیم مل رہی ہے کہ دنیا کے زیب و زینت سے اجتناب کی پاکیزہ زندگی کا حصہ ہے سردار دو جہاں دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی امت کے سامنے جس نمونہ کو چھوڑ کر گئے ہیں امت کو چاہیے کہ کم از کم لباس کے معاملہ میں اسراف و تبذیر سے اجتناب کرے ترک دنیا اور زہد کی بنیاد پر آنحضرتؐ نے عمدہ نفیس کپڑے کی عادت نہیں ڈالی، اگرچہ بعض اوقات کچھ دیر کے لئے بطور تحدیث نعمت عمدہ لباس پہنا ہوگا تو اس طرح جائز ہے۔

## حضور اکرمؐ کا بچھونا

﴿۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدْمًا حَشْوُهُ لَيْفٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھونا جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”أدماً“ ادیم اور آدم اس چمڑے کو کہتے ہیں جس کو دباغت دی گئی ہو ”حشوه“ داخل اور باطن کے معنی میں ہے یعنی اندر روئی کی جگہ جو کچھ بھرا گیا تھا وہ ”لیف“ یعنی کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی یہاں ایک سوال ہے وہ یہ کہ شامل ترمذی میں حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ کا بچھونا ٹاٹ کا تھا بظاہر دونوں روایتوں میں تضاد ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی زمانہ میں ٹاٹ تھا کسی میں دوسرا تھا دوسرا جواب یہ کہ سونے کا بچھونا چمڑے کا ہوگا اور بیٹھنے کا کھجور کی چھال کا ہوگا۔

## آنحضرتؐ کا تکیہ

﴿۵﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ مِنْ أَدَمَ حَشْوُهُ لَيْفٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ کہ جس پر آپ تکیہ فرماتے تھے چڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ (مسلم)

اس حدیث سے تکیہ کا ثبوت اور اس کا استعمال ثابت ہوتا ہے۔

## سر پر عقال اور رومال ڈالنے کی دلیل

﴿۶﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي بَيْتِنَا فِي حَرِّ الظَّهْرِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقِنًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جبرت سے قبل ایک دن جب کہ ہم دو پہر کی گرمی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کسی کہنے والے نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا کہ دیکھو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے کونے سے اپنا سر مبارک چھپائے ہوئے تشریف لارہے ہیں۔ (بخاری)

## توضیح

”قال قائل“ یعنی ایک کہنے والے اور بشارت دینے والے نے کہا ”مقبلاً“ یعنی آپ کی طرف آرہے ہیں ”متقناً“ قناع سے ہے چادر کے کنارہ کو کہتے ہیں ای مغطياً راسه بالقناع ای بطرف ردائہ یعنی آنحضرتؐ چادر کے کنارہ سے چہرہ چھپائے ہوئے آرہے ہیں آنحضرتؐ نے دھوپ سے بچاؤ کے لئے چہرہ چھپا رکھا تھا جو آج کل سعودیہ کے باشندوں کے لئے رومال و عقال کے استعمال کے لئے زبردست دلیل ہے یا آنحضرتؐ نے دشمن سے چہرہ چھپانے کے لئے ایسا کیا جو مجاہدین کے لئے دلیل ہے دونوں احتمال ہیں۔

## گھر میں تین سے زائد بسترے رکھنا منع ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِمَرْأَتِهِ وَالثَّلَاثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایک بچھونا مرد کے لئے دوسرا بچھونا اس کی

بیوی کے لئے تیسرا بچھونا مہمان کے لئے اور چوتھا بچھونا شیطان کے لئے ہوتا ہے۔ (مسلم)

## توضیح

”فراش“ بستر ایک اپنے لئے دوسرا بیوی کے لئے تیسرا مہمان کے لئے اور چوتھا شیطان کے لئے ہے۔  
 ”لامرأته“ اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ میاں بیوی اکٹھے سو جائیں لیکن کبھی الگ سونے کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے بیوی کے لئے الگ بستر کی گنجائش نکل آئی مہمان کے لئے جس بستر کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اگر مہمان زیادہ آتے ہیں تو ان کے پیش نظر بستر زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ دراصل یہاں فخر و مباہات اور تکبر و غرور اور دکھاوے و بڑائی کے طور پر رکھنے سے منع کیا گیا ہے ورنہ گنجائش جواز ہے۔  
 چوتھا شیطان کے لئے کا مطلب یہی ہے کہ فخر و تکبر کے لئے ہے نیز چونکہ یہ بستر خالی پڑا ہے اس لئے ابلیس خبیث اس پر ٹھکانا جماتا ہے کیونکہ مقولہ ہے کہ جائے خالی را دیوی گیرد۔

## از راہ تکبر ٹخنوں سے نیچے پا جامہ لٹکانا منع ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو غرور و تکبر سے اپنی ازار یعنی پا جامہ و تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا۔ (بخاری و مسلم)

## ٹخنوں سے نیچے شلوار پا جامہ پتلون لٹکانا حرام ہے

﴿۹﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص غرور و تکبر کے طور پر اپنے بدن کے کپڑے کو زمین پر گھیٹتا ہوا چلے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت و عنایت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”جر ثوبہ“ ثوب کے لفظ سے محکم میں عموم پیدا ہو گیا خواہ ازار بند ہو یا پا جامہ ہو یا پتلون ہو یا قمیص یا شلوار ہو یا اوپراوڑھی

ہوئی چادر ہو ”خُیَلَاءَ“ یعنی ازارہ تکبرایا کر رہا ہو اگر غلطی سے نیچے چلا جائے اور فوراً اٹھائے غرور تکبر نہ ہو تو خیر ہے لیکن اس قید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی شلوار لٹکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تکبر کی غرض سے نہیں کرتا ان کو واضح ہونا چاہئے کہ شلوار لٹکانا خود تکبر اور غرور ہے۔ پوری صحابہ کی جماعت میں صرف صدیق اکبر کو رخصت دیدی گئی باقی کسی کو کوئی اجازت نہیں ملی گویا خُیَلَاءَ قید اتفاق ہے احترازی نہیں ہے مجبوری اور شرعی عذر الگ چیز ہے حقیقت میں شلوار لٹکانے اور اس وضع اور اس کیفیت کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے آج کل مردوں میں ٹخنے ڈھانکنے کا شوق ہے اور عورتوں میں کھلا رکھنے کا شوق ہے بس مستورات نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مکشوفات بن جائیں اور مکشوفات مردوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مستورات بن جائیں۔

مرد مردانہ پن سے عاری ہیں ☆ جنس تبدیل ہوگئی ہوگی

پا جامہ لٹکانے والا زمین میں دھنستا چلا گیا

﴿۱۰﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجْرُ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خَسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایک شخص غرور و تکبر کے طور پر اپنی ازار یعنی

تہبند یا پا جامہ کو زمین پر گھسیتا ہوا چل رہا تھا تو اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اب وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں دھنستا

چلا جائے گا۔ (بخاری)

”یتجلجل“ جلجلہ آواز کے ساتھ حرکت کو کہتے ہیں یعنی ایک گڑھے سے دوسرے میں حرکت کرتا ہوا جا رہا ہے یا مطلب یہ ہے کہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے ای سینخسف فیہا ویسوخ فیہا ابدآ۔ یہ شخص قارون کے علاوہ سابقہ امتوں میں کوئی شخص گزرا ہے۔

ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانا دوزخ کا حصہ ہے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازار قسم ازار یعنی پا جامہ وغیرہ کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے

ہوگا وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ (بخاری)



## توضیح

”ما اسفل“ یعنی جواز از بند یا شلوار یا جامہ جتنا ٹخنوں سے نیچے جائیگا اتنا حصہ پاؤں کا دوزخ میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی باہر ہوگا اور پاؤں کا کچھ حصہ دوزخ میں جائیگا۔ بلکہ اس قسم کی عبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شخص جہنم میں جائے گا، ایسے شخص کو مسبل ازار بھی کہتے ہیں جس کے بارہ میں تخت و عیدات ہیں ایک حدیث میں ایسے شخص کی نماز کے بارہ میں آنحضرت نے فرمایا کہ جاؤ نماز بھی لوٹا لو اور نیا وضو بھی بنا لو ٹخنوں کو ڈھانکنے کی بیماری پنجاب کے عوام اور علماء میں بہت زیادہ ہے سرحد کے لوگ اور علماء اس بیماری میں کم مبتلا ہیں بلوچستان کے لوگ اس بیماری میں بہت زیادہ مبتلا ہیں اسی طرح افغانستان کے عوام و خواص اس مرض کا شکار ہیں صوبہ سندھ تو تمام صوبوں کے لوگوں پر مشتمل ہے اس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں عرب لوگ اجتماعی طور پر اس معصیت میں مبتلا ہیں۔ مصر کا ایک بڑا عالم اس بیماری میں مبتلا تھا وہ ایک دن گھر سے دفتر جانا چاہتا تھا کہ اپنے پا جامہ میں پاؤں الجھ گیا اور سیڑھیوں سے نیچے گر گیا اور فوراً مر گیا۔

## اشتمال الصماء جائز نہیں ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَاءَ أَوْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھائے یا ایک پیر میں جوتا پہن کر چلے اور یہ کہ کپڑے کو بدن پر اس طرح لپیٹ لے کہ دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر آ جائیں یا بدن پر کوئی ایک کپڑا لپیٹ کر اس طرح گوٹ مار کر بیٹھے کہ اس کا ستر کھلا ہوا ہو۔ (مسلم)

## توضیح

”فی نعل واحدہ“ یعنی ایک پاؤں میں جوتا ہے دوسرے میں نہیں اس طرح چلنا منع ہے کیونکہ اس میں چلنے کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے اور آدمی بے ڈھنگا بھی لگتا ہے یا دونوں جوتے ہوں یا ننگے پاؤں ہوں۔

”ان یشتمل الصماء“ عرب کے ہاں چادر اوڑھنے کا ایک طریقہ ایسا تھا کہ سر سے پاؤں تک جسم کو چادر میں لپیٹا کرتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے آدمی چٹان کی طرح بن جاتا تھا کوئی جگہ کھلی نہیں رہتی، اس سے اسلام نے منع کیا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ کافی ہے دوسری وجہ یہ کہ اس طرح آدمی معمولی حرکت کرنے سے گر جاتا ہے اور جب گرے گا تو گیند بن کر پورا گرے گا جس میں ناک وغیرہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے تیسری وجہ یہ کہ اگر جہاد کا ماحول اور دشمن کا خطرہ

ہو تو جب تک لپٹا ہوا آدمی چادر سے باہر آئے گا دشمن اس کو دبوچ کر مار دیگا اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اس لئے اشتعال الصماء کی ممانعت آئی ہے۔

”اویحتبی“ گوٹ مار کر بیٹھنے کو احتیاء کہتے ہیں۔

اس کیفیت میں بیٹھنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک آدمی مقعد زمین پر رکھ کر پنڈلیوں کو کھڑا کر دے اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے کچھ نیچے اس کے گرد باندھ لے اور بیٹھ جائے یہ صورت تو نہایت قبیح اور حرام ہے کیونکہ اس میں پورا جسم ننگا ہوتا ہے تو اس میں بالکل ستر عورت نہیں ہے احتیاء کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اسی طرح کوہلوں پر بیٹھ جائے مگر کوئی کپڑا کر اور پنڈلیوں کے گرد باندھ لے اس صورت میں جسم کا نچلا حصہ اور ستر کھلا رہتا ہے اس لئے اس کو منع کر دیا گیا ہاں اگر نیچے جسم پر کوئی الگ کپڑا ہو تو پھر احتیاء کی اجازت ہے جیسے جلسوں اور محفلوں میں بعض حضرات سستانے کے لئے گوٹ مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور تقریر سنتے ہیں۔

## مردوں کے لئے ریشم استعمال کرنا حرام ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ عُمَرَ وَأَنْسِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَبَسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عمرؓ، حضرت انسؓ، حضرت ابن زبیرؓ، اور حضرت ابوامامہؓ، یہ چاروں صحابہ کرامؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں غیر مشروع ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”فی الآخرة“ مردوں کے لئے ریشم کا کپڑا استعمال کرنا جائز نہیں عورتوں کے لئے جائز ہے البتہ چار انگلیوں کی مقدار ریشم کی پٹی کو کپڑے کے کنارہ وغیرہ میں مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں زیر بحث حدیث میں ہے کہ جو مرد دنیا میں ریشم استعمال کریگا آخرت میں اس کو نہیں ملے گا۔

## سوال

ریشم تو جنت میں ملتا ہے تو کیا یہ شخص کافر ہو گیا کہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا اور ریشم سے محروم رہیگا؟

## جواب

اگر کوئی شخص مردوں کے لئے ریشم کی حرمت کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے بلکہ اس حرام کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا محروم رہیگا

جنت نہیں جائے گا لیکن جو شخص حرمت کا انکار نہیں کرتا اور پہنتا ہے تو اس کے لئے جنت میں دخول اولیٰ کے ساتھ ریشم میسر نہیں ہوگا بلکہ پہلے دوزخ میں سزا پائیگا پھر آئے گا اور ریشم استعمال کریگا تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ شخص اگرچہ جنت میں داخل ہو جائے گا لیکن بطور سزا یہ ریشم سے اس طرح محروم رہیگا کہ اس کے دل میں ریشم کی چاہت نہیں ہوگی جب چاہت نہیں تو مطالبہ نہیں جب مطالبہ نہیں ہوگا تو اس کو ریشم نہیں دیا جائے گا تو محروم رہیگا یا یہ حدیث تغلیظ و تشدید اور زجر و توبیخ پر محمول ہے۔

### آخرت کا بدلہ نصیب دنیا میں ریشم پہنتا ہے

﴿۱۴﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں وہ شخص ریشم پہنتا ہے جس کے لئے آخرت میں حصہ نہیں ہوتا۔ (بخاری و مسلم)

”لا خلاق“ حصہ اور نصیب کو خلاق کہا گیا ہے۔

### ریشم کے کپڑے پر بیٹھنا بھی منع ہے

﴿۱۵﴾ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آيَةِ الْفِضَةِ وَالذَّهَبِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبَّسِ الْحَرِيرِ وَالذِّيْبَانِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں پیئیں اور ان میں کھائیں نیز آپؐ نے حریر و دیباچ ایک قسم کا ریشمی کپڑا پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”الذیباج“ یہ ریشم کی ایک قسم ہے کچھ مولے ریشم کے لئے دیباچ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

”وان نجلس علیہ“ ریشم کا لباس پہننا مردوں کے لئے تمام فقہاء کے نزدیک حرام ہے اور اگر ریشم کی چادر وغیرہ نیچے بچھائی جائے تو اس میں اختلاف ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر بیٹھنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح پہننا حرام ہے لیکن امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ بیٹھنا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے اور یہ حدیث کراہت پر محمول ہے۔

فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کہ جس طرح ریشم کا استعمال مردوں کے لئے حرام ہے اسی طرح چھوٹے لڑکوں کے لئے بھی ناجائز ہے اور پہنانے والے گناہ گار ہونگے۔

## ریشم عورتوں کو پہناؤ

﴿۱۶﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سَيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَشَقِّقَهَا خُمْرًا بَيْنَ النِّسَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دھاری دار ریشمی جوڑا جو تہبند اور چادر پر مشتمل تھا بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو میرے پاس بھیج دیا اور میں نے اس کو پہن لیا لیکن میں نے دیکھا کہ اس جوڑے کو میرے بدن پر دیکھ کر آپ کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار پیدا ہو گئے ہیں چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جوڑے کو تمہارے پاس اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کو پہن لو بلکہ میں نے تو اس جوڑے کو تمہارے پاس اس لئے بھیجا تھا کہ تم اس کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لو۔ اور ان اوڑھنیوں کو عورتوں میں تقسیم کر دو۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”سیراء“ سین پر کسرہ ہے یا پرزبر ہے اور رپر بھی زبر ہے اس کے بعد الف پر مد ہے سرخ ریشم کو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس پر دیباچہ اور سندس کا اطلاق بھی کیا گیا ہے (کافی مسلم)۔ ”خمرأ“ یہ خمار کی جمع ہے چادر اور دوپٹہ کو کہتے ہیں۔

## مردوں کے لئے چار انگشت ریشم کی پٹی جائز ہے

﴿۱۷﴾ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعِيهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ وَضَمَّهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ

اور حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا علاوہ اتنی یعنی دو انگشت مقدار کے اور آنحضرتؐ نے یہ ممانعت بیان فرماتے ہوئے مذکورہ مقدار کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور دونوں کو ملایا یعنی آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا اور بتایا کہ اگر اس قدر یعنی دو انگشت کے بقدر ریشمی کپڑا لباس میں ہو تو مباح ہے۔ (بخاری و مسلم)

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک شہر جابیہ میں اپنے خطبہ کے دوران یہ فرمایا کہ رسول کریمؐ نے ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے علاوہ بقدر دو یا تین اور یا چار انگل کے۔

## توضیح

”جابیہ“ شام کے ایک شہر کا نام ہے فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت عمرؓ شام تشریف لے گئے تھے وہاں جابیہ میں آپ نے خطبہ دیا، مردوں کے لئے ریشم کے جواز کی ابتدا دو انگلیوں کی مقدار سے ہوئی اور چار انگشت اس کی انتہاء ہے آگے حرام ہے یہ بات ذہن میں ہو کہ چار انگشت کی بقدر ریشم کا استعمال دوسرے کپڑے کے ضمن میں جائز ہے مستظاہر نہیں۔

## آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةَ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لَبْنَةٌ دِيْبَاجٍ وَفُرْجِيهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالْدِيْبَاجِ وَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قَبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبُسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے طیلسان کا کسروانی جبہ نکالا اس کے گریبان پر (سجاب یعنی گوٹ کے طور پر) ریشمی کپڑے کا ٹکڑا سلا ہوا تھا اور اس کی دونوں کشادگیوں پر بھی ریشمی بیل لگی ہوئی تھی پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے جو حضرت عائشہؓ کے پاس تھا اور جب ان کی وفات ہو گئی تو (حضرت عائشہؓ کی میراث سے جو میری بہن تھیں) میرے قبضے میں آ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جبہ کو (کبھی کبھی) پہن لیا کرتے تھے ہم اس کو بیماروں کے لئے دھوتے ہیں (یعنی اس کے دھوئے ہوئے پانی کو بیماروں کو پلاتے ہیں) اور اس کے ذریعہ شفا حاصل کرتے ہیں۔ (مسلم)

## توضیح

”طیالسة“ یہ طیلسان کی جمع ہے اور طیلسان اصل میں تالسان تھا عجمی لفظ تھا عربی میں طیلسان ہوا۔ طیلسان سیاہ رنگ کی ایک چادر ہوتی تھی جو اون سے بنتی تھی آنحضرت کا جبہ اسی چادر سے بنا تھا اس لئے اس کی طرف نسبت کر دی گئی اس کلام سے مقصود یہ بتانا ہے کہ ”جبة صوف سوداء“ یعنی اون سے بنا ہوا سیاہ جبہ تھا طیلسان اس کی تعبیر ہے۔

”کسروانیة“ فارس کے بادشاہ کو کسری کہتے تھے یہ جبہ چونکہ اس کی شہرت سے مشہور ہوا تھا اس لئے ان کی طرف منسوب ہوتا تھا یعنی کسری شاکل کا چوغہ تھا جس طرح کہتے ہیں جناح کیپ، لیاقت علی کیپ، کسروانی جبہ۔

”لبنة“ لام پر زیر ہے باساکن ہے نون پر زبر ہے ریشم کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو قمیص یا جبہ کے جیب کے اوپر سی

کر لگایا جاتا تھا گویا خوبصورتی کے لئے جیب کے اوپر ریشم کی ایک پٹی لگائی گئی تھی۔

”و فرجیہا“ فاپر ضمہ ہے فتح بھی استعمال ہوتا ہے، ای شقیہا، جبہ کے آگے سینہ کی طرف کشادگی اور شق ہوتا ہے اس کو گریبان کہتے ہیں بعض ممالک میں پیچھے پیٹھ کی طرف بھی ایک شق ہوتا ہے جو پشت کا گریبان ہوتا ہے اس حدیث میں فرجیہا سے مراد یہی دو شق ہیں۔

”مکفوفین“ ای خیط فاہا بالدیبا ج و الکفة بالضم عطف الثوب،

شیخ عبدالحق اشعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ کسفہ کسی چیز کے کنارہ کو کہتے ہیں اگر کاف پر پیش ہو تو یہ مستطیل لمبی اور چوڑی اشیاء کے لئے آتا ہے جیسے گریبان وغیرہ ہے اور اگر کسفہ میں کاف پر زیر ہو تو مدور اور گول اشیاء میں استعمال ہوتا ہے جس طرح ترازو کے پلڑے کو کسفہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس جبہ کے دونوں گریبانوں پر بطور سنخاف دیبا ج کی بیل لگی ہوئی تھی جس طرح آج کل کپڑے پر کڑھائی ہوتی ہے۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر کو یہ جبہ حضرت عائشہ کی طرف سے حاصل ہوا تھا فرماتی ہیں کہ آنحضرت اس کو پہنتے تھے اور ہم بطور برکت بیماروں کی شفا کے لئے اسے دھوتے ہیں اور اس کا پانی ان کو پلاتے ہیں اس سے تبرک بآثار الصالحین ثابت ہوتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دونوں طرف سے لوگ صالح ہوں تاکہ عقیدہ خراب نہ ہو۔

کسی عذر کی بنا پر ریشمی کپڑا استعمال کرنا جائز ہے

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي ثُبَسِ الْحَرِيرِ لِحُكَّةٍ بِهِمَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّهُمَا شَكَا الْقُمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ

اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمن ابن عوف کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی تھی کیوں کہ ان کے خارش ہو گئی تھی (اور یہ خارش جوئیں پڑ جانے کی وجہ سے تھی جیسا کہ آگے کی روایت سے معلوم ہوگا) (بخاری و مسلم) اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت انس نے بیان کیا کہ ان دونوں (حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمن) نے جوئیں پڑ جانے کی شکایت کی تو آنحضرت نے ان کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دی۔

توضیح

”الحکۃ“ خارش کو کہتے ہیں ریشم کا استعمال شرعی ضرورت اور عذر کے تحت جائز ہے چنانچہ بدن کی خارش کے لئے، یا میدان جہاد میں تلوار سے بچاؤ کے لئے، یا جوؤں کے خاتمہ کے لئے اس کا استعمال بقدر ضرورت جائز ہے ریشم اصل کے

اعتبار سے گرم اور مفرح ہے اس لئے خارش اور جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

## کسم کا رنگا ہوا سرخ کپڑا مردوں کے لئے منع ہے

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعْصَفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُوهَا وَفِي رِوَايَةٍ قُلْتُ أَعْصِلُهُمَا قَالَ بَلْ أَحْرَقُهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَنَدُ كُرْ حَدِيثُ عَائِشَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کسم کے رنگے ہوئے دو کپڑوں میں دیکھا تو فرمایا کہ ”یہ کافروں کا لباس ہے (کہ نہ وہ حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں اور نہ مرد و عورت کے لباس میں فرق کرتے ہیں) لہذا تم ان کو نہ پہنو۔“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ”کیا ان کو دھو ڈالوں؟“ آپ نے فرمایا کہ ”نہیں بلکہ ان کو جلا ڈالو۔“ (مسلم)

اور حضرت عائشہ کی روایت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ الخ انشاء اللہ ہم مناقب اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں نقل کریں گے۔

## توضیح

کسم ایک سرخ رنگ کا نام ہے جو ایک پودے سے حاصل ہوتا ہے مردوں کے لئے منع ہے۔ احتاف اس کو اور اسی طرح ہر سرخ رنگ کے کپڑے کو مردوں کے لئے مکروہ تحریمی قرار دیتے ہیں اگرچہ فقہاء کے دیگر اقوال بھی ہیں۔ ”احرقہا“ اس سے مراد ضائع اور زائل کرنا ہے کہ کسی کو بہہ کر دیا فروخت کر دیا کسی طریقے سے ضائع کر دیا اگر کچھ نہیں تو جلا ڈالو مگر اپنے پاس نہ رکھو۔

”وسند کھر حدیث عائشۃ الخ“ اس عبارت سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ ابتدا میں صاحب مشکوٰۃ نے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا ہے مگر مظاہر حق میں ہے مصابیح میں بھی ہے میں نے توضیحات میں درج نہیں کیا اس لئے حدیث کا نمبر بھی بدل ڈالا ہے۔

## الفصل الثانی قمیص کی فضیلت

﴿۲۱﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول کریم کو تمام کپڑوں میں کرنا سب سے زیادہ پسند تھا۔“ (ترمذی ابوداؤد)

توضیح

”القمیص“ چادر کندوں سے ہر وقت گرتی رہتی ہے نیز بوقت مقابلہ یا بوقت کام اس کا سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے قمیص کو افضل اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے جس میں بیشمار فوائد اور سہولتیں ہیں عرب لوگ جس لباس کو آج کل استعمال کرتے ہیں وہ ایک قید خانہ ہے ان کے لمبے توپ میں نہ آدمی دوڑ سکتا ہے نہ بلند جگہ چڑھ سکتا ہے نہ اتر سکتا ہے تو دشمن کا مقابلہ اس میں کیسے ہو سکتا ہے حرم شریف کے امام عبداللہ بن سبیل المحترم نے ایک دفعہ درس میں فرمایا کہ دنیا کے لباسوں میں سب سے زیادہ سہولت والا لباس پشاور کے لوگوں کا ہے۔ شلوار قمیص ہر لحاظ سے آرام دہ اور خوبصورت لباس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قمیص جسم کے ساتھ جسم بن کر آدمی آزاد رہتا ہے نیز یہ متواضع لباس بھی ہے ہلکا بھی ہے اور کم خرچ بالانشین بھی ہے۔

## قمیص کی حد

﴿۲۲﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ كَانَ كُمُ قَمِيصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّضْغِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ اور حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستینیں پہنچوں تک (بھی) تھیں۔“ (ترمذی اور ابوداؤد)

ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

توضیح

”الررضع“ ہاتھ کی کلائی گھٹے اور پونچوں کو رضع کہتے ہیں کبھی انگلیوں تک بھی لمبائی ہوتی تھی معلوم ہوا مسنون قمیص وہ ہے جس کی آستین انگلیوں سے آگے تک نہ ہو اور دامن منخنوں کے نیچے تک نہ ہو۔



﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمِيَامِنِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو دائیں طرف سے پہننا شروع کرتے۔“ (ترمذی)  
”میامن“ میمنہ، کی جمع ہے دائیں طرف کو کہتے ہیں مثلاً دائیں آستین کو پہلے پہن لیا جائے دائیں پانچے میں پہل کرے۔

مورخہ اربع الاول ۱۲۱۸ھ

## اسبال ہر کپڑے میں ممنوع ہے

﴿۲۴﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ  
قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزْرَهُ بِطَرَأَوْاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”ایک مومن کے تہبند و پاغجامہ کی سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ وہ آدھی پنڈلیوں تک ہو اور آدھی پنڈلیوں سے ٹخنوں تک (کے درمیان) ہونے میں (بھی) کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اس (ٹخنے) سے نیچے جو حصہ (لٹکا ہوا) ہوگا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔  
حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ تین بار فرمائے۔ اور (پھر فرمایا کہ) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو رحمت و عنایت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو غرور و تکبر سے اپنے تہبند و پاغجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا۔“ (ابوداؤد، ترمذی)

## توضیح

”ازرۃ المؤمن“ یہ ازار کی جمع ہے تہبند کو کہتے ہیں نصف ساق تک افضل ہے ٹخنوں کے پاس تک جائز ہے ٹخنوں سے نیچے تک ناجائز ہے اس حدیث سے اسبال کا عموم معلوم ہوتا ہے کہ لباس میں حد شرعی سے تجاوز جس کا نام اسبال ہے یہ صرف پاغجامہ میں نہیں بلکہ لنگی پاغجامہ قمیص کی آستین اس کے دامن عمامہ اور چادر سب میں اسبال ہوتا ہے پاغجامہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے ورنہ اسبال ہوگا قمیص کا دامن بھی نیچے نہ جائے اس کی آستین انگلیوں کو نہ ڈھانکے عمامہ کا شملہ کمر سے نیچے نہ جائے اور چار انگلیوں سے کم نہ ہو ورنہ اسبال ہوگا، اگر پاغجامہ بے خیالی میں ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تو فوراً اوپر اٹھانا چاہئے گناہ نہیں ہوگا اور اگر تکبر کے طور پر لٹکا دیا تو یہ حرام ہے ”لم ينظر الله“ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا اور قیامت میں نظر رحمت کے ساتھ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بعض لوگ ٹخنوں سے نیچے شلوار پاغجامہ لٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تکبر نہیں کرتے حالانکہ یہ عمل خود تکبر ہے صحابہ کرام میں کسی کو اجازت نہیں دی گئی تو امت کے عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے

صرف صدیق کو بوجہ مجبوری معذور سمجھا گیا وہ بھی گاہ گاہ۔ حدیث نمبر ۶۰ میں پوری تفصیل آرہی ہے وہاں دیکھ لو۔

﴿۲۵﴾ وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهُمَا شَيْئًا خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

اور حضرت سالم اپنے والد (یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ) سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ

نے فرمایا ”اسبال یعنی لٹکانا، ازار، کرتے اور عمامے میں ہے جو شخص ان کپڑوں سے کچھ لٹکا کر غرور و تکبر سے کھینچے گا تو

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف (بنظر کرم) نہیں دیکھے گا۔ (ابوداؤد نسائی ابن ماجہ)

### صحابہ کرام کی ٹوپیاں کیسی ہوتی تھیں

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ كَانَ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطْحًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ

اور حضرت ابو کبشہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ٹوپیاں اس طرح کی ہوتی تھیں کہ وہ سروں سے چکی

رہتی تھیں۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔

### توضیح

”کِمَام“ یہ جمع ہے کُمَّة کی جس طرح قِیَاب قُبَّة کی جمع ہے یہ گول قسم کی ایک ٹوپی کا نام ہے جو پٹری کے نیچے استعمال ہوا کرتی تھی ”بُطْحًا“ ب پر پیش ہے اور ط سا کن ہے اس کا مفرد بطحاء ہے، ہموار پتھریلی زمین کو بطحاء کہتے ہیں یہاں ایسی ٹوپی مراد ہے جو سر کے ساتھ چکی ہوئی ہو اور اس پر پھیل چکی ہو۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ٹوپیاں استعمال کرتے تھے وہ گول اور سروں پر چکی ہوئی ہوتی تھیں تنگ اور بلند نہیں ہوتی تھیں جیسے ترکی اور ایرانی اور مصری ٹوپیاں ہوتی ہیں اس حدیث سے جناح کیپ اور لیاقت علی کیپ اور بعض قبہ نما کلف والی کپڑے کی ٹوپوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔

بعض حضرات نے کِمَام جمع کم سے ٹوپوں کے بجائے آستین مراد لیا ہے اور بطح سے کشادہ مراد لیا ہے مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی آستینیں کشادہ ہوتی تھیں پہلا مفہوم زیادہ رائج ہے۔ صحابہ کرام نے زیادہ تر پگڑیاں استعمال کی ہیں پگڑی کے بغیر ٹوپیاں کم استعمال فرمائی ہیں۔

## عورتوں کا لباس مردوں سے زیادہ کشادہ ہونا چاہئے

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُرْخِي شِبْرًا فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفُ عَنْهَا قَالَ فِذْرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عُمرَ فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِيْنَ ذِرَاعًا لَا يَزِيدُنَّ عَلَيْهِ.

اور حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریمؐ ازار بند (تہبند و پانجامہ) کا حکم بیان فرما رہے تھے (کہ اس کا لٹکا نامنوع ہے) تو انھوں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہؐ“ اور عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی اگر وہ اپنے ازار کو نیچا نہ رکھے تو اس کا ستر پوری طرح نہیں چھپے گا) آپؐ نے فرمایا عورت اپنا تہبند یا پانجامہ (اپنی آدھی پنڈلیوں یا بعض کے قول کے مطابق اپنے ٹخنوں سے) ایک بالشت نیچا لٹکا سکتی ہے۔ حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ ”اس صورت میں بھی کچھ حصہ کھلا رہے گا یعنی مثلاً اس کی پنڈلیاں زیادہ لمبی ہوں اور وہ اپنی آدھی پنڈلیوں سے ایک بالشت اور نیچے تک اپنا پانجامہ لٹکا لے تب بھی اس کا ستر کھلنے کا احتمال رہے گا۔ آپؐ نے فرمایا ”اس صورت میں وہ اپنے پانجامہ وغیرہ کو اتار نیچے لٹکا سکتی ہے کہ وہ زمین تک پہنچ جائے تاکہ اس کے پیر چھپے رہیں اور وہ ایک بالشت کے بقدر زائد ہو یا ایک گز کے بقدر اس کے بعد آپؐ نے حد سے زیادہ لٹکانے کی ممانعت کو تاکید بیان کرنے کے لئے یہ فرمایا کہ کوئی عورت اس ایک گز سے زیادہ نیچے نہ لٹکائے۔ (مالک ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) اور ترمذی و نسائی کی ایک روایت میں جو حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے یوں ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے یہ کہا کہ اس صورت میں ان کے پیر کھلے رہیں گے آپؐ نے فرمایا کہ ”وہ ہاتھ بھر اور نیچے لٹکالیں لیکن اس حد سے زائد نہ لٹکائیں۔“

## توضیح

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا لباس مردوں کی نسبت ڈھیلا ڈھالا اور لمبا چوڑا ہونا چاہئے جبکہ آج کل عورتوں کو فاسق معاشرہ نے چست اور نیم برہنہ لباس پہنا کر ان کی عظمت کو تار تار کر کے رکھ دیا آنحضرتؐ نے ام سلمہؓ کو عورت کے ازار کے بارہ میں فرمایا کہ اتنا لمبا ہو کہ عورت کے قدم اور پاؤں نظر نہ آئیں اس سے زیادہ زمین پر گھسینا منع ہے اکبر الہ آبادی نے جدید دور کی بے پردگی سے متعلق کہا ہے ۔

بے پردہ کل جو آئیں نظر چند پیمیاں ☆ اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا

پوچھا جوان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا ☆ کہنے لگیں کہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا

## آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا گریبان

﴿۲۸﴾ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعُوهُ وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبٍ فَمِصْبِهِ فَمَسِسْتُ الْحَاتِمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت معاویہ بن قرظہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن میں مزینہ قوم کی ایک جماعت کے ساتھ (جو اسلام قبول کرنے آئی تھی) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا چنانچہ اس جماعت کے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی اس وقت آپ اپنے کرتے کی گھنڈیاں کھولے ہوئے بیٹھے تھے میں نے موقع غنیمت جانا اور حصول برکت و سعادت کیلئے اپنا ہاتھ آپ کے کرتے کے گریبان میں ڈال کر مہر نبوت پر ہاتھ پھیر لیا۔ (ابوداؤد)

توضیح

”الازرار“ یہ زد کی جمع ہے کپڑے سے بنے ہوئے بن کو کہتے ہیں جس کو گھنڈی بھی کہتے ہیں شاعر کہتا ہے۔

لَا تَعْجَبُوا مِنْ بِلَاغِ لَاتِهِ ☆ قَدْ زَارَ زَارَهُ عَلَى الْقَمَرِ

ترجمہ: محبوب کے بنیان کے پھٹنے پر تعجب نہ کرو کیونکہ اس کے بن چاند پر باندھے گئے ہیں۔

یعنی بنیان ٹسرا اور کتان کے کپڑے سے بنا ہے جو چاند کی روشنی سے پھٹ جاتا ہے محبوب کا جسم چاند ہے اس لئے بنیان پٹھا ہوا ہے تعجب نہ کرو۔

اس حدیث میں جیب سے مراد وہ پاکٹ نہیں ہے جس میں لوگ سامان اور بٹوہ وغیرہ رکھتے ہیں بلکہ یہاں گریبان مراد ہے اب احتمال یہ بھی ہے کہ پیچھے کی طرف گریبان ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ آگے کی طرف ہو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں گریبان سے مراد وہ پٹی ہے جو گردن پر محیط ہوتی ہے سامنے گریبان کے بن جب کھلے ہوں تو اس پٹی میں ڈھیلا پن آتا ہے اسی سے معاویہ بن قرظہ کے والد نے ہاتھ داخل کیا ہے اگر بن بند ہوں تو ہاتھ داخل نہیں کیا جاسکتا ہے بعض اقوام کی قمیصوں میں آگے پیچھے دو گریبان ہوتے ہیں۔ مگر علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان آگے کی طرف ہوتا تھا لہذا کچھ لوگوں کا یہ کہنا غلط ثابت ہو گیا جو کہتے ہیں کہ سامنے کی طرف گریبان رکھنا بدعت ہے (کسی زمانہ میں اس کو لوگ بدعت کہتے ہوئے تھے) بعض قوموں کا گریبان سینہ کی جنبر سے دائیں کندھے کی طرف ہوتا ہے یہاں وہ بھی مراد نہیں ہے۔

”الحاتم“ مہر کے معنی میں ہے مراد مہر ختم نبوت ہے جو پشت کی جانب بائیں کندھے کی ہڈی کے نیچے چکور کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت تھا جس پر تل کے نشان تھے جس پر لکھا ہوا تھا ”توجہ حیث شنت فانک منصور“ مہر یا پیدائشی تھی یا نبوت ملنے کے بعد آئی تھی وفات کے ساتھ جسم سے یہ ابھرا ہوا حصہ اندر چلا گیا اور غائب ہو گیا۔

## سفید کپڑے پہننے کی فضیلت

﴿۲۹﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُسُوفُ الْبَيْضُ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَانَاكُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه

اور حضرت سمرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیوں کہ سفید کپڑے بہت پاک اور زیادہ پاکیزہ خوش تر ہوتے ہیں اسی طرح اپنے مردوں کو کفن بھی سفید کپڑوں کا دو۔ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

## توضیح

”اطھر“ سفید کپڑا جلدی میلا ہو جاتا ہے تو زیادہ دھویا جاتا ہے لہذا اطھر اور پاکیزہ تر ہوتا ہے کالا کپڑا مہینہ بھر نہیں دھویا جاتا میلا کچلا ہوتا ہے مگر میل کا پتہ نہیں چلتا ہے تو استعمال ہوتا رہتا ہے ”اطیب“ یعنی اس کا رنگ مخلوط نہیں ہوتا خالص سفید ہوتا ہے لہذا سلیم الطبع لوگوں کے ہاں یہ خوشتر ہوتا ہے۔ نیز سفید لباس پر گرمی کا اثر کم پڑتا ہے خواب میں اگر مردہ کو سفید لباس میں دیکھا گیا تو یہ اس کی نجات کی طرف اشارہ ہوتا ہے نیز جب زندہ انسان جسم پر ہر وقت سفید لباس دیکھے گا تو موت متحضر رہے گی تو تقویٰ اختیار کریگا گویا کفن آنکھوں کے سامنے ہے۔ مردوں کو سفید لباس میں کفنانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس نے زندگی میں سفید کپڑے کا انتخاب کیا ہوگا۔ بہر حال کفن میں سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے جائز دوسرے رنگ بھی ہیں البتہ سرخ رنگ منع ہے۔

## پگڑی باندھنے کے آداب

﴿۳۰﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمامہ باندھتے تو اس کا شملہ دونوں مونڈھوں کے درمیان ڈالتے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

## توضیح

”اذا اغتم“ یعنی جب حضور اکرم عمامہ باندھتے تھے تو اس کا شملہ کندھوں کے درمیان ڈالتے تھے، عمامہ باندھنا سنن زوائد میں سے ہے اگر کوئی شخص اتباع نبی کی نیت سے باندھتا ہے ثواب ملے گا ورنہ قومی رسم و راج کے تحت عمامہ باندھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہزاروں لوگ قومی لباس کی بنیاد پر عمامہ باندھتے ہیں یہ عادت ہے سنت نہیں ہے یاد رہے کہ سنن زوائد کے لئے

ضروری ہے کہ اس میں اتباع کی نیت ہو ورنہ ثواب نہیں ملے گا بعض روایات میں عمامہ کی بڑی فضیلت آئی ہے ایک ضعیف روایت میں ہے کہ عمامہ کے ساتھ نماز پڑھنا ستر گناہ افضل ہے تاہم ٹوپی میں بھی نماز ہو جاتی ہے کوئی منع نہیں ہے اور نہ پگڑی نماز کے لئے لازم ہے جو ائمہ حضرات صرف نماز کے وقت پگڑی استعمال کرتے ہیں اور پھر منبر پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہ بہت غلط طریقہ ہے پگڑی تو عام اوقات میں مسنون ہے، پگڑی کو عرب کا تاج کہا گیا ہے پگڑی سے انسانی دماغ کو سکون ملتا ہے دماغ کی حفاظت ہوتی ہے حادثہ کے وقت چوٹ لگنے سے سر محفوظ رہ سکتا ہے ہیلمٹ کا کام دیتی ہے انسان کو باوقار عزت کا مقام دیتی ہے انسان ناشائستہ حرکات سے احتراز کرتا ہے۔

اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سید الاولین والاخرین نے پگڑی استعمال فرمائی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے پگڑی کے رنگوں میں سیاہ، سفید اور پیلا رنگ ملتا ہے ہرے رنگ کی پگڑی کا تذکرہ تا حال نہیں مل سکا شاید بدعتیوں نے آنحضرت کے گنبد کے رنگ سے لیا ہوگا لیکن اگر گنبد کا رنگ بدل گیا پھر بدعتی کیا کریں گے؟

پگڑی کے طول کے بارہ میں اتنی بات سمجھ لو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قسم کی پگڑیاں تھیں چھوٹی پگڑی سات گز کی تھی اور بڑی پگڑی بارہ گز کی ہوتی تھی شرعی گز ایک ہاتھ ہوتا ہے پگڑی کے دو شملے ہوتے ہیں ایک چھوٹا ایک لمبا اگر ایک بھی ہو پھر بھی خیر ہے اگر دونوں شملوں کو کندھوں کے درمیان ڈالا جائے یہ بھی جائز ہے اور اگر کبھی ایک شملہ پیچھے اور ایک دائیں طرف سے آگے کو ڈالا جائے تو یہ بھی جائز ہے، ان آداب سے معلوم ہوا کہ اسلامی پگڑی اور سکھوں کی پگڑی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، عمامہ کے لئے ٹوپی کا ہونا ضروری ہے اور ٹوپی کھلی اور ظاہر نظر آنی چاہئے اہل بدعت کی طرح ڈھکی چھپی نہ ہو مشرکین بھی عمامہ استعمال کرتے تھے لیکن اس میں ٹوپی نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل ایران کے ذاکرین بغیر ٹوپی کے عمامہ استعمال کرتے ہیں اہل رفض عمامہ میں شملہ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں سکھوں کی بھی یہی عادت ہے۔

﴿۳۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ عَمَّيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو عمامہ بندھوایا تو اس کا شملہ میرے

آگے اور میرے پیچھے (دونوں طرف) لٹکایا۔ (ابوداؤد)

ٹوپی پر عمامہ باندھنا مسلمانوں کی امتیازی علامت ہے

﴿۳۲﴾ وَعَنْ زُكَّانَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَّقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعُمَامُ عَلَى الْقَلَانِسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَاسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ

اور حضرت رکانہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمارے اور مشرکوں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم ٹوپوں پر عمامہ باندھتے ہیں۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے اسناد درست نہیں۔

## توضیح

”القلانس“ دنیا کی تمام ممالک کی افواج پر ٹوپی استعمال کرنا ہر ملک کا قانونی ضابطہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ کامل مرد وہی ہوتا ہے جس کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے افریقی ممالک میں ٹوپی استعمال کرنا اسلام کی علامت ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ننگے سر گھومنا پھرنا نہ اسلام کا تقاضا ہے اور نہ کامل انسان کا تقاضا ہے بلکہ حیوان یا مجنون انسان کا تقاضا ہے۔

## سوناریشتم عورتوں کے لئے حلال ہے

﴿۳۳﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلنِّسَاءِ مِنْ أُمَّتِي وَحَرِّمَ عَلَيَّ ذُكُورَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

اور حضرت ابو موسیٰ اشعرئؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتوں کے لئے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ (ترمذی، نسائی) اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سونے کے صرف زیورات عورتوں کیلئے حلال ہیں برتن نہیں۔

## نیا کپڑا پہنتے وقت کی دعا

﴿۳۵﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا جو نام ہوتا یعنی پگڑی یا کرتا اور یا چادر وہ نام لیتے اور پھر فرماتے۔ اے اللہ تیرے ہی لئے تعریف ہے کہ تو نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اے اللہ میں تجھ سے اس کپڑے کی بھلائی کا طلب گار ہوں کہ یہ کپڑا میرے بدن پر عافیت سے رہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور تجھ سے اس چیز کی بھلائی چاہتا ہوں جس کے لئے یہ کپڑا بنایا گیا ہے یعنی یہ کہ میں یہ کپڑا پہن کر تیری طاعت کروں اور میں اس کپڑے کی برائی اور اس چیز کی برائی کہ جس کے لئے یہ کپڑا بنایا گیا ہے تیری پناہ چاہتا ہوں (یعنی یہ کہ میں کپڑا پہن کر کوئی گناہ نہ

کروں)۔ (ترمذی، ابوداؤد)

## توضیح

”استجد ثوباً“ یعنی جب نیا کپڑا پہنتے ”ای لبس ثوباً جدیداً“۔ (مرقات)  
 ”سماہ“ یعنی بطور شکر دعاء پڑھنے سے پہلے آنحضرت اس کپڑے کا نام رکھتے کہ یہ قمیص ہے یا عمامہ وغیرہ ہے پھر دعائیں  
 اس کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں ”اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص الخ“

کھانے اور کپڑے پہننے کے بعد دعا سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں  
 ﴿۳۵﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ  
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَمَنْ لَبَسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ  
 حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

اور حضرت معاذ بن انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہے یعنی یہ  
 دعا پڑھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ کو یہ کھانا کھلایا اور یہ کھانا بغیر میرے کسی حیلہ اور بغیر میری کسی قوت  
 کے اثر کے مجھ تک پہنچایا۔ تو اس کے تمام پہلے صغیرہ گناہ بخش دے جاتے ہیں۔ (ترمذی) اور ابوداؤد نے اپنی روایت میں  
 یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ جو شخص کپڑا پہنے اور پھر یہ کہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اور یہ  
 کپڑا بغیر میرے کسی حیلہ اور بغیر میری کسی قوت کے اثر کے مجھ تک پہنچایا۔ تو اس کے تمام اگلے پیچھے صغیرہ گناہ بخش دیئے  
 جاتے ہیں۔

چھوٹے گناہ اس دعا اور شکر ادا کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں اور اگر توبہ کیا تو بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔

## پرانے کپڑے کو ضائع نہ کرو

﴿۳۶﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنْ أَرَدْتَ اللُّحُوقَ  
 بِي فَلْيَكْفِكَ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّائِبِ وَإِيَّاكَ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرْقِعِيهِ  
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ  
 إِسْمَاعِيلَ صَالِحُ بْنُ حَسَّانٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ



اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تم دنیا و آخرت دونوں جگہ مجھ سے کامل اتصال و وابستگی چاہتی ہو تو دنیا کی صرف اتنی ہی چیزوں پر اکتفا کرو جو سوار کے زاد راہ کے برابر ہو اور دولت مندوں کی ہم نشینی اختیار کرنے سے اجتناب کرو۔ نیز کپڑے کو اس وقت تک پرانا سمجھ کر نہ پھینکو جب تک کہ تم اس کو پیوند لگا کر پہننے کے قابل سمجھو۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور یہ حدیث ہم تک صالح ابن حسان کی روایت کے علاوہ اور کسی ذریعہ سے نہیں پہنچی ہے جب کہ محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری نے کہا ہے کہ صالح بن حسان منکر الحدیث ہیں یعنی ان کی روایت منکر ہے۔

## توضیح

”کزاز الراکب“ ایک توشہ سوار آدمی کا ہوتا ہے اور ایک پیدل آدمی کا ہوتا ہے سوار چونکہ جلدی منزل پر پہنچتا ہے اس لئے اس کو کم خرچہ کی ضرورت پڑتی ہے اسی لئے حدیث میں سوار کے توشہ کا ذکر کیا گیا ہے یعنی بہت کم توشہ۔

”مجالسة الاغنياء“ اغنياء کے پاس بیٹھنے سے جب نقصان ہوتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود اغنياء اور مالداروں کی حالت کیا ہوگی ”ولا تستخلفی“ خلق پرانا ہونے کے معنی میں ہے اس صیغہ میں سین تاحسان کے لئے ہے یعنی کسی کپڑے کو پرانا نہ سمجھو۔ ”ترقیعہ“ یعنی جب تک اس میں پیوند نہ لگاؤ۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر نے خطبہ دیا جب دیکھا گیا تو آپ کے ازار میں بارہ پیوند لگے ہوئے تھے جبکہ آپ امیر المؤمنین تھے۔ (مرقات) بہر حال زیر بحث حدیث کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔

## لباس میں سادگی اختیار کرنا ایمان کی علامت ہے

﴿۳۷﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَسْمَعُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ أَنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ أَنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو امامہ یعنی ایاس ابن ثعلبہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سن نہیں رہے ہو کیا تم سن نہیں رہے یعنی اے لوگو! کان لگا کر سنو کپڑے کی بوسیدگی و کھنگی یعنی لباس کی سادگی کو اختیار کرنا اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرنا حسن ایمان کی علامت ہے کپڑے کی بوسیدگی و کھنگی کو اختیار کرنا اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرنا حسن ایمان کی علامت ہے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”البذاذہ“ لباس میں کھنگی اور سادگی اختیار کرنا اس میں تو اضع اور انکساری اپنانا اور دنیوی زیب و زینت سے بچنا اہل ایمان

کی اچھی عادتوں میں سے ہے اور ایمان کی علامت ہے زیب و زینت میں لگنا اور آسائش و آرائش اختیار کرنا عورتوں کا کام ہے مرد کا حسن اس کی سادگی ہے۔ بہر حال خوش پوشاک اور عمدہ لباس استعمال کرنا جو ریا کاری کے بغیر ہو اور استطاعت کے مطابق ہو وہ منع نہیں ہے سادگی چیز ہے، گندگی اور چیز ہے اسلام۔ نے سادگی کا حکم دیا ہے گندگی کا حکم نہیں دیا ہے۔

### بڑائی کے لئے شہرت کا لباس پہننا اخروی ذلت ہے

﴿۳۸﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ (احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ)

### توضیح

”شہرۃ“ جو شخص تکبر و تجبر کے طور پر اور فقراء اور مساکین کو ذلیل کرنے کے لئے یا کارٹون بن کر لوگوں کو ہنسانے کے لئے عجیب و غریب شکلیں اختیار کرتا ہے ایسے شخص کے لئے وعید ہے اس سے زیادہ واضح مطلب یہ ہے کہ جو شخص شہرت حاصل کرنے کے لئے علماء کا لباس اختیار کرتا ہے صوفیا کا لباس اور جبہ و دستار اپناتا ہے اور اس سے اپنا نام بلند و بالا بنانا چاہتا ہے محض شہرت کا بندہ ہے اور اپنی ناموری کے حصول کے لئے دن رات کوشاں ہے ایسے شخص کے لئے وعید ہے۔

### جو شخص غیر مسلموں کی تقلید اختیار کرے وہی بنیگا

﴿۳۹﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ (احمد، ابو داؤد)

### توضیح

”من تشبه“ یعنی کسی غیر مسلم قوم کی نقالی اور تقلید اختیار کرنا مسلمان کے لئے حرام ہے کفار کے اعمال و افعال اور ان کے اطوار و کردار اور ان کے افکار و اقدار کو چھوڑنا پڑیگا اگر کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے ان کے طرز پر کھاتا ہے ان کے اخلاق اپناتا ہے اور ان کے رہنے سہنے اور ثقافت کو سینہ سے لگاتا ہے تو یہ شخص ان کے زمرے میں چلا جاتا ہے اب ان

کفار اور فساق و فجار کے اعمال پر جو سزا ان کو ملیگی وہی سزا اس نقال اور تقلید کرنے والے کو بھی ملے گی اور جو شخص اپنے آپ کو علماء صلحاء اور دینداروں کے طرز پر ڈالتا ہے ان کے اعمال و اقوال اپناتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے تو وہ شخص بھلائی میں ان سعادت مندوں کے زمرہ میں شمار ہوتا ہے۔

اس حدیث کا مفہوم بہت وسیع ہے اور یہ جوامع کلم میں سے ہے اس میں یہ ممانعت بھی ہے کہ عورتیں وضع قطع میں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں البتہ اتنی بات یاد رکھنے کی ہے کہ غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کرنے کی جو ممانعت ہے وہ ان کی خصوصی امتیازی شعار کے اپنانے میں ہے عام حالات میں انسان کا عمل دخل تو ایک دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے مثلاً ڈاڑھی منڈانا کوٹ پتلون اور ٹائی لگانا صلیب کی تصویر جگہ جگہ لگانا یہ یہود و نصاریٰ کی خصوصی علامتیں ہیں ماتھے پر تشقہ لگانا وغیرہ یہ ہندوؤں کی خصوصی علامت ہے ڈاڑھی مروڑ کر تھوڑی کے نیچے دبانا کرپان استعمال کرنا یہ سکھوں کی خصوصی علامات ہیں ان سے احتراز ضروری ہے اس کے علاوہ عام زندگی میں ایک دوسرے کا مشابہ ہونا مراد نہیں ہے مثلاً تمام قومیں پیالی میں چائے ڈال کر پیتی ہیں یہ کوئی شعار نہیں ہے۔

### جو شخص تواضع کرتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے

﴿۴۰﴾ وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أُنْبَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ تَوَاضَعًا كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ تَوَجَّهَ اللَّهُ تَاجَ الْمُلْكِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ حَدِيثَ اللَّبَاسِ

اور حضرت سويد ابن وہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بیٹے سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زیب و زینت کے لباس کو پہننا چھوڑ دے باوجودیکہ وہ اس کے پہننے کی استطاعت و حیثیت رکھتا ہو۔ اور ایک روایت میں تو اضعاء کا لفظ بھی آیا ہے یعنی جو شخص زہد و تواضع اور کسر نفسی کے سبب زیب و زینت کا لباس پہننا چھوڑ دے اس کو اللہ تعالیٰ عزت و عظمت کا جوڑا پہنائے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس عطا کریگا جو اس کی رفعت و عظمت کا باعث ہو گا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت دونوں جگہ عزت و عظمت عطا کرے گا جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص فروتنی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ بناتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے نکاح کرے اس کو اللہ تعالیٰ بادشاہت کا تاج عطا فرمائے گا۔ (ابوداؤد) اور ترمذی نے اس روایت کا صرف وہ حصہ جس میں لباس کا ذکر ہے حضرت معاذ ابن انسؓ سے نقل کیا ہے۔

## توضیح

”تواضعاً“ قدرت کے باوجود ترک زینت اختیار کرنا بڑا اکمال ہے اس سے آدمی گرتا نہیں بلکہ بلند ہو جاتا ہے اور جس میں طاقت نہیں وہ خود متواضع ہے ”ومن تزوج“ یعنی ایک بے نام و گناہ لڑکی ہے بے سہارا ہے نہ اس کا کفو ہے نہ خاندان ہے ایک شخص اس کے ساتھ صرف اس لئے نکاح کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی بن جائے اور اس کو سہارا مل جائے ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ عظمت کا تاج پہنائے گا۔

## اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا اظہار محمود عمل ہے

﴿۴۱﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دیکھا جائے۔ (ترمذی)

## توضیح

”ان یری“ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے دنیوی نعمت عطا کی ہے تو بطور شکر اس نعمت کا اثر بھی انسان کے جسم پر ہونا چاہئے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جہاں استطاعت ہو تو خوش پوشاکی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا عملی شکر ادا کرنا چاہئے اور جہاں استطاعت نہ ہو تو وہاں سادگی کا عملی مظاہرہ کرنا چاہئے اور جہاں تنگی ہو تو قرض لیکر تکلف کے ساتھ لباس کا مظاہرہ و مفاخرہ کرنا سخت منع ہے۔

## شائستگی اور صفائی اسلام میں محمود عمل ہے

﴿۴۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا فَرَأَى رَجُلًا شَعْنًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ رَأْسَهُ وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے پاس تشریف لائے تو وہاں آپ نے ایک پراگندہ بال شخص کو دیکھا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ کیا اس شخص کو وہ چیز یعنی کنگھی وغیرہ میسر نہیں ہے کہ جس کے ذریعہ یہ اپنے بالوں کو درست کر سکے۔ اسی طرح آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا

جس کے بدن پر میلے کپیلے کپڑے تھے تو فرمایا کہ کیا اس شخص کو وہ چیز یعنی صابون یا پانی میسر نہیں ہے کہ جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو ڈالے۔ (احمد، نسائی)

## توضیح

”مایسکن“ ما عبارت ہے کنگھی سے یعنی اس شخص کو کنگھی نہیں ملتی جس کے ذریعہ بالوں کو بنائے اور درست کرے ”مایغسل“ ادھر بھی ما۔ سے صابن وغیرہ صفائی کا سامان مراد ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسم کو مہذب شائستہ اور خوبصورت رکھنا آنحضرت کو پسند تھا اور اس کا برعکس منظر آپ کو ناپسند تھا کیونکہ اسلام ایک ترقی پسند اور مہذب اور متمدن مذہب ہے وہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی کفالت اور رہنمائی کرتا ہے لہذا یہ چیزیں اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق تھیں جس کی ترغیب آنحضرت نے دی اسلام اگرچہ سادگی کی تعلیم دیتا ہے مگر سادگی اور چیز ہے، گندگی اور چیز ہے رحمان کے نظام میں تہذیب و صفائی ہے اور شیطان کے نظام میں نجاست اور پلیدی ہے زیر بحث حدیث کی اس تشریح سے معلوم ہو گیا کہ اس سے اس حدیث کا تعارض نہیں ہے جس میں ”ان البذاذۃ من الایمان“ فرمایا گیا ہے کیونکہ اس حدیث میں سادگی کا درس ہے نجاست و گندگی اور بد تہذیبی کا درس نہیں ہے۔

﴿۴۳﴾ وَعَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ثَوْبٍ دُونَ فَقَالَ لِي أَلَك مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكِرَامَتِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ

اور حضرت ابو الاخوص اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ میرے بدن پر خراب و خستہ کپڑے تھے آپ نے یہ دیکھ کر مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے پوچھا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہر قسم کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ، گائیں اور بکریاں بھی عطا کی ہیں اور گھوڑا اور غلام بھی دیا ہے آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا زیادہ مال دیا ہے تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت کا اثر ظاہر ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس عزت و عظمت سے نوازا ہے وہ عیاں ہو۔ (نسائی) اور شرح السنۃ نے اس روایت کو مصابیح کی روایت سے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے عبارت تو دونوں کی مختلف ہے لیکن دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔

”ثوب دون“ دون ادون سے ہے جو بیکار اور خراب و خستہ کپڑے کو کہتے ہیں۔

## مردوں کے لئے سرخ کپڑا پہننا حرام ہے

﴿۴۴﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص دوسرے سرخ کپڑے پہنے ہوئے گزرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

### توضیح

”فلم یرد“ یعنی یہ شخص سرخ لباس پہنا ہوا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اس سے معلوم ہوا کہ سرخ لباس استعمال کرنا منع ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فاسق مجاہر کے سلام کا جواب لوٹانا لازم نہیں اور ان پر سلام میں پہل کرنا بطریق اولیٰ منع ہے۔

## مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق

﴿۴۵﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَرُكِبُ الْأَرْجُوَانَ وَلَا الْأَبْسَ الْمُعْصَفَرُ وَلَا الْأَبْسَ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ وَقَالَ أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنٌ لَهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحٌ لَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ارغوانی یعنی سرخ رنگ کے رزین پوش پر سوار نہیں ہوتا نہ میں کسم کارنگ ہوا کپڑا پہنتا ہوں اور نہ میں ایسا پیرہن کرتا وغیرہ پہنتا ہوں جس پر ریشی سجاوٹ یعنی ریشی گوٹ و تیل وغیرہ لگی ہوئی ہو اور پھر فرمایا در کھومرد جو خوشبو لگائیں۔ وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں مہک تو ہو رنگ نہ ہو جیسے گلاب اور عطر وغیرہ تاکہ رنگ دار خوشبو لگانے سے کپڑے رنگین نہ ہو جائیں۔ اور عورتیں جو خوشبو لگائیں۔ وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں رنگ نہ ہو مہک نہ ہو جیسے زعفران و منہدی وغیرہ تاکہ ان کی مہک باہر نکل کر مردوں کے لئے فتنہ و ابتلاء کا سبب نہ بن جائے۔ (ابوداؤد)

### توضیح

”الارجوان“ یہ لفظ ارغوان کا معرب ہے ارغوانی رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا گدہ ہوتا تھا جو بیٹھنے کے لئے زین پر بچھایا جاتا تھا جس کو زمین پر رکھتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ میں ایسی سواری پر سوار نہیں ہوتا جس کا زین

پوش سرخ رنگ کا ہو، بعض اہل لغت نے ارغوان ایک ایسے درخت کو قرار دیا ہے جس کے پھول سرخ ہوں زیادہ اہل لغت نے ارغوان سرخ رنگ کو قرار دیا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اسی کو دوسری احادیث میں ”المیائثر الحممر“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے جو درحقیقت ریشم و دیباچ سے تیار کیا جاتا تھا بہر حال یہ ممانعت یا سرخ رنگ کی وجہ سے ہے یا ریشم کی وجہ سے۔ ملا علی قاری نے سرخ رنگ کو رائج قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جب سرخ رنگ کے کپڑے پر بیٹھنا منع ہے تو اس کا پہننا کتنا سخت منع ہوگا ”المعصفر“ اس سے کسم میں رنگا ہو اسرخ کپڑا مراد ہے یہ مردوں کے لئے منع ہے۔

”المکفف“ یعنی جس میں ستاف اور ریشمی گوٹ لگی ہوئی ہو، اس حدیث میں مکلف قیص پہننے کی ممانعت آئی ہے جبکہ اس سے پہلے حضرت اسماء کی حدیث ۱۸ میں آنحضرت کے جبہ کے ساتھ مکفوفین کے الفاظ مذکور ہیں دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ چار انگشت تک ریشم کی پٹی کی اجازت ہے اس سے زیادہ نہیں یہاں یہ حدیث چار انگشت سے زیادہ کی ممانعت پر محمول ہے یا اسماء کی حدیث فتویٰ پر محمول ہے اور زیر بحث حدیث تقویٰ پر محمول ہے۔

### دس باتوں کی ممانعت

﴿۴۶﴾ وَعَنْ أَبِي رِيحَانَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرِ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالْتَفِّ وَعَنْ مُكَامَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلِ بَغِيرَ شَعَارٍ وَمُكَامَةَ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بَغِيرَ شَعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكَبَيْهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ النَّهْبِيِّ وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ وَلِبُوسِ الْحَاتِمِ إِلَّا لِدَى سُلْطَانٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت ابو ریحانہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں سے منع فرمایا ہے دانتوں کو تیز کرنے سے جسم کے کسی حصہ کو گودنے سے بال اکھاڑنے سے مرد کو مرد کے ساتھ سونے سے اگر درمیان میں کپڑا حائل نہ ہو عورت کو عورت کے ساتھ سونے سے اگر درمیان میں کپڑا حائل نہ ہو اور آپ نے اس سے منع فرمایا کہ مرد اپنے کپڑے کے نیچے ریشم کا استر لگائے جیسا کہ عجمی لوگ لگاتے ہیں یا عجمی لوگوں کی طرح موٹے پٹے پر ریشمی کپڑا لگائے اور آپ نے کسی کا مال لوٹنے سے اور چیتے کی کھال کی زین پر سونے سے منع فرمایا نیز آپ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص مہر والی انگوٹھی پہنے والا یہ کہ وہ صاحب حکومت ہو۔ (ابوداؤد، نسائی)

### توضیح

”العشر“ یعنی دس بری خصلتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ”الوشر“ عرب میں بوڑھی عورتیں جو ان لڑکیوں سے حسن میں مشابہت کے لئے بدنمادانتوں کو اطراف سے گھسا کر خوش نمبادیتی تھیں اس سے ممانعت آئی ہے

کیونکہ اس میں تغیر خلق اللہ ہے۔

”وشم“ جسم کے کسی حصہ کو گود کر اس میں نیل وغیرہ رنگ بھرنے کو وشم کہتے ہیں اس میں بھی تغیر خلق اللہ ہے اس لئے منع ہے۔  
 ”الستف“ خف بال اکھیر نے کو کہتے ہیں مثلاً کوئی مرد سر یا داڑھی کے سفید بال زینت اختیار کرنے کے لئے نوچتا ہے یہ منع ہے کہ بے جا زینت اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح عورت کے لئے اپنے پیشانی کے چھوٹے بال نوچنا ممنوع ہے کہ بے جا زیب وزینت ہے اور تغیر خلق اللہ کا امکان بھی ہے یا مصیبت کے وقت بال نوچنا مراد ہے جو ممنوع ہے۔

”مکامعة“ یعنی بغیر حائل دو مردوں کو ننگے ہو کر سونے سے منع کر دیا گیا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی منع کیا گیا ہے شعاع کا معنی جسم کے ساتھ لگا ہوا کپڑا ہے مراد حائل ہے۔

”اسفل ثیابہ“ یعنی اوپر عام کپڑا ہو اور نیچے ستریشم کا ہو اس سے منع کر دیا گیا ہے یہ اعاجم کی عادت تھی اب عرب کی ہوگئی۔  
 ”علی منکبہ“ یعنی اعاجم کی طرح کپڑوں میں کسی جگہ ریشم کی پٹی جوڑنا منع ہے خواہ کندھا ہو یا کوئی اور مقام ہو بشرطیکہ چار انگشت سے زیادہ ہو۔

”النہی“ لوٹ مار اور ڈکیتی کو کہتے ہیں ”النمور“ نمرۃ جمع ہے چیتے کی کھال کو کہتے ہیں اس پر بیٹھنا عجیبوں کی عادت تھی اب عرب کی ہوگئی ہے اس سے تکبر بھی آتا ہے اور ہو سکتا ہے درندگی کا اثر بھی پیدا ہوتا ہو۔ ”الخاتم“ زیب وزینت کی غرض سے ضرورت کے بغیر انگوٹھی استعمال کرنے کی ممانعت ہے ہاں اگر کوئی بادشاہ یا قاضی وغیرہ حاکم ہو تو اس کے لئے بوجہ ضرورت محدود پیمانے پر جائز ہے کہتے ہیں کہ عوام کے لئے جو کراہت تھی وہ منسوخ ہوگئی ہے اب جائز حد تک سب کے لئے جائز ہے۔

## مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے

﴿۴۷﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ بُسِّ الْقَسِيِّ وَالْمِيَاثِرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ قَالَ نَهَى عَنْ مِيَاثِرِ الْأَرْجَوَانِ

اور حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سونے کی انگوٹھی اور قسی کے پہننے سے اور میاثر استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت علیؑ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارغوانی یعنی سرخ میاثر استعمال کرنے سے منع فرمایا۔

توضیح

”القسی“ مصر کے ایک شہر ”قس“ کی طرف منسوب ہے یہ کپڑا ریشم سے بنتا تھا اس لئے ممانعت آئی ہے۔



”المیائثر“ یہ میشرۃ کی جمع ہے زین پوش کو کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ یہ چونکہ ریشم کا ہوتا تھا اس لئے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ملا علی قاری وغیرہ سرخ ہونے کی وجہ سے بھی اس کو ممنوع کہتے ہیں تو یہ تکبر و آرائش کی وجہ سے ممنوع ہے تو پھر ہر سرخ کپڑا اوپر نیچے استعمال کرنا خلاف اولیٰ ہوگا۔

## ریشم اور چیتے کی کھال پر بیٹھنا منع ہے

﴿۴۸﴾ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرَكِبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ

اور حضرت معاویہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ خنز اور چیتے کی کھال کے زین پوش پر سوار نہ ہو کرو۔ (ابوداؤد، نسائی)

## توضیح

”الخنز“ اگر خنز سے خالص ریشم مراد ہو تو پھر اس کا استعمال حرام ہوگا اور اگر پہلے زمانہ میں اون کے ساتھ مخلوط کوئی کپڑا مراد ہو تو پھر کراہت تنزیہی پر یہ حدیث محمول ہوگی۔ ”النمار“ نمرة کی جمع ہے چیتے کی کھال کو کہتے ہیں ممانعت کی وجہ پہلے لکھی گئی ہے ویسے جب شریعت نے منع کر دیا تو پھر کسی وجہ کو تلاش کرنا مناسب نہیں ہے۔

﴿۴۹﴾ وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَيْشَرَةِ الْحُمْرَاءِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

اور حضرت براء ابن عازبؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ زین پوش سے منع فرمایا ہے۔ (شرح السنۃ)

## سبز رنگ کے کپڑے جائز ہیں

﴿۵۰﴾ وَعَنْ أَبِي رَمَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْضَرَانِ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَبِيهُ أَحْمَرُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ذُو وَفْرَةٍ وَبِهَارْدُغٍ مِنْ حِنَاءٍ

اور حضرت ابورمۃؓ کہتے ہیں کہ جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ کے بدن پر دو سبز کپڑے تھے یعنی آپ نے جو دو کپڑے پہن رکھے تھے وہ یا تو خالص سبز رنگ کے تھے یا ان میں سبز رنگ کی دھاریاں تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے تھوڑے ہی بالوں پر بڑھاپے یعنی سفیدی کا غلبہ تھا نیز آپ کا بڑھاپا

سرخ تھا۔ (ترمذی) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفرہ والے تھے اور ان بالوں میں مہندی کا رنگ تھا۔

### توضیح

”اخضران“ یا بالکل سبز کپڑے تھے یا اس میں سبز دھاریاں تھیں دونوں جائز ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز رنگ پسند تھا۔ ”ذو وفرة“ یہ سر کے بالوں کی ایک قسم ہے باب الترجل میں انشاء اللہ تفصیل آئے گی۔

”ردع من حناء“ حنا مہندی کو کہتے ہیں اور ردع اس کے رنگ کو کہا گیا ہے یعنی ان بالوں میں مہندی کا رنگ تھا۔ ہو سکتا ہے چند بالوں میں رنگ مراد ہو یا یہ بھی ممکن ہے کہ عطر کے استعمال کی وجہ سے بال سرخ لگ رہے ہوں یا یہ کوئی وقتی معاملہ ہو اس تاویل کی ضرورت اس لئے پیش آئی ہے کہ آنحضرت کے سر اور داڑھی میں چند بال سفید تھے جو بیس سے زیادہ نہ تھے عام محدثین فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خضاب نہیں فرماتے البتہ فقہاء خضاب کو ثابت کرتے ہیں۔

### قطری چادر کا ذکر

﴿۵۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَاكِيًا فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرٌ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے زمانہ میں اس حالت میں باہر مسجد میں تشریف لائے کہ اسامہؓ پر سہارا دیئے ہوئے تھے اور بدن مبارک پر قطر کا کپڑا تھا جس کو آپ نے بدھی کی طرح پلیٹ رکھا تھا اور پھر آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ (شرح السنۃ)

### توضیح

”ثوب قطری“ ایک قسم کی چادر کو کہتے ہیں جس میں سرخ دھاریاں ہوتی تھیں اور یمن میں بنتی تھی یا قطری نسبت ہے قطر کی طرف جو بحرین کے علاقہ میں ایک شہر کا نام تھا آج کل قطر ایک ملک کا نام ہے یعنی یہ چادر وہاں کی بنی ہوئی تھی۔

”توشح“ خوبصورت چادر سے جسم کے لپٹنے کو توشح کہتے ہیں و شاح کی طرح زیب تن کیا تھا و شاح ہار کو کہتے ہیں۔

### ایک بد بخت یہودی کا معاملہ

﴿۵۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غُلِيظَانِ وَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلًا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى

الْمَيْسِرَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ سَتَرِيدُ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ بِمَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ وَأَدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو دو کپڑے تھے وہ قطر کے تھے اور بہت زیادہ موٹے تھے چنانچہ جب آپ زیادہ دیر تک بیٹھتے اور پسینہ آتا تو وہ کپڑے آپ کے بدن پر بھاری ہو جاتے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی آخر کار ایک دن جب کہ فلاں یہودی کے ہاں جس کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے شام سے کپڑا آیا ہوا تھا تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی شخص کو اس یہودی کے پاس بھیج دیتے جو اس سے بوعده فراغت یعنی اس وعدہ پر کہ جب کہیں سے کچھ آجائے گا تو قیمت ادا کر دی جائے گی دو کپڑے خرید لیتا تو اچھا ہوتا تاکہ آپ اس تکلیف سے بچ جائیں جو ان کپڑوں کی وجہ سے اٹھانا پڑ رہی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس مشورہ کو قبول فرمایا اور کسی شخص کو مذکورہ وعدہ پر کپڑا خریدنے کے لئے اس یہودی کے پاس بھیج دیا اس شخص نے یہودی کے پاس پہنچ کر جب کپڑا مانگا تو اس نے کہا کہ تمہارا جو ارادہ ہے اس کو میں جانتا ہوں تم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے کہ اس وقت تو وعدہ پر میرا کپڑا لے جاؤ اور پھر بعد میں قیمت ادا کرنے سے انکار کر دو بظاہر ان الفاظ کا مخاطب وہ شخص تھا لیکن حقیقت میں اس کا خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا پھر اس شخص نے واپس آ کر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی کا قول نقل کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یہودی نے جھوٹ بولا ہے اور وہ خود بھی جانتا ہے کہ اس نے بالکل جھوٹ بات اپنی زبان سے نکالی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ تورات کے ذریعہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوں اور ان سے زیادہ اچھی طرح امانت ادا کرنے والا ہوں۔ (ترمذی، نسائی)

## توضیح

”بزم الشام“ بز کا اطلاق یہاں مطلق کپڑے پر ہوا ہے یعنی شام سے یہودی کے کپڑے مدینہ لائے گئے تھے۔  
”لو بعثت“ یعنی اگر آپ کسی کو اس یہودی کی طرف بھیج دیتے۔

”الی المیسرة“ یہ بیار سے ہے مالدار کی کو کہتے ہیں یعنی پیسہ میسر ہونے تک آپ ادھار پر ان سے دو کپڑے خریدتے تو بہت اچھا ہوتا ”لکان حسناً“ شرط کا جواب محذوف ہے اگر لو شرطیہ ہو اور اگر تمزیہ ہو تو بات ہی ختم۔ ”فارسل“ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا اس نے ادھار پر خریدنے کی بات کی تو بد بخت یہودی نے کہا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں کہ تم یادہ میرے مال کو ہٹ کر نانا چاہتے ہو جب قاصد کی بات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تو آنحضرت نے فرمایا کہ یہودی نے بطور عناد جھوٹ بولا ہے ورنہ ان کو تورات کے ذریعہ سے خوب معلوم ہے کہ میں تمام انسانوں سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہوں ”واداہم“ یعنی سب سے زیادہ ادا کرنے والا ہوں خواہ امانت ہو یا کسی کا قرض ہو۔

## سرخ کپڑے عورتوں کے لئے ہیں مردوں پر حرام ہیں

﴿۵۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِعُصْفَرٍ مُورِّدًا فَقَالَ مَا هَذَا فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَاَنْطَلَقْتُ فَأَحْرَقْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ قُلْتُ أَحْرَقْتُهُ قَالَ أَفَلَا كَسَوْتَهُ بِعُصْفَرٍ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبد اللہ بن عمرو ابن عاصؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کسم کا رنگا ہوا گلابی رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں اس ارشاد گرامی سے سمجھ گیا کہ آپ نے میرے اس کپڑے کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے چنانچہ میں فوراً گایا اور اپنے اس کپڑے کو جلا ڈالا پھر جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے کپڑے کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو جلا ڈالا آپ نے فرمایا تم نے اس کپڑے کو اپنی کسی عورت کو کیوں نہیں پہنا دیا کیونکہ عورتوں کے لئے اس قسم کے کپڑے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

”بعصفر“ کسم میں رنگا ہوا سرخ کپڑا مراد ہے ”موردا“ یہ ورد سے ہے گلابی رنگ کو کہتے ہیں یعنی گلابی رنگ میں رنگا ہوا سرخ کپڑا تھا۔

﴿۵۵﴾ وَعَنْ هَلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلَى أُمَامَةٍ يُعْبَرُ عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ہلال ابن عامر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منیٰ میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا اس وقت آپ خچر پر سوار تھے اور جسم مبارک پر سرخ دھاریوں کی چادر تھی نیز حضرت علیؓ آپ کے سامنے کھڑے تھے جو آپ کے الفاظ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”برداحمر“ قاموس میں لکھا ہے ”البرد بالضم ثوب مخطط“ اس سے معلوم ہوا کہ برد دھاری دار کپڑے کو کہتے ہیں یہاں برد احمر سے مراد وہی دھاری دار چادر ہے خالص سرخ کپڑا مراد نہیں، ”وعلى أمامة يعبر عنه“ چونکہ حج کا موسم تھا مجمع زیادہ تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جہاں تک پہنچتی تھی وہاں سے آگے تک حضرت علیؓ آنحضرت کے قول پہنچاتے تھے اس سے مکبر الصوت کے استعمال کا قاعدہ حاصل ہو جاتا ہے یعنی لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کا جواز ملتا ہے۔

## سیاہ چادر کا ذکر

﴿۵۵﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صُنِعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةٌ سَوْدَاءُ فَلَبِسَهَا فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَذَفَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سیاہ چادر تیار کی گئی جس کو آپ نے استعمال فرمایا لیکن جب اس کی وجہ سے پسینہ آیا اور اس میں سے اون کی بو نکلنے لگی تو آپ نے لطافت طبع کی ناگواری کی بنا پر اس چادر کو پھینک دیا۔ (ابوداؤد)

## توضیح

اون کی بنی ہوئی سیاہ چادر تھی اس میں عموماً پسینہ آتا ہے پسینہ اور پانی لگنے سے اون کے کپڑے سے ایک قسم بد بو اٹھتی ہے اسی بد بو کی وجہ سے آنحضرت نے اسے اُتار پھینکا کیونکہ آپ کا معاملہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔

## گوٹ مار کر بیٹھنے کا ذکر

﴿۵۶﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبٍ بِشِمْلَةٍ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ ایک چادر کے ذریعہ گوٹ مارے ہوئے بیٹھے تھے اور اس چادر کے کنارے آپ کے قدموں پر پڑے ہوئے تھے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”محتب“ احتباء کی صورت کا ذکر پہلے گزر چکا ہے گوٹ مار کر بیٹھنا منع ہے لیکن جب ستر کا انتظام واہتمام ہو تو پھر ممانعت کی وجہ ختم ہو جاتی ہے یہاں ایسا ہی تھا۔

”ہدبھا“ یعنی اس کے دامن کے جھار قدموں پر آئے تھے، جس سے پردہ کا انتظام ہو رہا تھا۔

## عورتیں باریک کپڑا کس طرح استعمال کریں

﴿۵۷﴾ وَعَنْ دُحْيَةَ بِنِ خَلِيفَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبَاطِيٍّ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ اصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ فَاقْطَعْ أَحَدَهُمَا قَمِيصًا وَأَعْطِ الْآخَرَ أَمْرَأَتَكَ تَخْتِمِرَ بِهِ فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ

وَأَمْرُ امْرَأَتِكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت دحیہ ابن خلیفہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبطی کپڑے آئے تو آپ نے اس میں سے ایک قبطی کپڑا مجھ کو عطا کیا اور فرمایا کہ اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر لینا۔ ان میں سے ایک کا کرتہ بنالینا اور دوسرا اپنی عورت کو دے دینا وہ اس کا دوپٹہ بنالے گی پھر جب دحیہؓ یعنی میں واپس ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اور اپنی عورت کو ہدایت کر دینا کہ اس قبطی کپڑے کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ اس کپڑے کے باریک ہونے کی وجہ سے اس کے بال اور جسم نظر نہ آئے۔ (ابوداؤد)

توضیح

”قباطی“ مصری کپڑے کی ایک قسم ہے ”اصدعھا“ یعنی اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے بنا دو۔ ”تختمر“ یعنی اس کا دوپٹہ بنالے ”لا یصفھا“ یعنی کپڑا باریک ہونے کی وجہ سے جسم کے خط و خال معلوم نہ ہوں نظر نہ آئے اس لئے اس باریک کپڑے کے نیچے کوئی اور کپڑا پہن لیا جائے تاکہ جسم چھپ جائے اور اگر کوئی شخص جسم کا بیان کرے تو بیان نہ کر سکے اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لئے اس طرح باریک لباس پہننا منع ہے۔

کپڑے میں اسراف کرنا منع ہے

﴿۵۸﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيْلَةٌ لَا لَيْتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اس وقت دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھیں آپ نے فرمایا کہ دوپٹہ کا ایک ہی بیچ سر پر ڈال لیتیں دوسرے بیچ کی ضرورت نہیں تھی۔ (ابوداؤد)

توضیح

”لئے“ یعنی سر پر دوپٹہ کا ایک بیچ ستر کے لئے کافی ہے دو بیچ ڈالنے میں اسراف ہے ایسا نہیں کرنا تھا۔ حضرت ام سلمہؓ نے دوپٹہ سر پر لپیٹا تھا جس میں پگڑی کی مشابہت بھی تھی اور اس طرح کرنا بے ضرورت بھی تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لئیکہ ایک بیچ اور لیتیں دو بیچ۔

### الفصل الثالث

ازار و شلوار کا نصف ساق تک ہونا پسندیدہ ہے

﴿۵۹﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءً فَقَالَ

يَا عَبْدَ اللَّهِ اِرْفَعْ اِزَارَكَ فَرَفَعْتَهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ اَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اِلَى اَيْنَ قَالَ اِلَى اَنْصَافِ السَّاقَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا اس وقت میرا تہ بند لٹکا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اپنا تہ بند اونچا کرو میں نے تھوڑا سا اونچا کر لیا آپ نے فرمایا اور اونچا کرو میں نے اور اونچا کر لیا۔ پھر حضرت ابن عمرؓ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد میں برابر اس عمل یعنی تہ بند کو اونچا کرتے رہنے کی طرف متوجہ رہتا ہوں۔ بعض لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے تہ بند کو کتنا اونچا رکھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آدمی پنڈلیوں تک۔ (مسلم)

## توضیح

”استرخاء“ ڈھیلا پن تھا ”اتحرها“ یعنی اس مقدار کی میں نگرانی کرتا تھا اور خیال رکھتا تھا کہ اس سے ازار نیچے نہ جائے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کو پسند فرمایا تھا۔ معلوم ہوا کہ نصف ساق تک ازار اوپر ہونا چاہئے آخری حد یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو اس سے نیچے نہ ہو۔ ”ہا“ ضمیر ”فعلة“ محذوف کی طرف راجع ہے یا زیدھا ہو کے طرز پر ہے ٹخنوں سے نیچے ازار بند یا شلوار کا حکم اور مسئلہ ابتدائی مباحث حدیث ۱۰۹ میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔

## ازار لٹکانے کی حرمت بوجہ تکبر ہے

﴿۶۰﴾ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِزَارِي يَسْتَرْحِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهِدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خِيَلَاءَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ازار تہ بند یا پانچامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں اٹھائیں گے یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے قصد و ارادہ کے بغیر میرا تہ بند لٹک جاتا ہے اور ٹخنوں تک یا ٹخنوں سے نیچے پہنچ جاتا ہے الا یہ کہ میں ہمہ وقت اس کا دھیان رکھوں یعنی اگر میں ہر وقت اس طرف متوجہ رہوں تو یقیناً کسی بھی وقت میرا تہ بند نیچے نہیں لٹک سکتا لیکن بعض شرعی یا طبعی رکاوٹوں کی وجہ سے اس کی طرف ہر وقت دھیان رکھنا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں میرے لئے کیا حکم ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ازار تہ بند یا پانچامہ لٹکاتے ہیں۔ (بخاری)

## توضیح

”فقال ابوبکر“ ازار لکانے کی وعید جب حضرت ابوبکر صدیق نے سنی تو آپ پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ ازار نیچے نہ آئے لیکن پیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی بے اختیار نیچے آتا ہے تو اس میں گناہ ہے؟

”خیلاء“ یعنی تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بطور تکبر شلوار لٹکائے رکھتے ہیں۔

## سوال

جو لوگ ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پتلون لٹکاتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو بطور تکبر ایسا کرنا جائز نہیں ہے ہم تکبر نہیں کرتے ہیں لہذا ہمارے لئے جائز ہے۔

## جواب

ان لوگوں کا اس حدیث سے استدلال کرنا غلط ہے اول اس لئے کہ صدیق اکبر کی بات مجبوری کی تھی قصد وارادہ نہیں تھا اور یہ لوگ قصد وارادہ سے ایسا کرتے ہیں، دوم اس لئے غلط ہے کہ ابوبکر صدیق سے بوجہ مجبوری کبھی ایسا عمل ہوتا تھا اور یہ لوگ ہمیشہ اس کو جائز حق سمجھتے ہیں سوم یہ کہ حضرت صدیق اس عمل کو گناہ کا کام سمجھتے تھے اور یہ لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں چہارم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پوری جماعت میں صرف صدیق اکبر کو یہ تسلی دیدی کہ آپ کا عمل بطور تکبر نہیں اس لئے گناہ نہیں یہ ایک خاص اجازت تھی باقی تمام صحابہ میں سے کسی کو اجازت نہیں ملی کیونکہ یہ عمل خود تکبر کا عمل ہے اس میں کوئی شخص تکبر کا ارادہ کرے یا نہ کرے یہ عمل متکبرانہ ہے۔ حضرت عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کو تو اجازت نہیں ملی اور آج کل گناہوں میں لپ پت ایک آلودہ شخص اپنے لئے جواز تلاش کرتا ہے۔

لَا يُقَاسُ الْمَمْلُوكُ بِالْحَدَّادِينَ

چہ نسبت خاک ربا عالم پاک

اصل میں چادر وغیرہ پیچھے سے گھسیٹنا منع ہے

﴿٦١﴾ وَعَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ إِزَارِهِ مِنْ مُقَدِّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ قُلْتُ لِمَ تَأْتِرُ هَذِهِ الْإِبْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِرُهَا



رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عکرمہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کو اس طرح تہبند باندھے ہوئے دیکھا کہ وہ اس تہبند کے آگے کا کنارہ تو اپنے پیروں کے اوپر تک رکھتے اور اس کے پیچھے کا کنارہ ٹخنوں سے اونچا رکھتے تھے میں نے یہ دیکھ کر حضرت ابن عباسؓ سے کہا کہ آپ (کبھی کبھی) اس طرح تہبند کیوں باندھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بھی (کبھی کبھی) اس طرح تہبند باندھا کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

### پگڑی باندھنا فرشتوں کی علامت ہے

﴿۶۲﴾ وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَأَرْخُوهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

اور حضرت عبادہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمامہ پگڑی باندھنا ضروری سمجھو کیونکہ عمامے فرشتوں کی علامت ہیں بایں طور کہ بدر کی جنگ کے موقع پر جو فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لئے نازل ہوئے تھے وہ عمامہ باندھے ہوئے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور عمامہ کے شملہ کو اپنی پشت پر چھوڑ دو کیونکہ ملائکہ بھی اسی ہیئت سے آئے تھے۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

### عورت کے لئے ایسا باریک لباس منع ہے جس میں جسم نظر آتا ہے

﴿۶۳﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَنْ يَصْلَحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن اسماء بنت ابوبکرؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں آئیں کہ ان کے بدن پر باریک کپڑے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اور فرمایا کہ اے اسماء عورت جب ایام حیض کو پہنچ جائے یعنی جب وہ بالغ ہو جائے تو یہ ہرگز درست نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی عضو دیکھا جائے علاوہ اس کے اور اسکے یہ کہہ کر آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ (ابوداؤد)

توضیح

اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی بہن اور آنحضرت کی سالی تھی بلوغ کے بعد اس نے باریک لباس پہن رکھا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا ”المحیض“ اس سے مراد بلوغ ہے کیونکہ حیض کا آنا بالغ ہونے کی علامت ہے اس حدیث سے

معلوم ہوا کہ جس عورت نے ایسا باریک کپڑا پہن رکھا ہو کہ اسکے نیچے سے اس کا بدن جھلک رہا ہو تو وہ عورت حقیقت میں برہنہ عورت کے حکم میں ہے جو کاسیات عاریات کا مصداق ہے ”الا هذا وهذا“ اس سے مراد عورت کا چہرہ اور ہتھیلی ہے بوجہ مجبوری اس کا کھولنا عورت کی مجبوری ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کو اس کی طرف دیکھنا جائز ہے البتہ اگر محل فتنہ ہو تو عورت کے لئے بلا وجہ چہرہ کھولنا منع کیا جاتا ہے۔

### نیا کپڑا پہن کر جو دعا پڑھی جاتی ہے

﴿۶۴﴾ وَعَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا اشْتَرَى ثَوْبًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ فَلَمَّا لَبَسَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

اور حضرت ابو مطر کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علیؑ نے ایک کپڑا تین درہم کے عوض خریدا اور جب اس کو پہنا تو کہا تمام تعریفیں خدا کے لئے ہیں جس نے مجھ کو زینت والے اسباب میں سے وہ چیز عطا کی جس کے ذریعہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی آرائش بھی کرتے ہیں اور ستر بھی چھپاتے ہیں پھر حضرت علیؑ نے کہا کہ اسی طرح میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کپڑے پہننے کے بعد یہ حمد و ثنا کرتے ہوئے سنا ہے۔ (احمد)

### توضیح

”ریاش“ ریش کی جمع ہے لباس کے معنی میں ہے ”اتجمل“ زینت اختیار کرنے کے معنی میں ہے۔  
”اوارى“ مواراة سے ہے چھپانے کے معنی میں ہے یہاں ستر چھپانا مراد ہے۔

﴿۶۵﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ لَبَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمِدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كَنْفِ اللَّهِ وَفِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي سِتْرِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

اور حضرت ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر ابن خطابؓ نے نیا کپڑا پہنا تو یہ دعا پڑھی ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے وہ کپڑا پہننے کو دیا جس کے ذریعہ میں اپنا ستر بھی چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے اپنی آرائش بھی کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص نیا کپڑا

پہننے کے بعد یہ دعا مانگے اور پھر اس کپڑے کو جو پرانا ہو گیا ہے (یعنی جو کپڑا اس نے اپنے جسم سے اتارا ہے) کسی کو اللہ واسطے دے دے تو وہ اپنے جیتے جی اور مرنے کے بعد (یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی) اللہ کی پناہ میں رہے گا اللہ کی محافظت میں رہے گا اور اللہ کے عفو و مغفرت کے پردے میں رہے گا۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

”کنف اللہ“ ای فی سترہ و حفظہ، اس کے بعد کے کلمات اس کلمہ کے لئے تاکید اور تفسیر و توضیح ہیں ”حیا و میتا“ یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

### حضرت عائشہؓ نے باریک کپڑا پھاڑ ڈالا

﴿۶۶﴾ وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ دَخَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ رَقِيقٌ فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا. رَوَاهُ مَالِكٌ

اور حضرت علقمہ ابن ابوعلقمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن حضرت عبدالرحمن ابن ابوبکرؓ کی صاحبزادی حفصہ، حضرت عائشہؓ کے پاس اس حالت میں آئیں، کہ انہوں نے باریک اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی حضرت عائشہؓ نے وہ باریک اوڑھنی پھاڑ ڈالی اور ان کو ایک موٹی اوڑھنی اڑھادی۔ (مالک)

یہ تو باریک اوڑھنی کی بات تھی اگر وہ باریک قمیص و شلوار دیکھ لیتیں تو کیا کرتیں؟ اور اگر نیم برہنہ لباس میں عورتوں کو دیکھ لیتیں تو کیا اقدام فرماتیں؟

### زمانہ بدلتا کیسا کیسا لوگ بدلتے کیسے کیسے؟

﴿۶۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِطْرِيٌّ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ فَقَالَتْ أَرْفَعُ بَصْرَكَ إِلَى جَارِيَتِي أَنْظُرِ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تَزْهِي أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهَا دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتْ أَمْرًا تُقِينُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أُرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت عبدالواحد ابن ایمن اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت ان کے جسم پر (مصر کے بنے ہوئے) قطری کپڑے کا کرتا تھا جس کی قیمت پانچ درہم تھی، حضرت عائشہؓ نے دوران گفتگو مجھے سے فرمایا کہ ذرا میری اس لونڈی کو تو دیکھو یہ کس قدر غرور کرتی ہے یہ گھر میں بھی اس کپڑے کو پہننے پر تیار نہیں ہوتی چہ جائیکہ اس کو پہن کر باہر نکلے حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میرے پاس اس طرح

کے یعنی قطری کپڑے کا ایک کرتا تھا اور مدینہ میں جو بھی عورت اپنی شادی میں یا کسی اور کی شادی کے وقت اپنی آرائش کرتا چاہتی وہ کسی کو میرے پاس بھیج کر وہی کرتا عاریتاً منگواتی۔ (بخاری)

## توضیح

”درع“ قیص کو کہتے ہیں ”قطری“ معمولی قسم قطری یعنی کپڑا تھا یا بحرین کے علاقہ قطر کا بنا ہوا تھا ”ثمن خمسة دراهم“ ای ثمنہ یعنی اس کی قیمت پانچ درہم تھی ”وانظر اليها“ یعنی تعجب کے ساتھ اس کو دیکھ لو ”تُزْهِي“ یعنی اس کو حقیر سمجھتی ہے اور اس پر راضی نہیں ہے۔ تا پر پیش ہے زاساکن ہے اور ہا پر فتح ہے پھر یار الف مقصورہ ہے مدعی کی طرح ہے تا پر ز بر بھی جائز ہے۔ ”تَقِيْنُ“ تقیین سے مجہول کا صیغہ ہے تزیین کے معنی میں ہے یعنی جب شب زفاف کے لئے عورت بن سنور کر شوہر کے ہاں بھیجی جاتی تھی تو وہ عورت میری طرف قاصد بھیج کر اس کپڑے کی قیص بطور عاریت مانگا کرتی تھی تاکہ اس سے زینت حاصل کر سکے۔ آج زمانہ میں اتنا تغیر آ گیا ہے کہ شریف زادیوں کے علاوہ ایک لونڈی گھر کے اندر اس کپڑے کے لباس پہننے کے لئے تیار نہیں ہے، بدلتے ہیں یہ آسمان کیسے کیسے۔ اس حدیث میں عہد رسالت سے دوری کی خرابیوں کی طرف اشارہ ہے ایک حدیث میں ہے کہ ہر پہلے دن سے ہر دوسرا دن خراب آتا ہے شاعر نے اس تغیر کو یوں بیان کیا ہے۔

کیسے کیسے دیے دیے ہو گئے ☆ دیے دیے کیسے کیسے ہو گئے

## ریشمی لباس پہننا مردوں کے لئے حرام ہے

﴿۶۸﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَبَاءَ دِينَاجٍ أَهْدَى لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقِيلَ قَدْ أَوْشَكَ مَا انتَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُ جَبْرِيلُ فَجَاءَ عُمَرُ بِيكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكُهُ تَلْبَسَهُ إِنَّمَا أُعْطَيْتُكَ تَبِيعَهُ فَبَاعَهُ بِالْفَلَى دِرْهَمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی قبا پہنی جو آپ کو ہدیہ کے طور پر دی گئی تھی لیکن فوراً ہی اس قبا کو جسم مبارک سے اتار کر حضرت عمرؓ کے پاس بھیج دیا صحابی نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس قبا کو اتنی جلد کیوں اتار ڈالا؟ آپ نے فرمایا مجھ کو جبریل نے اس کے پہننے سے منع کر دیا تھا (اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے وہ قبا ریشمی کپڑے کی حرمت نازل ہونے سے پہلے پہنی تھی)۔ پھر جب حضرت عمرؓ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس چیز کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے (یعنی اس ریشمی قبا کے پہننے کو) اس کو مجھے مرحمت فرما دیا ہے (تاکہ میں اس کو پہن لوں) اس صورت میں میرا کیا حال ہوگا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”

میں نے وہ قبا تھیں اس لئے نہیں دی ہے کہ تم اس کو پہنو بلکہ اس لئے دی ہے کہ تم اس کو بچ ڈالو، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس قبا کو دو ہزار درہم کے عوض بیچ دیا۔ (مسلم)

### توضیح

”اوشک ان نزعه“ یعنی آنحضرت نے بہت جلدی اس قبا کو پہننے کے بعد اتار دیا، اس پر کسی نے پوچھا کہ (قد اوشک الخ) یعنی آپ نے اتنی جلدی اس قبا کو کیوں اتار دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین نے منع کر دیا۔ حرمت سے پہلے آپ نے پہن لیا پھر حرمت کا حکم آ گیا آپ نے اتار کر حضرت عمر کو ہدیہ کیا حضرت عمر روتے ہوئے آئے کہ ایک چیز حرام تھی تو کیا میں دین کے اعتبار سے اتنا گیا گذرا ہوں کہ حرام کو استعمال کر سکتا ہوں، آنحضرت نے تسلی دی کہ پہننے کے لئے نہیں بلکہ فروخت کرنے کے لئے دیا تھا۔

اگر کپڑے کا تانا ریشم کا ہو تو مردوں کے لئے جائز ہے

﴿۹۷﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمِتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلَبَّاسٌ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو پہننے سے منع فرمایا ہے جو خالص ریشم کو ہو البتہ ریشم کی گوٹ یا نیل جو چار انگشت سے زائد نہ ہو اور وہ کپڑا جس کے تانے میں ریشم ہو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

### توضیح

”المصمت“ یہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو خالص ریشم کا ہو یعنی تانا بانا دونوں ریشم ہوں لیکن اگر تانا ریشم کا ہو اور بانا سوت کا ہو تو وہ سوت کے حکم میں ہے جو جائز ہے اس کا عکس نا جائز ہے عربی میں دو لفظ آتے ہیں ایک ”سدی“ کا لفظ ہے کپڑے کے طول میں جو دھاگے استعمال ہوتے ہیں اس کو سدئی (تانا) کہتے ہیں اور کپڑے کے عرض اور چوڑائی میں جو دھاگے استعمال ہوتے ہیں اس کو لحمۃ بانا کہتے ہیں کسی بھی کپڑے کی اصل بنیاد لحمہ ہوتا ہے سدی اصل نہیں ہے لہذا اگر لحمہ ریشم کا ہے تو کپڑا ریشمی کہلائے گا اور اگر لحمہ سوت کا ہے تو کپڑا سوتی کہلایا جائے گا یہی اشارہ اس حدیث میں ہے۔  
”العلم“ کپڑے کے اوپر پھول اور کشیدہ کاری کو علم کہتے ہیں چار انگشت کے برابر ریشم کے پھول وغیرہ جائز ہیں زیادہ نہیں۔

## شال استعمال کرنا جائز ہے

﴿۷۰﴾ وَعَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مُطْرَفٌ مِنْ خَزٍ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ

اور حضرت ابو رجاء (تابعی) کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمران ابن حصینؓ (گھر سے) نکل کر ہمارے پاس آئے تو اس وقت ان کے بدن پر خز کا مطرف (شال) تھا۔ انھوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے سرفراز فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت کا اثر دیکھا جائے۔“ (احمد)

## توضیح

”مطرف“ صاحب قاموس نے لکھا ہے ”والمطرف كمكرم رداء من خبز مربع ذو اعلام“ اس سے معلوم ہوا کہ مطرف کے میم پر پیش ہے طاسا کن ہے راپر زبر ہے پھر فاف ہے یعنی مطرف جو مکرم کے وزن پر ہے خز کی ایک خاص قسم دھاری دار چادر (شال) کو کہتے ہیں اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب مطرف کے مفہوم میں خز (ریشم) داخل تھا تو پھر حدیث میں من خز کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کا جواب شارحین یہ دیتے ہیں کہ یہاں خز سے مراد ریشم نہیں ہے بلکہ خز کا اطلاق جس طرح خالص ریشم پر ہوتا ہے اسی طرح اس کا اطلاق ریشم اور اون دونوں سے بنے ہوئے کپڑے پر بھی ہوتا ہے یہاں یہی کپڑا مراد ہے اور اسی وجہ سے اس کے استعمال میں جواز آ گیا ہے بہر حال یہاں مطرف سے ایک خاص قسم خوبصورت پھول دار شال مراد ہے جس پر جائز مقدار تک ریشم کے پھول جڑے ہوئے تھے۔

## خوب کھاؤ پیو مگر اسراف اور تکبر سے بچو

﴿۷۱﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ مَا شِئْتُ وَالْبَسُ مَا شِئْتُ مَا أَخْطَأْتُكَ اثْنَانِ سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجُمَةِ بَابٍ

اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا ”(جائز و مباح چیزوں میں سے) جو چاہا ہو کھاؤ اور جو چاہا ہو پہنو تاو فتیکہ دو چیزیں یعنی اسراف اور تکبر تم میں سرایت نہ کریں۔“ (بخاری فی ترجمۃ باب)

”ما اخطاء تک“ یعنی جب تک کھانے پینے میں دو خصلتیں اسراف اور تکبر شامل نہ ہوں اس وقت تک کھانا پینا مباح ہے

جب اسراف آگیا یا تکبر آگیا اب اس مباح میں کراہت آجائے گی پھر اس توسع کی گنجائش نہیں رہیگی۔

﴿۷۲﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّوْا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُؤْا مَا لَمْ يَخَالِطْ إِسْرَافٌ وَلَا مَخِيلَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ  
اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حاجت و ضرورت کے بقدر کھاؤ اور پہنو اور جو چیز تمھاری حاجت اور ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو نیز پہننے کی مباح چیزوں میں سے جو چاہو پہنو جب تک کہ اس میں اسراف اور تکبر نہ ہو۔ (احمد، نسائی، ابن ماجہ)

### سفید کپڑوں میں اپنے رب سے ملاقات کرو

﴿۷۳﴾ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُمْ اللَّهَ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبَيَاضُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.  
اور حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ بہترین کپڑا کہ جس کو پہن کر تم اپنی قبروں اور اپنی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو، سفید کپڑا ہے۔ (ابن ماجہ)

### توضیح

”فسی قبورکم“ قبروں میں سفید کپڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب مرجاتا ہے تو بہتر اور احسن یہ ہے کہ اس کا کفن سفید ہوا گرچہ بوجہ مجبوری دوسرا رنگ بھی جائز ہے قبر میں آدمی کا آئنا سامنا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ قبر صرف ایک گڑھے کا نام نہیں بلکہ عالم برزخ مراد ہے۔

”و مساجدکم“ آدمی جب نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جاتا ہے تو نماز میں اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات ہوتی ہے اس وقت بھی سفید لباس میں ملاقات بہتر اور احسن ہے اس حدیث سے سفید لباس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کے لئے سب سے عمدہ لباس یہی سفید لباس ہے۔

## باب الخاتم انگوٹھی پہننے کا بیان الفصل الاول

سونے کی انگوٹھی مردوں کے لئے حرام ہے

﴿عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي رِوَايَةٍ وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَلْفَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ نُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نُقُشِ خَاتَمِي هَذَا وَكَانَ إِذَا لَبَسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس انگوٹھی کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنا اور پھر اس کو پھینک دیا پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ کندہ کرائے اور فرمایا کہ کوئی شخص میری اس مہر کی مانند الفاظ اپنی انگوٹھی میں کندہ نہ کرائے نیز آنحضرت جب انگوٹھی پہنتے تو اس کا گنینہ پھیلی کی جانب رکھتے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”من ذہب“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اس وقت بنوا کر استعمال فرمائی تھی جبکہ مردوں کے لئے سونے کا استعمال حرام نہیں تھا جب سونے کا استعمال حرام ہو تو آنحضرت نے اسے مھینکا یا۔

امام محمدؒ نے موطاؒ میں لکھا ہے کہ مردوں کے لئے جس طرح سونے کی انگوٹھی ناجائز ہے اسی طرح لوہے، کانسی اور پیتل وغیرہ دھاتوں کی انگوٹھی بھی ناجائز ہے لہذا مردوں کے لئے چاندی کے علاوہ کسی قسم کی کوئی انگوٹھی جائز نہیں ہے عورتوں کے لئے سونے کی انگوٹھی جائز ہے اور چاندی کی مکروہ ہے کیونکہ اس میں مردوں کے ساتھ مشابہت ہے ہاں اگر عورت چاندی کی انگوٹھی پر کچھ سنہرا رنگ چڑھا دے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ قاضی خان نے لکھا ہے کہ جو شخص دستاویز پر مہر لگانے کی طرف محتاج ہو جیسے قاضی، گورنر اور حاکم وغیرہ تو ایسے لوگوں کے لئے انگوٹھی پہننا جائز ہے دوسروں کے لئے افضل یہ ہے کہ نہ پہنیں اگر کوئی پہنتا ہے تو جائز ہے اور مناسب ہے کہ بائیں ہاتھ میں پہن لے اور انگوٹھی کا گنینہ پھیلی کی طرف کر دے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کی احادیث موجود ہیں مگر بعض علماء کے نزدیک وہ مردوں کے حق میں منسوخ ہیں مگر ”سفر السعادة“ میں لکھا ہے کہ دونوں



جائز ہیں میرے خیال میں یہی رائج ہونا چاہئے کیونکہ دونوں طرف صحیح احادیث موجود ہیں بلکہ شوافع حضرات تو دائیں ہاتھ میں پہننے کو افضل قرار دیتے ہیں کیونکہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر فضیلت حاصل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چاندی کی کئی انگوٹھیاں بنوا کر گھر میں رکھنا تو جائز ہے لیکن استعمال کے لئے صرف ایک انگوٹھی کا استعمال جائز ہے دویاتین کا ایک ساتھ استعمال جائز نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ انگوٹھی میں چاندی کی مقدار ساڑھے چار ماشہ سے کم ہو اگر زیادہ ہو جائے تو وہ بھی جائز ہے مگر خلاف اولیٰ ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے بعد عام بادشاہوں کو خطوط لکھے تو آپ کو بتایا گیا کہ بادشاہوں کے ہاں یہ ضابطہ ہے کہ مہر شدہ خط کو خود کھول کر پڑھتے ہیں مہر کے بغیر خط کو قبول نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کے نگینہ میں یہ عبارت نقش کروادی ”محمد رسول اللہ“ جس طرح آنے والی روایت نمبر ۴ میں تفصیل آرہی ہے۔

”ولا ینقشن“ یعنی کوئی شخص میری مہر کی طرح الفاظ کندہ نہ کرائے۔ ظاہر ہے یہ ایک اصولی قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ مہر کی ایک سرکاری حیثیت ہوتی ہے اگر ہر آدمی کی مہر کا نقش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کی طرح ہو جاتا تو اس میں آنحضرت کی مہر کی خصوصی سرکاری حیثیت متاثر ہو جاتی اور عام بادشاہوں کے ہاں اس مہر کی خصوصیت مشتبہ بن جاتی اس لئے آنحضرت نے منع فرمادیا اگر آپ منع نہ فرماتے تو صحابہ اس کو سنت سمجھ کر اپناتے اور آنحضرت کے عمل پر عمل کرتے۔

## مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَيْسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مردوں کو) قیسی کپڑے، کسم کے رنگے ہوئے کپڑے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا نیز آپ نے رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ (مسلم)

## توضیح

’القیسی‘ ریشم کی ایک قسم ہے۔ قس کی طرف منسوب ہے جو مصر کا ایک شہر ہے۔ ’تختم الذهب‘ یعنی مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا حرام ہے۔ ’فی الرکوع‘ رکوع میں قرآن پڑھنے کی ممانعت کا ایک مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ میں تسبیحات کے بجائے قرآن کریم مت پڑھو یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم کلام ہے اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو قیام اور قعود میں پڑھا جائے، اس ممانعت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح عجلت اور بے اطمینانی سے نہ پڑھو کہ کچھ حصہ قیام میں پڑھا جائے اور قرأت کو مکمل کئے بغیر جلدی جلدی رکوع میں چلا جائے اور کچھ حصہ رکوع میں پڑھا جائے یہ مطلب رائج ہے۔

مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی دوزخ کی آگ کا انگارہ ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتِمَكَ إِنْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا اور پھر فرمایا کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوزخ کی آگ کے انگارے کو حاصل کرے اور اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لے (یعنی جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا اس صورت میں کسی مرد کا سونے کی انگوٹھی پہننا گویا اپنے ہاتھ میں دوزخ کی آگ کا انگارہ پہننا ہے) پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم (وہاں سے) تشریف لے گئے تو اس شخص سے کہا گیا کہ تم اپنی اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو یعنی چاہے تو اس کو فروخت کر ڈالو اور چاہے کسی عورت کو دے دو لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں خدا کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جب کہ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے۔ (مسلم)

توضیح

”جمرة“ آگ کے انگارہ کو جمرة کہتے ہیں ”خذ خاتمک“ جس شخص کے ہاتھ سے آنحضرت نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی تھی اس سے کسی نے کہا کہ اب اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس کو کسی فائدہ میں لاؤ مثلاً فروخت کر دو یا بیوی کو پہنا دو اس وفادار عاشق رسول نے فرمایا کہ جس چیز کو آنحضرت نے خود میرے ہاتھ سے نکال کر پھینکا ہے میں کبھی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ طاقت و قدرت کے وقت نبی عن المنکر ہاتھ ڈال کر کرنا چاہئے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام آنحضرت کے کتنے فرمانبردار اور کتنے وفادار اور کتنے عاشق تھے آج کل عشق کے دعویدار صرف نمائش کدو ہیں الا ماشاء اللہ۔

مہر نبوی کا نقش

﴿۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَفَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ فَقِيلَ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا حَلَقًا فَضَّصَ نَقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ كَانَ نَقِشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةً

## اَسْطَرُّ مُحَمَّدًا سَطْرًا وَرَسُولًا سَطْرًا وَاللَّهِ سَطْرًا

اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ واپس آ کر) کسریٰ (فارس کے بادشاہ) قیصر (روم کے بادشاہ) اور نجاشی (حبشہ کے بادشاہ) کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو عرض کیا گیا کہ (مروج قاعدہ کے مطابق) یہ بادشاہ اسی خط کو قبول کرتے ہیں (یعنی مستند سمجھتے ہیں) جس پر مہر لگی ہوئی ہو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے حلقہ والی انگوٹھی بنوائی جس میں ”محمد رسول اللہ“ کندہ کر دیا گیا۔ (مسلم) اور بخاری کی ایک روایت میں یوں منقول ہے کہ اس انگوٹھی میں جو الفاظ کندہ کرائے گئے تھے وہ تین سطروں میں تھے اس سطر میں (جو سب سے نیچی تھی) ”محمد“ کا لفظ تھا ایک سطر میں (جو بیچ میں تھی) ”رسول“ کا لفظ تھا اور ایک سطر میں (جو سب سے اوپر تھی) ”اللہ“ کا لفظ تھا۔

توضیح

”حلقۃ فضة“ یعنی الگ کوئی نگینہ نہیں تھا بلکہ اصل چاندی خود اس کا نگینہ تھا الگ نگینہ والی نگوٹھی کا ذکر بھی احادیث میں آنے والا ہے۔

مہر نبوی میں جو الفاظ کندہ تھے اس کا نقش اس طرح بنا ہوا تھا

اللہ  
رسول  
محمد

(اللہ اوپر پھر نیچے رسول پھر محمد) اسی کو امام بخاری نے الگ الگ تین سطر قرار دیا ہے کہ محمد ایک سطر ہے جو سب سے نیچے ہے اس کے اوپر دوسری سطر میں لفظ رسول ہے اور اس کے اوپر لفظ اللہ ہے اس میں مراتب ادب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

## آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ

﴿وَعَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمَهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾ اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا (بخاری)

توضیح

”فصہ منہ“ فصہ نگینہ کو کہتے ہیں اور منہ کا مطلب یہ ہے کہ نگینہ الگ کسی دھات کا نہیں تھا بلکہ خود اسی چاندی کا ایک حصہ نگینہ تھا اسی پر اوپر والی عبارت نقش اور کندہ تھی۔

﴿۶﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت انسؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی جس کا نگینہ حبشی تھا نیز آنحضرتؐ انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے (یعنی آپ اپنی انگوٹھی کو اس طرح پہنتے تھے کہ اس کا نگینہ والا حلقہ ہتھیلی کی طرف رہتا تھا)۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”حبشی“ یعنی اس انگوٹھی کا نگینہ عقیق کا تھا چونکہ عقیق کا پہاڑ حبشہ میں واقع ہے اس لئے اس کی طرف منسوب کر کے حبشی کہا گیا یا حبشی بول کر کالا رنگ مراد لیا گیا ہے کہ انگوٹھی کا نگینہ کالا تھا۔

اس روایت کا بظاہر سابق روایت سے تعارض ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نگینہ الگ نہیں تھا اور زیر بحث روایت میں ہے کہ نگینہ الگ عقیق کا بنا ہوا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک انگوٹھی کی بات نہیں ہے بلکہ کئی انگوٹھیوں کا قصہ ہے بعض کا نگینہ ساتھ تھا بعض میں نگینہ الگ دھات کا تھا۔

”مما یلی کفہ“ یعنی آنحضرتؐ تواضع اور زہد و تقویٰ اور ترک زینت کے پیش نظر انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے۔ آنحضرتؐ کی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی خنصر میں ہوتی تھی

آنحضرتؐ کی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی خنصر میں ہوتی تھی

﴿۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس انگلی میں تھی حضرت انسؓ نے یہ کہہ کر بائیں ہاتھ کی چھنگلی کی طرف اشارہ کیا۔ مسلم

کس انگلی میں انگوٹھی پہنی جائے؟

﴿۸﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخْتَمَ فِي أُصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا کہ میں اپنی اس انگلی میں یا اس انگلی میں انگوٹھی پہنوں۔ راویؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے یہ کہہ کر درمیانی انگلی اور اس کے قریب والی انگلی یعنی شہادت کی انگلی

کی طرف اشارہ کیا۔ (مسلم)

توضیح

انگوٹھی پہننے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن لی جائے وسطیٰ اور سبابہ میں پہننے کی ممانعت آئی ہے جس طرح زیر بحث حدیث میں ہے لہذا یہ مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ اس طرح پہننا نہ حضور سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے اسی طرح انگوٹھے میں پہننا بھی ثابت نہیں ہے لیکن یہ پابندی اور ممانعت مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے ممانعت نہیں ہے وہ دونوں ہاتھوں کی جس انگلی میں پہنیں سب جائز ہے۔

### الفصل الثانی

مردوں کے لئے دائیں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بھی جائز ہے

﴿۹﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَلِيٍّ

حضرت عبداللہ ابن جعفرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ (ابن ماجہ)

ابوداؤد اور نسائی نے اس روایت کو حضرت علیؓ سے نقل کیا ہے۔

﴿۱۰﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کو اپنے بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

سونا اور ریشمی کپڑا مردوں کے لئے حرام ہے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ

فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑا لیا اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اسی طرح

سونا لیا اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لئے یہ دونوں چیزیں حرام

ہیں۔ (احمد، ابوداؤد و نسائی)

توضیح

یعنی ایک ہاتھ میں ریشم دوسرے میں سونا لیا اور اعلان فرمادیا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں (اور عورتوں کے لئے حلال ہیں) بعض بے ہمت لوگ سو نے کی انگوٹھی کو اس بہانے سے پہنتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ

ہو جائے تو اس انگوٹھی کو فروخت کر کے سفر میں پیسہ کام آجائے گا میں کہتا ہوں کہ پھر جیب میں رکھو پہنتے کیوں ہو؟ نیز آفت آنے سے پہلے اس کا انتظار کرو گے تو پھر آفت آئے گی عافیت کیوں نہیں مانگتے ہو؟

### قلیل مقدار میں سونا استعمال کیا جاسکتا ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقْطَعًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتے کی کھال کی زین پر سوار ہونے سے منع فرمایا اسی طرح آپ نے مردوں کو سونا پہننے سے منع فرمایا لایہ کہ وہ بہت قلیل مقدار میں ہو۔ (ابوداؤد)

توضیح

”الامقطعاً“ سونے کے پارچوں اور ٹکڑوں پر مقطع کا اطلاق کیا گیا ہے مراد قلیل مقدار سونا ہے جس طرح قلیل مقدار میں ریشم کی اجازت ہے اسی طرح نہایت قلیل مقدار میں سونے کے استعمال کی بھی اجازت ہے جیسے تلوار کی ٹوپی اور دستے پر ہو یا سونے کی کیل ٹھونک دی ہو یا سونے کا معمولی تار کسی چیز میں استعمال کیا گیا ہو یا انگوٹھی اور کسی اسلحہ وغیرہ کو سونے کا پانی دیا گیا ہو یا گھڑی کے ڈائل وغیرہ میں سونے کے کچھ ذرات ہوں یہ قلیل مقدار حرام نہیں ہے اسی کو مقطعاً کے الفاظ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔

### لوہے اور پیتل کی انگوٹھی استعمال کرنا منع ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبِّهِ مَالِيٍّ أَجْدَمُنْكَ رِيحَ الْأَضْنَامِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَالِيٍّ أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةً أَهْلُ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ اتَّخَذْتَهُ قَالَ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تَتِمُّهُ مَثَقَلًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ مُحْيِي السُّنَنِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الصَّدَاقِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ التَّمَسَّ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

اور حضرت بريدہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جو پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تم میں بھوں کی بو پاتا ہوں یعنی آپ نے اس شخص کے سامنے یہ بات بطور تعریض فرمائی کیونکہ عام طور پر پیتل ہی کے بت بنائے جاتے تھے۔ چنانچہ اس شخص نے آنحضرت کی یہ ناگواری دیکھ کر اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا پھر جب دوبارہ وہ شخص آیا تو لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا آنحضرت نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تم پر

دوزخیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں (یعنی آپ نے یہ بات بھی بطور تعریض اس بناء پر فرمائی کہ کفار میں سے کچھ لوگ دنیا میں لوہے کی چیزیں پہنتے ہیں یا اس ارشاد میں اس طرف اشارہ تھا کہ کافروں کو دوزخ میں جو طوق و سلاسل پہنائے جائیں گے وہ لوہے کے ہوں گے اس لئے لوہے کی انگوٹھی پہننا دوزخیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے) چنانچہ اس شخص نے اس انگوٹھی کو بھی اتار کر پھینک دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ آپ نے فرمایا ”چاندی کی اور وہ چاندی بھی پوری مشقال نہ ہو۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

## توضیح

”نشبہ“ پیتل کو شبہ کہتے ہیں چونکہ یہ سرفخی میں سونے کا مشابہ ہوتا ہے اس لئے اس کو شبہ کہہ دیا گیا۔  
 ”ریح الاصنام“ چونکہ پیتل اور تانبے سے عموماً بُت بنائے جاتے ہیں اس لئے بتوں کی بُکاذ کر فرمایا۔  
 ”حدید“ لوہے کی انگوٹھی کو اہل نارا کا زیور قرار دیا گیا اس لئے کہ دوزخ والے اس کو دنیا میں استعمال کیا کرتے ہیں یا اس طرف اشارہ ہے کہ اہل نارا کفار کو دوزخ میں لوہے کے طوق پہنائے جائیں گے لہذا جو لوگ دنیا میں لوہے کی انگوٹھی پہنتے ہیں وہ انہی کی مشابہت اختیار کرتے ہیں لوہے پیتل اور کانسی کی انگوٹھی مردوں کے لئے مکروہ تحریمی ہے اور سونے کی انگوٹھی حرام ہے (کذا فی فتاویٰ قاضی خان)

”ورق“ ورق ”واو“ پر زبر ہے ”را“ پر زیر ہے اور سکون بھی جائز ہے چاندی کو کہتے ہیں۔  
 ”ولا تتمہ مثقالاً“ یعنی ایک مشقال چاندی نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو۔

”قال محی السنۃ“ شوافع حضرات کے نزدیک چونکہ لوہے کی انگوٹھی استعمال کرنا جائز ہے اس لئے محی السنۃ نے زیر بحث حدیث کے لئے ایک مقابل حدیث کا حوالہ دیا جس میں مہر کے عوض لوہے کی انگوٹھی دینے کو کہا گیا ہے جس سے اس کے جواز کا پتہ چلتا ہے۔ احناف اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت سہل کی روایت اس زمانہ پر محمول ہے جب لوہے کی انگوٹھی کی ممانعت اور حرمت کا حکم نہیں آیا تھا گویا زیر بحث حدیث اس کے لئے ناسخ ہے یا اس سے لوہے کی انگوٹھی ہی مراد نہیں ہے بلکہ خاتم حدید سے شی قلیل کی طرف اشارہ ہے کہ مہر و خواہ کچھ بھی ہو۔ کتاب النکاح میں تفصیل ہے۔

وہ دس اشیاء جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بُرا سمجھتے تھے

﴿۱۴﴾ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الْأَزَارِ وَالتَّخْتِمَ بِالذَّهَبِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزَّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالضَّرْبَ بِالْكَعَابِ وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ مَحَلِّهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرَّمِهِ

## رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس چیزوں کو برا سمجھتے تھے ایک تو زردی یعنی خلوق کے استعمال کو، دوسرے بڑھا پاتہ تبدیل کرنے کو، تیسرے ٹخنوں سے نیچے تہبند یا پانچامہ کو لٹکا کر کھینچتے ہوئے چلنے کو، چوتھے مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننے کو، پانچویں عورت کا بے محل زینت ظاہر کرنے کو، چھٹے نزد (چونسر) کھیلنے کو، ساتویں بجز معوذات کے جھاڑ پھونک کرنے کو، آٹھویں کوڑیوں اور منکوں کے باندھنے کو، نویں بے موقع عزل یعنی عورت کی شرم گاہ سے باہر منی گرانے کو دسویں بچے کے خراب کرنے کو، اگرچہ آپ اس کو حرام نہیں فرماتے تھے۔ (ابوداؤد نسائی)

## توضیح

”الصفرة“ یہ ایک زرد رنگ کا عطر ہے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے مردوں کے لئے نہیں ہے اس کو خلوق بھی کہتے ہیں شاعر ساحر کہتے ہیں۔

## خلوقیۃ فی خلوقیہ ☆ سويداء من عنب الثعلب

”وتغیر الشیب“ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سر اور داڑھی میں سفید بالوں کو چن چن کر اکھیڑنا منع ہے یہ بڑھا پے کو تبدیل کرنے کے معنی میں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سفید بالوں کو کالا خضاب لگانا منع ہے۔

## سوال:

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مہندی استعمال کرنا بھی ناجائز ہے حالانکہ احادیث میں اس کی ترغیب موجود ہے؟

## جواب:

اس کا ایک جواب یہ ہے کہ مہندی کا خضاب تغیر الشیب سے مستثنیٰ ہے احادیث میں اس کا استثناء موجود ہے گویا ابتداء میں تغیر الشیب کی مطلق ممانعت تھی پھر مہندی کے استعمال کی اجازت مل گئی۔

دوسرا جواب ملا علی قاری نے دیا ہے جو بہت عمدہ ہے فرماتے ہیں کہ زیر بحث حدیث میں بڑھا پے کی تغیر و تبدیلی سے اس کا چھپانا مراد ہے اور بڑھا پایا کا لے خضاب سے چھپتا ہے یا سفید بالوں کے اکھیڑنے سے چھپتا ہے کیونکہ اس سے اشتباہ آتا ہے رہ گیا مہندی کا رنگ تو اس سے کوئی التباس و اشتباہ کا امکان نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑھا پے کا اعلان اور اظہار ہے اس لئے اس حدیث میں مہندی کے استعمال کرنے سے بحث ہی نہیں ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔

”التبرج“ زینت اختیار کرنے اور بناؤ و سنگھار کو تبرج کہا گیا ہے ”لغیر محلہا“ یعنی بے موقع و بے محل بے جاذب و زینت کا اظہار ممنوع ہے جیسے اجانب کے سامنے ہو، باقی موقع و محل میں بناؤ و سنگھار جائز ہے جیسے شوہر و محارم کے سامنے ہو۔



”بالکعب“ یہ کعب کی جمع ہے چوسر کی گٹھوں اور مہروں کے معنی میں ہے جس کو پانسے بھی کہتے ہیں جن کو قرعہ کی مانند پھینک پھینک کر چوسر کھیلا جاتا ہے یہ قمار کی ایک قسم ہے جو ممنوع ہے۔ حنفیہ کے ہاں شطرنج کھیلنا بھی مکروہ ہے چوسر کی تو بات ہی اور ہے۔ ”رقی“ یہ رقیۃ کی جمع ہے اس سے منتر جنت پڑھ کر دم کرنا مراد ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔ ”الابالمعوذات“ یعنی قرآن کے آخر میں دو معوذتین کے ذریعہ اگر کوئی شخص دم اور جھاڑ پھونک کرتا ہے وہ جائز ہے اسی طرح قرآن وحدیث میں جو تعوذات مذکور ہیں وہ بھی مراد ہیں جس کی اجازت ہے۔ ”والتسمائم“ یہ تسمیۃ کی جمع ہے عرب میں منکوں (دانوں) اور ہڈیوں کو جوڑ کر ہار بنانے اور پھر بچوں کے گلوں میں باندھنے کا رواج تھا تا کہ بچے کو نظر بد نہ لگ جائے اسلام کے پاکیزہ نظام نے اس کو منع کر دیا جاہلیت کے اسی رواج کی طرف شاعر اشارہ کر کے کہتا ہے۔

واذا المنية انشبت اظفارها ☆ الفیت کل تمیمة لاتنفع

الغرض جو تعویذات مشرکانہ مبتدعانہ یا غیر معروف الفاظ پر مشتمل ہوں وہ منتر ہیں ناجائز ہیں لیکن جو تعویذات اور اوراد و وظائف قرآن وحدیث میں ہوں وہ جائز ہیں دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے سب کی نفی کرنا مناسب نہیں ہے۔ ”وعزل الماء“ یعنی بے محل عزل کرنا منع ہے بے موقع عزل وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ جماع میں آدمی بیوی کی مرضی کے بغیر عزل کرے اور اگر لونڈی کے ساتھ جماع میں آدمی عزل کرتا ہے تو وہ بر محل ہے بے محل نہیں ہے۔ ”وفساد الصبی“ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے شوہر نے بیوی کے ساتھ جماع کیا جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہوگئی جس سے ماں کا دودھ مضر صحت بن گیا جس سے دودھ پینے والا بچہ خراب ہو سکتا ہے جس کو داء الغیل کہتے ہیں جس کا بیان کتاب النکاح میں ہو چکا ہے اس عمل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ ”غیر محرّمہ“ یہ یکرہ سے حال واقع ہے جو منصوب ہے یعنی آنحضرت اس عمل کو ناپسند فرماتے لیکن اس کو حرام نہیں فرماتے یعنی دودھ پیتے بچے کی ماں سے جماع کرنے کو حرام قرار نہیں دیتے بلکہ صرف اس نقصان کو ناپسند فرماتے تھے۔

عورت کو بجنے والا زیور پہننا ممنوع ہے

﴿۵﴾ وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَوْلَاةَ لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رَجُلِهَا أَجْرَاسٌ فَقَطَعَهَا عُمَرُو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ كُلِّ جَرَسٍ شَيْطَانٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن زبیرؓ سے روایت ہے کہ ان کی آزاد کی ہوئی لونڈی حضرت زبیرؓ کی بیٹی کو حضرت عمر ابن خطابؓ کی خدمت میں

لے گئی اس وقت بچی کے پیروں میں گھنگرو تھے حضرت عمرؓ نے ان گھنگروں کو کاٹ ڈالا اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر جس گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔“ (ابوداؤد)

## توضیح

”جرس“ یہ گھنگرو اور بجنے والی گھنٹی کو کہتے ہیں، عورت کے زیورات میں اگر اس طرح گھنگرو ہوں تو اس کا استعمال اسی طرح منع ہے جس طرح گھنٹیاں باندھنا اور بجانا منع ہے چھوٹے بچوں اور کتوں اور دیگر جانوروں کے پاؤں اور گردن میں گھنٹیاں باندھنا بھی منع ہے باندھنے والے گناہ گار ہو گئے کیونکہ بچے تو غیر مکلف ہوتے ہیں۔

﴿۱۶﴾ وَعَنْ بُنَانَةَ مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيَّانٍ الْأَنْصَارِيِّ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ دَخِلَتْ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ وَعَلَيْهَا جَلَاجِلٌ يُصَوِّتْنَ فَقَالَتْ لَا تَدْخُلْنَهَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ تُقَطَّعَنَّ جَلَاجِلُهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبدالرحمن ابن حیان انصاریؓ کی آزاد کی ہوئی لونڈی بنانہ سے روایت ہے کہ وہ (ایک دن) حضرت عائشہؓ کے ہاں تھیں کہ حضرت عائشہؓ کی خدمت میں ایک چھوٹی لڑکی لائی گئی جو گھنگرو پہنے ہوئے تھی اور وہ بچ رہے تھے، حضرت عائشہؓ نے (اس لڑکی کو لانے والی عورت سے) فرمایا کہ اس لڑکی کو میرے پاس اس وقت تک نہ لایا جائے جب تک کہ ان گھنگروں کو کاٹ کر پھینک نہ دیا جائے کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس گھر میں (رحمت کے) فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں باجے کی قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ (ابوداؤد)

”الجلجل“ یہ جلجل کی جمع ہے بجنے والے گھنگرو مراد ہیں اس سے پہلے حدیث میں ”جرس“ کی تفصیل اور یہاں جلجل کی تفصیل ایک جیسی ہے۔

## شرعی مجبوری کے تحت سونے کا استعمال جائز ہے

﴿۱۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ ابْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَتَتْهُ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

حضرت عبدالرحمن ابن طرفہ سے روایت ہے کہ ان کے دادا حضرت عرفجہ ابن اسعدؓ کی ناک کلاب کی لڑائی میں کاٹ ڈالی گئی تھی انھوں نے چاندی کی ناک بنوائی لیکن اس میں بدبو پیدا ہو گئی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کی ناک بنوانے کا حکم دیا۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

## توضیح

”یوم الکلاب“ کاف پر پیش ہے کلاب ایک جگہ کا نام ہے یوم لڑائی کے معنی میں ہے یعنی کلاب کی جنگ میں اس صحابی کی ناک کٹ گئی تھی آپ نے چاندی کی ناک بنوائی لیکن اس میں بدبو پیدا ہو گئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کی ناک لگانے کی اجازت دیدی سونے سے زخم درست ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مجبوری کے تحت سونے کا استعمال جائز ہے فقہاء نے سونے کی ناک بنوانے اور دانتوں میں چاندی کے تار استعمال کرنے کو جائز لکھا ہے امام محمدؒ نے دانتوں میں سونے کا تار باندھنے کو بھی جائز لکھا ہے۔

## زیورات میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر شدید وعید

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحْلِقَ حَبِيبَهُ حَلَقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحْلِقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اپنے عزیز (یعنی بیوی یا اولاد وغیرہ کو ان کے کان یا ناک میں) آگ کا حلقہ پہنانا پسند کرتا ہو تو وہ اس کو سونے کا حلقہ ضرور پہنائے (یعنی سونے کا بالاد وغیرہ پہنانے کی سزا یہ ہے کہ اس کو آگ کا بالاد وغیرہ پہنایا جائے گا) جو شخص اپنے عزیز کی گردن میں آگ طوق ڈالنا پسند کرتا ہو تو وہ اس کو سونے کا گلوبند ضرور پہنائے اور جو شخص اپنے عزیز کو آگ کا کنگن پہنانا پسند کرتا ہو وہ اس کو سونے کا کنگن ضرور پہنائے لیکن چاندی کے استعمال کی تحصیل اجازت ہے کہ تم اس کو اپنے استعمال و تصرف میں لا سکتے ہو۔ ابو داؤد

## توضیح

”ان یحلق حبیبہ“ یعنی اپنے عزیز و اقارب مثلاً اولاد اور بیوی کو آگ کا حلقہ پہنانا چاہتا ہو اس کو سونے کا حلقہ اور زیورات پہنا دے۔

## سوال:

یہاں سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں سونے کے زیورات استعمال کرنے پر شدید وعید سنائی گئی ہے اسی طرح اس حدیث کے بعد حدیث نمبر ۱۹ اور حدیث نمبر ۲۰ میں بھی سونے کے مختلف زیورات کے استعمال پر شدید وعید کا ذکر ہے حالانکہ اس سے پہلے

کئی احادیث میں سونے کے زیورات کو عورتوں کے لئے جائز قرار دیا گیا ہے یہ واضح تعارض ہے اس کا حل کیا ہے؟

جواب:

علماء نے ان احادیث کی تطبیق میں کئی تاویل کی ہیں جس سے اس سوال کا جواب نکل آیا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ ایک تاویل اور جواب یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں مردوں کی طرح عورتوں کے لئے بھی سونے کے زیورات کا استعمال ممنوع تھا زیر بحث حدیث کا تعلق اسی زمانہ سے ہے۔ پھر عورتوں کے لئے سونے کے زیورات جائز قرار دیئے گئے جس طرح اس سے پہلے حضرت علی کی حدیث نمبر ۱۱ میں مذکور ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ زیر بحث حدیث کا تعلق ان عورتوں کے زیورات سے ہے جو ان زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں زکوٰۃ اگرچہ چاندی کے زیورات میں بھی ہوتی ہے لیکن سونے کو اس کی اہمیت کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت کا تعلق تکبر و تفاخر سے ہے۔

بہر حال ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس جواب سے احناف کا وہ موقف واضح ہو کر سامنے آ گیا کہ زیورات میں زکوٰۃ آتی ہے۔ ”فالعبوا بہا“ یعنی چاندی میں جو تصرف چاہو وہ کرو، لعب بمعنی کھیل سے تصرف مراد ہے۔

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ قَلَّدَتْ فِي غُنْفِهَا مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللَّهُ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو عورت سونے کا ہار پہنے گی قیامت

کے دن اس کی گردن میں اسی طرح کا آگ کا ہار پہنایا جائے گا۔ اور جو عورت اپنے کان میں سونے کا بالائیابیالی پہنے گی

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کان میں اسی طرح کا آگ کا بالائیابیالی ڈالے گا۔ (ابوداؤد)

توضیح

”قلدت“ قلابہ گلے کے ہار کو کہتے ہیں ”خرصا“ خار پیش اور زبردنوں پڑھے جاسکتے ہیں یہ اس چھوٹے حلقے کو کہتے ہیں جو کان میں ڈالا جاتا ہے۔ کانوں کا بالائیابیالی مراد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نمبر ۱۱ سے یہ روایت منسوخ ہے۔

﴿۲۰﴾ وَعَنْ أُخْتِ لِحْذِيفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَّا لَكُنَّ فِي الْفِصَّةِ مَا تَحْلِينَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحْلِي ذَهَبًا تَظْهَرُهُ إِلَّا غُدِبَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

حضرت حذیفہ کی بہن سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت کیا تمہارے لئے

چاندی میں وہ بات نہیں ہے کہ تم اس کا زیور بناؤ (یعنی تمہارے لئے چاندی کا زیور بنوانا کافی ہے) یاد رکھو تم میں سے جو بھی

عورت سونے کا زیور بنوائے گی اور پھر اس زیور کی (بے جا اور بے موقع) نمائش کرتی پھرے گی تو اس کو اس کے اس عمل کی بنا پر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ (ابوداؤد، نسائی)

توضیح

”اما لکن“ کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ تم چاندی کے زیور بنوا کر پہنو۔ ”تظہرہ“ یعنی اپنے زیورات کی بے جا و بے محل نمائش کرتی ہے تفاخر و تکبر کر کے دوسری مسکین عورتوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرتی ہے اس علت کی وجہ سے سونے کے زیورات کی ممانعت کی بات خوب سمجھ میں آتی ہے اور احادیث میں تعارض نہیں رہتا ممانعت کا تعلق و بخت سے ہے۔

### الفصل الثالث

اگر جنت میں ریشم اور سونا چاہتے ہو تو دنیا میں اس سے بچو

﴿۲۱﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَ الْحِلْيَةِ وَالْحَرِيرِ وَيَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

حضرت عقیہ ابن عامرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیوروں اور ریشم والوں کو منع فرماتے تھے (یعنی ان چیزوں کے پہننے کی ممانعت بیان کرتے تھے) اور فرماتے تھے کہ اگر تم جنت کے زیور اور جنت کے ریشم کی خواہش رکھتے ہو کہ جنت میں تمہیں یہ چیزیں ملیں تو دنیا میں ان چیزوں کو نہ پہنو۔“ (نسائی)

توضیح

”يمنع“ مردوں کے لئے۔ اور ریشم حرام ہے حدیث کا تعلق مردوں سے ہے خطاب مردوں کو ہے عورتوں کو نہیں ہے۔ ”اہل الحلیۃ والحریر“ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سونے کے زیورات اور ریشم کا لباس استعمال کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی انگوٹھی

﴿۲۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مِنْذُ الْيَوْمِ إِلَيْهِ نَظَرَةٌ وَالْيَوْمَ نَظَرَةٌ ثُمَّ الْقَاهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کو پہنا پھر آپ نے (حاضرین کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ آج کے دن اس انگوٹھی نے مجھ کو تمہاری طرف سے مشغول رکھا (یعنی میں تمہاری طرف متوجہ نہ رہ سکا) کیونکہ کبھی تو اس انگوٹھی کی طرف دیکھتا ہوں اور کبھی تمہاری طرف دیکھتا ہوں۔ اور یہ (کہہ کر) آپ

نے اس انگوٹھی کو اتار پھینکا۔ (نسائی)

توضیح

”شغلنی“ معلوم ہوا دنیا کی زیب و زینت سے ہر آدمی متاثر ہو سکتا ہے اس لئے ہر مسلمان کے لئے ترک زینت اور بناؤ سنگھار سے احتراز انتہائی ضروری ہے ورنہ دنیا کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے۔  
”القاھا“ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انگوٹھی سونے کی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید حرمت سے پہلے بوقت اباحت پہن رکھی تھی پھر پھینک دی۔

ناجائز لباس یا زیور بچوں کو پہنانا بھی منع ہے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْعِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَّغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ فَإِنَّا أَكْرَهُ لِلرِّجَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ. رَوَاهُ فِي الْمَوْطَأِ.  
حضرت امام مالک سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ لڑکوں کو سونے کی کوئی چیز پہنائی جائے کیونکہ مجھ تک روایت پہنچی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بھی استعمال کرنے سے منع فرمایا (اور جب انگوٹھی جیسی چیز بھی ممنوع ہے تو اور چیزیں بطریق اولیٰ ممنوع ہوں گی) لہذا میں مردوں کے لئے (سونا پہننا) برا سمجھتا ہوں خواہ وہ بڑے ہوں یا بچے ہوں۔ (موطا)

توضیح

”والصغیر“ یعنی جو لباس اور زیور مردوں کے لئے ممنوع ہے وہ بچوں کو پہنانا بھی منع ہے مثلاً ریشمی لباس چھوٹے لڑکوں کو پہنانا منع ہے۔ اسی طرح سونے کی انگوٹھی چھوٹے لڑکوں کو پہنانا منع ہے اسی طرح چاندی کے تعویذات یا دیگر زیورات چھوٹے لڑکوں کو پہنانا منع ہے۔ اگر بڑوں نے پہن دیا تو بڑے گناہ گار ہوں گے۔ زیر بحث روایت میں امام مالک کے اس فتویٰ کا مطلب و مقصد بھی یہی ہے۔

## باب النعال

## پاپوش کا بیان

”نعال“ نعل کی جمع ہے، نعل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ پیروں کو زمین سے بچایا جائے دوسرے لفظوں میں اسے پاپوش کا نام دیا جاتا ہے پاؤں میں استعمال ہونے والے جوتے چونکہ ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں ہر قوم و ملک کا اس میں الگ الگ رواج ہوتا ہے کبھی چپل، کبھی بوٹ، کبھی کھنہ وغیرہ ہوتا ہے اس لئے اس کو جمع کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے اس باب میں دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاپوشوں کی ہیئت اور صفات کا بیان مقصود ہے جو اس دور میں اہل عرب کے ہاں رائج تھے۔

چونکہ اس زمانہ میں بھی رائج جوتے مختلف قسم کے ہوتے تھے اس لئے جمع کا صیغہ ”نعال“ استعمال کیا گیا ہے۔

## الفصل الاول

## آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ پاپوش

﴿۱﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پاپوش مبارک پہنے ہوئے دیکھا ہے اس میں بال نہیں تھے۔ (بخاری)

## توضیح

”شعر“ کھال کو جب اچھی طرح دباغت دی جاتی ہے تو وہ صاف اور عمدہ بن جاتی ہے اور اس کے سارے بال اکھڑ جاتے ہیں لیکن اگر کھال مدبوغ و مصوغ نہ ہو تو وہ سوکھ جاتی ہے اور بال اس کے اوپر رہ جاتے ہیں اس قسم کی کھال زیادہ عمدہ نہیں ہوتی زیر بحث حدیث کا مطلب یہی ہے کہ آنحضرت کے پاپوش پر بال نہیں تھے یعنی عمدہ کھال سے بنے تھے۔

﴿۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک میں دو تسمے تھے۔ (بخاری)

## توضیح

”قبالان“ یہ تشبیہ ہے اس کا مفرد قبال ہے جوتے کے تسمے کے اس حصہ کو کہتے ہیں جو حصہ انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت کے جوتے میں دو تسمے تھے جو سامنے کی طرف انگلیوں میں پیوست رہتے تھے ایک تسمہ تو انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کے درمیان ہوتا تھا جو آج کل ہوائی چپل میں ہوتا ہے اور دوسرا تسمہ انگوٹھے کے قریب وسطیٰ اور اس کے ساتھ والی بند انگلی کے درمیان ہوتا تھا اس سے جوتا پاؤں میں مضبوط رہتا ہے اور یہ اس زمانہ کے رواج میں تھا آج کل یہ رواج عام نہیں ہے اہل سیرت نے زیر بحث حدیث میں مذکورہ جوتے کا نقشہ لکھا ہے اہل بدعت نے اس کو عام کیا ہے۔

## جوتے کی اہمیت

﴿۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ غَزَاها يَقُولُ اسْتَكْبَرُوا مِنَ النَّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے ایک غزوے کے موقع پر کہ جس میں جنگ ہوئی (یعنی کسی جہاد کے لئے روانگی کے وقت) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہت سی جوتیاں لے لو کیونکہ آدمی جب تک جوتیاں پہنے ہوئے ہوتا ہے سواری کی مانند رہتا ہے۔ (مسلم)

## توضیح

”فی غزوۃ“ جوتوں کی اہمیت کے پیش نظر اہتمام کے ساتھ یہ اعلان غزوہ تبوک کے موقع پر آنحضرت نے کروایا تھا چونکہ سفر دور کا تھا پیدل بھی تھا شدید گرمی کا موسم تھا اس لئے جوتوں کی ضرورت تھی لہذا جوتے کی اہمیت کی طرف آنحضرت نے اشارہ فرمایا کہ جب تک آدمی کے پاؤں میں جوتا ہوتا ہے گویا وہ آدمی سواری کی طرح ہے کیونکہ جوتے کے ساتھ آدمی تیز چلتا ہے پاؤں زخمی نہیں ہوتے اور گرمی سردی اور ٹھوکر لگنے سے محفوظ رہتے ہیں۔

”ما انتعل“ ای مادام الرجل لا یبس النعل یکون کالراکب. (مرقات)

## جوتا پہننے اور اتارنے کا مسنون طریقہ

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسِدْ بِالْيَمَنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَسِدْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنَ الْيَمَنِ أَوَّلَهُمَا تَنْتَعِلُ وَآخِرُهُمَا تَنْزَعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ



اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو اس کو چاہئے کہ دائیں پیر سے ابتدا کرے یعنی پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالے اور جب جوتا اتارے تو چاہئے کہ بائیں پیر سے ابتدا کرے یعنی پہلے بائیں پیر جوتے سے نکالے، حاصل یہ کہ دائیں پیر کو پہننے وقت تو مقدم رکھنا چاہئے اور اتارتے وقت مؤخر رکھنا چاہئے۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”بالیمنی“ اسلام میں دائیں جانب کو ایک اعزاز و اکرام حاصل ہے لہذا دایاں پیر بائیں پیر کی نسبت زیادہ قابل اکرام ہے ادھر جوتا پہننا جوتا اتارنے کی نسبت زیادہ باعث اکرام و اعزاز ہے اس قاعدہ کے پیش نظر اس حدیث میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب جوتا پہنو تو ابتدا دائیں پیر سے کرو تا کہ قابل اعزاز عضو کو پہلے اعزاز ملے اور جب جوتا اتارنے لگو تو ابتدا بائیں پیر سے کرو تا کہ جوتا پہننے کا اعزاز دیر تک دائیں پیر کو حاصل رہے گویا اس اعزاز کی ابتدا و انتہاء میں دائیں پیر کا لحاظ رکھا گیا ہے اس سے ”ان الله يحب التيامن الخ“ کی حدیث پر خوب عمل ہو جاتا ہے۔

## ایک پیر میں جوتا ایک رنگا یہ بے ڈھنگا عمل ہے

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْسِسُ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُحْفَهَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلَهُمَا جَمِيعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک پیر میں جوتا پہن کر نہ چلے یہ ضروری ہے کہ یا تو دونوں پیر ننگے ہوں یا دونوں پیروں میں جوتے ہوں۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”فی نعل واحدہ“ شامل ترمذی میں نعل واحد میں چلنے کی راایت ہے آئندہ حدیث نمبر ۹ میں پوری تفصیل لکھی گئی ہے وہاں دیکھ لیا جائے یہاں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر جوتا پہنے تو دونوں پیروں میں پہنے اگر نہ پہنے تو دونوں پیروں میں نہ پہنے ایک پاؤں میں جوتا رکھنا اور دوسرے پاؤں کا ننگا رکھنا مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ اس طرح کرنا تہذیب و شائستگی کے خلاف ہے جو بے ڈھنگا لگتا ہے۔ دوسرا اس میں تکلیف و پریشانی بھی ہے کہ ایک پاؤں اونچا ہوگا ایک نیچے ہوگا چلنے میں دشواری ہوگی گرنے کا خطرہ رہیگا۔ ”ولیحفهما“ یہ احفاء سے ہے پاؤں ننگا کرنے کے معنی میں ہے یعنی ”یا دونوں پاؤں کو جوتے کے بغیر رکھے“۔ ”لینعلهما“ انعال سے ہے یعنی یا دونوں میں جوتا پہنے یا دونوں پاؤں کو ننگا رکھے۔

## ایک موزہ پہن کر چلنا منع ہے

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعُهُ وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِي بِالْقُرْبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَاءَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.﴾

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کی جوتی یعنی چپل وغیرہ کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک ہی جوتے میں نہ چلے بلکہ اس جوتی کا تسمہ درست کر لے اسی طرح ایک موزہ پہن کر نہ چلے اور نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اسی طرح نہ تو ایک کپڑے میں گوٹ مارے (جبکہ اس کپڑے کا کوئی حصہ اس کے سر کو چھپائے ہوئے نہ ہو) اور نہ کسی کپڑے کو بدن پر اس طرح لپیٹ لے کہ ہاتھ بھی اندر ہوں (اور ہاتھ نکالتے وقت ستر کھل جائے)۔ (مسلم)

توضیح

”شسعہ“ جوتے کے تسمہ کو شسع کہا گیا ہے یعنی اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو صرف ایک جوتے میں سفر نہ کرو، اسی طرح ایک موزہ میں سفر نہ کرو کیونکہ یہ تہذیب و شائستگی کے خلاف ہے احتیاء اور اشتمال الصماء کی تحقیق گزر چکی ہے۔

## الفصل الثانی

### آنحضرتؐ کے پاپوش مبارک کے تسمے

﴿عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَالَانِ مُشْنِي شِرَاكُهُمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ﴾

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک میں دو تسمے تھے جن میں پیروں کی انگلیاں رہتی تھیں اور ان دونوں میں ہر تسمہ دو ہر اٹھاتا کہ تسمے کی مضبوطی بھی قائم رہے اور پاؤں میں دھنسے بھی نہیں۔ (ترمذی)

توضیح

”مشنی شراکھما“ یعنی سامنے کے تسمے دو ہرے تھے تاکہ پاؤں میں گھس کر زخم نہ کرے نیز دو ہرے ہونے سے مضبوطی آجاتی ہے یہاں اس حدیث میں صرف سامنے کے دو تسموں کا ذکر ہے ممکن ہے پاؤں کی پشت والے جوتے ہوتے ہیں وہ بھی مراد ہوں کیونکہ اس طرح جوتے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے تسموں کو دو ہرا کیا جاتا ہے تاکہ مضبوط بھی ہو اور چوڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں بھی نہ چبھتے ہوں۔

کھڑے ہو کر بعض جوتوں کا پہننا منع ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ نے اس روایت کو ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے۔

توضیح

”قائماً“ یہ ممانعت اس وقت ہے جب کھڑے ہو کر جوتا پہننا دشوار ہو جیسے بوٹ وغیرہ جوتے ہوتے ہیں اس کو تسلی سے پہننے کے لئے بیٹھنا پڑتا ہے تاکہ اس کا نسمہ خوب باندھ لیا جائے اگر کھڑے کھڑے ایسا کرے گا تو کبھی اٹھے گا کبھی گریگا بڑی مشقت ہوگی حدیث کی یہ نہی ارشادی ہے نیز بعض جوتوں کے لئے ہے ہر جوتے کے لئے نہیں ہے۔

ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا کیسا ہے؟

﴿۹﴾ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ

اور حضرت قاسم ابن محمد، حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت ایک پاؤش پہن کر چلتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ ایک پاؤش پہن کر چلیں۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے یہ روایت اسناد کے اعتبار سے یا مفہوم و معنی کے اعتبار سے نہایت صحیح ہے۔

توضیح

”بنعل واحدہ“ یعنی شاذ و نادر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتے میں بوجہ مجبوری گھر کے اندر چلتے تھے۔

سوال:

اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث اس سے پہلے تمام احادیث کی معارض ہے جن میں ایک جوتا پہن کر چلنا منع کر دیا گیا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟

جواب:

علماء نے زیر بحث حدیث میں تاویل میں کر کے اس طرح جواب دیا ہے۔ پہلا جواب یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا اگر صحیح ہے

تو معمول بہ نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ حدیث بیان جواز کے لئے ہے کہ ایک جوتا پہن کر چلنا حرام نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نادر کے درجہ میں تھا اور نادر معدوم کے حکم میں ہوتا ہے ”والنادر کالمعدوم“ چوتھا جواب یہ کہ اس کا تعلق گھر کے اندر سے ہے عام چلنے سے نہیں ہے۔ پانچواں جواب یہ کہ یہ عمل مکروہ تنزیہی پر محمول ہے لہذا باقی احادیث اور اس حدیث کا مال و مرجع ایک ہی ہے کہ اس طرح کرنے میں کراہت تنزیہی ہے پھر آنحضرت نے بیان جواز کے لئے بعض دفعہ کراہت تنزیہی پر عمل کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مکروہ نہیں ہوتا تھا بلکہ امت کی تعلیم کی بنیاد پر ثواب کا کام بن جاتا تھا۔ چھٹا جواب یہ کہ دراصل یہ حضرت عائشہؓ کا اپنا عمل تھا جس طرح دوسری روایت میں اس کا بیان ہے اور ترمذی نے اسی روایت کو رائج قرار دیا ہے۔

### جوتے اتار کر بیٹھنا مجلس کے آداب میں سے ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعُهُمَا بِجَنْبِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ جب کوئی شخص بیٹھے تو اپنے جوتے اتارے اور ان کو اپنے پہلو میں رکھ لے (ابوداؤد)

### توضیح

مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جوتے سمیت نہ بیٹھے یہ آداب مجلس کے بھی خلاف ہے اور تہذیب و شائستگی کے بھی خلاف ہے۔ جوتا اتارنے سے پاؤں کو بھی راحت ملے گی آدمی کو بھی راحت ہوگی نیز جوتا اپنے بائیں پہلو کے پاس رکھنا چاہئے تاکہ دائیں جانب کی تکریم برقرار رہے اور سامنے بھی نہ رکھے کہ قبلہ کی طرف آدنی نماز پڑھتا ہے پیچھے بھی نہ رکھے چوراڑا دیگا۔

### آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خفین کا ہدیہ

﴿۱۱﴾ وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَادَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.  
اور حضرت ابن بریدہؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نجاشی (جش کے بادشاہ) نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو سیاہ موزے (یعنی کالے چڑے کے پانتا بے) بطور ہدیہ بھیجے جو سادہ یعنی غیر منقش تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بحالت طہارت پہنا۔ (ابن ماجہ) اور ترمذی نے اس روایت کو ابن بریدہ اور انھوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے یعنی ترمذی کی روایت میں عن ابن بریدہ کے بجائے عن ابی بریدہ ہے اور ان کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ان موزوں پر مسح کیا۔

## توضیح

نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا ان کا نام ”اصحمہ“ تھا اور یہ مسلمان ہو گیا تھا جن کی نماز جنازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ ”خفین“ پائتا بے موزے مراد ہیں ”اسودین“ یعنی سیاہ کھال کے بنے ہوئے، سیاہ تھے ”ساذجین“ یعنی سادہ تھے اس پر کوئی پھول کشیدہ کاری نہیں تھی ”فلبسہما“ یعنی آنحضرت نے اسے قبول فرمایا اس پر مسح کیا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خفین کے بارے میں یہ تحقیق نہیں فرمائی کہ یہ کس قسم کی کھال سے بنائے گئے ہیں آیا یہ کھال حلال جانور کی تھی یا حرام کی تھی؟ مدبوغ تھی یا غیر مدبوغ تھی؟ آپ نے صرف یہ دیکھا کہ اوپر سے پاک ہے کوئی نجاست نظر نہیں آتی ہے اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفاء کیا اس سے معلوم ہوا کہ بیرونی غیر مسلم دنیا سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں اتنا دیکھنا کافی ہے کہ ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہے۔ اس باب میں فصل ثالث نہیں ہے۔

## باب الترجل

## کنگھی کرنے کا بیان

”ترجل“ عربی زبان میں ترجل کنگھی کرنے کو کہتے ہیں خواہ سر میں ہو یا داڑھی میں ہو، لیکن عام طور پر ترجل سر میں کنگھی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اگر داڑھی میں کنگھی ہو تو اس کو تشریح کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ باب بھی درحقیقت کتاب اللباس ہی کے ماتحت ہے کیونکہ کنگھی وغیرہ کا تعلق بھی بدن کی آرائش و زیبائش سے ہے جو لباس کے زمرے میں آتا ہے۔ اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق واضح ہدایات موجود ہیں اسی سلسلہ میں کنگھی کرنے کے فوائد اور طریقہ اور آداب و صفات بیان کرنے کے لئے باب الترجل کا عنوان باندھا گیا ہے جس کے تحت ۶۸ مختلف احادیث میں کنگھی وغیرہ سے متعلق تفصیلی احکامات آئے ہیں۔

## الفصل الاول

## حائضہ عورت کا بدن ناپاک نہیں ہوتا

﴿۱﴾ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَرَجُلُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنے ایام حیض میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ (بخاری، مسلم)

## توضیح

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کا عام بدن ایسا ناپاک نہیں ہوتا جس کے ساتھ ہاتھ لگانا منع ہو حضرت عائشہ حیض کی حالت میں آنحضرت کے سر کے بالوں میں کنگھی فرماتی تھیں، ظاہر ہے آنحضرت کے جسم اطہر سے حضرت عائشہ کا ہاتھ بار بار لگا ہوگا۔

## پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفُ الْإِبِطِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں ایک تو ختنہ کرنا دوسرے زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کے لئے لوہے یعنی استرے وغیرہ کا استعمال کرنا تیسرے لبول کے بال ترشوانا چوتھے ناخن کٹوانا اور پانچویں بغل کے بال صاف کرانا۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”الفطرة“ فطرت سے انبیاء کرام کی سنت قدیمہ مراد ہے گویا یہ چیزیں خلقی، جبلی اور پیدائشی خصلتیں ہیں۔

## ختنہ میں فقہاء کا اختلاف

”الختان“ شوافع کے ہاں ختنہ واجب ہے احناف کے ہاں سنت مؤکدہ ہے۔

## دلائل

شوافع نے بطور استدلال کہا کہ ختنہ شعار اسلام میں سے ہے اور شعار واجب ہوتا ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تارک ختنہ کی نہ شہادت قبول ہے نہ امامت قبول ہے یہ دلیل وجوب ہے۔ ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ احادیث میں فطرت کا لفظ آیا ہے جو سنت کے معنی میں ہے سنن المرسلین کا لفظ بھی آیا ہے اسی طرح حدیث میں ہے ”الختان سنة للرجال ومكرمه للنساء“۔ (رواہ احمد)

## جواب

شعار کا لفظ وجوب کے لئے یقینی نہیں ہے سنت میں بھی شعار ہو سکتا ہے باقی حضرت ابن عباسؓ کا فتویٰ اس شخص کے بارے میں ہے جو ختنہ کا انکار کرتا ہے یا اس کو حقیر سمجھتا ہے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ احناف کے ہاں بھی ختنہ واجب ہو اور سنت کا اطلاق اس وجہ سے ہو کہ یہ ثابت بالسنۃ ہے خود واجب ہے۔ ملا علی قاری کا کلام قواعد کے مطابق ہے کہ ختنہ واجب ہونا چاہئے کیونکہ آج تک اس پر استمرار کے ساتھ عمل جاری ہے کسی نے ترک نہیں کیا یہ وجوب کی دلیل ہے۔ اگر کوئی بچہ مختون پیدا ہو جائے تو ختنہ کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کا ختنہ نہیں ہوا یا نو مسلم ہے تو بعد میں ختنہ کیا جائے گا سات سے دس سال تک ختنہ کرنا چاہئے یہ ختنہ کا بہتر وقت ہے اگرچہ پیدائش کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور وہ آسان بھی ہے۔ چودہ انبیاء کرام مختون پیدا ہوئے تھے۔ حضرت آدمؑ حضرت شیثؑ حضرت نوحؑ حضرت صالحؑ حضرت شعیبؑ حضرت یوسفؑ حضرت موسیٰؑ حضرت سلیمانؑ حضرت حظلہ بن صفوانؑ حضرت زکریاؑ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء والمرسلین۔

عورتوں کا ختنہ گرم ممالک میں ہوتا ہے فرج کے اندر چربی نما گوشت ابھرتا ہے ماہر عورتیں اس کو کاٹتی ہیں یہ الفاء للجماع ہے

کوئی ضروری نہیں ہے۔ شوافع کے نزدیک اب بھی مصر وغیرہ میں عورتوں کا ختنہ ہوتا ہے دعوت ہوتی ہے اور مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔

”الاستحداد“ حدیدہ استعمال کرنے کے معنی ہے مردوں کے لئے لوہا استعمال کر کے زیر ناف بال ہٹانا زیادہ بہتر اور باعث قوت باہ ہے عورتوں کے لئے بال صفا وغیرہ نرم طریقہ بہتر ہے زیر ناف بالوں کی صفائی سات دن کے اندر بہتر ہے ورنہ پندرہ دن ورنہ ۴۰ دن اس سے زیادہ میں مکروہ ہے۔

”قص الشارب“ مسئلہ کی تفصیل اور یہ حدیث توضیحات جلد اول ص ۵۵۶ باب السواک میں گزر چکی ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔

”تقلیم الاظفار“ ناخن تراشنا سنت ہے اس کا مستحب طریقہ اس طرح ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیا جائے اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے لیکر انگوٹھے پر ختم کیا جائے۔ پیروں میں یہ طریقہ ہے کہ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پیر کے انگوٹھے پر ختم کر دیا جائے۔ توضیحات جلد اول صفحہ ۵۵۶ پر مزید تفصیل ہے۔

”نفث الابط“ نفث اکھیڑنے اور چننے کے معنی میں ہے بغل کے بالوں کے لینے کو کہتے ہیں انگلیوں میں پکڑ کر یہ بال ہٹانا اچھا ہوتا ہے اگر استرا پھیرا گیا تو بالوں کا جنگل بن جائے گا پسینہ جمع ہو کر بغل سے بدبو اٹھے گی ہفتہ میں نفث ہو ورنہ بیس (۲۰) دن میں ہو ورنہ ۴۰ دن میں ہو زیادہ چھوڑنا مکروہ ہے تفصیل گزر چکی ہے۔

اب یہاں یہ سوال ہے کہ زیر بحث حدیث میں پانچ خصائل کا ذکر ہے جبکہ باب السواک میں دس خصائل کا بیان ہے یہ تعارض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چند اہم خصائل کا بیان موقع محل کے مطابق کیا گیا ہے کوئی حصر مقصود نہیں نہ وہاں دس میں حصر مقصود ہے بلکہ دس سے زیادہ خصائل بھی ہیں اور نہ یہاں پانچ میں حصر مقصود ہے جتنا بیان کیا گیا وہ اہم خصائل اپنی جگہ پر ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں جس کا ذکر ضروری نہیں سمجھا گیا لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔

داڑھی منڈانا اور مونچھ بڑھانا مشرکوں کا کام ہے

﴿۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْ فِرُوا أَلْحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ كُتِبَ الشَّوَارِبُ وَأَعْفُوا أَلْحَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل شرک کے خلاف کرو (یعنی وہ چونکہ داڑھیاں پست کراتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں اس لئے تم بایں طور ان سے اپنے آپ کو ممتاز رکھو کہ) تم داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں ہلکی کراؤ۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ تم مونچھیں نہایت ہلکی کراؤ اور داڑھیاں چھوڑ دو۔ (بخاری و مسلم)



## توضیح

”اللحی“ یہ لحیہ کی جمع ہے لحیہ اصل میں جڑے کی ہڈی کو کہتے ہیں پھر اس کا اطلاق ان بالوں پر ہوا جو جڑوں کے اوپر ہیں اسی کو لحیہ کہتے ہیں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اس کو سنت اس لئے کہتے ہیں کہ سنت سے ثابت اور مسنون طریقہ ہے سوالا کھ انبیاء کرام اور ڈیڑھ لاکھ صحابہ کرام میں ایک بھی داڑھی منڈانے والا نہیں تھا۔ داڑھی بڑھانے کے لئے ”اوفر“ کا صیغہ بھی استعمال کیا گیا ہے جو فر سے ہے اور بڑھانے کے معنی میں ہے اس کے لئے واعفوا کا صیغہ بھی استعمال کیا گیا ہے یعنی داڑھی کو معاف کرو اس کو ایسے ہی چھوڑ دو تا کہ یہ خوب بڑھ جائے، داڑھی بڑھانے کا حکم احادیث میں مذکور ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کا چہرہ چھوٹا ہو اور داڑھی اتنی لمبی اور بڑی ہو جائے کہ متقی پر ہیزگار صلحاء اور علماء اس کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں تو چہرہ کے تناسب سے داڑھی کو اطراف اور لمبائی سے کم کرنا جائز ہے کم کرنے کی آخری حد حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ ایک قبضہ مٹھی بھر تک کم کیا جاسکتا ہے اس سے کم کرنا جائز نہیں ہے اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے دین کی بات، اسی حد تک ہے باقی عقل کی بات ہے جو ہر عقلمند کی اپنی اپنی عقل ہے وہ دین نہیں ہے۔ توضیحات جلد اول ۵۷۶ پر تفصیل مذکور ہے۔ بہر حال زیر بحث حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ داڑھی بڑھانا اور مونچھ کٹنا مومن مسلمان کا کام ہے جو رحمان کا قانون ہے اور داڑھی کٹنا اور مونچھ بڑھانا کافر اور مشرک کا کام ہے جو شیطان کا قانون ہے۔

## زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کی آخری مدت

﴿۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ وَقَّتْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ مونچھیں ترشوانے، ناخن کٹوانے، بغل کے بال صاف کرانے اور زیر ناف بال مونڈنے کے بارے میں ہمارے لئے جو مدت متعین کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ان کو چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ (مسلم)

## توضیح

”اربعین لیلۃ“ اس روایت سے تو یہی مفہوم ہوتا ہے کہ صفائی کے یہ سارے کام چالیس دن کے اندر اندر نمٹانا چاہئے اس سے زائد مدت تک چھوڑنا باعث گناہ ہوگا لیکن دیگر روایات میں کچھ مزید تفصیل مذکور ہے حضرت ابن عمرؓ سے ایک روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناخنوں اور لبوں کو ہر جمعہ میں ترشواتے تھے، زیر ناف بال بیس دن میں صاف کرتے تھے اور بغل کے بال چالیس دن کے بعد صاف کرتے تھے۔ فقہ کی ایک کتاب فنیہ میں لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ صفائی کے یہ

سارے کام ہفتہ وار کیا جائے اگر ہفتہ میں ممکن نہ ہو تو پندرہ دن میں کیا جائے اگر اس پر عمل نہ ہو سکا تو چالیس دن میں کیا جائے اس سے زائد مدت تک چھوڑنا بلا عذر سمجھا جائے گا یعنی افضل تو ہفتہ وار ہے متوسط پندرہ دن ہے آخری حد چالیس دن ہے اس کے بعد مکروہ اور وعید ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغل اور زیر ناف بالوں کو چالیس دن میں صاف کرتے تھے اور بعض حضرات کی روایت کے مطابق تیس دن میں صاف کرتے تھے۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں بغل اور زیر ناف بال ایک ہفتہ میں نہیں منڈایا جاسکتا اس لئے کہ یہ اتنی جلدی نہیں بڑھتے ہیں اس کیلئے تیس دن کی مدت معتدل قول ہے ملا علی قاری کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے باقی رہ گئے ناخن اور مونچھ تو وہ ہفتہ وار صاف کیا جاسکتا ہے۔

### بالوں میں سیاہ خضاب کرنے کا تفصیلی مسئلہ

﴿۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور عیسائی خضاب نہیں لگاتے لہذا تم ان کے خلاف کرو۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”لا یصبغون“ یعنی یہود و نصاریٰ داڑھی کے سفید بالوں میں خضاب اور کسی قسم کا رنگ نہیں کرتے تم ان کی مخالفت میں داڑھی میں خضاب کیا کرو۔

سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصباغ اور رنگ اور خضاب کے حوالہ سے مہندی کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ زرد رنگ کی بھی اجازت دی ہے البتہ کالے رنگ سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے ساتھ والی حدیث میں ”واجتنوا السواد“ کا جملہ موجود ہے جو امام مسلم نے نقل کیا ہے جو شخص مسلم کی روایت کو موضوعی کہے گا وہ بدعتی ہوگا کیونکہ بخاری اور مسلم کی احادیث کی صحت پر امت کا اجماع ہو گیا ہے امام احمد بن حنبلؒ نے اپنی سند میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے غیر والشیب ولا تقر بوا السواد“ (رواہ احمد)

ملا علی قاری نے بحوالہ نووی نقل کیا ہے کہ خضاب کے بارے میں چند اقوال ہیں صحیح قول یہ ہے کہ بالوں میں ہر قسم کا رنگ اور خضاب کرنا مستحب ہے خواہ مرد کرے یا عورت کرے البتہ کالے رنگ کا خضاب حرام ہے۔ (مرقات ۲۱۴ ج ۸)

امام محمدؒ اپنی موطا میں اس طرح لکھتے ہیں:

”لأنرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة باساً وان تركه ابيض فلا بأس به كل ذلك حسن“ (مرقات)

شرح شرعۃ الاسلام میں لکھا ہے کہ:

”الخضاب سنة ثبت قولاً وفعلاً اما قولاً فلحديث ابى هريرة السابق. واما فعلاً فلما قال ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران“ (مرقات)

وفى مجمع الفتاوى اختلفت الرواية فى ان النبى صلى الله عليه وسلم هل فعل الخضاب فى عمره؟ والاصح انه لم يفعل الخضاب فى لحيته لعدم الحاجة اليه، واما خضاب رأسه بالحناء فهو مشهور وقيل كان فعله غير مرة لدفع الصداغ والحرارة قلت ويؤيده ماورد فى الاختضاب من الاحاديث ”منها“ اختضبوا بالحناء فانه يزيد فى شبابكم وجمالكم ونكاحكم“ (رواه البزار)

”ومنہا“ اختضبوا بالحناء فانه طيب الريح ويسكن الروع. (رواه ابويعلى والحاكم)

”ومنہا“ اختضبوا وافر قوا وخالقو اليهود، (رواه ابن عدی)

قال الغزالى فى الاحياء الخضاب بالسواد خضاب الكفار، ويقال اول من خضب بالسواد فرعون لعنه الله. (مرقات)

وعن ابن الدرداء رفعه قال عليه السلام من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة.

(رواه الطبرانى) مرقات ج ۸ ص ۲۳۳

ان تمام روایات سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اسلام میں خضاب کرنا جائز اور مستحب ہے البتہ کالے رنگ کا خضاب منع ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خضاب کرنا اتنا ضروری ہے اور یہود سے مخالفت کا ذریعہ ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ خضاب کے بغیر سفید داڑھی کو سفید چھوڑنا منع ہے حالانکہ زیادہ تر مسلمان رنگ نہیں کرتے بلکہ طبعی حالت پر بال سفید رکھتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہود کسی بھی رنگ اور خضاب کو جائز نہیں سمجھتے تم خضاب کو ناجائز نہ سمجھو بلکہ یہود کی مخالفت کر کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھو پھر خضاب کرو تو بھی جائز اور اچھا ہے اور خضاب نہ کرو بلکہ داڑھی کو طبعی حالت پر چھوڑ دو یہ بھی جائز اور اچھا ہے جیسا کہ امام محمدؒ کا فتویٰ اس سے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ ”وان ترکہ ابيض فلا بأس به“۔

اب یہاں یہ بات رہ گئی کہ فقہاء کے نزدیک سیاہ خضاب استعمال کرنے کا کیا حکم ہے۔

اس سلسلہ میں علامہ نووی مسلم کی شرح ص ۱۹۹ پر اس طرح لکھتے ہیں:

ہمارے مسلک شوافع کے مطابق سفید بالوں کا خضاب مستحب ہے اور مردوں اور عورتوں کے لئے سیاہ رنگ کے علاوہ ہر رنگ مستحب ہے سیاہ رنگ کا خضاب بعض کے ہاں مکروہ ہے مگر مختار اور صحیح قول یہ ہے کہ سیاہ خضاب حرام ہے اور یہی ہمارا مسلک ہے، قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا پہلے تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا بالوں کا کسی رنگ سے خضاب کرنا افضل ہے یا سفید رکھنا افضل ہے بعض سلف نے ترک خضاب کو افضل قرار دیا ہے کیونکہ ایک حدیث میں خضاب کرنے سے ممانعت آئی ہے نیز آنحضرت نے خود خضاب کو استعمال نہیں کیا ہے حضرت علی حضرت عمر اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کا مسلک بھی یہی ہے۔ سلف صالحین کے ایک اور طبقہ کا مسلک یہ ہے کہ خضاب کرنا افضل ہے صحابہ کی ایک بڑی جماعت کی یہی رائے ہے کیونکہ کثیر احادیث میں خضاب کی ترغیب وارد ہے۔

اس کے بعد ان سلف کا امتیاز اختلاف ہوا ہے کہ آیا سیاہ خضاب کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟

صحابہ کی ایک بڑی جماعت سیاہ خضاب کے عدم جواز کی قائل ہے لیکن چند صحابہ و تابعین ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیاہ خضاب کو استعمال کیا ہے ان میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت حسین بن علی اور حضرت حسن بصری کے نام مشہور ہیں۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ دونوں طرف صحیح روایات موجود ہیں لیکن اس میں کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ شارحین حدیث نے سیاہ خضاب استعمال کرنے کو چند مجبوریوں پر حمل کیا ہے چنانچہ ملا علی قاری لکھتے ہیں ”وروی ان عثمان والحسن والحسين خضبوا الحاهم بالسواد للمهابة“۔ (مرقات ج ۸ ص ۲۱۳)

علامہ شامی لکھتے ہیں قوله عليه السلام غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد قال الحموي وهذا في حق غير الغزاة ولا يحرم في حقهم لئلا يهابوا ولعله محمل من فعل ذلك من الصحابة. (فتاوى شامی ج ۶ ص ۷۵۶)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ سیاہ خضاب احناف کے ہاں مکروہ تحریمی ہے چنانچہ بذل المجہود شرح ابوداؤد میں اس حدیث کے ذیل میں لکھا گیا ہے کہ وفي الحديث تهديد شديد في خضاب الشعر بالسواد وهو مكروه كراهية التحريم. (بذل المجہود ج ۵ ص ۸۲)

ان روایات اور فقہی عبارات سے معلوم ہوا کہ سیاہ خضاب استعمال کرنا ائمہ احناف کے ہاں مکروہ تحریمی ہے اور شوافع کے ہاں مطلق حرام ہے شریعت کی نظر میں اس حرمت کا اصل منشأ یہ ہے کہ بوڑھے اور جوان میں التباس نہ آئے اور کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے سکے کیونکہ بوڑھا دھڑلے عمر کا آدمی ہوگا لیکن خضاب کی وجہ سے اپنے آپ کو جوان ظاہر کریگا یہ دھوکہ چونکہ صرف سیاہ خضاب سے ہوتا ہے اس لئے اس کو منع کر دیا گیا دیگر رنگوں سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بوڑھا ہے اس لئے مہندی لگائی ہے

تو التباس نہیں آئے گا نیز سیاہ خضاب میں تغیر خلق اللہ بھی ہے۔ بہر حال اس شخص کیلئے احادیث میں شدید وعید ہے جو سیاہ خضاب استعمال کرتا ہے ہاں مجاہد کے لئے گنجائش ہے تاکہ دشمن پر رعب ہو یا ایسے شخص کے لئے جس کی شادی نو جوان لڑکی سے ہوئی ہو وہ اپنی بیوی کے پیش نظر ایسا کرتا ہے تو باوجود خلاف اولیٰ ہونے کے جائز ہوگا یا کوئی شخص ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ وہاں اس شخص سے شدید نفرت ہوتی ہے جو سیاہ خضاب استعمال نہ کرے ان مجبوریوں کی وجہ سے بدرجہ مجبوری سیاہ خضاب استعمال کرنا مجبوری ہے ورنہ سیاہ خضاب کرنا کہاں ضروری ہے جب کمر جھک جائے تو خضاب سے کیا سیدھی ہوگی؟ بابا سعدی نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس نے سر کے سفید بالوں میں سیاہ خضاب کیا تھا تو فرمایا۔

موئے بتلیس سیاہ کردہ گیر ☆ راست نہ خواہ شد ایں پشت کوز  
یعنی فرض کر لو تم نے سیاہ خضاب سے بالوں کو سیاہ کر دیا اب جوان لگ رہی ہو لیکن یہ ٹیڑھی کمر کیسے سیدھی ہوگی؟ سیاہ خضاب کی ممانعت کے بارے میں آنے والی حدیث نمبر ۶ اور حدیث نمبر ۳۴ کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔  
بہر حال تعجب ہے ان علماء پر جو ان واضح ممانعت کو سمجھتے ہوئے پھر بھی کسی عذر شرعی کے بغیر سیاہ خضاب کو جائز کہتے ہیں اور اس پر کتابیں تصنیف کرتے ہیں ان اللہ وانا الیہ راجعون

فَان كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتَلْكُ مَصِيَّةً

وَان كُنْتَ تَدْرِي فَالْمَصِيَّةُ اعْظَمُ

حضرت ابو بکرؓ کے والد کو خضاب کے بارے میں حکم

﴿۶﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثُّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے والد ابو قحافہؓ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا اور اسی دن انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے سر اور ڈاڑھی کے بال گویا ثغامہ تھے یعنی بالکل سفید تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان بالوں کی سفیدی کو کسی چیز کے ذریعہ بدل ڈالو لیکن سیاہ رنگ سے اجتناب کرنا یعنی سیاہ خضاب استعمال نہ کرنا۔ (مسلم)

توضیح

حضرت ابو بکرؓ کے والد کا نام عثمان ہے ابو قحافہؓ ان کی کنیت تھی فتح مکہ کے موقع پر انتہائی بڑھاپے کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے جب آنحضرتؐ کے پاس لائے گئے تو سر اور ڈاڑھی کے بال ثغامہ پھول کی طرح سفیدی کی وجہ سے چمک رہے تھے آنحضرتؐ

نے فرمایا اس پر خضاب کرو لیکن سیاہ خضاب سے بچو معلوم ہوا سیاہ خضاب استعمال کرنا مکروہ تحریمی یا حرام ہے۔  
 ”الثغامۃ“ یہ ایک پودا ہے جس کے پھول انتہائی سفید ہوتے ہیں اسی کے ساتھ بالوں کی سفیدی کو تشبیہ دی گئی ہے۔

یہود کے برعکس سر کے بالوں میں مانگ نکالنا سنت ہے

﴿وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْأَلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملتا تھا اس میں آپ اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے چنانچہ اہل کتاب اپنے سر کے بالوں کو یوں ہی چھوڑے رکھتے تھے (یعنی وہ مانگ نہیں نکالتے تھے بلکہ اپنے بالوں کو یوں ہی پڑے رہنے دیتے تھے) جب کہ مشرکین اپنے سروں میں مانگ نکالتے تھے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اہل کتاب کے طریقے کے مطابق) اپنی پیشانی کے بال یوں ہی چھوڑے رکھتے تھے لیکن بعد میں مانگ نکالنے لگے تھے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”موافقة اهل الكتاب“ چونکہ اہل کتاب کے پاس آسمانی کتاب اور آسمانی مذہب تھا اس لئے آنحضرتؐ پر جب تک شریعت محمدیہ کے مطابق کوئی حکم نہ آتا آپ اہل کتاب کے طور طریق کو اہل مکہ کے مشرکین کے طور طریق پر ترجیح دیتے تھے اہل مکہ کے پاس حضرت ابراہیمؑ کے کچھ مٹے بجھے آثار ہوتے تھے اسی قاعدہ کے مطابق آنحضرتؐ نے سدل اور فرق کے معاملہ میں پہلے اہل کتاب کے طریق سدل کو ترجیح دی پھر وحی سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ کا طریقہ سدل کا نہیں بلکہ فرق اور مانگ نکالنے کا تھا سر کے بالوں کو سر کے چاروں اطراف میں لٹکتے رہنے کا نام سدل ہے اور سر کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دائیں بائیں کر کے درمیان میں مانگ نکالنے کا نام فرق ہے آنحضرتؐ نے پہلے سدل کو اختیار کیا پھر یہود کے طریق کو چھوڑ دیا اور یہ صرف اس ایک واقعہ میں نہیں ہوا ہے بلکہ کئی واقعات ایسے ہیں جن میں آنحضرتؐ نے یہود کی موافقت کے بجائے مخالفت کو اختیار کیا ہے مثلاً پہلے سدل کیا پھر مخالفت کر کے فرق کو اختیار کیا، پہلے بالوں کو سفید رکھا پھر خضاب کا حکم دیا، پہلے عاشوراء کا روزہ رکھا پھر اس کے ساتھ ایک اور کے ملانے کا حکم دیا، پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی پھر مخالفت کر کے کعبہ کی طرف پڑھنا شروع کیا، پہلے حائضہ عورت سے بالکل بائیکاٹ کیا پھر جماع کے علاوہ اختلاط کا حکم دیا، پہلے جمعہ کے روزہ کا حکم دیا پھر اکیلے جمعہ کے روزہ کو منع کیا، پہلے جنازہ کے لئے قیام کا حکم دیا پھر یہود کی مخالفت میں ترک کر دیا،

پہلے ہفتہ اور اتوار کے روزے رکھنے سے منع فرمایا پھر یہود و نصاریٰ کی مخالفت میں روزہ رکھنا شروع کیا کہ ان کی عید ہے تو ہم روزہ رکھیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام اپنی امت کو یہود و نصاریٰ کے طور و طریق اپنانے سے کتنا دور رکھنا چاہتے تھے اور آج کل مسلمان حکمران ہر چیز میں یہود و نصاریٰ کو کس طرح گلے لگا رہے ہیں یہود و نصاریٰ ان کی طرف نہیں آئے ہیں بلکہ یہ لوگ اور ان کے نا اہل حکمران ان کی طرف چلے گئے ہیں (فالی اللہ المشتکی)۔

## سر کے بالوں میں قزع کرنا منع ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ قِيلَ لِنَافِعٍ مَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيَتْرَكَ الْبَعْضُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحَقُّ بَعْضُهُمُ التَّفْسِيرُ بِالْحَدِيثِ

اور حضرت نافع، حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قزع سے منع فرماتے ہوئے سنا حضرت نافع سے پوچھا گیا کہ قزع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قزع اس کو کہتے ہیں کہ لڑکے کے سر کے بعض حصہ کو مونڈا جائے اور بعض حصے کو چھوڑ دیا جائے۔ (بخاری و مسلم) اور بعض راویوں نے وضاحت کو حدیث کے ساتھ جوڑا ہے (یعنی ان راوی کے مطابق قزع کے یہ معنی آنحضرت ہی نے بیان فرمائے)۔

## توضیح

”القزع“ سر کے بعض بالوں کو کاٹنا اور بعض کو چھوڑنا قزع کہلاتا ہے ”قال النووی القزع حلق بعض الرأس مطلقاً“۔ ”قيل لنافع“ یعنی حدیث کے راوی سے کسی نے پوچھا کہ قزع کیا چیز ہے تو آپ نے جواب میں قزع کی تعریف کی اس میں راوی نے قزع کو بچے کے ساتھ خاص کیا ہے یہ قید بوجہ رواج ہے کیونکہ عام طور پر قزع بچوں کے بالوں میں کیا جاتا ہے ورنہ ممانعت کے اعتبار سے جس طرح قزع بچے کے لئے مکروہ ہے اسی طرح بڑوں کے لئے بھی مکروہ ہے قزع کی بیشمار صورتیں ہیں بعض لوگ حج اور عمرہ کے دوران حلق کی غرض سے ایک چوتھائی سر ایک عمرہ پر کٹواتے ہیں پھر دوبارہ سہ بارہ ایسا کرتے ہیں کچھ بال منڈاتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں قزع کی یہ مکروہ ترین صورت ہے بعض لوگ نظر بد سے بچاؤ کے لئے بچوں کے بالوں میں نالے بناتے ہیں آگے سے پیچھے اور دائیں سے بائیں طرف بال تراش کر لکیریں بناتے ہیں یہ بھی بدترین قزع ہے۔ بعض لوگ بچوں کے سر کے بالوں کو تراش کر پیشانی کے اوپر تالو تک بال چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو چونڈے بولتے ہیں یہ بھی قزع ہے اسی طرح انگریزی بال رکھنا بھی قزع میں آتا ہے جیسے فوجی کٹ، سدھیر کٹ، سنتوش کٹ، پپی بال وغیرہ

وغیرہ، اس کے لئے ضابطہ یہ ہے کہ اگر سر کے سارے بال برابر کٹوا کر چھوٹے کر دئے گئے تو یہ قزع نہیں ہے لیکن اگر بعض بال چھوٹے اور بعض بڑے چھوڑ کر تراش خراش کیا یہ سب قزع ہے جو مکروہ ہے خواہ بڑے کریں یا چھوٹے بچے کریں، مذہبی شعار کے طور پر ہندو لوگ سر پر جو چوٹی رکھتے ہیں وہ بھی بدترین قزع ہے اگر کوئی مسلمان ہندوؤں کی طرح چوٹی رکھتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔

﴿۹﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ خَلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے لڑکے کو دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ مونڈا گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے لڑکے کی پرورش کرنے والوں کو اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ پورے سر کو مونڈ دیا پورے سر کو چھوڑ دو۔ (مسلم)

”احلقوا کله“ اس حدیث میں بھی قزع سے ممانعت کا بیان ہے کیونکہ پورے بال کٹوانے یا پورے کو رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ بعض کو رکھنا اور بعض کٹوانا منع ہے جو قزع ہے۔

### بہرہ اور مخنث بننا حرام ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں پر لعنت فرمائی ہے اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں نیز آپ نے فرمایا کہ مخنثوں کو اپنے گھروں سے نکال باہر کرو۔ (بخاری)

### توضیح

”المخنثین“ مخنث باب تفعیل سے ہے اور مجرد میں سمع-سمع سے نرم پڑنے اور ٹوٹ پھوٹ اور شکستگی کے معنی میں ہے جن لوگوں کی حرکات و سکنات قول و فعل عورتوں کی طرح ہو لباس عورتوں کی طرح اپناتے ہوں آواز چال چلن میں عورتوں کی طرح انداز رکھتے ہوں یہ مخنث ہیں اس کو بہرہ بھی کہتے ہیں اگر مخنث خلقی اور طبعی و پیدائشی ہو تو اس پر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے وہ قدرتی افت میں مبتلا ہے معذور و مجبور ہے لیکن اگر کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی ہے اور وہ حرکات و سکنات میں عورتوں کا طرز زندگی اور وضع قطع اختیار کرتا ہے حتیٰ کہ جنسی آلہ کو تبدیل کرتا ہے تو یہ مجرم ہے اور اسی قسم پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ مہندی لگانا عورتوں کے



لئے مسنون ہے اور مردوں کے لئے ضرورت کے بغیر مکروہ ہے مخنث کے مقابلہ میں یہاں ان عورتوں پر بھی لعنت کی گئی ہے جو طرز زندگی میں اور حرکات و سکنات اور اقوال و افعال میں مردوں کی چال چلن اپناتی ہیں ہاں رائے دینے اور علم میں مردوں کی مشابہت اختیار کرنے میں قباحت نہیں ہے۔

”اخر جو ہم“ چونکہ یہ مخنث میل جول کے اعتبار سے مردوں کے زمرہ میں آتے ہیں اس لئے فرمایا ان کو گھروں سے نکال دو تاکہ عورتوں کے ساتھ میل جول نہ رہے۔

﴿۱۱﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ (بخاری)

مردوں اور عورتوں کے لباس اور رہنے سہنے اور بود و باش کے الگ الگ طریقے ہیں اپنے اپنے طریقہ پر چلنا چاہیے تاکہ مشابہت نہ آئے۔

## سر کے بالوں میں مصنوعی بال جوڑنے کا حکم

﴿۱۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے بالوں میں کسی دوسری عورت کے بالوں کا جوڑ لگائے (خواہ خود لگائے اور خواہ کسی دوسرے سے لگائے) اور جو عورت کسی دوسری عورت کے بالوں میں اپنے بالوں کا جوڑ لگائے اور جو عورت دوسرے اور جو عورت کدوائے ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”الواصلۃ“ یہ ضرب بضرب سے مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ ملانا اور جوڑنا ہے یہاں دوسرے انسان کے بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑنے کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ ایک عورت اپنے بالوں کے حسن و درازی کے لئے کسی دوسری عورت کے بالوں کا چوٹا اور گچھا لیکر اپنے بالوں کے ساتھ شامل کرتی ہے اس عورت کو واصلہ کہتے ہیں اور یہ کام باعث لعنت ہے کیونکہ اس میں تغیر خلق اللہ بھی ہے اور دوسرے انسان کے جسم کے اجزا سے شرعی ضابطہ کے بغیر فائدہ اٹھانا بھی ہے جو ناجائز ہے نیز اس میں دھوکہ اور جھوٹ بھی ہے۔ علامہ طیبی واصلہ کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں۔

”الواصلۃ الی تصل شعرها بشعر آخر زوراً“ (طیبی ج ۸ ص ۲۵۰)  
 ”والمستوصلۃ“ یہ باب استفعال سے ہے سین اور تا طلب کے لئے ہے یعنی جو عورت کسی اور عورت سے مطالبہ کرتی ہے کہ میرے سر میں یہ بال جوڑ دو، علامہ طیبی یوں وضاحت فرماتے ہیں

والمستوصلۃ الی تأمر من يفعل بها ذلک

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی فارسی شرح اشعۃ اللمعات میں دونوں لفظوں کا مطلب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ  
 واصلہ نے کہ پیوندی کند مویہائے خود را بمویہائے دیگر تا بسیار شود و زیادہ کر دو۔

و مستوصلہ آنکہ بفرماید دیگرے را کہ پیوند کند بمویہائے وے مویہائے دیگر (اشعۃ اللمعات ج ۳ ص ۶۱۲)

ترجمہ: واصلہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے بالوں کو دوسرے بالوں کے ساتھ پیوند لگا کر جوڑتی ہے تاکہ اس کے اپنے بال زیادہ گھنے اور لمبے ہو جائیں اور مستوصلہ اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی اور عورت سے مطالبہ کرتی ہے کہ میرے بالوں کیساتھ کسی اور کے بالوں کو پیوند لگا کر جوڑ دے۔

ان دونوں صورتوں میں عورت ایک ہی ہے اور اپنے بالوں کے بڑھانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے یہ مطلب نہیں کہ واصلہ وہ ہے جو اپنے بالوں کو کسی اور عورت کے سر میں لگا کر جوڑتی ہے وہ صورت بھی اگرچہ ممنوع ہے۔ لیکن حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے میں نے اتنا زور یہاں اس لئے لگایا کہ مظاہر حق وغیرہ بعض شارحین کو یہاں سہو ہو گیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کے بالوں کو عورت اپنے بالوں میں جوڑتی ہے تو یہ مطلقاً حرام ہے۔ لیکن اگر بالوں کے علاوہ اون یا کوئی اور دھاگے ملائی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام مالکؒ کے نزدیک وہ بھی جائز نہیں ہے فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے کہ سر کے بالوں میں انسان کے بال شامل کرنا حرام ہے لیکن اون وغیرہ دھاگے شامل کرنا جائز ہے۔

اب اگر کوئی عورت کسی جانور کے بال مثلاً خچر گھوڑے کی دم کے بال اپنے بالوں میں شامل کرتی ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام مالک اور دیگر اکثر علماء مطلقاً بالوں کے جوڑنے کو ناجائز کہتے ہیں کیونکہ حدیث کی ممانعت عام ہے یہی رائج ہے البتہ بعض علماء نے کچھ خاص حالت میں حیوان کے بالوں کو جوڑنا جائز قرار دیا ہے۔

آج کل بازاروں میں کئی کئی ہزار کے بنے ہوئے سر کے بال خول کے ساتھ ملتے ہیں عورتیں خریدتی ہیں اور مستحق لعنت بنتی ہیں۔  
 ’الواسمۃ‘ وشم جسم گودے کو کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوئی یا دیگر تیز دھاوا لے کر جسم میں چھو دیا جائے جب زخم لگ جائے اور خون بہنے لگ جائے تو اس زخم میں سرمہ یا نیل وغیرہ ڈال کر بھر دیا جائے جب کھال مل کر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تو نیچے نیلے نشان اور خال نظر آتے ہیں جو ہمیشہ کے لئے رہتے ہیں وشم اسی عورت کو کہتے ہیں جو یہ عمل خود اپنے جسم میں کرتی ہے اور ’مستوشمہ‘ اس عورت کو کہتے ہیں جو اس عمل کو خود نہیں کسی دوسرے شخص سے کرواتی ہے عبارت کا ترجمہ یوں ہے

”گودنے والی اور گدوانے والی عورت“۔

اس میں تغیر خلق اللہ ہے اس لئے حرام ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر نجس مادہ کھال کے نیچے دب کر رہ گیا تو پھر اس سے وضو اور غسل اور نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جگہ نجس رہتی ہے واللہ اعلم  
مصر و لیبیا اور افغانستان میں شتم کا یہ عمل بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔

## تغیر خلق اللہ حرام ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ  
وَالْمُتَقَلِّبَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغْيِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَجَاءَتْهُ أَمْرًا فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنْكَ لَعَنْتُ كَيْتَ  
وَكَيْتَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ  
لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَيْنُ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتَ  
مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی عورتیں، منہ پر سے بال نچوانے والی عورتیں، افزائش  
حسن کے لئے دانتوں کو سواہان ریتی سے رتوانے والی عورتیں، ان سب پر کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تغیر کرتی ہیں اللہ  
تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے (جب ابن مسعودؓ کی یہ روایت عورتوں تک پہنچی تو) ایک عورت حضرت ابن مسعودؓ کے پاس آئی اور  
کہنے لگی کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں؟ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ میرے لئے  
کیا رکاوٹ ہے کہ میں اس پر لعنت نہ بھیجوں جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور جس کو کتاب اللہ میں  
ملعون قرار دیا گیا ہے۔ عورت نے کہا کہ میں نے بھی اس چیز کو پڑھا ہے جو دو دفعیوں کے درمیان ہے۔ (یعنی میں نے بھی پورا  
قرآن کریم پڑھا ہے) لیکن اس میں مجھے یہ بات جو آپ کہتے ہیں (صریح الفاظ میں) کہیں نہیں ملی ہے؟ حضرت ابن مسعودؓ  
نے فرمایا اگر تم قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھتی تو اس میں تمہیں یقیناً اس کا حکم ملتا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی  
ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں اس کو قبول  
کرو اور اس پر عمل کرو۔ اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے باز رہو اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے  
حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ پس یہ وہ چیز ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”الْمُتَمَصِّصَاتِ“ مُتَقَلِّبَاتِ کے وزن پر ہے میم ثانی پر شد ہے منماص ای المنقاش موچنی اور اچھاوا کو کہتے ہیں چہرہ

سے چھوٹے چھوٹے بال جس آلہ سے نوچے جاتے ہیں اسی کو منماص کہتے ہیں اس طرح عمل کرنے والی عورت کو نامصہ کہتے ہیں جس کا ذکر دوسری حدیث میں ہے، یہاں متمصہ کا ذکر ہے وہ یہ عورت ہے جو دوسروں سے یہ کام کرواتی ہے یعنی بال نوچوانے والی عورت۔

”المتفلجات“ یہ حج سے ہے دو دانتوں کے درمیان فاصلہ اور کھڑکی کو کہتے ہیں جاہلیت میں حسن بڑھانے کے لئے عورتیں سواہان اور ریتی کے ذریعہ سے دانتوں کو گھساتی تھیں تاکہ دانت سلیقہ دار بن جائیں یا بیچ میں فاصلہ بنا کر دانتوں کو کھڑکی دار بناتی تھیں تاکہ خوبصورت لگے اس میں چونکہ خلق اللہ کی تغیر ہے اس لئے ممنوع اور باعث لعنت ہے ”انہ“ یعنی شان یہ ہے۔ ”کیت و کیت“ یعنی واشحات اور اس کے بعد والی عورتوں پر آپ نے لعنت کی ہے۔

”ومن هو فی کتاب اللہ“ ای ومن هو ملعون فی کتاب اللہ۔  
حضرت ابن مسعود کے کلام سے اس عورت پر اشتباہ آ گیا کہ قرآن میں کہاں مذکور ہے اس لئے کہنے لگی کہ میں نے پورے قرآن کو اول سے لیکر آخر تک پڑھا ہے یہ حکم وہاں نہیں ہے۔  
”اللوحین“ ای الدفتین، یعنی دونوں طرف سے اول سے لیکر آخر تک پڑھا ہے لوحین سے پورا قرآن مراد لیا ہے۔  
”قرأتیه و جدتیہ“ دونوں جگہ میں اشباع ہے یعنی اگر تم واقعی سمجھ کر پڑھ لیتی! تو یہ حکم ضرور پالیتی!!  
”فانہ“ یعنی آنحضرتؐ نے منع فرمایا ہے گویا قرآن نے منع فرمایا ہے۔

### نظر بد ایک حقیقت ہے

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر لگنا برحق ہے نیز آپ نے گودنے سے منع فرمایا۔ (بخاری)

### توضیح

”العين حق“ یعنی نظر بد ایک حقیقت ہے کوئی بہم اوہام نہیں ہے معتزلہ وغیرہ روشن خیال لوگ نظر بد کو نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف وہم ہے جس طرح پل پر سے گزرنے والا ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو گرنے والا خیال کرتا ہے اسی طرح یہ شخص وہم میں مبتلا ہے کہ مجھ پر فلاں کی نظر لگ گئی ہے۔ اہل سنت فرماتے ہیں کہ نظر بد ایک حقیقت ہے یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ قرآن وحدیث کی متعدد نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں معتزلہ کو خود وہم ہو گیا ہے۔

نظر بد لگنے کا طریقہ علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عائن و ناظر کی قوت واہمہ منظور پر اثر کرتی ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے یا عائن و ناظر کی آنکھوں سے باقاعدہ جراثیم جاتے ہیں اور منظور پر اثر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم سے ناظر کی نظر میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ وشم اور نظر بد کو ایک ساتھ کیوں رکھا گیا ہے حالانکہ نظر بد کی احادیث الگ باب میں آرہی ہیں یہاں اس کا کیا کام ہے؟۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اہل وشم میں اکثر کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وشم کی وجہ سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے اس کے جواب میں فرمایا کہ وشم نہ کرو نظر بد ایک حقیقت ہے وہ جب لگتی ہے تو وشم اس کو نہیں روک سکتا۔

﴿۱۵﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلْبِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  
اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملبد دیکھا ہے۔ (بخاری)

### توضیح

”ملبداً“ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے حج کے موقع پر گوند وغیرہ سے اپنے سر کے بالوں کو جمار کھاتھا کہ میں نے دیکھ لیا۔ آنحضرتؐ نے گرد و غبار سے بچاؤ کے لئے ایسا کیا ہوگا یا کوئی اور مقصد ہوگا احرام کی حالت میں ایسا کرنا جائز ہے لیکن بالوں کو ڈھانکنا جائز نہیں ہے۔

### مرد کے لئے زعفران کا استعمال منع ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  
اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد اپنے بدن یا کپڑوں پر زعفران ملے۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”ان يتزعفر الرجل“ تزعفر زعفران سے بنا ہے مطلب یہ ہے کہ مرد نہ اپنے کپڑوں میں زعفران کی خوشبو استعمال کر سکتا ہے اور نہ زعفران کی خوشبو اپنے جسم پر مل سکتا ہے اس لئے کہ زعفران ملنا عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے باقی اگر بعض صحابہ نے زعفران کو استعمال کیا ہے یا خلوق کو استعمال کیا ہے جو زعفران کا دوسرا نام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید وہ ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہو دوسرا جواب یہ ہے کہ نہایت قلیل مقدار میں استعمال کیا ہوگا ممانعت کثیر مقدار کی ہے۔

## آنحضرت نے اعلیٰ خوشبو استعمال فرمائی

﴿۱۷﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا نَجِدُ حَتَّى أَجِدُ وَبَيْضَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلَحْيَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے جو بہترین خوشبو میسر آتی وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتی، یہاں تک کہ اس خوشبو کی چمک مجھ کو آپ کے سر اور داڑھی میں نظر آتی۔ (بخاری و مسلم)

## مخلوط اور غیر مخلوط خوشبو کی دھونی کا ذکر

﴿۱۸﴾ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجَمَرَ اسْتَجَمَرَ بِاللَّوَةِ غَيْرِ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ اللَّوَةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجِمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ جب خوشبو کی دھونی لیتے تو کبھی تو صرف اگر کی دھونی لیتے جس میں مشک وغیرہ مخلوط نہ ہوتا۔ اور کبھی کافور کی دھونی لیتے کہ اس کو اگر کے ساتھ (یعنی دونوں کو ملا کر) آگ میں ڈالتے نیز حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دھونی لیتے تھے کہ کبھی تو صرف اگر کی دھونی لیتے اور کبھی کافور اور اگر دونوں مخلوط کر کے اس کی دھونی لیتے۔ (مسلم)

## توضیح

”استجمر“ استجمار کے کئی معنی آتے ہیں یہاں انگلیٹھی میں خوشبو ڈال کر اس کی دھونی لینے کو استجمار کہا گیا ہے مراد خوشبو کی دھونی ہے۔

”بِاللَّوَةِ“ باجارہ ہے ہمزہ پر زبر ہے پیش بھی جائز ہے لام پر پیش ہے واؤ پر شد اور زبر ہے اخر میں گول تا ہے۔  
 ”وہی عود یتبخربہ“ یعنی الوہ عود کو کہتے ہیں عود ایک اعلیٰ قسم کی لکڑی ہے جس کو جلا کر خوشبو حاصل کی جاتی ہے۔ حریمین شریفین میں مجمع کے اندر یا کبھی مطاف کے اندر عرب لوگ جلاتے ہیں لوگ دوڑ دوڑ کر دھونی لیتے ہیں۔ اس کو ”اگر“ بھی کہتے ہیں آج کل مسجدوں میں اگر کی بتی جلائی جاتی ہے ”غیر مطرّاة“ ای غیر مخلوطہ بغیر ہا من الطیب کا المِسک والعنبر“ یعنی الوہ اور عود کبھی مشک وغنبر کے بغیر جلا یا جاتا تھا اور کبھی اس کے ساتھ کافور ملا کر مخلوط جلا یا جاتا تھا۔ یعنی ایک دفعہ اکیلے عود کی دھونی لیتے تھے اور دوسری دفعہ کافور وغیرہ مشک وغنبر ملا کر مخلوط کی دھونی لیتے تھے ”یطرّحہ“ پھینکنے کے معنی میں ہے مخلوط مراد ہے ”غیر مطرّاة“ سے غیر مخلوط مراد ہے۔

## الفصل الثانی

### موچھیں کٹنا قدیم سنت ہے

﴿۱۹﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ ﴿صَلَوَاتُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ﴾ يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لبوں کو کترتے یا لیتے تھے اور حضرت ابراہیمؑ جو خدا کے دوست تھے وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ بھی اپنی لبیں ترشواتے تھے۔ (ترمذی)

### موچھیں بڑھانے والوں کے لئے وعید

﴿۲۰﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لبوں کو نہ کتروائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (احمد، ترمذی، نسائی)

### توضیح

”فلیس منا“ یعنی اس شعبہ میں ہمارے طریقہ پر نہیں ہے باقی دین میں ہے۔ یا ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں یہ بطور اسلوب حکیم فرمایا کہ وہ پریشان ہو کر توبہ کر لیا یا یہ تشدید و تغلیظ اور تہدید و تنبیہ ہے۔

### داڑھی کو اطراف سے برابر کرنے کا حکم

﴿۲۱﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لَحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کو عرض و طول میں (یعنی نیچے سے بھی اور دائیں بائیں جانب سے بھی) کم کر لیتے تھے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

## توضیح

”یاخذ من اطراف لحیتہ“ اس سے مراد وہ بڑھے ہوئے بال ہیں جو دوسرے بالوں سے بڑھ جاتے ہیں جس سے داڑھی کی ہمواری میں فرق آتا ہے اس لئے اس کے زائد حصہ کو کاٹا جاتا ہے اس سے داڑھی چھوٹی کرنے کا جواز نہیں نکلتا جس طرح مودودی صاحب کے پیروکار خش خشی داڑھی رکھتے ہیں البتہ ایک مشت تک داڑھی چھوٹی کرنا جائز ہے جس طرح حضرت ابن عمرؓ نے کیا تھا اس سے کم کرنا جائز نہیں ہے داڑھی میں اصل حکم تواعفا اور بڑھانے کا ہے ایک قبضہ تک کم کرنا جواز کی آخر حد ہے گویا صحابی نے آخری حد کی حد بتائی ہے۔

## مرد کو خلوق استعمال کرنا جائز نہیں

﴿۲۲﴾ وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَيْهِ خَلُوقًا فَقَالَ أَلَيْكَ امْرَأَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدُّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت یعلیٰ ابن مرہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلیٰ کے کپڑوں پر زعفران سے مرکب خوشبو خلوق لگی ہوئی دیکھی تو فرمایا کہ کیا تم بیوی والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا تو پھر اس کو دھو ڈالو پھر دھو ڈالو اور پھر دھو ڈالو پھر آئندہ کبھی اس کو استعمال نہ کرنا۔ (ترمذی، نسائی)

## توضیح

خلوق ایک قسم کا عطر ہے جس کو عورتیں استعمال کرتی ہیں زعفران سے خلوق کا عطر بنتا ہے جب مردوں کے لئے زعفران منع ہے تو خلوق بھی منع ہے۔

”الک امرأۃ“ آنحضرت نے یہ اس لئے پوچھا کہ اگر بیوی والا ہے تو شاید اس کے جسم سے لگا ہوگا جو معاف ہے لیکن جب آنحضرت کو معلوم ہوا کہ اس نے مستقل طور پر استعمال کیا ہے تو آپ نے تین بار فرمایا کہ جاؤ اور اس کو دھو کر آؤ بلکہ تین بار دھو ڈالو۔

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے بدن پر تھوڑی سی بھی خلوق لگی ہوئی ہو۔ (ابوداؤد)



## توضیح

”خلوق“ یعنی یہ شخص نماز پڑھیں گے مگر عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوگی کیونکہ خلوق عورتوں کی خوشبو ہے اس نے مشابہت اختیار کی لیکن ابن ملک فرماتے ہیں کہ یہاں خلوق استعمال کرنے پر یہ وعید شدید آئی ہے جو جرد و تنبیخ اور تشدید و تغلیظ پر محمول ہے۔

﴿۲۴﴾ وَعَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَقُونِي بِزَعْفَرَانٍ فَعَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر سے واپسی میں اپنے گھر والوں کے پاس اس حال میں پہنچا کہ میرے دونوں ہاتھ پھٹے ہوئے تھے چنانچہ میرے گھر والوں نے (علاج کے طور پر) میرے ہاتھوں پر اس خوشبو کا لپ کیا جس میں زعفران مخلوط تھی پھر جب میں صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا تو آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ جاؤ اور اس خوشبو کو اپنے بدن پر سے دھو ڈالو۔ (ابوداؤد)

”فلم یرد علی“ یعنی خلوق استعمال کرنے کی وجہ سے آنحضرت نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا شاید آنحضرتؐ کو حضرت عمار کے عذر کا علم نہیں ہوا تھا۔ ورنہ وہ معذور و مجبور تھے بطور دوا استعمال کیا تھا۔

## مردوں اور عورتوں کے عطریات میں فرق

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو تو ظاہر ہو لیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہو جیسے مشک و عنبر اور عطر وغیرہ اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ تو ظاہر ہو لیکن اس کی بو نہ پھیلے جیسے مہندی اور زعفران وغیرہ۔ (ترمذی و نسائی)

## توضیح

عورت باپردہ چیز ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جسم کی خوشبو کسی اجنبی مرد پر نہ پڑے البتہ گھر کی زینت عورت کے لئے ضروری ہے اس لئے عورت کی خوشبو میں زینت زیادہ ہو خوشبو کم ہو اور مرد کا پردہ نہیں ہوتا اس لئے خوشبو تیز لگائے لیکن

زیبائش و زینت مرد کی شان مردانگی کے خلاف ہے تو اس کے عطر میں خوشبو تیز اور زینت کم ہونی چاہئے۔  
 ﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
 اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکۃ تھی ایک مرکب خوشبو کا نام آپ اس میں سے خوشبو  
 لگاتے تھے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”سکۃ“ سین پر پیش ہے ک پرشد کے ساتھ زبر ہے آخر میں گول تا ہے۔ اکثر شارحین نے سکۃ کا ترجمہ مفہوم اس طرح  
 بیان کیا ہے کہ یہ ایک مخلوط مرکب عطر ہے لیکن یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے کیونکہ ”یتطیب منها“ کا لفظ اس کے ساتھ پورا  
 موافق نہیں ہے۔

مرقات میں ملا علی قاری نے کئی اقوال کے بعد فرمایا ”وقیل الظاهر ان المراد بهما ظرف فیہا طیب“  
 علامہ جزری فرماتے ہیں کہ ”ویحتمل ان یکون وعاء“۔

علامہ میرک کے کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ برتن ہو سکتا ہے۔

بہر حال عطر کی ڈبیہ مراد لینا بہت ہی اچھا ہے پھر اس کے اندر عطر مخلوط ہو یا غیر مخلوط ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔

## آنحضرتؐ کثرت سے سر میں تیل لگاتے تھے

﴿۲۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحَ لِحْيَتِهِ  
 وَيُكْثِرُ الْقَنَاعَ كَانَ ثَوْبُهُ ثَوْبَ زِيَّاتٍ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک میں کثرت سے تیل استعمال کرتے تھے کثرت سے  
 داڑھی میں کنگھی کرتے تھے اور اکثر سر مبارک پر ایک کپڑا رکھتے تھے جو ایسا نظر آتا جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔ (شرح السنۃ)

## توضیح

”یکثر دهن“ یہاں سوال یہ ہے کہ تیل تو آنحضرتؐ زیادہ استعمال فرماتے تھے لیکن کثرت سے کنگھی سے تو آپ نے منع  
 فرمایا ہے یہاں کثرت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جس کثرت سے آپ نے منع فرمایا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے یہاں کثرت کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرتؐ  
 فی نفسہ کنگھی زیادہ استعمال فرماتے تھے یہ مطلب نہیں کہ ممنوعہ حد تک کنگھی کا استعمال فرماتے تھے سر میں کنگھی کے لئے تر جل

اور داڑھی میں کنگھی کرنے کے تسرع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔  
 ”ویکثر القناع“ پگڑی وغیرہ کے نیچے جس نرم کپڑے کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو قناع کہتے ہیں آنحضرت چونکہ سر میں تیل زیادہ استعمال فرماتے تھے اس لئے تیل لگانے کے بعد یہ نرم کپڑا پگڑی کے نیچے رکھتے تھے تاکہ پگڑی کو تیل نہ لگ جائے۔  
 ”کأن ثوبه“ ثوبہ میں جو ضمیر ہے یہ اسی قناع کے ثوب کی طرف راجع ہے یعنی جس نرم کپڑے کو آنحضرت پگڑی کے نیچے استعمال فرماتے تھے وہ کپڑا تیل میں اس طرح بھیگ جاتا تھا اور اس طرح چکنا رہتا تھا جس طرح تیل بیچنے والے آدمی کا کپڑا ہوتا ہے تیل بیچنے والے کے بدن کے کپڑے بھی چکنے ہو جاتے ہیں اور خاص کر اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہوتا ہے جس سے وہ ہاتھ صاف کرتا ہے وہ تیل میں تر تر رہتا ہے۔  
 بہر حال یہ ضمیر آنحضرت کے جسم مبارک پر پہنے ہوئے کپڑوں کی طرف نہیں لوٹتی ہے کیونکہ آنحضرت نظافت میں انظف الناس تھے۔ ملا علی قاری نے کچھ روایات بھی نقل فرمائی ہیں جن میں وضاحت اور تسرع کے ساتھ یہ ضمیر اسی قناع کی طرف لوٹائی گئی ہے۔

## نبی پاک کے گیسوئے مبارک

﴿۲۸﴾ وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ قَدَمَةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه

اور حضرت ام ہانیٰ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ فتح مکہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو اس وقت آنحضرت کے چار گیسو گندھے ہوئے تھے یعنی دو دائیں طرف تھے اور دو بائیں طرف۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

## توضیح

”قدمۃ“ یہ قدم کے لئے مفعول مطلق ہے قاف پر زبر ہے دال ساکن ہے میم پر زبر ہے ”ای مرة واحدة“ یعنی اس آمد سے فتح مکہ کی آمد مراد ہے۔ آنحضرت چار بار مکہ تشریف لائے ہیں عمرۃ القضاء میں پھر فتح مکہ کے دن پھر طائف کے پاس ہجرانہ سے آئے اور آخری بار حجۃ الوداع میں آئے ”غدائر“ یہ غدیرۃ کی جمع ہے اصل میں میندھنی کو کہتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ حفاظت کے پیش نظر آپ کے بال چار حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔

## آنحضرت کی مانگ کا ذکر

﴿۲۹﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا فَرَّقْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ صَدَعَتْ فَرْقُهُ عَنْ

يَا فَوْخِہَ وَاَرْسَلْتُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں میں مانگ نکالتی تو تالو پر سے بالوں کے دو حصے کر کے مانگ چیرتی اور آپ کی پیشانی کے بال دونوں آنکھوں کے درمیان چھوڑتی۔ (ابوداؤد)

توضیح

”فرقت“ فرق مانگ کو کہتے ہیں اور فرقت مانگ نکالنے کو کہا گیا ہے۔

”رأسہ“ یعنی سر کے بالوں میں مانگ نکالتی تھی ”صدعت“ صدع چیرنے کے معنی میں ہے مانگ نکالنے کے لئے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا مراد ہے۔

”یافوخہ“ یافوخ سر کے اس درمیانی حصے کو کہتے ہیں جہاں تالو ہوتا ہے بچپن میں یہ جگہ پھڑکتی رہتی ہے۔

”بین عینہ“ حضرت عائشہؓ مانگ نکالنے کی صورت یہ بتاتی ہیں کہ اس کا ایک سر تالو کے پاس ہوتا تھا اور دوسرا سر دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کے اوپر ہوتا تھا یہ تو مانگ کی صورت ہوگئی اب ناصیہ اور چوٹی کے بالوں کی کیفیت اس طرح بیان فرماتی ہیں کہ ناصیہ کے آدھے بال مانگ کی دائیں جانب ہوتے تھے اور آدھے بال مانگ کی بائیں جانب میں ہوتے تھے۔ حدیث کا یہی مفہوم ہے لیکن الفاظ کی تنگی ہے وضاحت پوری نہیں ہے۔

علامہ طبری فرماتے ہیں ”بین عینہ بحيث یكون نصف شعر ناصيته من جانب یمین ذلک الفرق والنصف الآخر من جانب یسار ذلک الفرق اه“

ملا علی قاری الفاظ کی تنگی اور باریک فرق کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں۔ ”وتأمل فیما بین القوسین من الفرق فانه فرق دقیق وبالتأمل حقیق لمن له توفیق“۔ (مرقات)

روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت

﴿۳۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرْجُلِ إِلَّا غَبًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت عبداللہ ابن مغفلؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا الا یہ کہ ایک روز ناغہ دے کر کنگھی کی جائے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

## توضیح

”الاغباء“ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ ”غب“ کا لفظ ہر اس کام کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کا کو ایک دن کیا جائے اور ایک دن چھوڑا جائے۔ کنگھی کے بارے میں بھی یہی مطلب ہے کہ سر اور داڑھی میں روزانہ کنگھی نہ کرو کیونکہ مسلمان اس آرائش اور زیبائش کے لئے پیدا نہیں ہے اور نہ یہ تکلفات اس کی زندگی کا حصہ ہیں کہ ہر وقت خواہ مخواہ کنگھی ہی کے پیچھے پڑا رہے اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ہر وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کرتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں یہ غلط ہے۔

امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرتؐ روزانہ دو مرتبہ کنگھی کرتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے البتہ عورتوں کا حکم الگ ہے علماء نے لکھا ہے کہ عورت ہر روز کنگھی کر سکتی ہے کیونکہ اس کا کام ہی کنگھی چوٹی بنانا ہے۔ بہر حال یہ اولیٰ غیر اولیٰ کا مسئلہ ہے کسی فرض یا حرام کا نہیں ہے تاہم آج کل نوجوان مرد اور عورتیں ایسے بے حیا ہو گئے ہیں کہ چلتے چلتے اٹھتے بٹھتے ہاتھ میں کنگھی ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں ایسی بے حیا عورتیں بھی نظر آرہی ہیں جو سڑک کے کنارے کھلے عام سر میں کنگھی کرتی چلی جا رہی ہیں۔

## زیادہ عیش کی زندگی چھوڑ کر کبھی ننگے پیر چلا کرو

﴿۳۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَالِي أَرَاكَ شَعْتًا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَرْفَاهِ قَالَ مَالِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حِذَاءً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت عبداللہ ابن بریدہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت فضالہ ابن عبیدؓ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں آپ کو پراگندہ بال (یعنی آپ کے بال بغیر کنگھی کئے ہوئے) دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیش و آرام کی زیادہ چیزیں اختیار کرنے سے ہمیں منع فرمایا کرتے تھے (اور کنگھی وتیل کا زیادہ استعمال بھی اسی میں شامل ہے) اس شخص نے پھر یہ پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں آپ کے پیروں میں جوتیاں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم کبھی کبھی ننگے پیر بھی پھرا کریں۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”شعنا“ پراگندہ بال کو کہتے ہیں اس میں زیادہ کنگھی نہ کرنے اور تیل نہ ڈالنے اور عیش کی زندگی ترک کرنے کی علامت تھی اس لئے جواب میں ”کثیر من الارفاه“ کے الفاظ آئے ہیں جس کا مفہوم عیش و آرام کی زندگی ہے کہ کھانوں پر کھانے

ہوں لباسوں پر لباس کی بھرمار ہو ”الارفاء التنعيم ومظاهرة الطعام على الطعام واللباس على اللباس“ (مرقات)

”ان نحتفی“ ننگے پاؤں چلنے کو اختفا کہتے ہیں اس سے جھانسی آتی ہے، پاؤں مضبوط ہو جاتے ہیں، تواضع اور انکساری آتی ہے اور ننگے پاؤں چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے جو بوقت مجبوری کام آتا ہے نیز مٹی کے ساتھ پاؤں کے تلوے لگنے سے ٹی بی کی بیماری سے بچاؤ ہوتا ہے ”احیاناً“ یعنی کبھی کبھی کا معمول ہو ہمیشہ نہ ہو۔

بہر حال ہر حال میں اعتدال بہترین حال ہے ۔

اپنی مٹی پہ تو چلنے کا سلیقہ سیکھو ☆ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے

اگر کوئی بال رکھے تو اس کا اکرام ضروری ہے

﴿۳۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ.  
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سر پر بال رکھے ہوئے ہو اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو اچھی طرح رکھے (یعنی ان کو دھویا کرے ان میں تیل لگایا کرے کٹھا کیا کرے اور مجنون شخص کی طرح ان کو نکھرا ہوا نہ رہنے دے کیونکہ نفاست و صفائی اور خوش بھنٹی ایک پسندیدہ و محبوب چیز ہے)۔ (ابوداؤد)

توضیح

بالوں کا اکرام یہ ہے کہ اس میں تیل ڈالا جائے، اس میں کنگھی کی جائے، اس کو بنوایا جائے۔ اسلام شائستگی اور تہذیب کا حکم دیتا ہے اور ہر چیز کو اس کا جائز مقام دیتا ہے اور ہر چیز میں افراط و تفریط سے پاک اعتدال کی تعلیم دیتا ہے بالوں میں ایسا بھی نہ ہو کہ ہر وقت اس کی خدمت میں آدمی لگا رہے لیکن اگر بال رکھے ہیں تو آدمی پر لازم ہے کہ اس کی دیکھ بال بھی کرے تاکہ معاشرہ میں رہتے سہنے کا قابل بن جائے۔

بہترین خضاب کونسا ہوتا ہے؟

﴿۳۳﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْجِنَّاءَ وَالْكَتَمَ.  
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کے ذریعہ بڑھاپے یعنی بالوں کی سفیدی کو تبدیل کیا جاسکتا ہے ان میں سب سے بہتر چیز مہندی اور وسہ ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

## توضیح

”الحناء والکتم“ کتم ایک قسم کی گھاس کا نام ہے جو موسمہ کیساتھ ملا کر بالوں کے خضاب کے کام میں لائی جاتی ہے بعض حضرات کا کہنا ہے کہ کتم خود موسمہ کو کہتے ہیں۔ اب زیر بحث حدیث کے سمجھنے کے لئے یہ دیکھنا ہے کہ آیا حناء اور کتم دونوں کو ملا کر خضاب کیا جائے یا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف مہندی یا صرف موسمہ کا الگ الگ خضاب کیا جائے۔

علامہ ابن اثیر جزری نے نہایت میں جو لکھا ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں صرف حناء یا صرف کتم کا خضاب کرنا مراد ہے انہوں نے بطور دلیل یہ کہا ہے کہ اگر مہندی کے ساتھ کتم کو ملا دیا جائے تو اس سے سیاہ خضاب نکل آتا ہے اور سیاہ خضاب کا استعمال کرنا احادیث صحیحہ کثیرہ کی وجہ سے منع ہے لہذا یہاں ”الحناء والکتم“ میں واؤ بمعنی ”او“ ہے جو تنویع کے لئے ہے اور تنویع کے لئے واؤ آتا رہتا ہے اب حدیث کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ خضاب کرنے والے کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مہندی سے خضاب کرے یا کتم کا خضاب استعمال کرے۔ مہندی کا خضاب سرخ ہوتا ہے اور صرف کتم کا خضاب سبز ہوتا ہے۔ علامہ ابن اثیر کی یہ تحقیق تو بہت ہی عمدہ ہے لیکن ملا علی قاری وغیرہ شارحین فرماتے ہیں کہ حدیث کی ساری روایات میں واؤ مذکور ہے ان تمام اسانید کو خلاف ظاہر پر حمل کرنا دشوار ہے اس لئے بعض دیگر شارحین کی تحقیق یہ ہے کہ اس حدیث میں واؤ بمعنی مع ہے اور حناء و کتم کے ملانے سے سیاہ رنگ نہیں آتا بلکہ سرخ مائل بسیا ہی رنگ پیدا ہو جاتا ہے جس کو براؤن بھی کہہ سکتے ہیں۔

میرے خیال میں دراصل الجھن یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ حضرات شارحین نے کتم کے بارے میں کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کیا ہے بعض حضرات نے کتم کو موسمہ کہا ہے جو کالا رنگ ہے بعض نے اس کو ایسی گھاس قرار دیا ہے جس سے سبز رنگ پیدا ہوتا ہے بعض نے کتم کو سرخ رنگ والا پودا قرار دیا ہے اب حدیث میں لفظ مہندی کے ساتھ جس شارح نے جس رنگ کو ملایا ہے اس نے ویسے ہی فیصلہ کر دیا ہے ملا علی قاری کے خیال میں کتم سے پیدا ہونے والے رنگ کالا ہوتا ہے پھر آپ نے ایک جامع کلام پیش کیا ہے جس سے تمام حضرات کے کلام میں اتفاق آ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کتم اور مہندی کے مخلوط خضاب کی مختلف نوعیت ہوتی ہے اگر کتم کے اجزاء مہندی پر غالب ہوں یا کتم اور مہندی دونوں برابر ہوں تو خضاب سیاہ ہوتا ہے جو ناجائز ہے جیسا کہ ابن اثیر نے نہایت میں اس مخلوط کو کالا قرار دیکر ناجائز کہہ دیا اور پھر واؤ کو ”او“ تنویع کے معنی میں لے لیا اور اگر مہندی کے اجزاء کتم کے اجزاء پر غالب ہوں تو خضاب کارنگ سرخ نکلتا ہے جو جائز ہے جیسا کہ دیگر شارحین نے لیا ہے اور واؤ کو اپنے اصل معنی پر رکھا ہے جو بمعنی مع ہے۔

## سیاہ خضاب کرنے والے کے لئے شدید وعید

﴿۳۴﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَجِدُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. • رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت ابن عباسؓ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آخر زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کبوتر کے پوٹے کی مانند اس سیاہی کے ذریعہ خضاب کریں گے (یعنی وہ جو خضاب استعمال کریں گے وہ ایسا ہی سیاہ ہوگا جیسے بعض کبوتروں کے پوٹے سیاہ ہوتے ہیں) ایسے لوگ جنت کی بھی نہیں پائیں گے۔ (ابوداؤد، نسائی)

### توضیح

”بہذا السواد“ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت کے زمانہ میں کوئی خاص سیاہ خضاب تھا اسی کی طرف اشارہ کیا یا مراد جنس سواد ہے ”کحواصل“ یہ حوصلہ کی جمع ہے پرندہ کے گلے اور گردن کے نیچے جو سینہ ہے اسی کو حوصلہ کہتے ہیں جہاں ابتداء میں غذا جمع ہو جاتی ہے بعض کبوتروں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ حصہ کالا ہوتا ہے عام میں ایسا نہیں ہوتا البتہ سیاہ اور سفید مخلوط رنگ اکثر کبوتروں میں ہوتا ہے شاید اسی سے تشبیہ ہو کیونکہ کالے رنگ کے باوجود کچھ بال سفید رہ جاتے ہیں۔

اس حدیث میں ان لوگوں کے لئے شدید وعید ہے جو دائرہ میں کالا خضاب کرتے ہیں اسی طرح مسئلہ عورتوں کے سر کے بالوں کا بھی ہے تعجب ان علماء پر ہے جو اس وعید کے باوجود کالے خضاب کی ترغیب دیتے ہیں اور دعوت چلاتے ہیں اور حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ سرخ جائز نہیں کالا خضاب کرو اور یہ جرات بھی کرتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت ”اجتنبوا السواد“ کا جملہ صحیح نہیں ہے۔

”لا یجدون رائحة الجنة“ اگر اس کو جائز سمجھتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں تو جنت کی خوشبو حرام، اور اگر صرف اس پر عمل کرتے ہیں تو میدان محشر میں جنت کی خوشبو دیگر مسلمانوں کو پہنچتی رہیگی یہ لوگ محروم ہونگے یا یہ تشدید و تہدید و تغلیظ پر محمول ہے بہر کیف سیاہ خضاب کا حرام ہونا اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے۔

## زرد خضاب کرنا جائز ہے

﴿۳۵﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لَحْيَتَهُ بِاللُّورِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. • رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دباغت دیئے ہوئے اور بغیر بال کے چڑے کی پاپوش پہنتے



تھے اور اپنی ریش مبارک پر ورس (ایک گھاس جو یمن کے علاقہ میں ہوتی تھی) اور زعفران کے ذریعہ زرد رنگ چڑھاتے تھے نیز حضرت ابن عمرؓ بھی ایسا ہی کرتے تھے (یعنی مذکورہ پاپوش پہننے اور مذکورہ خضاب استعمال کرتے)۔ (نسائی)

۱۱” دباغت شدہ کھال کو جس کے بال اکھیڑ کر کھال صاف کی گئی ہو سبتیہ کہتے ہیں۔

﴿۳۶﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا قَالَ فَمَرَّ آخَرُ وَقَدْ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصُّفْرِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلُّهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا جس نے مہندی کا خضاب لگا رکھا تھا آپ نے فرمایا اس کا خضاب کتنا اچھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک اور شخص گزرا جس نے مہندی اور سہمہ کا خضاب لگا رکھا تھا جو خالص سیاہ نہیں تھا آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ خضاب پہلے سے بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص گزرا جس نے زرد خضاب لگایا تھا آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ ان سب سے زیادہ اچھا ہے۔ (ابوداؤد)

”بال حناء والکتَم“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والکتَم میں وادع کے مع میں ہے جیسا کہ پہلے بھی اسی کو رائج قرار دیا گیا ہے۔

﴿۳۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالزُّبَيْرِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے یعنی بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعہ بدل ڈالو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو جو خضاب نہیں کرتے۔ (ترمذی) اور نسائی نے اس روایت کو ابن عمرؓ اور زبیرؓ سے نقل کیا ہے۔

### مومن کے سفید بال نورانیت کا سبب ہیں

﴿۳۸﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّبِعُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عمرو ابن شعیبؓ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ چنو کیونکہ بڑھاپا (یعنی بالوں کا سفید ہونا) مسلمانوں کے لئے نورانیت کا سبب ہے جو شخص حالت اسلام میں

بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ (یعنی جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے) تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کی ایک خطا کو محو کر دیتا ہے۔ اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”لا تَسْتَفُوا“ سفید بال نوچنے کی ممانعت ہے کیونکہ یہ انوار الہی کا مظہر ہے اور مؤمن کا وقار ہے تو اس کا بڑھنا اچھا ہے نوچنا اچھا نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا اس سفید ریش کی داڑھی کے بال مصباح، ٹارچ اور روشنی کا کام دیں گے۔ ﴿۳۹﴾ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت کعب ابن مرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوتا ہے اس کا بڑھا ہوا قیامت کے دن نور کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ (ترمذی، نسائی)

## آنحضرتؐ کے جمہ، لمہ اور وفرہ کے بال

﴿۴۰﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَةِ وَذُوْنُ الْوُفْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے (یعنی پانی سے بھرا ہوا ایک ہی برتن، ہم دونوں کے درمیان رکھا رہتا تھا) اور آنحضرتؐ کے سر کے بال جمہ کے اوپر اور وفرہ کے نیچے ہوتے تھے۔ (نسائی)

## توضیح

”من اناء واحد“ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک برتن سے باری باری الگ الگ غسل فرماتے ایک ساتھ مراد میں ہے اور اگر ایک ساتھ مراد لیا جائے تو بیچ میں پردہ ہوگا جیسے چادر لٹکا دی تو ایک طرف مرد ایک طرف عورت بیچ میں برتن، یارات کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے وہ وقت مراد ہے حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ میں نے زندگی میں آنحضرتؐ کا ستر نہیں دیکھا۔ تو آنحضرتؐ تو ان سے بھی زیادہ حیادار تھے۔

”لہ شعر فوق الجمۃ“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مختلف اوقات میں مختلف انداز کے ہوتے تھے احادیث میں آپ کے سر کے بالوں کے لئے تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں پہلا لفظ جمۃ ہے جم پر پیش ہے میم پر شد ہے یہ سب سے لمبے بال ہوتے ہیں جو کندھوں تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا لفظ لَمَّة ہے لام پر زیر ہے میم مشدہ ہے یہ درمیانہ توسط

درجہ کے بال ہوتے ہیں جو کندھوں کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد تیسرا نمبر لفظ وافرہ ہے واد پر زبر ہے فاساکن ہے ر پر زبر ہے یہ سب سے چھوٹے بالوں کو کہا جاتا ہے جو کان کی لوتک پہنچ جاتے ہیں، اس مجموعہ کے لئے ”جلو“ کا لفظ یاد رکھنا چاہئے یعنی جمہ لمہ وافرہ، اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف ترقی ہے۔

علامہ طبری فرماتے ہیں ”الوفرة الشعرة الى شحمة الاذن والحمة الى المنكب واللمة التي المت بالمنكبين“ (طبری ج ۸ ص ۲۵۹)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں:

بدانکہ موئے سرسہ نام دارد (۱) جمہ (۲) وافرہ (۳) لمہ، جمہ موئے تادوش وافرہ تا نرمہ گوش ولمہ بین بین اصح در تفسیر این الفاظ این است الخ۔ (ج ۳ ص ۶۲۰)

حدیث کو آسانی سے سمجھنے کے لئے یوں سمجھیں کہ جمہ سب سے لمبے بال ہوتے ہیں اور وافرہ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں اور لمہ متوسط ہوتے ہیں۔ فوق الجمہ کا مطلب یہ کہ کامل جمہ سے کچھ اوپر تھے جمہ کی حد تک نہیں آتے تھے اور ”دون الوفرة“ میں دون ادون کے معنی میں ہے یعنی وافرہ سے کچھ نیچے تھے تو کندھوں سے کچھ اوپر اور کان کی لو سے کچھ نیچے متوسط درجہ کے تھے جو لمہ کہلاتا ہے اور یہی بیان کرنا مقصود ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں دون الجمہ فوق الوفرة کے الفاظ آئے ہیں جو اس بالا مطلب کو واضح کرتے ہیں کہ جمہ سے کم اور وافرہ سے زیادہ جو لمہ کا درجہ ہے۔

شیخ عبدالحق کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے دیگر مطالب بھی بیان کئے جاتے ہیں مگر صحیح یہی تفسیر ہے ویسے جمہ کا لفظ مطلق بالوں پر بھی بولا جاتا ہے جیسے ساتھ والی خریم کی روایت میں ہے۔

## مردوں کے لئے زیادہ لمبے بال اچھے نہیں ہیں

﴿۳۱﴾ وَعَنِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعَمَ الرَّجُلُ خُرِيمٌ الْأَسَدِيُّ لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ خُرِيمًا فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن حنظلہؓ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص ہیں روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوں اور اس کا تہ بند لگتا ہو نہ ہو۔ جب خریم کو

آنحضرت کے اس ارشاد کا علم ہوا تو انہوں نے ایک استر لے کر اپنے بالوں کو کانوں کی لوؤں تک کاٹ ڈالا اور اپنے تہ بند کو

آدھی پنڈلیوں تک کر لیا۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”الاسدی“ ہمزہ پر زبر ہے اور سین ساکن ہے یہ لفظ حقیقت میں ازدی ہے اور ازدی سے مراد ازد و شعوۃ ہے ازد بن غوث یمن کے ایک قبیلہ کے دادا کا نام ہے قاموس میں لکھا ہے کہ ازد کے لفظ سے اسد کا لفظ زیادہ واضح ہے مدینہ کے اکثر انصاری اسی شخص ازد بن غوث یا اسد بن غوث کی نسل سے تھے اس لفظ سے قبیلہ اسد مراد نہیں۔ آنحضرتؐ نے خرم کی تعریف بھی کی اور ایک نقص پر آگاہ بھی کیا اس نے نقص کو فوراً دور کیا تعلیم دینے والے کے دینے کا کیا، کہنا اور تعلیم لینے والے کا کیا کہنا ان کے بال ضرورت سے زیادہ لمبے تھے؟

حج اور عمرہ میں سر منڈانا افضل ہے اس کے علاوہ بال رکھنا افضل ہے بشرطیکہ نمائش و زیبائش مقصود نہ ہو مسلمان ہر وقت مجاہد ہوتا ہے اور مجاہد سر کے بال منڈا نہیں سکتا لڑنا مشکل ہو جاتا ہے نیز بالوں سے کافر ڈرتے ہیں تبلیغ کا ایک بزرگ محمد احمد اپنے بیانات میں کہتا رہتا ہے کہ لمبے بال لوگ اس لئے رکھتے ہیں کہ قیامت کے روز فرشتوں کو اس کے پکڑنے اور دوزخ میں پھینکنے میں آسانی ہو یہ شخص مجاہدین اور جہاد کا دشمن ہے۔ حضور اکرمؐ نے ہمیشہ بال رکھے ہیں پوری عمر میں چار یا پانچ مرتبہ منڈائے ہیں قیامت میں فرشتوں کے پکڑنے کے لئے کیا صرف بال ہونگے کیا ہاتھ پاؤں گردن اور کمر اور دیگر اعضاء نہیں ہوں گے اگر صرف بال ہیں تو پھر داڑھی کو بھی صاف کرلو۔

## برکت کے بال

﴿۴۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِي ذُؤَابَةٌ فَقَالَتْ لِي أُمِّي لَا أَجْزُهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُدُّهَا وَيَأْخُذُهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میرے سر پر لمبے بال تھے میری والدہ کاٹنے سے منع کرتی تھیں کیونکہ آپ ان بالوں کو کھینچتے تھے اور پکڑتے تھے لہذا میں برکت حاصل کرنے کے لئے ان بالوں کو یونہی چھوڑ دوں گی۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”ذوابة“ زلف کو کہتے ہیں ”لا اجزها“ ای لا اقطعها، میں اس کو نہیں کاٹوں گی اس لئے کہ آنحضرتؐ کے مبارک ہاتھ اس پر لگے ہیں تو یہ برکت والے بال ہیں اسی طرح حضرت حذیفہؓ کے سر پر آنحضرتؐ نے طائف کے موقع پر ہاتھ پھیرا تھا آپ نے زندگی بھر اس کو رکھا۔ حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی کے ہاتھ حضرت احمد علی لاہوری کی داڑھی کے بالوں پر لگے تھے آپ نے زندگی بھر داڑھی کے بالوں کو قینچی سے کم نہیں کیا جب بیٹھتے تھے تو داڑھی ناف تک پہنچ جاتی تھی یہ برکت

کے بال ہوتے ہیں اسلام میں سر کے بال رکھنے کی ممانعت نہیں بلکہ بال نہ رکھنے کا عقیدہ خوارج کا بتایا گیا ہے۔ تبلیغی جماعت کا ایک بزرگ محمد احمد صاحب بال رکھنے کے خلاف آج کل بیانات دے رہا ہے اس شخص کو جہاد اور مجاہدین سے عداوت اور دشمنی ہے شاید دشمنوں کے اشارہ پر یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے۔

## ضرورت کے پیش نظر سر کے بال منڈا دینا جائز ہے

﴿۴۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ آلِ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ أَنَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَيَّ أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي فَجِئْتُ بَنِي أَخِي فَأَخْرَجَهُمْ فَقَالَ ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُؤُسَنَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت عبد اللہ ابن جعفرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی اولاد کو تین دن کی مہلت دی (یعنی جب حضرت جعفر طیار کی شہادت کی خبر آئی تو آپ نے ان کے گھر والوں کو تین دن تک رونے دھونے اور سوگ کرنے کی اجازت دی) اور اس عرصہ میں آپ ان کے ہاں تشریف نہیں لائے پھر آپ ان لوگوں کو تسلی و دلاسا دینے کے لئے ان کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ بس آج کے بعد میرے بھائی جعفرؓ پر مت رونا پھر فرمایا کہ میرے بھتیجوں (یعنی عبد اللہ، عونؓ اور محمدؓ جو جعفرؓ کے لڑکے ہیں) میرے پاس لے کر آؤ چنانچہ ہم سب آپ کی خدمت میں لائے گئے اور اس وقت ہم چوزوں کی طرح (یعنی بہت کمسن تھے) اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نائی کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ (جب نائی آگیا) تو آپ نے اس کو ہمارے بال مونڈنے کا حکم دیا اور اس نے ہمارے سروں کو مونڈا۔ (ابوداؤد، نسائی)

## توضیح

حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی اور آنحضرت کے محبوب پچازاد بھائی تھے، غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے، اسماء بنت عمیس کے شوہر تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم رہ گئے تھے، ایک کا نام عبد اللہ تھا دوسرے کا نام عون اور تیسرے کا نام محمد تھا، انہیں کے سروں کے منڈانے کے لئے آنحضرت نے نائی کو بلوایا اور ان کے سر کے بال ترشوائے شاید صفائی کی غرض سے ایسا کیا معلوم ہوا کہ بال رکھنا بھی جائز ہے اور ضرورت کے پیش نظر منڈانا بھی جائز ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے قلبی غم الگ چیز ہے اس پر پابندی نہیں ہو سکتی ہے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ تین دن گزرنے کے بعد تعزیت کرنا جائز نہیں ہے۔

## لڑکیوں کا ختنہ

﴿۴۴﴾ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبُعْلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ هَذَا  
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَرَأَوِيهِ مَجْهُولٌ

اور حضرت ام عطیہ انصاریؓ کہتی ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جو عورتوں کا ختنہ کیا کرتی تھی۔ جیسا کہ اس زمانہ میں عورتوں کے ختنہ کا بھی رواج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس عورت سے فرمایا کہ نہ کو زیادہ مت کاٹا کرو بلکہ تھوڑا سا اوپر سے کاٹ دیا کرو کیونکہ یہ یعنی زیادہ نہ کاٹنا عورت کے لئے بھی بہت لذت بخش ہوتا ہے۔ اور مرد کو بھی بہت پسندیدہ ہوتا ہے یعنی اگر اس کو زیادہ کاٹ دیا جائے تو جماع میں نہ عورت کو لذت ملتی ہے اور نہ مرد کو ابوداؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے راوی مجہول ہیں۔

## توضیح

”لا تنہکی“ یعنی ختنہ کرنے میں مبالغہ نہ کرو بلکہ ضروری حصہ کو معمولی طور پر کاٹ دو۔ یہ کم کاٹنا طریفین کے جماع کی لذت میں معاون ہے زیادہ نہیں، عرب کے ممالک چونکہ گرم تھے عورتوں کے اندام نہانی میں چربی نما گوشت ابھر کر آتا تھا اس کو کاٹ دیا جاتا تھا یہی لڑکیوں کا ختنہ تھا، اذا جاوز الختان الختان کی حدیث سے بھی اس ختنہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ احد کے میدان میں حضرت حمزہ نے ایک کافر پر حملہ کرتے ہوئے فرمایا ”یا ابن مقطعة البظور“ اے ختنہ کے کاروبار کرنے والی عورت کے بیٹے۔ ان روایات سے لڑکیوں کے ختنہ کا ثبوت ملتا ہے لیکن یہ گرم ممالک کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں اس مسئلہ کو بیان نہیں کرنا چاہئے اہل بدعت پروپیگنڈہ کریں گے تماشہ ہو جائے گا اس کا یہاں کوئی ماہر بھی نہیں نیز یہ کوئی شرعی مامور اور ضروری حکم بھی نہیں ہے گرم ممالک میں شوافع اس کام کو کرتے ہیں بس یہ کافی ہے وہ مٹھائی اور دعوت بھی کھلاتے ہیں لیکن اہل بدعت جو اہل حق کو اس کی وجہ سے بدنام کرتے ہیں وہ بہت ظلم کرتے ہیں کسی عالم نے اپنی طرف سے یہ عمل تو ایجاد نہیں کیا ہے احادیث میں اس کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی عالم اس سے متعلق کوئی تحقیق بیان کرے تو کونسا جرم ہے؟

## عورتوں کے لئے بالوں میں مہندی لگانا جائز ہے

﴿۴۵﴾ وَعَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ هَمَامٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ خِصَابِ الْحَنَاءِ فَقَالَتْ لَا بَأْسَ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ رِيحَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت کریمہ بنت ہمام سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہؓ سے سر کے بالوں پر مہندی کا خضاب کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اگرچہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی کیونکہ میرے محبوب یعنی آنحضرت اس کی بو کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ (ابوداؤد، نسائی)

## توضیح

”یکرہ ریحہ“ یہ سر کے بالوں کی بات ہوگی ورنہ ہاتھوں پر مہندی لگانے کو آنحضرت نے عورتوں کے لئے پسند بھی کیا اور ترغیب بھی دی ہے جیسا کہ آئندہ آ رہا ہے اس حدیث میں حضرت عائشہ عام عورتوں کے لئے سر کے بالوں میں مہندی لگانے کو جائز قرار دے رہی ہیں۔ لہذا اگر عورتیں سر کے بالوں میں مہندی کا خضاب کرنا چاہیں تو جائز ہے البتہ سیاہ خضاب جائز نہیں۔

## عورتوں کیلئے ہاتھوں پر مہندی لگانا مستحب ہے

﴿۴۶﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايَعْنِي فَقَالَ لَا أَبَايَعُكَ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفِّيكِ فَكَانَتْهُمَا كَفًّا سَبْعَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عتبہ کی بیٹی ہندہ نے جب یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی! مجھ کو بیعت کر لیجئے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو مہندی لگا کر ان کی رنگت کو متغیر نہ کر لو گی میں تم سے زبانی بیعت نہیں لوں گا۔ تمہارے ہاتھ مہندی کے بغیر ایسے ہیں کہ جیسے درندے کے ہاتھ ہیں۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”ان ہنداً“ ہندہ بنت عتبہ حضرت ابوسفیان کی بیوی اور حضرت معاویہ کی ماں ہیں، جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت کی اصل محرکہ یہی تھی پھر فتح مکہ کے دن اسلام لائی تھیں اور مختلف غزوات میں حصہ لیا۔ یہ بیعت شاید بیعت اسلام کے علاوہ کوئی بیعت تھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانا مستحب ہے اور اسے ترک کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں بھی مردوں سے ایک قسم کی مشابہت آتی ہے اسلام گھریلو نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے اس لئے عورت کو ہر قسم زینت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شیطان اور اس کی شاخ این جی اوز مسلمانوں کے گھریلو نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور بیوی کو مرد بنا کر شوہر کے مقابل لاکھڑا کرتا ہے۔

﴿۴۷﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ أَوْمِتِ امْرَأَةً مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ بَيْدِهَا كِتَابَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَيْدُرْجُلِي أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتَ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ يَعْنِي بِالْحِنَاءِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت نے پردہ کے پیچھے سے اپنے ہاتھ کے ذریعہ اشارہ کیا جس میں ایک پرچہ تھا

جو کسی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا یعنی اس عورت نے پردہ کے پیچھے سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ پرچہ آنحضرت کو دینا چاہا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا؟ اس عورت نے عرض کیا کہ یہ ہاتھ عورت کا ہے آپ نے فرمایا اگر تم عورت ہو تیں تو اپنے ناخن کی رنگت کو مہندی کے ذریعہ ضرور تبدیل کرتیں۔ (ابوداؤد، نسائی)

## توضیح

”اومت امرأة“ یہ لفظ اصل مادہ کے اعتبار سے اومات ہے تخفیف کی غرض سے دوسرے ہمزہ کو حذف کر دیا گیا ہے اشارہ کے معنی میں ہے ”بیدھا کتاب“ یہ جملہ امرأة کے لئے صفت واقع ہوا ہے یعنی اس عورت کے ہاتھ میں ایک لکھا ہوا پرچہ تھا شاید کوئی مسئلہ معلوم کر رہی تھی ”فقبض النبی“ یعنی آنحضرت نے ہاتھ بڑھانے کے بعد پیچھے کھینچ لیا اس حدیث سے پہلے جو حدیث گذری ہے اس سے اور زیر بحث دونوں حدیثوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت نے بیعت وغیرہ میں عورتوں کے ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے تھے حالانکہ متعدد صحیح اور صریح روایات میں حضرت عائشہؓ سے اس کی نفی فرماتی ہیں لہذا زیر بحث دونوں حدیثوں میں یہ تاویل ہوگی کہ آنحضرت نے پہلے ارادہ کیا کہ ہاتھ سے بیعت لے لیں پھر آپ نے صرف زبان سے بیعت لی یا ہاتھ پر آستین لپیٹ کر ایسا کیا ہوگا تاکہ عورتوں کو برکت حاصل ہو جائے آنحضرت امت کی عورتوں اور مردوں کے باپ کے درجہ میں تھے جس طرح حضرت ابن مسعودؓ کی قرأت میں ہے ﴿النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتہم وھو ابوہم﴾ لیکن اس کے باوجود آنحضرت نے مکمل احترام کیا ہے اور اجنبی عورتوں سے پردہ کیا ہے اور کسی عورت کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا ہے۔

﴿۳۸﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَمِصَّةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ملانے والی اور ملوانے والی یعنی اپنے بالوں میں انسانی بالوں کو جوڑ لگانے اور لگوانے والی اور بالوں کو چننے والی اور چنوانے والی نیز بغیر کسی مرض کے گودنے اور گدوانے والی یہ سب عورتیں ملعون قرار دی گئی ہیں۔ (ابوداؤد)

”من غیر داء“ یعنی یہ امور بدرجہ مجبوری بطور علاج جائز ہیں ورنہ تغیر خلق اللہ کی وجہ سے ناجائز ہیں الفاظ کی تشریح گذر چکی ہے۔

مردوں اور عورتوں کا لباس میں التباس باعث لعنت ہے

﴿۳۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ



وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو زنانہ لباس پہنے اسی طرح اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ جو مردانہ لباس پہنے۔ (ابوداؤد)

توضیح

”لعن“ مردوں کا لباس الگ رنگ میں ہوتا ہے اور عورتوں کا الگ رنگ اور ذی ان میں ہوتا ہے اب اگر مرد نے عورتوں والا سرخ لباس پہن لیا تو یہ ان کے لئے باعث لعنت ہے یا عورت نے مردوں والا مثلاً سفید لباس پہن لیا یہ ان کے لئے باعث لعنت ہے اسی طرح مردوں کی طرح ٹوپی یا واسکت عورت کے لئے جائز نہیں ہے خواہ وہ یونیفام کے تحت مجبور ہو یا شوق و ذوق میں مخمور ہو وہ عورت ہے اس کو مردانہ وضع قطع سے احتراز کرنا چاہئے اسی طرح مردوں کو زنانہ وضع قطع سے احتراز کرنا چاہئے ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل جائیں گے اور لعنت کے مستحق بن جائیں گے۔

﴿۵۰﴾ وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ النُّعْلَ قَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابوملیکہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کو بتایا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتے پہنتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ (ابوداؤد)

توضیح

”الرجلة“ رجل مذکر ہے رجلة مؤنث ہے اس سے مراد وہ عورت ہے جو بول چال، رنگ ڈھنگ، وضع قطع اور رہن سہن میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے یہ مذموم حرکت ہے جو باعث لعنت ہے لیکن جو عورت علم و دانش اور عقل و رائے اور حکمت و دانائی میں مردوں کی مشابہت رکھتی ہے وہ مشابہت مذموم نہیں ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔ ”كانت عائشة رجلة الرأي“ یعنی حضرت عائشہؓ کی رائے اور عقل مردوں کی طرح تھی۔ رجلة میں جیم پر پیش ہے۔

آنحضرت نے اپنے اہل بیت کے لئے سادہ زندگی پسند فرمائی

﴿۵۱﴾ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَاطِمَةُ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ وَقَدْ عَلَّقَتْ مَسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلَى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلَيْبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ فَظَنَّتْ أَنَّ مَامَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأَى

فَهَتَكِ السِّرَ وَفَكَّتِ الْقُلُبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَقَطَعَتْهُ مِنْهُمَا فَأَنْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيَانِ فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا ثَوْبَانُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى آلِ فُلَانٍ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا يَا ثَوْبَانُ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ وَسَوَارِينَ مِنْ عَاجٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو اپنے اہل و عیال کے لوگوں میں سب سے آخری وقت حضرت فاطمہ کو عطا کرتے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہؓ کے ہاں جاتے یعنی سفر کے لئے رواگی کے وقت آپ پہلے دیگر اہل بیت سے الوداعی ملاقات فرماتے پھر ان سب سے فارغ ہو کر اور سب کو رخصت کر کے آخر میں حضرت فاطمہؓ کے پاس تشریف لے جاتے ان سے جو کچھ کہنا سننا ہوتا کہتے سنتے اور جو کوئی وصیت و نصیحت کرنی ہوتی وہ کرتے اور ان کو خدا حافظ کہہ کے روانہ ہو جاتے اور پھر جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہؓ کے ہاں تشریف لے جاتے اور سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے چنانچہ ایک مرتبہ آنحضرتؐ ایک جہاد کے سفر سے واپس آئے تو اس وقت حضرت فاطمہؓ نے اپنے مکان کے دروازے پر ناٹ کا پردہ لٹکا رکھا تھا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ پردہ آرائش کی خاطر لٹکایا تھا کیونکہ اگر پردہ کی ضرورت کی خاطر لٹکایا ہوتا تو آنحضرتؐ کو کوئی ناگواری نہیں ہوتی نیز انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کو چاندی کے دو کڑے پہنا رکھے تھے یعنی ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کڑا یا دو دو کڑے پہنا رکھے تھے جب آنحضرتؐ اپنے معمول کے مطابق سفر سے واپسی میں سب سے پہلے حضرت فاطمہؓ کی ملاقات کے لئے ان کے گھر تشریف لائے اور یہ چیزیں دیکھیں تو آپ ان کے گھر میں داخل نہیں ہوئے حضرت فاطمہؓ سمجھ گئیں کہ جس چیز نے آنحضرتؐ کو میرے گھر میں داخل ہونے سے روکا وہ یہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے یعنی دروازہ پر پردہ لٹکنا اور حسنؑ اور حسینؑ کے ہاتھوں میں کڑے کا ہونا چنانچہ حضرت فاطمہؓ نے فوراً پردہ کو پھاڑ ڈالا اور دونوں صاحبزادوں کے ہاتھ سے دونوں کڑوں کو اتار لیا اور ان کو توڑ ڈالا پھر دونوں صاحبزادے ان ٹوٹے ہوئے کڑوں کو لے کر روتے ہوئے آنحضرتؐ کی خدمت میں گئے آپ نے کڑوں کو ان دونوں سے لے لیا اور مجھ سے فرمایا کہ ثوبانؓ ان کڑوں کو لے جا کر فلاں شخص کے گھر والوں کو دے آؤ یعنی آپ نے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی شخص کا نام لے کر فرمایا کہ اس کے گھر والوں کو دے آؤ کیونکہ وہ محتاج و ضرورت مند تھے چونکہ یہ دونوں بچے میرے اہل بیت میں سے ہیں اس لئے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ دنیاوی زندگی میں بہترین غذا کھائیں یعنی میرے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ میرے یہ بچے بہترین غذاؤں اور نفیس پوشاک و اسباب سے لذت و فائدہ اٹھائیں یا آپ نے بہترین غذا سے عیش و آرام کی زندگی اختیار کرنا اور دنیا کی لذتیں حاصل کرنا مراد لیا نیز آپ نے اس ارشاد کے ذریعہ گویا یہ واضح فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں اس چیز کو اختیار کرتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں فقر و ہمدردی و

مشقت کی زندگی اپنائیں تاکہ آخرت میں ان کے درجات بلند ہوں اور ان کا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذہبتم طیباً نکم فی حیوۃکم الدنیا لیکن اس کے ساتھ ہی آنحضرت چشم تصور سے اپنی لخت جگر فاطمہ کی شکستہ دلی کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اس لئے ان کے تئیں شفقت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ثوبانؓ فاطمہؓ کیلئے عصب کا ایک ہار اور دونوں بچوں کے لئے ہاتھی دانت کے دو کڑے خرید لینا تاکہ فاطمہ کی بھی دلجوئی ہو جائے اور بچوں کی اشک شوئی ہو جائے۔ (احمد، ابوداؤد)

## توضیح

”آخر عہدہ بانسانِ فاطمہؓ“ یعنی آنحضرت جب کسی سفر یا جہاد کے لئے تشریف لے جاتے تو سارے اہل بیت کی عورتوں سے الوداعی ملاقات کے بعد آخر میں حضرت فاطمہؓ سے ملاقات کر کے سفر پر چلے جاتے اور واپسی میں سب سے پہلے حضرت فاطمہؓ ہی سے ملاقات فرماتے، یہ صرف عورتوں کا معاملہ بیان کیا گیا ہے مردوں کا نہیں ہے ”من غزاة“ اصل مادہ غزوة ہے واو الف سے بدل دیا گیا ہے ”علقت“ یہ تعلق سے ہے لٹکانے کے معنی میں ہے ”مسحاً“ ٹاٹ کو کہتے ہیں ”اوستراً“ اوشک کے لئے ہے ”ستر“ پردہ کو کہتے ہیں ”وَحَلَّتْ“ یہ بھی باب تفعیل سے زیور پہنانے کے معنی میں ہے۔ ”قلبین“ قاف پر ضمہ ہے لام ساکن ہے با پرزبر ہے قلب مفرد ہے ای سوارین یعنی چاندی کے دو ٹنگن پہنائے تھے ”فکت“ الگ کرنے اور توڑنے کے معنی میں ہے ”وقطعتہ منہما“ یہ جملہ ما قبل کلام کے لئے عطف تفسیر کے طور پر ہے یعنی دونوں ٹنگن ان کے جسم سے اتار کر دونوں کو توڑ ڈالا ”فأخذہ منہما“ یعنی آنحضرت نے یہ منظر دیکھا تو اور ان دونوں کی حالت پر ترس آگیا یعنی دونوں پر ترس کھایا شفقت و رحمت آئی۔ یہ ترجمہ بہت عمدہ ہے لیکن ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے بلکہ یہ ترجمہ ہے کہ حضور اکرمؐ نے ان دونوں سے وہ ٹوٹے پھوٹے ٹنگن لے لئے اور حضرت ثوبانؓ کو دیئے ”الی فلان“ یعنی وہ فقیر لوگ ہیں ان کو دیدو۔ ”اکرہ“ یہ جملہ تعلیل کے محل میں بھی ہو سکتا ہے تو عبارت اس طرح ہوگی ”ای لانی اکرہ ان یا کلو“ یا یہ استیناف کے موقع میں ہے عبارت اس طرح ہوگی ”ان ھؤلاء ای الحسن والحسین وعلیا وفاطمہ اھل بیتی واکرہ ان یا کلو“ یعنی یہ عمدہ اشیاء صدقہ کر لو اور یہ درم لیکر بازار سے فاطمہ کے لئے عصب کا ہار لاؤ تاکہ اسکی دلجوئی ہو جائے اور حسنین کے لئے دو ٹنگن ہاتھی دانت کے لے آؤ تاکہ ان کی اشک شوئی ہو جائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹنگن حضرت فاطمہ کے تھے آپ نے حسنین کو پہنا دیئے تھے۔

”عصب“ یعنی عصب کا قلابہ خرید لو، شارحین حدیث اس بارے میں سخت تشویش میں ہیں کہ عصب سے کیا چیز مراد ہے جس سے قلابہ بنایا جاتا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ یمن میں بننے والا ایک کپڑا ہے جس کے کچھ اجزا سے ہار بنائے جاتے ہیں

مگر شارحین لکھتے ہیں کہ کپڑے سے ہار بنانا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لہذا علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ میں نے اہل یمن سے سنا ہے کہ عصب ایک دریائی حیوان کے دانتوں کو کہتے ہیں جن سے بہترین سفید ہار بننے ہیں اس حیوان کو فرس فرعون کہتے ہیں۔ اھ

میں نے ابھی پچھلے جون ۲۰۰۵ء میں زامبیا لوسا کا میں کفوئے کے دریا میں بیشمار فرس فرعون دیکھے اس کو جاموس البحر بھی کہتے ہیں اور خنزیر البحر بھی کہتے ہیں یہ بھینس کی طرح ہے اس کا منہ گھوڑے کی طرح ہے اور اس کا باقی جسم خنزیر کی طرح ہے بہت بڑا ہے چھ منٹ تک پانی کے اندر غوطہ لگائے رہتا ہے اور جب سر باہر کرتا ہے تو ایک زوردار مکروہ آواز نکل آتی ہے عصب کے ہار اس کے دانتوں سے بنائے جاتے ہوئے۔

”عاج“ ہاتھی کے دانتوں سے کنگن بنائے جاتے ہیں یہ ہڈی ہے اس کا استعمال احناف کے نزدیک جائز ہے عاج کے اس مشہور معنی کو چھوڑ کر غیر مشہور معنی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آنحضرت نے اپنے اہل بیت کے لئے دنیا کی کٹھن زندگی کو پسند فرمایا تا کہ آخرت کی ساری راحتیں اور نعمتیں محفوظ رہ جائیں اور اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا کی وعید سے بچ جائیں۔

### سرمہ لگانے کا مسنون طریقہ اور اشمہ کے فوائد

﴿۵۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مُكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہانی سرمہ برابر لگایا کرو کیونکہ وہ سرمہ بینائی کو روشن کرتا ہے۔ اور بالوں یعنی پلکوں کو اگاتا ہے جو آنکھوں کی زیبائی و حفاظت کی ضامن ہوتی ہیں حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لمبی سرمہ دانی تھی جس سے آپ روزانہ رات میں تین بار اس آنکھ میں اور تین بار اس آنکھ میں سرمہ لگاتے تھے یعنی مسلسل تین سلائی دائیں آنکھ میں اور تین بائیں آنکھ میں لگاتے تھے۔ (ترمذی)

### توضیح

”اِثْمِد“ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اشمہ مطلق سرمہ کو کہا جاتا ہے لیکن احادیث کے پیش نظر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اشمہ ایک مخصوص معدنی سرمہ کو کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اشمہ ایک مخصوص قسم اصفہانی سرمہ ہے جو آنکھوں سے بہنے والے پانی کو روکتا ہے اور آنکھ کے زخم کے لئے مفید ہے نیز آنکھ کی سوزش کو دفع کرتا ہے اور آنکھ کی روشنی والی رگوں کو طاقت بخشتا ہے چھوٹے بچوں اور بوڑھوں کے لئے بطور خاص مفید ہے زیر بحث حدیث میں اس کے دو فوائد کا ذکر ہے ایک یہ کہ

پلکوں کے بالوں کو بڑھاتا ہے جس سے آنکھ کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور خوبصورتی بھی آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اشد سرمہ آنکھوں کی نگاہ کو تیز کرتا ہے سرمہ لگانے کا ایک طریقہ اس حدیث میں ہے کہ تین سلائیاں ایک آنکھ میں پھیر لی جائیں اور تین دوسری میں، رات کا وقت اس لئے منتخب کیا گیا ہے کہ اس میں زیادہ دیر تک سرمہ آنکھوں میں رہتا ہے ”مکحلة“ لمبی سرمہ دانی کو کہتے ہیں یعنی کل کا ظرف۔

### چند مفید دواؤں کا ذکر

﴿۵۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بِالْإِثْمِدِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ قَالَ وَقَالَ إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدُّودُ وَالسَّعُوطُ وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشْيُ وَخَيْرَ مَا كَتَحَلْتُمْ بِهِ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ وَإِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمُ سَبْعِ عَشْرَةٍ وَيَوْمُ تِسْعِ عَشْرَةٍ وَيَوْمُ أَحَدَى وَعَشْرَيْنَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ غُرِجَ بِهِ مَامَرٌّ عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے ہر آنکھ میں اصفہانی سرمہ کی تین تین سلائیاں لگایا کرتے تھے۔ نیز حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم علاج کے لیے جن چیزوں کو اختیار کرتے ہو ان میں بہترین چیزیں چار ہیں ایک تولدود، دوسرے سعوط، تیسرے حجامۃ اور چوتھے مشی۔ آنکھوں کے لگانے کی چیزوں میں بہترین چیز اصفہانی سرمہ ہے جو بینائی کو روشن کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو جماتا ہے۔ نیز بھری ہوئی سیلنگی کھنچوانے کے لئے چاند کی سترھویں، انیسویں، اور اکیسویں تاریخ بہترین دن ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو فرشتوں کی کوئی بھی ایسی جماعت نہیں تھی جس کے پاس سے آپ گزرے ہوں اور اس نے یہ نہ کہا ہو کہ بھری ہوئی سیلنگی کھنچوانا آپ کے لئے ضروری ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

### توضیح

”ان خیر ما تداویتم“ یعنی بہترین اور مفید دوائیں چار ہیں (۱) لدود، یہ ہر وہ دواء ہے جو مریض کے منہ میں باجھوں کے ذریعہ سے ٹپکائی جائے۔ (۲) سعوط، یہ وہ دوا ہے جو مریض کی ناک میں ٹپکائی جائے (۳) حجامہ کھنچنے لگوانے اور سیلنگی کھنچوانے کو کہتے ہیں یعنی خون نکالنا (۴) المشی، یہ ہر اس دست آور دوا کو کہتے ہیں جس کے استعمال کے بعد دست جاری ہو جاتے ہیں آدمی کا پیٹ بھی چلنے لگتا ہے اور خود آدمی بھی بیت الخلا کی طرف بار بار دوڑ کر جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو

المشی کہد یا گیا ”وان خیر ما“ یعنی سینگ کی کھنچوانے کے بہترین ایام ہر ماہ کی سترہ انیس اور اکیس تاریخیں ہیں یہ معتدل ایام ہیں جن میں خون میں اعتدال رہتا ہے۔ کتاب الطب میں مزید وضاحت آئے گی ان شاء اللہ۔

## حمام استعمال کرنے کا ذکر

﴿۵۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا بِالْمَيَازِرِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو حمام میں جانے سے منع فرمادیا تھا پھر بعد میں آپ نے مردوں کو اس صورت میں جانے کی اجازت دے دی تھی جب کہ ان کے جسم پر تہ بند ہو۔ (ترمذی، ابوداؤد)

## توضیح

”الحمامات“ ہر زمانہ میں حمام کا نظام الگ الگ رہا ہے پہلے زمانہ میں ایک مکان میں ایک ساتھ غسل کرنے کا اہتمام ہوتا تھا اس میں گرم پانی ہوتا تھا مرد اور عورتیں ایک ساتھ اس میں نہاتے تھے اس لئے ابتدا میں آنحضرت نے مردوں اور عورتوں کو اس میں جانے سے منع فرمادیا اس کے بعد مردوں کو جانے کی اجازت دیدی مگر عورتوں کی پابندی برقرار رہی کیونکہ عورتیں اگرچہ تنہا حمام میں جائیں پھر بھی عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے پردہ نہیں کرتی ہیں مردوں کو ایسے مشترکہ حمام میں غسل کے لئے جانے کی یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وہ ناف سے لیکر گھٹنے تک ازار بند باندھ رکھے آج کل سوئمنگ پول اور دیگر پانی کے حوضوں اور نہروں میں مشترکہ طور پر برہنہ ہو کر غسل کرنا پرانے حمامات کی ایک نئی شکل ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ بے حیا اور اخلاق سوز ہے کیونکہ یہ سوئمنگ پول غسل کے لئے نہیں بلکہ کچھ اور مقاصد کے لئے تیار کئے جاتے ہیں۔

## عورتیں مشترکہ حمامات میں نہ جائیں

﴿۵۵﴾ وَعَنْ أَبِي الْمَلِیحِ قَالَ قَدِمَ عَلَى عَائِشَةَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمَاصٍ فَقَالَتْ مَنْ أَتَتْ قُلْنَ مِنْ الشَّامِ قَالَتْ فَلَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاءُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَ بَلَى قَالَتْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَحْلُعُ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا، وَفِي رِوَايَةٍ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتِ سِتْرَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابولیح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ کی خدمت میں ملک شام کے شہر حمص کی کچھ عورتیں آئیں۔ حضرت

عائشہؓ نے ان سے پوچھا تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام کی، حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ شاید تم اس علاقہ کی رہنے والی ہو جہاں کی عورتیں حمام میں جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تب حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بھی عورت اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کہیں اور کپڑے اتارتی ہے تو گویا وہ اس پردہ کو چاک کر دیتی ہے جو اس کے اور اللہ عزوجل کے درمیان ہے۔ یعنی اس روایت میں فی بیت غیر زوجہا کے بجائے فی بیتہا کے الفاظ ہیں۔ (ترمذی، ابوداؤد)

## توضیح

”الکورة“ کورہ کاف پر پیش ہے شہر اور کنارہ اور علاقہ کے معنی میں ہے ”لاتخلع“ کپڑے اتارنے کے معنی میں ہے ”هتکت الستر“ پردہ چاک کرنے کے معنی میں ہے مراد ادب اور حیا کا پردہ چاک کرنا ہے ”ای حجاب الحیاء وجلباب الادب“۔

”وبین ربہا“ کیونکہ عورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پابند ہے کہ وہ پردہ کرے اور اجنبی مرد اس کو نہ دیکھ سکے بلکہ عورت کے لئے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی خالی جگہ میں اپنے بدن کو ننگا کرے۔

﴿۵۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَتَسْتَجِدُّونَ فِيهَا بَيُوتًا يُقَالُ لَهَا الْحَمَامَاتُ فَلَا يَدْخُلُهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُذْرِ وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نَفْسَاءً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب تمہیں عجم کی سرزمین پر فتح حاصل ہوگی جہاں تمہیں ایسے گھر ملیں گے جن کو حمام کہا جائے گا لہذا خبردار ان میں مردتہ بند کے بغیر داخل نہ ہوں۔ اور عورتوں کو تو ان میں داخل ہونے سے بالکل منع کر دینا الایہ کہ کوئی عورت بیمار ہو یا نفاس کی حالت میں ہو۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”النساء“ یعنی مردوں کو اجازت ہے کہ وہ ازار بند باندھ کر حمام میں جا کر غسل کریں مگر عورتوں کو ازار بند باندھے ہوئے بھی مشترکہ حماموں میں جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کے پورے جسم کا پردہ ہے۔

ہاں اگر کوئی شرعی عذر اور اخلاقی مجبوری ہو کہ عورت بیمار ہو اور حمام استعمال کرنے سے علاج کر رہی ہو یا نفاس کی حالت میں ہو اور غسل کی ضرورت ہے تو یہ صورتیں مستثنیٰ ہیں بچے کی ولادت کے بعد چالیس دن تک عورت نفاس میں رہتی ہے۔

جو شخص ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے وہ مشترکہ حمام میں نہ جائے

﴿۵۷﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ تُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بغیر تہ بند کے حمام میں داخل نہ ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی عورت کو حمام میں داخل نہ ہونے دے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو۔ (ترمذی، نسائی)

توضیح

”بغیر ازار“ یعنی ازار بند کے ساتھ جانا جائز ہے لیکن برہنہ بدن جانا منع ہے اسی طرح اپنی بیوی کو حمام لے جانا منع ہے یہ بات یاد رکھیں کہ آج کل عورتوں کے ایسے حمامات بنے ہوئے ہیں جہاں ایک چھوٹے سے کمرہ میں علیحدہ غسل کی جگہ ہوتی ہے وہاں حمام میں عورت برہنہ ہو کر جاسکتی ہے کیونکہ وہاں نہ مرد ہوتے ہیں اور نہ عورتیں ساتھ ہوتی ہیں وہ مشترکہ حمام نہیں ہے حدیث میں مشترکہ حمام کی ممانعت کا ذکر ہے۔ ”یدار“ یعنی ایسا دسترخوان ہو جس پر شراب کا دور چل رہا ہو وہاں بیٹھنا حرام ہے۔

### الفصل الثالث

آنحضرتؐ نے سرمبارک میں کبھی خضاب نہیں کیا

﴿۵۸﴾ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعْدَشَ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ وَقَدْ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حضرت ثابتؓ سے روایت ہے کہ حضرت انسؓ ابن مالکؓ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آنحضرتؐ کے سرمبارک میں سفید بالوں کی تعداد شمار کرنا چاہتا تو یقیناً شمار کر لیتا یعنی آپ کے سرمبارک میں چند ہی بال سفید تھے اس صورت میں آپ کو خضاب کرنے کی کیا ضرورت تھی چنانچہ آپ نے کبھی خضاب نہیں کیا ایک روایت میں حضرت انسؓ نے یا حضرت انسؓ سے ثابتؓ نے یہ عبارت مزید نقل کی کہ حضرت ابوبکرؓ نے مہندی اور وسوسہ کا خضاب استعمال کیا اور حضرت عمرؓ نے صرف مہندی کا خضاب استعمال کیا۔ (بخاری، مسلم)



## توضیح

”شمطاط“ شمطط کی جمع ہے سفید اور سیاہ بالوں کے سنگم کو شمطط کہتے ہیں ”ای بیاض شعر الرأس یخالطه سواد الحناء و الکتم“ یعنی مخلوط خضاب استعمال کیا۔ ”بھتا“ یعنی صرف خالص مہندی کا خضاب کیا مخلوط استعمال نہیں کیا۔

## آنحضرتؐ نے زرد خضاب استعمال کیا ہے

﴿۵۹﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ حَتَّى يَمْتَلِيَ ثِيَابَهُ مِنَ الصُّفْرِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرِ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبِغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبِغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

اور حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی داڑھی پر زرد خضاب کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی زرد آلود ہو جاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ زرد خضاب کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ریش مبارک پر زرد خضاب کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کے نزدیک داڑھی پر خضاب کرنے کے لئے زرد رنگ سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں تھی، نیز آنحضرتؐ اپنے تمام کپڑے یہاں تک کہ عمامہ کو بھی زرد رنگ دیتے تھے۔ (ابوداؤد، نسائی)

## توضیح

زرد خضاب سے ورس کے ذریعہ خضاب کرنا مراد ہے یہ زعفران کے مشابہ رنگ ہوتا ہے آنحضرتؐ نے ریش مبارک میں اس کا استعمال فرمایا ہے کپڑوں میں آنحضرتؐ نے زرد رنگ استعمال نہیں کیا ہے۔ نہایہ میں لکھا ہے کہ مختار قول یہ ہے کہ کبھی کبھی آنحضرتؐ نے بالوں کو رنگا ہے اکثر رنگ نہیں کیا ہے لہذا ہر راوی نے اپنے اپنے علم کی بنیاد پر بیان کیا ہے کسی نے کہا آنحضرتؐ نے رنگ نہیں کیا کسی نے کیا کہا ہے نیز آپ کا خضاب قلیل ہوتا تھا تو چاہو یہ کہو کہ خضاب نہیں کیا یعنی کثیر نہیں کیا اور چاہو تو کہو کہ خضاب کیا یعنی قلیل کیا۔ ”ثیابہ“ قصد اعمد آپؐ نے کپڑوں اور عماموں کو کبھی زرد رنگ میں نہیں رنگا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے ہاں اگر بغیر قصد و ارادہ عمامہ اور قمیص کو زرد رنگ لگا ہو وہ الگ بات ہے۔

## آنحضرتؐ کے بال

﴿۶۰﴾ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن موبہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک نکال کر دکھایا جو رنگین تھا۔ (بخاری)

”محضوباً“ یعنی وہ ایک بال خضاب شدہ رنگین تھا یہ اسی قلیل خضاب پر محمول ہے جس کی وجہ سے یہ بال رنگین تھا یا عطریات کی شیشی میں زیادہ دیر تک رکھنے سے بال رنگین ہو گیا تھا یا رنگین معلوم ہو رہا تھا۔

### ایک مخنث کو آنحضرت نے شہر بدر کر دیا

﴿۶۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخْنَثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرَجَلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ فَقَالَ إِنِّي نُهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخنث کو لایا گیا۔ جس نے عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ پیر پر مہندی لگا رکھی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یہ شخص اپنے رہن بہن بول چال، اور طور طریقوں میں عورتوں کی مشابہت کرتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت نے اس کو شہر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا اور اس کو مدینہ کے ایک جگہ نقیع میں بھیج دیا گیا پھر صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس کو موت کے گھاٹ نہ اتار دیں یعنی چونکہ یہ فسق و فساد اور برائی کی گند پھیلا رہا ہے اس لئے اگر آپ حکم دیں تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو نماز پڑھنے والوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔ (ابوداؤد)

### توضیح

”النقیع“ عوالی مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے۔ مخنث کو اس لئے شہر بدر کیا کہ وہ تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو عورتوں کے مشابہ بنا رہا تھا اور اس طرح کرنا حرام ہے۔ ”الانقتلہ“ یعنی صحابہ کرام نے سمجھا کہ جب اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے اس کو شہر مدینہ سے نکال دیا تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے اسی لئے انہوں نے قتل کرنے کے بارے میں سوال کیا آپؐ نے منع فرمایا اور وجہ یہ بتائی کہ یہ مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے اور مجھے نمازیوں کے قتل سے روکا گیا ہے۔

### مرد کے لئے خلوق استعمال کرنا ممنوع ہے

﴿۶۲﴾ وَعَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصِبْيَانِهِمْ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبُرْكَهَةِ وَيَمْسَحُ رُءُوسَهُمْ فَجِئَءَ بِيَّ إِلَيْهِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمَسِّنِي مِنْ أَجْلِ الْخُلُوقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ولید ابن عقبہؓ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر فتح حاصل ہوئی اور آپ مکہ شہر میں رونق افروز ہوئے تو مکہ والوں نے اپنے بچوں کو آنحضرت کی خدمت میں لانا شروع کیا۔ چنانچہ آنحضرت ان بچوں کیلئے برکت کی دعا کرتے اور پیار و شفقت سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اس موقع پر مجھے بھی آنحضرت کی خدمت میں لایا گیا لیکن چونکہ میرے بدن پر زعفران وغیرہ کی بنی ہوئی خوشبو غلوں لگی ہوئی تھی اس لئے آپ نے مجھ کو غلوں آلودہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگایا۔ (ابوداؤد)

غلوں چونکہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے مردوں کے لئے جائز نہیں اس لئے آنحضرت نے ہاتھ نہیں لگایا۔

اگر کسی کے بال ہوں تو اس کی دیکھ بھال ضروری ہے

﴿۶۳﴾ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَارِجَ لَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْرَمُهَا قَالَ فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهْنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْرَمُهَا. رَوَاهُ مَالِكٌ

اور حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے سر کے بال مونڈھوں تک ہیں۔ کیا ان میں کنگھا کیا کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور ان کی تکریم بھی کیا کرو یعنی ان میں تیل وغیرہ لگا کر ان کی دیکھ بھال کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم کے اس ارشاد ہاں اور ان کی تکریم کیا کرو کی تعمیل میں حضرت ابو قتادہؓ اکثر دن بھر میں دو مرتبہ اپنے بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے۔ (مالک)

توضیح

”واکرمہا“ یعنی اپنے بالوں کا اکرام کرو، اس جملہ سے حضرت ابو قتادہؓ نے استفادہ کیا اور بالوں کی خوب دیکھ بھال شروع کی یہاں تک کہ دن میں دو مرتبہ کنگھی کرتے تھے یہ زیب و زینت کے لئے نہ تھا نہ اپنی کوئی ذاتی خواہش تھی بلکہ آنحضرت کے حکم کی تعمیل میں ایسا کرتے تھے اس لئے یہ جائز بلکہ محمود قرار پایا۔

غیر مسلموں کی وضع قطع اختیار کرنا منع ہے

﴿۶۴﴾ وَعَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَحَدَّثَنِي أَخِي الْمُغِيرَةُ قَالَتْ وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَكَ قُرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ فَمَسَحَ رَأْسَكَ وَبَرَكَ عَلَيْكَ وَقَالَ احْلِقُوا هَٰذَيْنِ أَوْ قُصُّوهُمَا فَإِنَّ هَٰذَا زِيَّ الْيَهُودِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت حجاج ابن حسانؓ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ یعنی میں اور میرے گھر کے کچھ افراد حضرت انسؓ ابن مالک کی

خدمت میں حاضر ہوئے اس دن کے واقعہ کو مجھ سے میری بہن نے بیان کیا جن کا نام مغیرہ ہے یعنی اس وقت میں بچہ تھا اور مجھے اس دن حضرت انسؓ کی خدمت میں حاضر ہونا تو یاد ہے لیکن اس حاضری کی کیفیت اور وہاں جو احوال پیش آئے ان کی تفصیل مجھے یاد نہیں ہے۔ چنانچہ میری بہن نے مجھے بتایا کہ تم ان دنوں بچے تھے اور تمہارے سر پر دو گندھے ہوئے گیسو یا دو گچھے تھے حضرت انسؓ نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور تمہارے حق میں برکت کی دعا کی نیز فرمایا کہ ان دونوں کو منڈواؤ الویا کاٹ ڈالو کیونکہ یہ یہودیوں کی وضع ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح

”فحدثنی“ حجاج بن حسان اپنے بچپن کا قصہ سناتے ہیں کہ ہم جب حضرت انس کے ہاں داخل ہوئے تو وہاں کیا ہوا اس کا قصہ میری بہن نے مجھے بتا دیا کیونکہ میں چھوٹا تھا داخل ہونا یاد تھا لیکن دیگر احوال کا علم نہیں تھا وہ میری بہن نے بیان کئے۔ بہن نے کہا کہ تم اس وقت چھوٹے تھے تیرے سر میں بالوں کے دو گندھے ہوئے گیسو تھے یا دو گچھے تھے یہ شک راوی کو ہوا ہے قصتان پیشانی کے اوپر والے بالوں کو کہتے ہیں۔

### عورت کو اپنے سر کے بال منڈانا حرام ہے

﴿۶۵﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی عورت اپنا سر منڈائے۔ (نسائی)

توضیح

عورت کے لئے سر کی بالوں کی وہی حیثیت ہے جو مردوں کے لئے داڑھی کی ہے جس طرح مردوں کو داڑھی منڈانا حرام ہے عورتوں کے لئے سر کے بال منڈانا حرام ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے لکھا ہے کہ یورپ میں عورتوں نے سر منڈانا شروع کیا ڈاکٹر لوگوں نے بھی حامی بھری کچھ عرصہ بعد ان عورتوں کی داڑھیاں نکل آئیں تب ڈاکٹروں نے کہا کہ غلطی ہو گئی کہ فطرت کے خلاف فیصلہ کیا چونکہ عورت کے جسم کی پوری قوت غریزی کا زور سر کے بالوں پر پڑتا ہے جس سے بال لمبے ہو جاتے ہیں اور حرارت خارج ہوتی ہے جب عورتوں نے سر کے بال کٹوا دیئے تو جسمانی حرارت چہرہ کی طرف متوجہ ہوئی تو داڑھیاں نکل آئیں۔

### سر اور داڑھی کے بال بکھرا ہوا ہونا تہذیب کے خلاف ہے

﴿۶۶﴾ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ نَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِاصْلَاحِ شَعْرِهِ

وَلِحَيِّتِهِ فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ نَائِرُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ

اور حضرت عطاء ابن یسارؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبویؐ میں تشریف فرما تھے کہ ایک ایسا شخص آیا جس کے سر کے اور داڑھی کے بال پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر اس کے سر اور داڑھی کی طرف اپنے دست مبارک سے اس انداز میں اشارہ کیا جیسے آپ اس کو یہ حکم دے رہے ہوں کہ وہ اپنے سر کے بالوں اور داڑھی کو سنوارے چنانچہ اس شخص نے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو سنوارا اور پھر واپس آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں آئے کہ اس کے سر کے بال پراگندہ ہوں اور وہ ایسا دکھائی دے جیسے کوئی شیطان جن ہو یعنی اس نے اس اپنی شکل و صورت ایسی بنا رکھی ہو جیسے کوئی جن اپنے بال بکھرے ہوئے اور بد ہیئت شکل و صورت میں رکھتا ہے۔ (مالک)

”نائر الرأس“ پراگندہ بال جس میں نہ کنگھی ہو نہ تیل ہونہ کچھ ہونہ کچھ ہو۔ ”کانہ شیطان“ معلوم ہوا شیطان بڑا غیر مہذب، بد تہذیب اور ہر برائی کو کرنے والا ہے۔

### گھر کے صحن کو صاف رکھو

۶۷ ﴿وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَظْفُؤْ أَرَاهُ قَالَ أَفْنَيْتُكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمَهْجَرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَظْفُؤْ أَفْنَيْتُكُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابن مسیبؓ (تابعی) سے روایت ہے کہ ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکی پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہایت ستھرا ہے ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے کرم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت نئی اور عطا کرنے والا ہے سخاوت و عطا کو پسند کرتا ہے۔ لہذا تم صاف ستھرا رکھو۔ (حضرت ابن مسیبؓ سے روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ ابن مسیبؓ نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے صحنوں کو یعنی انہوں نے نظفؤا کے بعد افنیتکم کا لفظ بھی کہا تھا گویا اس جگہ پورا جملہ یہ ہے کہ تم اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں کے صحن و آنگن کو کوڑے کرکٹ سے ناپاک و گندہ رکھتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسیبؓ کا یہ قول حضرت مہاجر بن مسمارؓ تابعی کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عامر بن سعدؓ (تابعی) نے اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ صحابی سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے لیکن

مہاجر نے جو حدیث نقل کی اس میں انہوں نے یہ نقل کیا کہ تم اپنے گھروں کے صحن کو صاف ستھرا رکھو یعنی ان کی روایت میں افینیکم کا لفظ صریحاً مذکور ہے جب کہ ابن مسیب کی روایت میں یہ لفظ لگمان کے درجہ میں نقل کیا گیا ہے۔  
”افینیکم“ گھر کے صحن مراد ہے نیز گھر کے سامنے اور ارد گرد اطراف و جوانب بھی مراد ہیں۔

### بڑھاپا عظمت اور وقار ہے

﴿۲۸﴾ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيْفَ الضَّيْفِ وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتِنَ وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَارًا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا . رَوَاهُ مَالِكٌ .

اور یحییٰ ابن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید ابن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم جو اللہ کے دوست تھے سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے مہمان کی مہمانداری کی یعنی مہمان کی پذیرائی و مہمانداری کی ابتداء انہوں ہی نے کی وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے ختنہ کیا وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی منہیں کتریں اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا کہ میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا کہ ابراہیم یہ وقار ہے یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافہ کا باعث اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے اور اس کی وجہ سے انسان ابھولعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ پروردگار یہ تو تیری بہت بڑی نعمت ہے لہذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ (مالک)

### توضیح

یہ سب اوائل ابراہیم علیہ السلام ہیں یعنی سب سے اول آپ نے اس پر عمل کیا۔ چند اوائل ابراہیم یہ ہیں۔ (۱) ناخن کا ثنا (۲) مانگ نکالنی (۳) زیر ناف بالوں میں استرا استعمال کرنا (۴) پانچواں پہننا (۵) مہندی اور رسمہ کا خضاب لگانا (۶) منبر پر خطبہ دینا (۷) خدا کی راہ میں جہاد کرنا (۸) لشکر کو پانچ حصوں میں تقسیم کرنا جس کو خمیس کہتے ہیں اور اسے دشمن کے سامنے کھڑا کرنا (۹) لوگوں کے ساتھ معافتہ کرنا (۱۰) شہید تیار کر کے لوگوں کو کھلانا (۱۱) بیت اللہ کی بنیادیں ڈالنا (۱۲) مہمان نوازی کرنا (۱۳) احکام حج کے طریقے بتلا دینا (۱۴) داڑھی کا سفید ہونا۔

الحمد للہ آج بروز جمعہ ۱۸ شعبان ۱۴۲۲ھ مطابق ۲۲ ستمبر ۲۰۰۵ء میں بندہ باب الترجل کی تحریر سے رات پونے ایک بجے فارغ ہوا یہ تحریر کراچی میں اپنے گھر میں ہوئی ہے باب الترجل جیسا مشکل باب میرے خیال میں اس سے پہلے کوئی نہیں گذرا اس کی احادیث نے میری کمر جھکالی مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میں اس کے لکھنے سے فارغ ہو گیا۔

## باب التصاویر

## تصویروں کا بیان

تصاویر تصویر کی جمع ہے کسی چیز کی صورت بنانے کو تصویر کہتے ہیں خواہ مجسمہ کی صورت میں ہو یا ہاتھ کی کشیدہ کاری سے ہو یا کیمرہ و مشین اور شعاعوں کے ذریعہ سے ہو سب کو تصویر کہہ سکتے ہیں اس باب میں جن تصاویر کا بیان ہے ان سے جاندار کی تصاویر مراد ہیں کیونکہ شریعت جائز اور ناجائز سے گفتگو کرتی ہے اور ناجائز تصاویر وہی ہیں جو جاندار کی ہوں غیر جاندار اشیاء کی تصاویر اسلام میں منع نہیں ہیں۔

باب التصاویر کی احادیث میں جن جاندار تصاویر کا بیان کیا گیا ہے اس میں پردوں پر تصویروں کی ممانعت کا تذکرہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تصاویر کی ممانعت کا تعلق صرف مجسموں سے نہیں ہے بلکہ جاندار حیوان کی ہر قسم تصاویر حرام ہیں خواہ ہاتھ سے بنائی گئیں ہوں یا کوئی اور ذریعہ استعمال کیا گیا ہو جاندار کی تصاویر کی حرمت کی دو وجہ ہیں (۱) حرمت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جاندار کی تصاویر میں تخلیق خداوندی سے مشابہت ہے (۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ تصاویر کے راستہ سے ہمیشہ شرک آیا ہے اور آئینہ بھی آئے گا۔ آج کل لوگ آغا خان کی تصویر کو پوجتے ہیں، خمینی کی تصاویر کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، الطاف حسین کی تصاویر کو ان کے چاہنے والے سجدہ لگاتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا ہوں تو جو لوگ تصاویر کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟

بت پرستی دین احمد میں ابھی آئی نہیں  
اس لئے تصویر جاناں ہم نے کھجوائی نہیں

## الفصل الاول

رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے جہاں شوقیہ کتابیا تصاویر ہوں

﴿عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں کتاب ہو۔ (بخاری، مسلم)

## توضیح

”الملائكة“ اس سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں جو گھروں میں آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور رحمت خداوندی کے باعث بنتے ہیں جن سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں ملائکہ سے یہاں وہ فرشتے مراد نہیں ہیں جو انسان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں یا نامہ اعمال کے لکھنے پر مامور ہیں یا روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ تو ہر حال میں آتے ہیں۔

”کلب“ اس سے مراد شوقیہ کتاب ہے شریعت نے جن کتوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت دی ہے وہ کتے مراد نہیں ہیں مثلاً گھر کی حفاظت کا کتاب یا شکاری کتاب یا ریوڑ اور کھیت کی حفاظت کا کتاب ایسے کتے یہاں مراد نہیں ہیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حدیث میں جو حکم ہے اس میں عموم ہے کہ گھر میں مطلق کتا رکھنا منع ہے خواہ شوقیہ ہو یا ضرورت کا ہو دونوں صورتوں میں رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے ہیں (کذا قال النووی) تاہم یہ قول شاذ ہے۔

”ولا تصاویر“ یہ عطف ہے کلب کے لفظ پر اور چونکہ کلب کا جملہ نفی کے ماتحت ہے تو لا تصاویر کا عطف اعادہ عامل کے ساتھ صحیح ہو گیا اصل عبارت اس طرح بن گئی ”لا تدخل الملائكة بیتا فيه تصاویر“۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ”واعادة لا كاعادة الفعل“ یعنی لا تصاویر میں لا کا اعادہ ایسا ہی ہے گویا لا تدخل الملائكة میں فعل کا اعادہ ہو گیا ”فلیتدبر فانه دقيق“۔

گویا اس حدیث کا مطلب اور مسند احمد و ترمذی کی حدیث کا مطلب ایک ہی ہے اس کی عبارت اس طرح ہے ”ان الملائكة لا تدخل بیتا فيه تماثيل او صورة“۔ بہر حال حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا اور گھر میں رکھنا حرام ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے خواہ یہ تصویر کپڑے پر بنائی گئی ہو یا نقود اور نوٹوں سکوں پر بنائی گئی ہو یہ تو بنانے کھینچوانے کی بات ہے باقی گھر میں رکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اگر بطور اعزاز و احترام گھر کی دیواروں پر ہو یا عمامہ اور چادر پر ہو یا کوٹ اور بنیان پر ہو یہ سب حرام ہے ہاں جو تصاویر معزز و مکرم نہ ہوں بلکہ مہان و مند اس ہوں کہ نیچے نیچے ہوئے فرش پر یا تکیہ پر ہوں اور اس کی تذلیل ہو رہی ہو تو اس کو اس طرح گھر میں رکھنا حرام نہیں ہے (کذا فی المرقات)

اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اخبارات کی تصاویر جو بطور اہانت زمین پر پڑی رہتی ہیں شاید اس کی حرمت شدید نہیں ہوگی ماہر علماء کی طرف رجوع ضروری ہے۔ واللہ اعلم

ہمارے ملک کے سرکاری اداروں میں بطور اعزاز بانی پاکستان محمد علی جناح کی تصاویر لٹکانا حرام ہیں ان دفاتر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے نوٹوں پر جو تصاویر ہیں یہ ایوب خان کے زمانہ میں شروع ہو گئیں تھیں اس کا گناہ حکومت پر ہے کیونکہ عام لوگ بطور اعزاز ان کو نہیں رکھتے ہیں مجبوری ہے۔

غیر ضروری اور شوقیہ کتوں کا مارڈالنا ضروری ہے

﴿۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا وَقَالَ إِنَّ



جِبْرِئِلَ كَانَ وَعْدَنِي اَنْ يَلْقَانِي الْلَيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي اَمَّا وَاللّٰهِ مَا اخْلَفَنِي ثُمَّ وَقَعَ فِيْ نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَّهٗ فَاَمَرَ بِهٖ فَاُخْرِجَ ثُمَّ اَحْذَبِيْدَهٗ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهٗ فَلَمَّا اَمْسَى لَقِيَهٗ جِبْرِئِلُ فَقَالَ لَقَدْ كُنْتُ وَعَدْتَنِي اَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ قَالَ اَجَلَ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ فَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَاَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتّٰى اِنَّهٗ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَاظِطِ الصَّغِيْرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَاظِطِ الْكَبِيْرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابن عباسؓ ام المومنین حضرت میمونہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس و غمگین نظر آئے اور اس اداسی و غمگینی کا سبب بیان کرتے ہوئے میمونہؓ سے یا کسی اور زوجہ مطہرہؓ سے یا اپنے دل میں یا اظہار تعجب و حیرت کے طور پر خود اپنے سے آپؐ نے فرمایا کہ حضرت جبرئیلؑ نے آج کی رات میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ میرے پاس نہیں آئے خدا کی قسم اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہو پھر اچانک آپؐ کے ذہن میں کتے کے اس پہلے کا خیال آیا جو آپ کے خیمے یعنی کسی تخت یا ٹاٹ وغیرہ کے نیچے پڑا تھا چنانچہ آپؐ سمجھ گئے کہ حضرت جبرائیلؑ اسی پہلے کی وجہ سے میرے پاس نہیں آئے اور آپؐ نے اس پہلے کو نکال دینے کا حکم دیا جب وہ پلا وہاں سے نکال دیا گیا تو آپؐ نے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر اس جگہ پر چھڑکا جہاں وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا پھر جب شام ہوئی تو حضرت جبرائیلؑ آنحضرتؐ کے پاس آئے اور آپؐ نے ان سے پوچھا کہ آپؐ نے تو گزشتہ شب میں مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا؟ حضرت جبرائیلؑ نے فرمایا کہ ہاں لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتیا تصویر ہو اس کے بعد دوسرے دن صبح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا یہاں تک کہ چھوٹے باغات کے کتوں کو بھی مار ڈالنے کا حکم دے دیا اور بڑے باغات کے کتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا کیونکہ ان باغات کی حفاظت کے لئے کتوں کا رکھنا ضروری تھا۔ (مسلم)

## توضیح

عرب معاشرہ میں بھی شوقیہ کتوں کے پالنے کا رواج ہو گیا تھا جس طرح دیگر دنیا میں تھا ابتداء اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے مارنے کا مطلقاً حکم دیا تھا جب لوگوں کے دلوں میں کتوں کی نفرت بیٹھ گئی تب آنحضرتؐ نے ضرورت کے پیش نظر چند کتوں کے پالنے کی اجازت دیدی۔ زیر بحث حدیث میں وہی ابتدائی دور کا نقشہ ہے کہ آنحضرتؐ نے عام کتوں کے مارنے کا حکم دیا تھا ہاں بڑے باغ کی حفاظت والے کتے کی ضرورت کے پیش نظر اجازت دیدی تھی یہ بھی دوسرا مرحلہ تھا ورنہ اس سے پہلے تو کسی کتے کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کتوں کے مفاسد کا آج کل اندازہ ہوتا ہے مغرب اور یورپ کے اکثر گھروں میں عورتیں کتوں کو شوہر کے درجہ میں پالتی ہیں اور ان سے شوہر کا کام لیتی ہیں ابھی چند ماہ قبل ہندوستان میں ایک عورت نے اعلانیہ طور پر کتے سے شادی کر لی اور نکاح پڑھایا گیا۔

”جر و کلب“ کتے کے چھوٹے بچے کو جر و کتے ہیں جس کا ترجمہ پلا ہے (کو کرے)۔  
 ”فسطاط“ اس کا ترجمہ خیمہ ہے لیکن اصل واقعہ کے اعتبار سے یہ کوئی ٹاٹ یا چارپائی یا کوئی تخت تھا جس کے نیچے پلا چھپا ہوا تھا۔ ”الحائط“ کھجور و انگور وغیرہ کے بڑے باغ کو کہتے ہیں۔

### حضور اکرم تصاویر والی چیز کو توڑ ڈالتے تھے

﴿۳﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيْبُ الْأَنْقَضَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز نہ چھوڑتے تھے جس پر تصویر ہو اور آپ اس کو توڑ نہ ڈالتے ہوں۔ (بخاری)

”تصالیب“ اس کا مفرد تصلیب ہے جس کا معنی صلیب کی تصویر بنانا ہے۔ جو عیسائیوں کی مقدس علامت ہے لیکن یہاں تصالیب سے مراد مطلق جاندار کی تصویر ہے جو ممنوع ہے حضور اکرم اگر ایسی تصویر کو دیکھتے تو فوراً توڑ ڈالتے تھے کیونکہ۔

بت پرستی دین احمد میں ابھی آئی نہیں  
 اس لئے تصویر جاناں ہم نے کھجوائی نہیں

### جہاں تصویر تھی وہاں حضور اکرم داخل نہیں ہوئے

﴿۴﴾ وَعَنْهَا أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتُّوبُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَاسُورُ لَهُ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورَةُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایسا تکیہ خرید لیا جس پر تصویریں تھیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرہ میں داخل ہوتے وقت جب اس تکیہ کو دیکھا تو دروازے پر رک گئے اور حجرہ میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ اس تصویر دار تکیہ کی وجہ سے آپ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے اثرات کو بھانپ گئیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نا فرمانی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف متوجہ ہوتی ہوں میں نے ایسا کونسا گناہ کیا ہے کہ آپ میرے حجرے میں داخل نہیں ہو رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکیہ کیسا ہے اور

تم اس کو کہاں سے لائی ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جواب دیا میں نے اس تکیہ کو آپ کے لئے خریدا ہے کہ آپ جس وقت چاہیں اس کا سہارا لے کر بیٹھیں اور جس وقت چاہیں اس کو سوتے وقت سر کے نیچے رکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ یاد رکھو تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تصویریں تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو اور ان کو زندہ کرو نیز آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اسی طرح انبیاء و اولیاء کے لئے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ تصویر والے گھر میں داخل ہوں۔ (بخاری، مسلم)

## توضیح

”نمرقۃ“ نون پر پیش ہے میم ساکن ہے را پر بھی پیش ہے چھوٹے تکیہ کو کہتے ہیں علامہ نووی نے لکھا ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے پردہ مراد ہے اہ۔

اگر پردہ مراد لیا جائے تو احادیث کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اور یہ بات تو ثابت ہوگئی کہ تصاویر کیمرہ مشین سے ہوں یا ہاتھ سے بنائی گئی ہوں سب ناجائز ہیں خواہ مجسمہ کی صورت ہو یا غیر مجسمہ ہودیکھئے یہاں پردہ پر جو تصویریں تھیں یہ کوئی مجسمہ تو نہیں تھے بلکہ آج کل کے کاغذ کے اوراق اور کپڑوں کی تصاویر کی طرح تھیں۔

”احیوا ما خلقتہم“ یعنی تم نے جو حیوان کی تصاویر بنائی ہیں اب اس میں جان ڈالو ورنہ عذاب بھگتے رہو یہ تعلیق بالحال اور تعبیر ہے۔

## آنحضرت نے تصاویر کو مٹا ڈالا

﴿۵﴾ وَعَنْهَا أَنَّهُ كَانَتْ قَدِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَهَتَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نَمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شہ نشین پر ایک ایسا پردہ ڈال دیا جس پر تصویریں تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردہ کو دیکھا تو اس کو پھاڑ دیا حضرت عائشہ نے اس پٹھے ہوئے پردہ کا یہ مصرف نکالا کہ اس کے دو تکیے بنا دیئے چنانچہ وہ دونوں تکیے گھر میں رکھے رہتے تھے اور آنحضرت ان پر تکیہ لگ کر بیٹھتے تھے۔ (بخاری، مسلم)

## توضیح

”سہوۃ“ سین پر زبر ہے ہا ساکن ہے واؤ پر زبر ہے گھر کے اندر کے چھوٹے سے الگ چبوترہ اور نہ نشین کو کہتے ہیں یعنی بیٹھنے کی وہ چھوٹی سی جگہ جہاں عورتیں اپنا سامان رکھتی ہیں یا دیوار کے اندر اس طاق کو سہوۃ کہتے ہیں جس کو عورتیں بطور خزانہ اور بکس و صندوق استعمال کرتی ہیں جس کے سامنے پردہ لٹکایا جاتا ہے ”تماثیل“ تصاویریں مراد ہیں کیونکہ نرم پردہ پر مجسمے نہیں بنائے جاتے، ”فہتکہ“ آنحضرت نے اس پردہ کو چاک کیا، ایک وجہ تو بے جا اسراف اور آرائش و زیبائش تھی اور دوسری وجہ جاندار کی ناجائز تصاویر کی تھی۔

”نمرقتین“ حضرت عائشہ نے ان دو ٹکڑوں سے دو ٹکئیے بنا دیئے کیونکہ توڑنے سے تصویریں مٹ گئی تھیں۔

سوال

اس سے پہلی والی حضرت عائشہ ہی کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت تکبہ پر بنی ہوئی تصاویر کی وجہ سے گھر میں تشریف نہیں لائے حالانکہ یہاں تصاویر والے کپڑے کے دو ٹکئیے گھر میں آنحضرت کے استعمال کے لئے رکھے گئے یہ تعارض ہے اس کا کیا جواب ہے؟

جواب

زیر بحث حدیث میں ہتکہ کا لفظ آیا ہے کہ آنحضرت نے اس پردہ کو چاک کیا اس سے تصاویر کی حیثیت ختم ہو گئی لہذا تعارض نہیں۔ یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ آنحضرت نے آرائش و زیبائش اور بے جا اسراف کی وجہ سے یہ پردہ پھاڑ ڈالا تھا جس طرح آئندہ حدیث نمبر ۶ میں تفصیل موجود ہے اس حدیث میں اس پردہ پر جاندار کی تصاویر نہیں تھیں اگرچہ اس پر تماثل کا اطلاق کیا گیا ہے یہ تاویل کمزوری ہے پہلا جواب اچھا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجسمہ کے علاوہ کپڑے یا کاغذ پر تصویر بنانا بھی منع ہے۔

**بلا ضرورت دیواروں کو پردے نہ پہناؤ**

﴿۶﴾ وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي غَزَاةٍ فَأَخَذَتْ نَمَطًا فَسَتَرَتْهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیلئے سفر میں تشریف لے گئے تو میں نے آپ کے جانے

کے بعد ایک کپڑا حاصل کیا اور اس کا پردہ دروازہ پر لٹکا یا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد سے واپس تشریف لائے اور

وہ پردہ پڑا ہوا دیکھا تو اس کو کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ ہم مٹی اور پتھر کو کپڑے

پہنائیں۔ (بخاری، مسلم)

توضیح

”نمطاً“ ایک عمدہ قسم کے نرم بچھونے کو کہتے ہیں ہودج پر بھی ڈال دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے یہ عمدہ سے معرب ہو، آنحضرت نے اس کو اس لئے پھاڑ دیا کہ اس پر گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی ورنہ دروازہ پر کپڑا ڈالنا اور پردہ کرنا تو آنحضرت کے ارشاد کی تعمیل تھی یہ بھی احتمال ہے کہ یہ پردہ غیر ضروری آرائشی و زیبائشی تھا اس لئے آنحضرت نے پھاڑ دیا حدیث کے آخری الفاظ اس احتمال کی تائید کرتے ہیں کیونکہ آنحضرت نے ناپسندی کی وجہ یہ بتادی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند نہیں بنایا کہ ہم مٹی اور پتھر کو کپڑے پہنائیں۔

## قیامت میں تصویر کشی کرنے والوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا

﴿وَعَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

اور حضرت عائشہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”یضاهون“ مضاحات سے ہے جو مشابہت کے معنی میں ہے بعض نسخوں میں ہمزہ بھی ہے وہ بھی ایک لغت ہے۔ صورت بنانا اللہ تعالیٰ کا کام اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ﴿وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ لہذا جو شخص تصویر بناتا ہے وہ درحقیقت اپنے فعل کو اللہ تعالیٰ کے فعل کے ساتھ مشابہ کر کے پیش کرتا ہے جو بڑا گناہ ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تصویر کشی کی ممانعت کی ایک وجہ تخلیق خداوندی سے مشابہت ہے۔

”أشد الناس عذاباً“ اگر تصویر بنانے والا شرک اور بتوں کی عبادت کی غرض سے تصویر بناتا ہے تو یہ کفر ہے اس لئے قیامت میں اس کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا اور اگر بت پرستی کی غرض سے نہیں بلکہ تخلیق خداوندی کی مشابہت کی غرض سے بناتا ہے تو یہ بھی کفر ہے اس لئے سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور اگر تصویر کشی صرف زیب و زینت اور شوق و ذوق کی غرض سے ہو تو یہ فسق و فجور اور معصیت ہے آدمی کبیرہ گناہ کا مستحق بنے گا پھر یہ حدیث تشدید و تغلیظ اور تہدید و تنبیخ پر محمول ہوگی کسی نے خوب کہا۔

بت پرستی دین احمدؐ میں ابھی آئی نہیں

اس لئے تصویر جاناں ہم نے کھجوائی نہیں

”الناس“ ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ اگر مصور کا فعل اسی عقیدے کے تحت ہو (کہ وہ تخلیق خداوندی کی مشابہت کرنے والا ہو) تو وہ کافر ہو جاتا ہے اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اس قبیح کفر پر اس شخص کو دوسرے کافروں کی نسبت زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ (اس صورت میں الناس سے مراد کافر ہونگے اور کلام حقیقت پر محمول ہوگا) اور اگر ایسا عقیدہ نہ رکھتا ہو تو پھر اس شخص کے حق میں یہ حدیث تغلیظ و تہدید پر محمول ہوگی الخ۔ (اس صورت میں الناس سے مسلمان مراد ہونگے کلام زجر و تنبیخ اور تہدید و تشدید پر حمل کیا جائے گا)۔

بہر حال تصویر سے جاندار کی تصویر مراد ہے علماء فرماتے ہیں کہ حدیث کی اس شدید وعید سے وہ تصاویر خارج ہیں جو اتنی چھوٹی

اور پتلی ہوں کہ اگر اس کو زمین پر ڈال دیا جائے تو کھڑے آدمی کو وہ صاف نظر نہ آتی ہوں یا ایسی تصاویر ہوں جن کے ساتھ ایسے اعضا نہ ہوں جن کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا جس طرح آدمی تصویر ہوتی ہے ایسی تصاویر مجبوری کے تحت حج و عمرہ یا شناختی کارڈ وغیرہ ضروری دستاویزات کے لئے شاید حرام نہیں ہونگی ایسی چھوٹی تصاویر اور اسی طرح وہ تصاویر جو بطور اکرام نہ ہوں بلکہ مہمان ہوں اس کو گھر میں رکھنے سے شاید یہ وعید نہ ہو اگرچہ بعض علماء اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں۔

### مصور میں ہمت ہے تو چیونٹی پیدا کرے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرے یعنی جس طرح میں صورت بناتا ہوں اسی طرح وہ بھی صورت بناتا ہے اگرچہ حقیقت میں وہ اس مادہ سے صورت نہیں بناتا جس مادہ سے خدا کی بنائی ہوئی صورتیں ہیں تاہم وہ کوئی صورت بناتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ صورت میری بنائی ہوئی ہے اگر تصویر و صورت بنانے والے واقعہ تخلیق کا دعویٰ کرتے ہیں تو ذرا وہ ایک چیونٹی تو بنائیں یا ایک دانہ تو پیدا کریں یا ایک جو تو پیدا کر کے دکھائیں۔ (بخاری، مسلم)

### توضیح

یعنی تصویریں بنانا کہ تخلیق خداوندی کی مشابہت اگر اختیار کرنی ہے تو پھر کھل کر میدان میں آؤ اور ایک چیونٹی پیدا کرو یا ہوا میں اڑنے والا ذرہ پیدا کرو یا جو کا دانہ پیدا کرو اس حدیث میں امر کا صیغہ تعجیز کے لئے ہے۔ بہر حال پوری دنیا کے بادشاہ اور عوام مل کر ایک چھٹانک مٹی پیدا نہیں کر سکتے ہیں مرغی چوزوں کی دلکش تصویروں میں مشابہت اختیار کرتے ہیں لیکن پوری دنیا کے بادشاہ اور عوام مل کر مرغی کا ایک انڈا نہیں دے سکتے ہیں ذرا ایک انڈا دیکر دکھا تو دیں اگر نہیں تو پھر دوسرے کی تخلیق میں بے جا جوتوڑ کیوں کرتے ہو؟ عاجز ہو کر قادر بننے کی کوشش کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔

### اللہ کے ہاں مصور کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا

﴿۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ الْمُصَوِّرُونَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا خدا کے ہاں سخت ترین عذاب کا مستوجب مصور ہے۔ (بخاری، مسلم)

## توضیح

”المصورون“ اصطلاحی طور پر جاندار کی تصویر بنانے والے کو مصور کہتے ہیں غیر جاندار کی تصویر بنانے والے کو نقاش کہا جاتا ہے، یہاں جاندار کی تصویر مراد ہے اس حدیث اور گزری ہوئی حدیث نمبر ۷ کی توضیح و تشریح ایک جیسی ہے وہاں تفصیل گزر چکی ہے۔

## جتنی تصویریں بناؤ اتنا عذاب کماؤ

﴿۱۰﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعْ الشَّجَرَ وَمَا لَارُوحَ فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر مصور دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک شخص پیدا کیا جائے گا جو تصویر بنانے والے کو دوزخ میں عذاب دیتا رہے گا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اگر تمہیں تصویر بنانے کی ضرورت ہی ہو تو درختوں یا کسی غیر ذی روح کی تصویر بنا لو۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”نَفْسُ“ یعنی جتنی تصویریں دنیا میں مصور نے جاندار کی بنائی ہیں ان تمام تصاویر کو قیامت میں ایک حیوانی شکل دی جائے گی اور دوزخ کی آگ میں وہ حیوان عذاب کی صورت میں اس مصور کے اوپر مسلط ہو جائیں گے ”فیعذبه“ اگر مذکر کا صیغہ ہے تو ضمیر فاعل لفظ اللہ کی طرف لوٹ جائے گی اور اگر مؤنث کا صیغہ ہے تو ضمیر فاعل نفس کی طرف لوٹ جائے گی۔ بہر حال ہر مصور کو سوچنا چاہیے کہ وہ جتنی تصویریں بنائیگا اتنا ہی اپنا عذاب بڑھائے گا۔

## تین بڑے گناہ اور ان پر عجیب سزا

﴿۱۱﴾ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كَلْفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفْرُونَ مِنْهُ صَبَّ فِي أَذْنِهِ الْأَنْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةَ عُذْبٍ وَكَلَّفَ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو کہ اس نے نہیں دیکھا ہے یعنی جھوٹا خواب بیان کرے تو اس کو قیامت کے دن دو جو میں گرہ لگانے پر مجبور کیا جائیگا جس کو وہ ہرگز نہیں کر سکے گا۔ اور جو شخص، کچھ لوگوں کی بات چیت کی طرف اپنا کان لگائے جب کہ وہ لوگ اس شخص کے

سننے کو پسند نہ کریں اور اس سے فرار اختیار کریں تو قیامت کے دن اس شخص کے کان میں سیسہ ڈالا جائے گا اور جو شخص تصویر بنائے گا اس کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ اور اس کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے حالانکہ وہ ہرگز روح نہیں پھونک سکے گا۔ (بخاری)

## توضیح

”تحلیم“ یعنی ایسا خواب بیان کیا جو دیکھا نہیں تھا بلکہ جھوٹ بنا کر بیان کیا تو اس کو یہ سزا ہوگی کہ جو کے دودانوں کو آپس میں گرہ دینے پر مجبور کیا جائے گا جب گرہ نہیں لگا سکے گا تو ہمیشہ عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا کیونکہ یہ تعلق بالحال ہے، جھوٹا خواب بیان کرنا عام جھوٹ بولنے سے زیادہ سخت اس لئے ہے کہ جھوٹے خواب میں یہ شخص عالم غیب پر جھوٹ بولتا ہے نیز خواب نبوت کے اجزائیں سے ایک جز ہے تو گویا اس شخص نے نبوت کے ایک حصہ میں جھوٹ بولا جو بڑا جرم ہے مثلاً یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ولایت کا فلاں رتبہ دیا گیا ہے یا فلاں شخص کی مغفرت ہوگئی ہے یا میں نے حج کیا ہے یا میں نے حضور اکرم کو خواب میں دیکھا ہے یا مجھے جنت کا پروانہ ملا ہے اس طرح جھوٹا خواب بیان کرنا باعث عذاب ہے۔

”استمع“ یعنی کچھ لوگوں کی خفیہ باتوں کے سننے کے لئے کان لگاتا ہے اور باتیں سن کر اس کو پھیلاتا ہے اور فساد برپا کرتا ہے یہ حرام ہے۔

”صب“ یعنی ڈالا جائے گا۔ ”الانک“ یہ سیسہ اور تانبے کو کہا جاتا ہے۔

”ولیس بنافخ“ یعنی جس شخص نے جاندار کی تصویر بنائی قیامت میں اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اب اس میں جان ڈال دو وہ شخص اس میں جان نہیں ڈال سکے گا تو اس پر اس کو سزا ہوگی اور یہ سزا ہمیشہ کے لئے ہوگی یہ بھی تعلق بالحال ہے کہ اس میں روح ڈالو ورنہ عذاب میں پڑے رہو جب روح نہیں ڈال سکے گا تو عذاب میں پڑا رہیگا۔

## نرد شیر کھیلنے کی مذمت

﴿۱۲﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَيْراً فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نرد شیر کے ذریعہ کھیلا اس نے گویا سور کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈبویا۔ (مسلم)

## توضیح

”نرد شیر“ چوسر کی قسم میں سے ایک کھیل ہے اس کھیل کو سب سے پہلے فارس کے بادشاہ شاہ پور بن اردشیر بن بابک نے



ایجاد کیا تھا جو آدمی اس کھیل کو کھیلے گا گویا وہ مجوسی رسم کو زندہ رکھنا چاہتا ہے جس میں گناہ ہے۔ دوسرا ایک کھیل ہے جس کو شطرنج کہتے ہیں جس کا تذکرہ آئندہ آ رہا ہے۔ احناف کے نزدیک دونوں کھیل مکروہ تحریمی ہیں مگر شوافع کے نزدیک اگر وقت ضائع نہ ہو نماز قضا نہ ہو محض تخیل اذہان کی نیت سے ہو تو مباح اور جائز ہے۔ ائمہ احناف نے وعیدوں کو دیکھا ہے وعید کے سامنے تشہید اذہان کی کوئی اہمیت وحیثیت نہیں ہے۔ امام شافعی کا ایک قول ہے کہ شطرنج مکروہ ہے اس قسم کے کھیل میں تصاویر کا استعمال ہوتا ہوگا اس لئے اس کو تصاویر کے باب میں ذکر کیا گیا۔ خنزیر کا گوشت اور اس کا خون حرام ہونے کیساتھ ساتھ مزید نفرت طبع کا باعث ہے اس لئے نفرت دلانے کے لئے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

### الفصل الثانی

﴿۱۳﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَانِي جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَائِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامٌ سِتْرٌ فِيهِ تَمَائِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كُلِّبٌ فَمُرُّ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ الَّذِي عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَيَقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرُّ بِالسِّتْرِ فَيُلْقِطَعُ فَيُجْعَلُ وَسَادَتَيْنِ مَبُودَتَيْنِ تُوطْنَانِ وَمُرُّ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرِجْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں گذشتہ شب آپ کے پاس آیا تھا لیکن مجھ کو گھر میں آنے سے جس چیز نے روکا وہ یہ تھی کہ دروازے کے پردے پر تصویریں تھیں بایں طور کہ گھر میں جو رنگین منقش کپڑا تھا اس کا پردہ بنایا گیا تھا اور اس پر بھی تصویریں بنی ہوئی تھیں نیز گھر میں کتا بھی موجود تھا لہذا آپ ان تصویروں کے سر کاٹے جانے کا حکم دیجئے جو دروازے کے پردے پر ہیں اور ان تصویروں کے سراسر طرح کاٹ دیئے جائیں کہ ان کی ہیئت و شکل بدل جائے اور وہ درخت کی شکل کے ہو جائیں اور پھر اس پردہ کو کاٹ کر ان کے دو ٹکے بنانے کا حکم دیجئے جو سہارا لے کر بیٹھنے اور تکیہ لگا کر سونے کے لئے گھر میں فرش پر پڑے رہیں اور روندے جاتے رہیں ہیں نیز کتے کو بھی گھر سے نکال باہر کرنے کا حکم دیجئے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا جیسا کہ حضرت جبرائیل نے بتایا تھا۔ (ترمذی، ابو داؤد)

توضیح

”فیقطع“ جن تصاویر کے سر کاٹے ہوئے ہوں اس کی ممانعت نہیں ہے جس طرح اس حدیث میں ہے اور جو تصاویر چھوٹی ہوں اس کی ممانعت بھی نہیں ہے چھوٹی تصویر کے لئے معیار یہ ہے کہ وہ اتنی پتلی ہو کہ کھڑا آدمی جب اس کو زمین پر رکھ دے تو اس کے اعضاء الگ الگ معلوم نہیں ہو رہے ہوں نیز جن تصاویر میں ایسے اعضاء نہ ہوں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے

جیسے پیٹ نہیں ہے ناف سے نیچے نہیں ہے اس میں بھی یہ شدید وعید نہیں ہے۔ اگر تصاویر بڑی ہوں تو فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کہ اگر نمازی اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہو کہ تصاویر اس کے مصلے کے آگے ہوں یا اوپر دیواروں پر دائیں بائیں معلق ہوں یا پہنے ہوئے کپڑے پر ہوں تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور اگر یہ تصاویر بچھو نے اور فرش پر مٹھان کے درجہ میں ہوں تو رائج قول یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ کی جگہ پر نہ ہوں تو نماز مکروہ نہیں ہوگی یہ تفصیل ان تصاویر کے بارے میں ہے جو بڑی ہوں چھوٹی تصاویر میں یہ کراہت نہیں ہے۔ (کذا فی فتاویٰ الحانیت)

”قمرام“ نرم پردہ کو کہتے ہیں معلوم ہوا مجسمہ کے علاوہ تصاویر بھی ناجائز ہیں کیونکہ یہاں مجسمہ مراد نہیں ہے بلکہ ہلکے پھلکے پردہ پر تصاویر مراد ہیں۔ ”وسادتین“ یعنی جب ان تصاویر کے سر توڑ دیئے جائیں یا پردہ کو چاک کیا جائے تو اب تصویریں باقی نہیں رہیں گی لہذا تکلیف بنانا جائز ہوا۔

### مصورین پر محشر میں دوزخ کی گردن مسلط ہوگی

﴿۱۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرَجُ عُقُوقُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تَبْصُرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةِ بَكْلٍ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ میں سے ایک گردن نکلے گی یعنی آگ کا ایک شرارہ لمبی گردن کی صورت میں نکلے گا اس گردن میں دیکھنے والی دو آنکھیں ہوں گی، سننے والے دو کان ہوں گے اور بولنے والی زبان ہوگی وہ گردن کہے گی کہ میں تین طرح کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات پر متعین کیا ہے کہ میں ان تین طرح کے لوگوں کو دوزخ میں بھیج کر لے جاؤں اور لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کر کے عذاب میں مبتلا کروں ان میں سے ایک طرح کے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کے ساتھ تکبر و عناد کا برتاؤ کیا۔ یعنی دنیا میں ان پر حق ظاہر ہوا مگر انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ دوسری طرح کے لوگوں میں ہر وہ شخص شامل ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارا ہے۔ اور تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصویر سازی کی ہے۔ (ترمذی)

### شراب، جو اور کو بہ حرام ہے

﴿۱۵﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قِيلَ الْكُوبَةُ الطَّبْلُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

اور حضرت ابن عباسؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جو اور کو بہ بجانے کو لسان نبوت کے ذریعہ حرام قرار دیا ہے نیز آپ نے فرمایا کہ ہر نشا آور چیز کو حرام ہے۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ

”کوبہ“ طبل کو کہتے ہیں۔ (بیہقی)

توضیح

”الکوبۃ“ کوبہ کے معنی اور مصداق میں تین اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نرد ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد طبل ہے تیسرا قول یہ کہ اس سے مراد طبل ہے، مگر اس طبل سے غازی کا طبل مستثنیٰ ہے اس حدیث کو شاید نرد کی وجہ سے یہاں ذکر کیا گیا ہے جس میں تصاویر ہوتی ہیں۔

﴿۱۶﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرِ  
وَالْغُبَيْرِ شَرَابٌ تَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ مِنَ الدَّرَةِ وَيُقَالُ لَهَا السُّكْرَكَةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، جوئے، کوبہ اور غبیر اسے منع کیا ہے اور غبیر ایک قسم کی شراب ہوتی ہے جس کو حبشہ کے لوگ جوار سے بناتے ہیں اور اس کو سکر کہتے ہیں۔ (ابوداؤد)

”الدرة“ مکئی کو ذرہ کہا گیا ہے سیاہ فام لوگ سب سے زیادہ مکئی کو استعمال کرتے ہیں اس سے شراب بھی بناتے ہیں۔ کوبہ کی وجہ سے یہ حدیث باب التصاویر میں آگئی ہے۔ ”غبیرا“ اس شراب کا دوسرا نام سکر کہ بھی ہے۔

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ  
عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو موسیٰ اشعرئیؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نرد سے کھیلا درحقیقت اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ (احمد، ابوداؤد)

کبوتر بازی ناجائز ہے

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَتَّبِعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ  
يَتَّبِعُ شَيْطَانَةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَالتَّبَهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ .

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کبوتروں کے پیچھے پڑا ہوا تھا یعنی ان کے ساتھ ہوو لعلب کرنے اور ان کو اڑانے میں مشغول تھا آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے اور شیطان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، بیہقی)

توضیح

”شیطان يتبع شيطانة“ کبوتر بازی ناجائز ہے کیونکہ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں مثلاً اس سے وقت ضائع

ہو جاتا ہے آدمی نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے ذکر اللہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے کبوتر اڑانے والا گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر بے پردگی اور بے حیائی کا مرتکب ہو جاتا ہے اس طرح یہ انسان فسق و فجور کا شکار ہو جاتا ہے تو ٹھیک ٹھاک شیطان بن جاتا ہے اگر کبوتروں کے اڑانے میں کوئی جو ابازی بھی کرتا ہے پھر تو اس کے شیطان بننے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے۔

باقی کبوتر کو اس لئے شیطانہ کہہ دیا گیا کہ وہ آدمی کی اس بربادی کا سبب اور ذریعہ بن گیا ہے اور ان تمام مفاسد کا مرکز بن گیا، اگر کوئی شخص افزائش نسل کی غرض سے کبوتروں کو پالتا ہے اور اس کی دیکھ بال کرتا ہے تو اگرچہ اس کا پالنا جائز ہے لیکن یہ خارجی مفاسد ناجائز ہیں۔

### الفصل الثالث

#### جاندار کی تصویر کشی کا پیشہ ناجائز ہے

﴿۱۹﴾ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ النَّصَاصِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رُبُوءَ شَدِيدَةٍ وَاصْفَرَ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهِذَا الشَّجَرُ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت سعید ابن ابوالحسن تابعی کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ناگہاں ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابن عباسؓ میری معاشی زندگی کا انحصار میرے ہاتھوں کی محنت مزدوری پر ہے جن کے ذریعہ میں یہ تصویریں بناتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں کیونکہ شریعت نے اس پیشہ کو حرام قرار دیا ہے اور کوئی دوسرا پیشہ مجھے آتا نہیں کہ جس کے ذریعہ اپنی روزی کا انتظام کریں تو کیا اس مجبوری کے تحت میرے لئے یہ پیشہ جائز ہے۔ یا نہیں؟ حضرت ابن عباسؓ نے جب یہ دیکھا کہ تصویر کشی کے کام سے اس شخص کا تعلق سخت نوعیت کا ہے اور شاید میرے منع کرنے سے باز نہ آئے تو انہوں نے اس کے سامنے آنحضرتؐ کی حدیث بیان کی چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس بات کے علاوہ اور کوئی بات بیان نہیں کروں گا جس کو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو تم توجہ سے سنو کہ میں نے آنحضرتؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تصویر سازی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا رکھے گا یہاں تک کہ وہ اس تصویر میں روح پھونک دے در آنحالیکہ وہ اس تصویر میں ہرگز روح نہیں پھونک سکے گا۔ اس شخص نے یہ وعید سن کر بڑا گہرا سانس لیا اور اس کا چہرہ خوف کی وجہ سے پیلا پڑ گیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ تم پر افسوس ہے اگر تم اس تصویر کشی کے پیشہ کے علاوہ دوسرے پیشوں کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو تو ایسا کرو کہ ان

درختوں کی اور ان چیزوں کی تصویریں بنانے لگو جو بے جان ہیں۔ (بخاری)

توضیح

”فربس الرجل“ ربایر بو سے ہے یعنی ایک ٹھنڈا لباس لیا اور خوف خدا سے رنگ پیلا پڑ گیا۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے اور تھک کر لباس لیتا ہے اس کو ربایر بالفرس ربوۃ کہتے ہیں کاش اگر کوئی شارح اس کا ترجمہ کانپنے سے کرتا تو ربوۃ شدیدۃ بھی صحیح سمجھ میں آجاتا اور وافر و جھہ بھی سمجھ میں آجاتا مگر کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا ہے بس سانس چڑھنے اور ٹھنڈا لباس سانس بلند کرنے کا ترجمہ کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جاندار کے علاوہ ہر چیز کی تصویر بنانا جائز ہے۔

تصاویر کے ذریعہ سے بت پرستی آئی ہے اور آئے گی

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً يُقَالُ لَهَا مَارِيَّةٌ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ اتَّانَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فذَكَرْنَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرِ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ أُولَئِكَ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی ازواج میں سے بعض نے ایک کنیسہ کا ذکر کیا جس کو ماریہ کہا جاتا تھا کنیسہ یہود و نصاریٰ کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ جو کنشیت کا معرب ہے اسی کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت کی بیماری میں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ازواج آپ کی دہشتگی کے لئے باتوں میں مشغول تھیں کہ بعض ازواج مطہرات یعنی ام سلمہ اور ام حبیبہ نے کنیسہ کا ذکر کیا جس کو انہوں نے ملک حبشہ میں دیکھا تھا اور آپ کی وہ ازواج مطہرات یعنی ام سلمہ، اور ام حبیبہ حبشہ جا چکی تھیں جہاں کے لوگ عیسائیت کے پیروکار تھے۔ چنانچہ ان دونوں نے کنیسہ کی خوبصورتی اور اس میں بنی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا آنحضرت نے یہ تذکرہ سن کر اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ وہ لوگ یعنی حبشہ والے یا نصاریٰ ایسا کرتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک و صالح آدمی مر جاتا ہے۔ تو وہ اس کو قبر پر عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ جس کو کنیسہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کنیسہ میں اپنے نیک و صالح لوگوں کی یہ تصاویر بناتے ہیں۔ وہ لوگ حقیقت میں خدا کی بدترین مخلوق ہیں (بخاری، مسلم)

توضیح

”کنیسہ“ یہود و نصاریٰ کی عبادت گاہ کو کنیسہ کہتے ہیں ”و تصاویر فیہا“ ای ذکرنا حسن تصاویرہا، گرجا کی خوبصورتی اور اس میں تصاویر کی خوبصورتی کو بطور تعجب بیان کیا۔

”علی قبرہ مسجداً“ یعنی قبر کو عبادت گاہ بناتے تھے اور پھر اس کے نام پر کنیسہ بناتے تھے اور پھر اس میں ان صالحین کی تصاویر بنا کر دل کی تسلی کے لئے رکھتے تھے جب بوڑھے مر جاتے تو نئی نسل کو شیطان کہتا تھا کہ تمہارے بڑے ان تصاویر اور صالحین کے ان مجسموں کی عبادت کرتے تھے تو نئی نسل بتوں کی عبادت میں مبتلا ہو جاتی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں شرک کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی تھی معلوم ہوا تصاویر کے ذریعہ سے شرک کی ابتدا بھی ہوئی اور آئندہ بھی شرک اسی راستہ سے آتا رہیگا آج کل قبروں کے پجاری بریلوی حضرات ہیں جو بدعتی بھی ہیں اور شرک میں بھی مبتلا ہیں ”شہرِ ادر“ یعنی تصویر کشی کرنے والے اور پھر قبروں کو عبادت گاہ بنانے والے بدترین خلاق ہیں کیونکہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔

زندگی اس کی ہے ملت کے لئے پیغام موت  
کر رہا ہو جو بجائے کعبہ قبروں کا طواف  
بت پرستی دین احمد میں ابھی آئی نہیں  
اس لئے تصویر جاناں ہم نے کچھوائی نہیں

پانچ قسم لوگوں کو قیامت میں شدید ترین عذاب ہوگا

﴿۲۱﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَ أَحَدَ الدِّيَةِ وَالْمُصَوِّرُونَ وَعَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ.....  
اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص پر ہوگا جو نبی کو قتل کرے یا جہاد میں اس کو نبی قتل کرے یا جو والدین میں سے کسی ایک کو قتل کرے اور جو شخص تصویر بنائے یا جو عالم اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے یعنی اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے ان پر بھی سخت ترین عذاب ہوگا۔

توضیح

اس حدیث میں پانچ قسم لوگوں کا بیان ہے جن کو قیامت میں شدید ترین عذاب ہوگا (۱) جس نے کسی نبی کو شہید کر دیا (۲) جس کو نبی نے جہاد کے میدان میں قتل کیا قصاص میں نہیں (۳) جس بد بخت نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو قتل کیا (۴) جاندار کی تصویر کشی کرنے والا (۵) وہ عالم جو علم کا حق ادا نہ کرے نہ اس کی دعوت دے نہ اس پر عمل کرے۔

## شطنج کی مذمت

﴿۲۲﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الشَّطْرَنْجُ هُوَ مَيْسَرُ الْأَعَاجِمِ.....  
اور حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے شطنج عجمی لوگوں یعنی غیر مسلم قوموں کا کھوا ہے۔

### توضیح

”میسر الا عجم“ یعنی عجم اور اہل فارس کے مجوسیوں کا کھوا اور قمار ہے لہذا ان مجوسیوں کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے اس لئے ان کا خاص کھیل نزد چوہنر اور شطنج کھیلنا جائز نہیں ہے۔

احناف کے نزدیک یہ اشیاء مکروہ تحریمی ہیں امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تشہید اذہان کے لئے شطنج کھیلنا جائز ہے ان سے بھی ایک قول منقول ہے کہ شطنج مکروہ ہے۔ پہلے حدیث نمبر ۱۲ کے تحت تفصیل گزر چکی ہے۔

### خطا کار آدمی شطنج کھیلتا ہے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ لَا يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ إِلَّا خَاطِئٌ.....  
اور حضرت ابن شہابؒ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعرئؒ نے فرمایا شطنج صرف وہ شخص کھیلتا ہے جو خطا کار ہو۔

### شطنج ایک باطل کھیل ہے

﴿۲۴﴾ وَعَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَعِبِ الشَّطْرَنْجِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا يَحِبُّ اللَّهُ الْبَاطِلَ رَوَى النَّبَهَاقِيُّ  
الْأَحَادِيثُ الْأَرْبَعَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.....

اور حضرت ابن شہابؒ سے روایت ہے کہ ان سے شطنج کھیلنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کھیل ایک باطل شے ہے اور اللہ تعالیٰ باطل کو پسند نہیں کرتا۔ مذکورہ بالا چاروں روایتوں کو نبہیقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

### توضیح

ہدایہ میں لکھا ہے کہ احادیث کی وعید کے پیش نظر شطنج اور نزد شیر کھیلنا مکروہ تحریمی ہے۔ جامع صغیر میں ایک روایت منقول ہے کہ شطنج کھیلنے والا ملعون ہے۔

”نسب الاحساب“ کتاب میں امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک شطنج کھیلنا مکروہ ہے شاید امام شافعیؒ سے دو قول منقول ہیں ایک میں مباح اور دوسرے میں شطنج مکروہ ہے درمختار میں لکھا ہے کہ اس قسم کے سب کھیل مکروہ ہیں۔

## کتے اور بلی میں فرق

۲۵۰ وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَذُوْنَهُمْ دَارٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنِّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا قَالُوا إِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنُورًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّنُورُ سَبْعٌ. رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي.

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے بعض لوگوں کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے حالانکہ ان کے پڑوس میں اور لوگوں کے بھی گھر تھے لیکن آپ ان کے یہاں نہیں جاتے تھے ان لوگوں پر یہ بات بڑی گراں گذرتی تھی کہ آپ ہمارے پڑوس میں دوسرے لوگوں کے گھر تشریف لاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں نہیں آتے چنانچہ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ فلاں کے گھر تو تشریف لاتے ہیں لیکن ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہمارا گھر آپ کی تشریف آوری کی سعادت سے محروم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے گھر اس لئے نہیں آتا کہ تمہارے گھروں میں کتے پلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا ان کے گھروں میں بلی پلی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی درندہ ہے۔ (دارقطنی)

## توضیح

آنحضرت انصار کے بعض حضرات کے ہاں تشریف لے جاتے تھے راستہ میں کچھ گھر انصار کے دیگر حضرات کے بھی پڑتے تھے ان سے گذر کر آنحضرتؐ کا آگے جانا ان پر شاق گذرا کہ آنحضرت ہمارے ہاں کیوں نہیں آتے ہیں تاکہ ہمیں بھی یہ بڑا اعزاز حاصل ہو سکے گی نے خوب کہا۔

گلاہ گوشنہ دھقان بہ آفتاب رسید

چوں سایہ بر سرش انداخت چوں تُو سلطانے

آنحضرتؐ نے ان لوگوں سے معذرت فرمائی کہ تم لوگوں نے محلہ میں کتا پال رکھا ہے اس لئے میں تمہارے محلہ میں نہیں آتا ہوں ان حضرات نے کہا کہ جہاں آپ جاتے ہیں ان لوگوں کے گھروں اور محلہ میں بلی ہے آنحضرتؐ نے جواب میں فرمایا بلی درندہ ہے یہ کتے کی طرح نہیں کتا شیطان ہے اور شیطان کے ساتھ فرشتوں کی عداوت ہے بلی شیطان نہیں ہے اس لئے اس کو کتوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔



## کتاب الطب والرقي طب اور جھاڑ پھونک کا بیان

قال الله تعالى ﴿كلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾

وقال تعالى ﴿رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون﴾  
الطب: طا پر کسرہ مشہور ہے علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ طا پر زبر زیر اور پیش تینوں حرکات پڑھ سکتے ہیں ”الطب هو علاج الامراض“ یعنی بیماری کے علاج کرنے کو طب کہتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعة اللمعات میں لکھتے ہیں ”طب بحرکات ثلاثه علاج کردن“ اسی سے طبیب ہے جو معالج کو کہتے ہیں ”و طب“، فتح طا طبیب و ہر حاذق درکار خود، و متطبب علم طب خوانندہ و عمل کنندہ بدان کہ ہنوز حاذق نشدہ باشد و طب بکسرہ بمعنی سحر نیز آمدہ و مطبوب مسحور، یعنی طب زبر کے ساتھ طبیب کو بھی کہتے ہیں اور اپنے کام میں ہر ماہر کو بھی کہتے ہیں متطبب علم طب پڑھنے والے نو آزمودہ طبیب کو کہتے ہیں نیز طب جادو کے معنی میں بھی آتا ہے فلان مطبوب یعنی فلاں جادو زدہ ہے۔  
علامہ طبیبی نے اس مادہ سے متعلق ایک شعر لکھا ہے

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسْتَبْطَبُ بِهِ  
إِلَّا الْحَرَمَ أَقْهَ أَغْيَتْ مَنْ يُدَاوِيهِ

طب کی دو قسمیں ہیں (۱) طب جسمانی (۲) طب روحانی۔

چنانچہ حفظانِ صحت اور دفعِ مرض کی غرض سے علاجِ معالجہ کو طب جسمانی کہتے ہیں جس کا تعلق ظاہر بدن سے ہے اور باطنی و روحانی امراض مثل کینہ و حسد، حرص و لالچ، تکبر و غرور اور برے اخلاق و عادات اور برے اعمال کے ازالہ کے لئے جو علاجِ معالجہ ہوتا ہے اس کو طب روحانی کہتے ہیں۔

آنحضرت کی بعثت کا اصل مقصد اگرچہ طب روحانی تھا لیکن چونکہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے آنحضرت نے طب جسمانی سے متعلق بڑے واضح انداز میں کافی مقدار تک اصول و قواعد اور بنیادی ضابطے امت کے سامنے رکھے ہیں۔

اس تفصیل کے پیش نظر علمائے کبار نے لکھا ہے کہ فن طب کے دو ماخذ ہیں ایک ماخذ وحی الہی ہے کہ وحی کے ذریعہ سے بعض دفعہ

آنحضرت کو بتادیا گیا کہ فلاں مرض کا علاج فلاں چیز سے ہے۔

علم طب کا دوسرا مأخذ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ تجربہ سے کسی دوا کو کسی مرض کے لئے مفید پایا گیا۔ حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کسی درخت یا پودے کے پاس نماز پڑھتے تو پھر اس سے پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے وہ نام بتاتا پھر آپ پوچھتے کہ تو کس مرض کے لئے دوا ہے وہ بتادیتا تو آپ اس کو لکھ لیتے اس طرح طب عام ہوا الخ۔

جمہور امت اس پر متفق ہے کہ علاج کے جواز پر کثیر دلائل کے پیش نظر علاج کرنا مستحب اور جائز ہے بعض خشک قسم کے صوتی علاج معالجہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرض کا آنا تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے جو آدمی مرض کا علاج کرتا ہے گویا وہ تقدیر کا مقابلہ کرتا ہے اور تقدیر کا مقابلہ جائز نہیں لہذا علاج جائز نہیں ہے۔

ان حضرات کے اس مفروضے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ العلاج والدواء من قدر اللہ یعنی جس طرح مرض تقدیر میں لکھا ہے اس کا علاج اور دواء بھی تقدیر میں لکھا گیا ہے البتہ اگر کوئی شخص اعلیٰ توکل کا مالک ہو اور علاج نہیں کرنا چاہتا ہو تو علاج کوئی فرض تو نہیں ہے صرف مستحب امر ہے کرے تو کرے نہ کرے تو نہ کرے لیکن اس کو ناجائز کہنا جائز نہیں ہے۔ باقی طب نبوی اور دوسرے لوگوں کے طب میں یہ فرق ہے کہ طب نبوی کا نسخہ جب بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے تو اس کا علاج یقینی ہوتا ہے اور دوسرے طب کے علاج میں یقین نہیں ہوتا یہی وہ چیز ہے جو بعض اطباء کو خشک میں ڈالتی ہے کہ طب نبوی میں ایک نسخہ کسی مرض کے لئے بتایا گیا ہوتا ہے لیکن وہ اطباء کے نزدیک مرض کے بالکل برعکس ہوتا ہے بلکہ مرض کے لئے مضر ہوتا ہے مثلاً شہد پینا دستوں کو لاتا ہے اب دستوں کے دفع کرنے کے لئے بطور علاج مریض کو شہد دینا عام فہم سے بالاتر ہے لیکن طب نبوی میں بتادیا گیا کہ یہ علاج ہے اور واقعہ یہ علاج ہے کیونکہ دست ایک فاسد مادہ کی وجہ سے آتے ہیں اور وہ فاسد مادہ شہد کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے جیسا کہ آئندہ حدیث نمبر ۸ میں یہ قصہ تفصیل سے آ رہا ہے۔ طب نبوی میں بطور خاص اس قاعدہ کو مدنظر رکھنا چاہئے کہ کبھی کسی دوا کو کسی مرض کے لئے بطور خاص بتایا جاتا ہے لیکن اس کا استعمال باقی مرکبات کے ساتھ ملا کر مقصود ہوتا ہے کبھی کبھی مفرد حیثیت سے بھی کام کرتا ہے لیکن عام طور پر طب نبوی کا بتایا ہوا نسخہ دوسرے مرکبات کے ساتھ ملا کر دینا مقصود ہوتا ہے البتہ طب نبوی کا بتایا ہوا جزء پورے مجون مرکب کے لئے بنیاد اور جزء اعظم ہوتا ہے۔ طب نبوی میں یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ لسان نبوت نے جس مرض کا ذکر کیا ہے مرض وہی ہو مثلاً بخار کے لئے لسان نبوت نے غسل کو مفید قرار دیا ہے تو یہ ہر بخار کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ خاص مجازی بخار کے لئے ہے بہر حال مسلمان حکماء کو اس موضوع پر بصیرت کے ساتھ لکھنا چاہئے تاکہ طب نبوی پر ملاحظہ اعتراض نہ کر سکیں، کئی ضد یوں سے انگریز نے جس طرح مسلمانوں کے دیگر اسلامی شعبوں کو پامال کر رکھا ہے وہیں پر اس ظالم دشمن نے طب نبوی پر حملہ کر کے اس کے مقابلے میں اپنا انگریزی طرز علاج رائج کیا ہے اور طب نبوی کو مشکوک بنایا ہے آج مسلمان

ڈاکٹر اپنے اسلامی تشخص کو بھلا چکے ہیں وہ بھی کافروں سے مل کر طب نبوی پر اعتراض کرتے ہیں۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری نے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ جدید تعلیم کی وجہ سے انگریز نے ہمارا تاج چھینا ہمارا تخت چھینا ہمارا دین چھینا اور ہمیں دین پر معترض بنا کر چھوڑا۔ الخ

یہاں آخر میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ علاج معالجہ میں ضروری ہے کہ اپنے معالج پر تجویز علاج میں مکمل اعتماد و بھروسہ کرنا چاہئے۔ اگر معالج پر شک ہو گیا اور اعتماد نہ رہا تو علاج سے فائدہ نہیں ہوگا بالکل اسی طرح طب نبوی میں بھی علاج پر کامل یقین و بھروسہ اور اعتماد ضروری ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھئے قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ نے شفاء فرمایا ہے، شہد کو شفا قرار دیا ہے، زمزم شفا ہے، لیکن خلوص نیت اور کامل اعتماد و یقین یہاں بھی ضروری ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا اعتماد والوں کو فوراً فائدہ ہوتا ہے۔

بہر حال صحت بدن کی بنیاد تین اشیاء پر قائم ہے۔ (۱) مضر صحت اشیاء سے احتراز۔ (۲) اصول صحت کے مطابق صحت کا خیال رکھنا۔ (۳) اخلاط فاسدہ سے جسم کو پاک رکھنا۔

”والسرقسی“ یہ رقیۃ کی جمع ہے رقیۃ جھاڑ پھونک اور منتر جنز کو کہتے ہیں۔ اگر جھاڑ پھونک قرآن وحدیث کے نصوص اور اس کے وظائف سے ہو تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ کلام معلوم المعنی نہیں ہے تو اس سے جھاڑ پھونک جائز نہیں ہے اور اگر معلوم المعنی کلام ہے لیکن اس میں شرکیہ الفاظ ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے اور اگر وہ کلام معلوم المعنی ہے اور شریعت کی تعلیمات کے موافق ہے اس میں کوئی شرک وبدعت کا لفظ نہیں ہے تو اس سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے باقی جن احادیث میں جھاڑ پھونک کی ممانعت آئی ہے اس سے ناجائز جھاڑ پھونک کی نفی مراد ہے۔ معترضہ جھاڑ پھونک کے قائل نہیں ہیں اس سلسلہ میں ایک قصہ ملاحظہ ہو۔

### حکایت

میں نے اپنے اساتذہ سے ایک قصہ سنا ہے کہ ایک اللہ والا آدمی تھا جس کا نام ابوالخیری تھا ایک دن وہ کسی مریض کو دم کر رہا تھا کہ ایک روشن خیال معتزلی وہاں آ گیا اور ابوالخیری پر اعتراض کیا کہ ”اذاتر فض فتلاشی“ یعنی اس دم سے کیا فائدہ ہوگا یہ تو ایک پھونک ہے جب تم نے ماری تو وہ ہوا میں تحلیل ہو کر ختم ہو جاتی ہے اس کا وجود باقی نہیں تو اثر کیا کریگا؟ اس اللہ والے نے دم کرنا موقوف کیا اور اس معتزلی کو خوب مغالطات کہیں معتزلی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں غصہ سے رگیں پھول گئیں اور حالت دگرگوں ہو گئی تو ابوالخیری نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا پوچھتے بھی ہو کیا ہو گیا اتنی گالیاں دیں کہ میرے جسم میں آگ لگ گئی ہے۔ ابوالخیری نے کہا کہ یہ گالیاں تو ایک پھونک ہے ”اذاتر فض فتلاشی“ اس نے کہا مجھے سخت تکلیف پہنچی۔ اللہ والے نے کہا کہ جب میرے کلام میں یہ تاثیر ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کتنا اثر ہوگا؟

## الفصل الاول

اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری ہے اور پیدا نہیں کی ہے جس کے لئے شفا نازل نہ کی ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے ساتھ اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے تاکہ اگر وہ مرض لاحق ہو تو اس علاج کے ذریعہ شفائے۔ (بخاری)

دوا صرف ظاہری سبب ہے شفاء اللہ تعالیٰ دیتا ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَاءً بِإِذْنِ اللَّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے لہذا جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو بیمار خدا کے حکم یعنی اس کے مشیت و ارادہ سے اچھا ہو جاتا ہے۔ (مسلم)

توضیح

”برأ باذن اللہ“ بیماری سے شفا یاب ہونے کو برا کہتے ہیں۔

اس حدیث سے اور اس سے پہلے حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ جب کسی کو بیماری لاحق ہو جائے تو علاج معالجہ اور دوا استعمال کرنا مستحب ہے جس طرح مرض کا لاحق ہونا تقدیر الہی کے تابع ہے اسی طرح دوائی اور ازالہ مرض کا کوئی بھی جائز ذریعہ بھی تقدیر الہی کے تابع ہے۔

اس حدیث سے دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ دوا کے استعمال کے بعد اثر ڈالنے والا اور شفا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے۔ دوا صرف ایک سبب اور ذریعہ ہے مؤثر حقیقی نہیں ہے یہی وہ چیز ہے جو کسی بھی علاج اور جھاڑ پھونک کے لئے بطور اصل اور بطور قاعدہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی دوا یا جھاڑ پھونک کو مؤثر بالذات سمجھنا درست نہیں ہے مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی طرف سے دوا وغیرہ کو مستقل حکم ہوتا ہے تب دوا اثر کرتی ہے۔ اسی نظریہ کو عقائد کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اشاعرہ اور ماترید یہ کے متکلمین کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا مستقل

حکم ہوتا ہے کہ یہ کھانا اس کھانے والے کے پیٹ کو سیر کرے اور پانی اس پینے والے کی پیاس کو بجھا دے اور اگر کوئی شخص آگ میں گرتا ہے تو گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اسکو جلا دو ورنہ آگ اثر نہیں کرے جیسے حضرت ابراہیم پر آگ نے اثر نہیں کیا۔

ملا علی قاریؒ نے بحوالہ حمیدی ایک روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پردہ ہوتا ہے فرشتہ اس پردہ کو بیمار کے مرض اور دوا کے درمیان حائل کر دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیمار جو بھی دوا استعمال کرتا ہے وہ مرض کو نہیں لگتی (شفاء حاصل نہیں ہوتی) جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ بیمار اچھا ہو جائے تو وہ فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ مرض اور دوا کے درمیان سے پردہ اٹھایا جائے اس کے بعد جب بیمار دوا کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دوا کے ذریعہ شفا دیتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں پر پیدا کیا ہے اسی جگہ میں اس کے کھانے پینے اور دوا کا انتظام بھی کیا ہے جو جڑی بوٹیوں اور پھل فروٹ میں پوشیدہ ہے۔

### تین چیزوں میں شفاء ہے

﴿۳﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي شَرْطَةِ مُحَجِّمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيِّةِ بَنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے پچھنے والی سینگی لگانے میں، یا شہد پینے میں (خواہ خالص شہد پیا جائے یا پانی وغیرہ میں ملا کر پیا جائے) اور آگ سے داغنے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ (بخاری)

### توضیح

”شرطۃ محجم“ شرط فعلتہ کے وزن پر نشتار مارنے کو کہتے ہیں مگر یہاں صرف مارنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے نشتار کا مفہوم اس میں نہیں کیونکہ آگ محجم کا لفظ ہے جس سے حجام کے لوہے کا وہ آلہ مراد ہے جس کے ذریعہ حجام جسم میں زخم لگاتا ہے اور خون نکالتا ہے پورے جملے کا ترجمہ شیخ عبدالحق نے فارسی میں اس طرح کیا ہے

شفادہ سے چیز است یکی در خون کشیدن است

اردو میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے پچھنے والی سینگی لگانے میں، ملا علی قاری نے عربی میں اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے

”وهو الضرب علی موضع الحجامۃ لیخرج الدم منه“

”اوکیہ بنار“ تیسری چیز جس میں شفاء ہے وہ آگ سے داغنے میں ہے یعنی داغ لگانے والے نے لوہا گرم کیا اس سے بیمار

کو داغ یا روئی اور اسپند میں آگ لگا کر داغ دیا آج کل بھی اس کے ماہرین یہ کام کرتے ہیں اور علاج کامیاب ہو جاتا ہے۔

### سوال

آگ سے داغنے کے علاج سے بعض احادیث میں ممانعت آئی ہے جیسے زیر بحث حدیث میں ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرمؐ نے خود داغ کے عمل سے بعض صحابہ کا علاج کیا ہے صحابہ کے معمولات میں بھی داغ کا عمل پایا جاتا ہے ان روایات میں بظاہر تعارض ہے اس کا کیا جواب ہے؟

### جواب

اصل حقیقت اس طرح ہے کہ داغنے کا عمل جائز علاجوں میں سے ایک علاج ہے لیکن اس کے استعمال سے منع کرنے کی کچھ خارجی وجوہات ہیں۔

پہلی وجہ یہ کہ آنحضرتؐ نے امت پر شفقت و رحمت کے طور پر داغنے سے امت کو منع فرمایا کہ جب تک دوسرا علاج ممکن ہے داغنے کی طرف نہیں آنا چاہئے کیونکہ آگ سخت چیز ہے لیکن جب کوئی اور سہل طریقہ موجود نہ ہو تو پھر مجبوری میں معذوری ہے۔ ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ داغنے کے عمل کو عرب مؤثر بالذات سمجھتے تھے اس وجہ سے آنحضرتؐ نے اس غلط عقیدہ کے تحت داغنے کو منع فرما دیا مطلق ممانعت نہیں ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ مبالغہ اور کئی فاحش سے آنحضرتؐ نے روکا ہے بقدر حاجت کی اجازت پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے لہذا احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

### احادیث میں داغنے کا ذکر

﴿۴﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ أَبِي يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کہ (جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں) کے دن حضرت ابی کی رگ ہفت اندام پر تیر آ کر لگا جس سے خون جاری ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داغ دیا یعنی آپ نے زخم کے منہ کو داغنے کا حکم فرمایا، یا خود اپنے دست مبارک سے داغ لگا کر خون بند ہو جائے۔ (مسلم)

### توضیح

”الاحزاب“ غزوہ خندق اور غزوہ احزاب ایک ہی غزوہ کے دو نام ہیں چار ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا تھا دس ہزار کفار نے مدینہ منورہ کا ایک ماہ تک محاصرہ کر رکھا تھا جانین سے دو بدولرائی کی نوبت بوجہ خندق نہیں آئی البتہ تیر اندازی ہوتی رہی اسی

میں کئی صحابہ زخمی ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب کو اکھل یعنی بازو کی رگ میں تیر لگا اسی اکھل میں حضرت سعد بن معاذ کو بھی تیر لگا خون بند نہیں ہو رہا تھا تو آنحضرتؐ نے دونوں کو داغ دیا۔ اکھل رگ جان کا نام ہے اگر یہ گردن کے پاس ہو تو اس کا نام ابھر ہوتا ہے جب بازو میں یہ رگ آتی ہے تو اس کا نام اکھل ہو جاتا ہے اور جب یہ رگ ران اور پنڈلی میں آتی ہے تو اس کا نام النساء ہو جاتا ہے جو عرق النساء کے نام سے مشہور ہے۔

﴿۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بِمَشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذؓ کی رگ ہفت اندام پر تیر آ کر لگا (جس سے خون جاری ہو گیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تیر کے پیکان کے ذریعہ (زخم کو) داغ دیا پھر جب ان کے ہاتھ پر درم آ گیا تو آپ نے دوبارہ داغا۔ (مسلم)

﴿۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بْنِ كَعْبٍ طَبِيْبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعبؓ کے پاس ایک طبیب بھیجا طبیب نے ان کی ایک رگ کو کاٹ ڈالا اور اس (زخم) پر داغ دیا۔ (مسلم)

### کلوئی کی خاصیت

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ السَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سیاہ دانہ سام کے علاوہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے۔ ابن شہابؓ نے بیان کیا کہ سام سے موت مراد ہے اور سیاہ دانہ سے کلوئی مراد ہے۔ (بخاری، مسلم)

### توضیح

”الحبة السوداء“ سیاہ دانہ سے مراد کلوئی ہے یہ ایک پودے کا بیج ہے اس کا حجم اور رنگ روغن اور ذائقہ بالکل پیاز کے بیج کی طرح ہے شبہ ہوتا ہے کہ یہی کلوئی ہے لیکن یہ کلوئی نہیں ہے بلکہ کلوئی پنجاب کے علاقوں میں پیدا ہوتی ہے اس کو باقاعدہ کاشت کیا جاتا ہے اس کا پودا چھوٹا سا ہوتا ہے۔

”السام“ موت کو سام کہتے ہیں۔ ”الشونیز“ یہ کلونجی کے پودے کا اصل نام ہے۔ علامہ طیبی کا خیال ہے کہ کلونجی صرف ان امراض کا علاج ہے جو امراض رطوبت اور بلغم سے پیدا ہوں کیونکہ کلونجی کا مزاج خشک اور گرم ہے تو طبع مرطوبہ بلغمیہ کے لئے مفید ہے عام نہیں لیکن طیبی کے علاوہ تمام شارحین اسکو عموم پر حمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے لیکن اس طور پر شفاء ہے کہ دیگر ادویہ کے ساتھ اسکو ملایا جائے اور کلونجی کا جزء اس میں اہم و اعظم ہو علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ حدیث میں عموم ہے اس لئے عام معنی لینا زیادہ بہتر ہے کلونجی پر لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں بیشمار بیماریوں کے لئے اس کے خاص خاص نسخے تجویز کئے گئے ہیں۔

### شہد میں شفا ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَطْلَقًا فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَطْلَقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے یعنی اس کو دست پر دست آرہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہد پلا دو اس شخص نے (جا کر) اپنے بھائی کو شہد پلایا (کچھ دیر کے بعد) پھر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے شہد پلا دیا تھا۔ لیکن شہد نے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا کہ اس کے پیٹ چلنے میں اور زیادتی کر دی ہے یعنی شہد پلانے کے بعد سے دستوں میں پہلے سے بھی زیادتی ہو گئی ہے آنحضرت نے اس شخص کو تین مرتبہ یہی حکم دیا (یعنی آپ ہر بار یہی فرماتے کہ اس کو شہد پلا دو اور وہ شخص شہد پلاتا رہا۔ پھر آکر کہتا کہ میں نے شہد پلا دیا مگر دستوں میں پہلے سے بھی زیادتی ہو گئی ہے یہاں تک کہ وہ جب چوتھی مرتبہ آیا اور کہنے لگا کہ اس کے دستوں میں زیادتی ہو گئی ہے تو آنحضرت نے پھر یہی فرمایا کہ اس کو شہد پلا دو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے شہد پلا دیا ہے مگر شہد نے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا ہے کہ اس کے پیٹ چلنے میں اور زیادتی کر دی ہے تب آنحضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو سچ فرمایا ہے مگر تمہارے بھائی کا پیٹ ہی جھوٹا ہے۔ آخر کار اس شخص نے اپنے بھائی کو پھر شہد (خالص یا پانی میں ملا کر پلایا) تو وہ اچھا ہو گیا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”عسلا“ لوگوں اور عام اطباء کا خیال تھا کہ شہد خود مسہل ہے استطلاق بطن کے مریض کے لئے مناسب نہیں ہے لیکن



حضور اکرمؐ شہد پر زور دے رہے تھے اور اطباء کے ظاہر بینی کو مسترد فرما رہے تھے جب علاج ہو گیا تو پھر طب اور اطباء سب نے مانا کہ اسطلاح لطن کی اصل علت آنتوں میں ایک فاسد مادہ ہوتا ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوگا بیماری ختم نہیں ہوگی شہد سے اسہال پر اسہال ہو کر آخر میں وہ فاسد مادہ زائل ہو جاتا ہے تب علاج مکمل ہو جاتا ہے اس حقیقت کو اطباء نہیں جانتے تھے حالانکہ یہ علاج بالشل ہے اور اطباء کے ہاں یہ ایک مسلم حقیقت ہے، کتاب الطب کی ابتداء میں اس پر کلام ہو چکا ہے۔

کلوئی اور شہد کی برکت پر یقین رکھنے سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے صحابہ کرام نے مختلف امراض کے لئے شہد استعمال کیا ہے بلکہ ظاہری جسم پر شہد ملنے سے علاج کرتے تھے زخم پر شہد کی پٹی عجیب الاثر ہے بشرطیکہ شہد خالص ہو شہد خالص اس وقت کراچی میں آٹھ سو روپے فی کلو ہے ۲۰۰۵ء

### قسط کے فوائد

﴿۹﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں کو تم دوا علاج کے طور پر اختیار کرتے ہو ان میں بہترین چیز سنگی کھجوانا اور بحری قسط کا استعمال کرنا ہے۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”القسط“ یہ ایک جڑی کا نام ہے جس کو ”کوٹ“ بھی کہتے ہیں شاید کوٹ ہی کا عربی قسط ہو یہ ایک دوا کا نام ہے جو دور دراز جنگلوں میں ہوتا ہے چھوٹا سا پودا ہے اسکی جڑ ہے کشمیر کے علاقوں میں بہت ہوتی ہے خاص کر کیل اور ذوار یہ کے جنگلات میں بہت ہے، انگریز کے زمانہ میں اس کے نکالنے پر سخت پابندی تھی ۳۰۲ قتل کا کیس ہو جاتا تھا اطباء کے ہاں قسط کے بیشمار فوائد ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسط بحری ہے جو سفید رنگ میں ہے دوسری قسط ہندی ہے جس کا رنگ سیاہ سرخی مائل ہوتا ہے قسط بحری زیادہ مفید ہے زیر بحث حدیث میں قسط بحری کو بہترین دواؤں میں شمار کیا گیا ہے۔

”کوٹ“ سے بچوں کے گلے کی مخصوص بیماری ”عذره“ کا علاج

﴿۱۰﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْطِ مِنَ الْعَذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کے حلق کی بیماری کو ہاتھ یا کپڑے سے دبا کر ان کو اذیت نہ پہنچاؤ بلکہ تمہیں قسط کا استعمال کرنا چاہیے۔ (بخاری، مسلم)

## توضیح

”الغمز“ ہاتھ سے دبائے کو غمز کہتے ہیں ”العذرة“ عین پر پیش ہے ذال ساکن ہے راپر زبر ہے شیر خوار بچوں کے حلق اور گلے میں ایک بیماری ہوتی ہے عذره اس کا نام ہے اس کا سبب خون کا ہیجان ہوتا ہے بچوں کی مائیں ان بچوں کے تالو میں انگلی ڈال کر تالو کو زور سے دباتی ہیں جس سے ناک کے راستے سے کالا خون نکل آتا ہے اس عمل سے بچوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بجائے آسان علاج بتا دیا کہ قسط کو حل کر کے اس کا پانی حاصل کیا جائے اور اس پانی کو بچے کی ناک میں ٹپکایا جائے یہ پانی جب جمع شدہ خون کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو خون خشک ہو جاتا ہے بچے کو شفا ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی اطباء کو حیرانی ہوئی کہ قسط سخت گرم ہے اور یہ بیماری بھی گرمی سے پیدا ہوتی ہے اس کے لئے قسط کو کیسے تجویز فرما دیا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ خون اور اس کا ہیجان اصل میں بلغم کی وجہ سے ہوتا ہے گویا اس بیماری کا اصل فاسد مادہ بلغم ہے اور قسط سے بلغم ختم ہو جاتا ہے لہذا یہ اس کا بہترین آسان علاج ہے۔

## ”کوٹ“ سے ذات الجنب کا علاج

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا تَدْعُرْنَ أَوْلَادَكُمْ بِهَذَا الْعَلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلْدُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ام قیس کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کے حلق کا علاج اس طرح دبا کر کیوں کرتی ہو بلکہ تمہیں ان کا علاج عود ہندی یعنی کوٹ کے ذریعہ کرنا چاہئے کیونکہ عود ہندی میں سات بیماریوں کی شفا ہے جن میں ایک ذات الجنب ہے۔ عذره کی صورت میں سعوٹ کیا جائے (یعنی عذره بیماری کو دور کرنے کے لئے عود ہندی کو پانی میں گھول کر ناک میں ٹپکایا جائے) اور ذات الجنب کی صورت میں لدود کیا جائے (یعنی ذات الجنب کی بیماری کو دور کرنے کے لئے عود ہندی کو پانی میں گھول کر باچھ کی طرف سے منہ میں ٹپکایا جائے۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”تدعرن“ تفعّلن کے وزن پر ہے یہ دغر سے ہے دبائے کے معنی میں ہے جیسے غمز کا لفظ پہلے گزر گیا ہے۔ ”العلاق“ اس میں عین پر تینوں حرکات آتی ہیں نچوڑنے کے معنی میں ہے یہ بھی دغر کے معنی میں ہے دبانا نچوڑنا مراد ہے یعنی تم عورتیں کیوں اور کس وجہ سے اپنے چھوٹے بچوں کے حلق میں انگلی ڈال کر تالو کو دباتی ہو اور ان کو شدید تکلیف میں مبتلا کرتی ہو تم عود ہندی کو کیوں استعمال

نہیں کرتی ہو جس میں اس بیماری کے علاوہ کئی دیگر بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ عود ہندی اسی قسط اور کوٹ کو نام ہے۔  
 ”ذات الجنب“ یہ بیماری دو قسم پر ہے ایک یہ کہ سینہ میں اندر عضلات کی وجہ سے ورم آ جاتا ہے یہ خطرناک صورت ہے اور مہلک مرض ہے دوسری قسم یہ کہ پہلو میں ریا ح جمع ہو کر درد پیدا ہو جاتا ہے عود ہندی اور قسط ہندی اس دوسری قسم ذات الجنب کے لئے مفید ہے کیونکہ عود ہندی ریا حی امراض کے لئے دوا ہے ذات الجنب کے علاج کے لئے عود ہندی کو پانی میں گھول کر باجھوں کی طرف سے منہ میں ٹپکایا جاتا ہے۔

”سبعة اشفیة“ یعنی سات بیماریوں کا علاج قسط میں موجود ہے دو کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باقی پانچ کا نام نہیں لیا شاید لوگوں کے ہاں وہ بیماریاں مشہور تھیں نیز یہ بھی یاد رکھو کہ قسط کی دوا صرف ان سات امراض کے علاج میں منحصر نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ سات کا کیا ہے باقی کی نفی نہیں ہے کیونکہ قسط چوتھے دن کے بخار کے لئے مفید ہے دماغ کی قوت کے لئے مفید ہے اعضائے رئیسہ کے لئے مفید ہے، فالج، لقوہ، رعشہ کیلئے مفید ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لئے مفید ہے مردمی قوت کے لئے مفید ہے ریا حی امراض کے لئے مفید ہے وبائی امراض کے لئے مفید ہے چہرہ کی چھائیوں کے لئے مفید ہے (مظاہر حق)

### بخار کا علاج پانی سے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ وَرَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِ دُوهَا بِالْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عائشہ اور حضرت ابن خدیج بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ ہے لہذا تم اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”من فیح جہنم“ یعنی بخار دوزخ کی آگ کی تپش کا نمونہ ہے اس کلام میں تشبیہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بخار کی حرارت و تپش دوزخ کی حرارت و تپش کی طرح ہے اس حرارت کو توڑنے کے لئے بہترین علاج پانی ہے کیونکہ پانی کی طبیعت میں برودت ہے یہ برودت اس حرارت کو توڑ دے گی۔

یہ بات یاد رکھیں کہ بخار کی کئی قسمیں ہیں بعض بخار کے لئے پانی بہت مفید ثابت ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ سخت بخار میں غسل کیا ابھی غسل سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ بخار ختم ہو گیا لیکن بعض بخار کے لئے پانی اور غسل انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے لہذا اس ارشاد نبوی کے لئے ضروری ہے کہ آدمی پہلے اس بخار کا تعین کرے جس کے لئے غسل مفید قرار دیا گیا ہے حجاز مقدس میں

ججازی بخار ہوتا تھا اس کے لئے پانی مفید تھا ویسے عام بخاروں میں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اور جسم پر برف ملنا بہت مفید ہوتا ہے، عام ڈاکٹر تمام تیز بخاروں میں اس کا حکم دیتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے۔

## نظر بد کیلئے جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج کی اجازت

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقِيَّةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کے ذریعہ نظر بد، ڈنگ اور نملہ کا علاج کر نیکی اجازت دی ہے۔ (مسلم)

## توضیح

”رخص“ اجازت دینے کے معنی میں ہے پہلے جھاڑ پھونک کی ممانعت تھی کہ کہیں جاہلیت کے الفاظ اس میں نہ آئیں جب یہ خطرہ نہ رہا تو اجازت مل گئی رخص ممانعت کے بعد اجازت کو کہتے ہیں۔

”فی الرقۃ“ یعنی جھاڑ پھونک کی اجازت دی۔ ”العین“ نظر بد کو کہتے ہیں بعض لوگوں کی آنکھوں میں قدرتی طور پر نظر بد کے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو نظر لگنے کے ساتھ جا کر منظور الیہ پر پڑ جاتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتا ہے بعض کے جراثیم بہت تیز اور سخت ہوتے ہیں تو اس کی نظر بد زیادہ مضر ہوتی ہے عرب میں بنو اسد کے لوگ اس میں مشہور تھے ان میں سے بعض ایسے تھے کہ گھر میں بیوی سے کہتے کہ چولھے پر ہانڈی چڑھا دو میں ابھی گوشت بنا کر لاتا ہوں یہ کہہ کر باہر جاتا اور کسی حیوان پر نظر جما کر دیکھتا حیوان مر جاتا لوگ گوشت بنا کر تقسیم کرتے ہر علاقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک آدمی تھا اس نے ایک خوبصورت گول پتھر کو دیکھا اور کہا کیا ہی خوبصورت پتھر ہے پتھر مسجد میں رکھا ہوا تھا عام لوگوں کے سامنے فوراً پتھر ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔

”الحمة“ اصل میں زہر کو کہتے ہیں پھر اس کا اطلاق بچھو کے ڈنگ مارنے پر ہوا کیونکہ اس میں بھی زہر ہوتا ہے۔

”النملة“ اصل میں چیونٹی کو کہتے ہیں یہاں جسم کے اطراف میں چھوٹے دانوں پر بولا گیا ہے کیونکہ یہ دانے بھی چیونٹیوں کی طرح بدن میں پھیلنے ہیں کبھی پھوڑوں پھنسیوں کی شکل میں آتے ہیں آنے والی حدیث نمبر ۴۷ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

﴿۱۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نظر بد کا اثر دور کرنے کے لئے جھاڑ پھونک کرائیں۔ (بخاری و مسلم)

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ تَعْنِي صُفْرَةً فَقَالَ اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اس پر منتر پڑھو۔ یعنی اس کی جھاڑ پھونک کراؤ۔ کیونکہ اس کو نظر لگی ہے۔ (بخاری، مسلم)

توضیح

”سفعۃ“ چہرہ کی زردی کو سفعۃ کہتے ہیں سین پر زبر ہے اور ”فا“ ساکن ہے عین پر زبر ہے سین پر پیش بھی پڑھا گیا ہے اس کا ترجمہ علامۃ الشیطان سے بھی کیا گیا ہے اور ضربۃ واحده یعنی شیطان کے تھپڑ مارنے سے بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ راوی نے زرد رنگ سے ترجمہ کیا ہے شیخ عبدالحق نے چہرہ کی سیاہی کے ساتھ بھی ترجمہ کیا ہے مراد شیطان کی نظر بد ہے اور جنات کی نظر بد انسان کی نظر بد سے بدتر ہوتی ہے لغت کی کتابوں میں سفعۃ کا اطلاق چہرہ کے سیاہ دھبوں پر کیا جاتا ہے۔ مشہور یہی ہے۔

وہ جھاڑ پھونک جائز ہے جس میں خلاف شرع بات نہ ہو

﴿۱۶﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقِيَّةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعُقَرِ وَأَنْتَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرَى بِهَا بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتر پڑھنے اور پھونکنے سے منع فرما دیا تو عمرو بن حزم کے خاندان کے لوگ جو منتروں کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرتے تھے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے پاس ایک منتر ہے جس کو ہم بچھو کے کاٹے پر پڑھا کرتے تھے اب آپ نے منتروں سے منع فرما دیا ہے اس کے بعد انہوں نے منتر کو پڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا (تا کہ آپ اس منتر کو درست یا غلط ہونے کا فیصلہ فرمائیں) آنحضرتؐ نے (منتر کو سکر) فرمایا کہ میں اس منتر میں کوئی حرج نہیں دیکھتا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو وہ ضرور نفع پہنچائے (خواہ جھاڑ پھونک کے ذریعہ اور خواہ کسی اور طرح سے بشرطیکہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو۔ (بخاری، مسلم)

ابتدائی مباحث میں اس طرح اس حدیث پر مکمل کلام ہو چکا ہے کہ کون سے دم جائز ہیں کون سے جائز نہیں جھاڑ پھونک کے لئے ایک ضابطہ لکھا جا چکا ہے۔

## چھ آیات شفا سے نظر بد کا علاج

﴿۱﴾ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اغْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت عوف ابن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں (جھاڑ پھونک کے ذریعہ) منتر پڑھا کرتے تھے پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ان منتروں کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ان منتروں کو پڑھ کر مجھ کو سناؤ جب تک ان میں شرک نہ ہو میں کوئی حرج نہیں دیکھتا۔ (مسلم)

### توضیح

”مالم یکن فیہ شرک“ ابتدائی مباحث میں تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ کونسے جھاڑ پھونک جائز ہیں اور کونسے جائز نہیں ہیں اور اس کا ضابطہ کیا ہے یہاں اسی ضابطہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس جھاڑ پھونک میں شرکیہ کلمات نہ ہوں وہ جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔

### حکایت

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات میں اس حدیث کے تحت ایک قصہ لکھا ہے کہ شیخ ابوالقاسم قشیریؒ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میرا بچہ شدید بیمار ہوا یہاں تک کہ ہم ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے اسی دوران میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا میں نے بچے کی بیماری کی شکایت کی آپؐ نے فرمایا کہ تم آیات شفا سے کیوں غافل ہو رہے ہو؟ میں جب بیدار ہوا تو میں نے قرآن کریم میں آیات شفا کو تلاش کیا جو کل چھ آیات ملیں اس کو میں نے کاغذ پر لکھا اور دھو کر بچے کو پانی پلا دیا بچہ فوراً ایسا اٹھ کھڑا ہوا گویا اس کے پیروں کا بند کھول دیا گیا ہو وہ چھ آیات یہ ہیں۔ جو آدھی آیات کی شکل میں ہے۔

(۱) ویشف صدور قوم مؤمنین (۲) وشفاء لما فی الصدور (۳) یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس (۴) ونزل من القرآن ما ہو شفاء ورحمة للمؤمنین (۵) واذا مرضت فهو یشفین (۶) قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء .

## نظر بد کا لگنا ایک حقیقت ہے

﴿۱۸﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلَتْ فَأَغْسِلُوهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابن عباسؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نظر بد حق ہے (یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے) اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دو۔ (مسلم)

## توضیح

”العین حق“ یعنی نظر بد کا لگنا حق اور ایک حقیقت ہے یہ کوئی وہم اور توہم نہیں ہے دیکھنے والے کی آنکھوں میں کبھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کا اثر منظور الیہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ متاثر ہو جاتا ہے گویا عاین کی آنکھوں سے وائرس کی صورت میں ایک مسموم زہریلا مادہ نکلتا ہے اور جراثیم کی صورت میں جا کر منظور الیہ کے جسم سے پیوست ہو جاتا ہے اور اثر کرتا ہے جس طرح بعض سانپوں کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ اپنی نظر اور نگاہ کے ذریعہ سے منظور الیہ کی طرف اپنا زہر منتقل کر دیتا ہے جیسا پچھلے ابواب میں بعض سانپوں کے بارے میں احادیث میں مذکور ہے ہاں اگر اس وائرس اور جراثیم کے سامنے کوئی رکاوٹ موجود ہو جائے تو اس کا اثر منظور الیہ تک نہیں پہنچتا ہے مثلاً منظور الیہ کے پاس دفع نظر کی تعویذ ہو یا کوئی دوسرا وظیفہ ہو۔

معتزلہ کہتے ہیں کہ نظر بد لگنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے یہ صرف انسانی وہم ہے کیونکہ تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہی ہوگا نظر بد کا دخل تقدیر میں نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا خیال غلط ہے اور نظر کا لگنا قرآن سے ثابت ہے اور احادیث میں اس کی بڑی وضاحت ہے باقی نظر بد اور تقدیر کے درمیان کوئی تضاد نہیں بلکہ خود یہ نظر بد مقدرات الہیہ میں سے ہے ”سابق القدر“ یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب تقدیر الہی کے دائرہ میں ہے کوئی چیز تقدیر کی گرفت سے باہر نہیں ہے بالفرض اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ وہ تقدیر کے دائرہ کو توڑ کر آگے نکل سکتی تو وہ نظر بد ہوتی لیکن تقدیر کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے لہذا نظر بد بھی تقدیر کے دائرے کے اندر ہے۔

”واذا استغسلتم“ یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے اور لوگوں میں معروف و مشہور ہے اور اس کی نظر کسی کو لگ گئی تو دیگر علاجوں کے علاوہ پیغمبر اسلام نے ایک علاج یہ بتایا ہے کہ عاین سے مطالبہ کیا جائے کہ تم غسل کر کے پانی کو ٹب وغیرہ میں محفوظ کر لو اور پھر منظور الیہ کو دیدو وہ اس پانی سے غسل کر لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا چنانچہ آنے والی حدیث نمبر ۴۸ میں اس کا تفصیلی قصہ آ رہا ہے۔

زیر بحث حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جس شخص کو نظر بد لگ گئی ہے وہ اگر نظر لگانے والے سے مطالبہ کرے کہ تم غسل کر کے پانی مجھے دیدو تو اس کو فوراً ایسا کرنا چاہئے اور اس جہالت میں نہیں آنا چاہئے کہ اس میں میری بے عزتی ہے اسلام سے پہلے

عرب کے لوگ اس طرح عمل کرتے تھے اسلام نے بھی اس عمل کو برقرار رکھا ہے اس میں تاثیر ہوگی ورنہ کم از کم یہ فائدہ تو ہوگا کہ منظور الیہ کا وہم دور ہو جائے گا کہ اب مجھ پر نظر بد کا اثر نہیں رہا۔

## الفصل الثانی

بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے

﴿۱۹﴾ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ افْتَتَدَاوِي قَالَ نَعَمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَصْعُدْ دَاءٌ إِلَّا أَوْضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیماری میں دوا و علاج کریں؟ آپؐ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو دوا و علاج کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا نہ رکھی ہو۔ علاوہ ایک بیماری کے اور وہ بڑھاپا ہے۔ (احمد، ترمذی، ابو داؤد)

توضیح

”افتتداوی“ کیا ہم دوائی استعمال کریں، صحابہؓ نے یہ سوال اس لئے کیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید دوائی استعمال کرنا تقدیر الہی کے منافی ہوگا یا اعلیٰ توکل کے خلاف ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ علاج کرو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ نے ہر بیماری کے لئے دوا نازل فرمائی ہے یہ خود تقدیر کا ایک حصہ ہے ہاں بڑھاپا ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔

مریض کو زبردستی کھانا نہ کھلاؤ

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو زبردستی نہ کھلاؤ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح

انسانی جان کی بقاء کے لئے صرف غذا نہیں ہے یہ تو ظاہری اسباب میں سے ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے تو کسی غیبی ذریعہ سے انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے مثلاً مریض ہے وہ اگر ظاہری غذا نہیں کھا سکتا ہے تو اس کو مجبور نہ کرو اللہ تعالیٰ نے اس کی



بقاء کا غیبی انتظام فرمایا ہے وہ اس طرح کہ مریض کے جسم کی رطوبت پگھل جاتی ہے اور مریض کی غذا کے کام آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے کھلا پلا رہا ہے تم اس کو مجبور نہ کرو الٹا نقصان کر لو گے۔

## سرخ بادہ کا علاج

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَىٰ أَسْعَدَ بْنَ زُرَّارَةَ مِنَ الشُّوْكَةِ .  
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زرارہ کے جسم پر سرخ بادہ (کی بیماری کے علاج) کیلئے داغ دیا۔ اور اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

## توضیح

”الشوكة“ وہی حمرة تعلو الوجه والجسد، (مرقات) یعنی شوکہ اس سرخی کا نام ہے جو چہرہ اور جسم پر حاوی ہو جاتی ہے اس کو اطباء سرخ بادہ کہتے ہیں جسم کی ایک جگہ سے ابتدا ہوتی ہے پھر پورے جسم میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے اس کو سرخ بادہ کہتے ہیں شاید پشت میں اس کو لمبہ کہتے ہیں بہت سخت بیماری ہے۔

## ذات الجنب کا علاج

﴿۲۲﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَدَاوِيَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ .  
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت زید ابن ارقمؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ ہم ذات الجنب کی بیماری میں قسط بحری اور زیتون کے تیل کے ذریعہ علاج کریں۔ (ترمذی)

﴿۲۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعُثُ الزَّيْتِ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ .  
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت زید ابن ارقمؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجنب کے علاج کے لئے زیتون کے تیل اور ورس کی تعریف کرتے تھے۔ (ترمذی)

زیتون کے تیل کو زیت کہتے ہیں ”ورس“ ایک قسم کی گھاس ہے جس کا رنگ سرخ وزرد ہوتا ہے اس کے ریشے زعفران کی طرح ہوتے ہیں کئی دواؤں میں استعمال ہوتا ہے۔

## سنا بہترین دوا ہے

﴿۲۴﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا بِمَا تَسْتَمَشِينَ قَالَتْ بِالشُّبْرُمِ قَالَ حَارٌّ حَارٌّ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمَشَيْتُ بِالسَّنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ الشِّفَاءُ مِنَ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

اور حضرت اسماء بنت عمیسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز سے جلاب (مسہل) لیتی ہو؟ انہوں نے کہا شبرم سے۔ آپ نے فرمایا شبرم تو گرم ہے گرم۔ اسماء کہتی ہیں کہ پھر میں نے سنا سے جلاب لیا اور نبی کریم نے فرمایا اگر کسی چیز میں موت سے شفاء ہوتی یعنی موت کا علاج کسی دوا میں ہوتا تو وہ سنا ہوتی۔ (ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

## توضیح

”اسماء بنت عمیس“ حضرت جعفر طیارؓ کی زوجہ محترمہ ہیں انکی شہادت کے بعد حضرت صدیق کے نکاح میں آئی تھیں۔ ”تستمشین“ استمشاء طلب مثنیٰ کو کہتے ہیں اور مثنیٰ سے مراد اسہال اور دست ہے یعنی کس چیز سے جلاب لیتی ہوتا کہ اسہال ہو جائے؟ ”بالشبرم“ یہ ایک گھاس کا نام ہے اس پودے کے دانے مراد ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جو مسور کے برابر ہوتے ہیں یہ دانے دست آور ہوتے ہیں اس کو پانی میں جوش دیا جاتا ہے اور پھر اس کا پانی پیاجاتا ہے جس سے جلاب ہو جاتا ہے۔

”حار حار“ یعنی شبرم گرم ہے گرم ہے، اس لفظ کو بطور تاکید مکرر لایا گیا ہے بعض نسخوں میں حار کے بعد ”جار“ جیم کے ساتھ ہے وہ صرف وزن بنانے کے لئے الفاظ مہملہ میں سے ہے جیسے کع یا پانی شانی۔ اطباء کہتے ہیں کہ شبرم درجہ چہارم کی گرم دواؤں میں سے ہے بہت زیادہ دست لاتا ہے اس لئے اس میں احتیاط شرط ہے۔

”فی السنا“ قصر کے ساتھ ہے بعض نے مد کے ساتھ بھی پڑھا ہے ایک پودا ہے اس کے پتوں کو سنا کہتے ہیں مہندی کے پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں اس کی عمدہ قسم سنا کی ہے اسکو پیستے ہیں اور پھر استعمال کرتے ہیں سخت کڑوا ہے یہ درجہ اول میں گرم ہے معتدل ہے اس میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ صفر کو کاٹنا ہے بلغم کے اسہال اور تنقیہ کے لئے انتہائی مفید ہے دل کے خول کو طاقتور بناتا ہے اس میں سوداوی وسواس کو دفع کرنے کی خاصیت بطور خاص موجود ہے، خلاصہ یہ ہے کہ موت کے سوا تمام امراض کے علاج میں مفید تر ہے۔

## حرام چیزوں سے علاج مت کرو

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَبِي دَرْدَاءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو درداءؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی اتاری ہے اور دوا بھی، اور ہر بیماری کے لئے دوا مقرر کی ہے لہذا تم دوا سے بیماری کا علاج کیا کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو۔ (ابوداؤد)

توضیح

”بالحرام“ حرام چیز سے مراد خنزیر کے اجزاء اور شراب وغیرہ اشیاء ہیں ریچھ کا گوشت شیر وغیرہ مردار جانوروں کے اجزاء سے علاج حرام ہے متعدد احادیث میں حرام اشیاء سے علاج کرنے کو منع کیا گیا ہے گویا اس میں شفا ہی نہیں تو استعمال فضول ہے۔ حضرت ابن مسعود کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اشیاء کو حرام قرار دیا ہے ان میں تمہارے لئے شفا بھی نہیں رکھی ہے۔ ایک صحابی حضرت طارقؓ نے آنحضرتؐ سے شراب کے ذریعہ علاج کی اجازت مانگی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب دوا نہیں بلکہ درد اور مرض ہے۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مریضوں کے عدم شفاء کے لئے بد دعا مانگی جو حرام سے دوا کرتے ہیں فرمایا ”من تداوى بالحرام فلا شفاہ اللہ۔“

(کذا فی اشعة اللمعات والمرقات)

ملا علی قاری وغیرہ شارحین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حاذق و ماہر اور دیندار و پرہیزگار طبیب کسی مریض کو کہہ دے کہ تیرا علاج شراب کے علاوہ کسی اور دوا میں نہیں ہے تو پھر بطور علاج اس کا استعمال جائز ہوگا۔

یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اس کا تحقق ہونا محال ہے مثلاً سب اطباء اس پر کیسے متفق ہو سکتے ہیں کہ اس مرض کا علاج شراب کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے اسی طرح حاذق و ماہر اطباء کا وجود بھی بہت نادر ہے گویا ان قیودات کے ساتھ شراب کے استعمال کا جواز تعلیق بالمحال ہے۔

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا سے منع فرمایا۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح

”الخبیث“ اس سے مراد حرام دوا ہے جس کی تفصیل اوپر لکھی گئی ہے یا اس سے مراد وہ دوا ہے جس سے طبیعت نفرت کرتی

ہو علماء و اطباء نے لکھا ہے کہ طبیعت جس دوا سے نفرت کرتی ہے اس میں عموماً علاج اور شفا نہیں ہوتی ہے اس صورت میں یہ نہی کراہت پر محمول ہوگی۔

### مہندی سے درد کا علاج

﴿۲۷﴾ وَعَنْ سَلْمَى خَادِمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ احْتَضِبْهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت سلمیٰؓ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں۔ کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کی (ایسی) بیماری کی شکایت کرتا (جس کا تعلق خون کی زیادتی و دباؤ سے ہوتا) تو آپ فرماتے کہ سینگ کی کچھواؤ۔ اور جو شخص پاؤں کے درد کی شکایت کرتا (یعنی ایسا درد جو گرمی و حرارت کی بنا پر ہوتا) تو آپ فرماتے کہ پیروں پر مہندی لگا لو۔ (ابوداؤد)

توضیح

”اختضبہما“ اس خضاب سے مراد مہندی لگانا ہے یعنی جہاں پاؤں یا سر میں درد ہو وہاں پر مہندی لپ کر کے لگائی جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے زیر بحث حدیث میں سر کے درد کے لئے سینگ کروانے کا حکم ہے مردوں کو چاہئے کہ ناخنوں پر مہندی نہ لگائیں تاکہ عورتوں سے مشابہت نہ آئے۔

### مہندی سے زخم اور پھوڑوں کا علاج

﴿۲۸﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَاءَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت سلمیٰؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے (جسم کے کسی حصہ پر) جب بھی کوئی زخم آ جاتا (خواہ تلوار، چھری یا اور کسی ایسی چیز کے کٹ جانے کی صورت میں ہوتا) یا پتھر اور کانٹے سے آپ زخمی ہو جاتے تو مجھ کو حکم دیتے کہ میں اس زخم پر مہندی (کی چھٹس) رکھ دو۔ (ترمذی)

توضیح

”قَرْحَةٌ“ جسم کے پھوڑوں اور دانوں پر بھی بولا جاتا ہے اور چھری چاقو کے زخم پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے دونوں معنی لیے

جاسکتے ہیں لیکن پھوڑوں کا معنی زیادہ بہتر ہوگا تا کہ حدیث میں عموم آجائے کیونکہ زخم کا ذکر بعد میں خود موجود ہے۔  
 ”نکبۃ“ مطلق زخم کو بھی کہتے ہیں لیکن اگر قرعہ سے زخم مراد لینے کی صورت میں فرق کرنا مقصود ہو تو نکتہ پتھریا کانٹے وغیرہ کے زخم پر حمل کیا جائے گا۔

### سینگی کھنچوانے کا ذکر

﴿۲۹﴾ وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوِيَ بِشَيْءٍ .  
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ .

اور حضرت ابو کبشہ انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اور اپنے دونوں مونڈھوں کے درمیان بھری ہوئی سینگیاں کھنچواتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ان خونوں میں سے کچھ نکال دیا کرے اور پھر وہ کسی بیماری کا علاج نہ کرے تو اس کو کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچے گا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

### توضیح

”علی ہامتہ“ سر اور کھوپری کو ہامہ کہتے ہیں ”کتفیہ“ یعنی کندھوں کے درمیان سے کبھی بھری ہوئی سینگی کھنچواتے تھے اور کبھی مونڈھوں کے درمیان سے خون نکالتے تھے۔ ”اھراق“ وافر مقدار میں خون گرانے کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی سینگی کھنچوانے کے بعد کسی اور علاج کی ضرورت نہیں پڑیگی۔

﴿۳۰﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثًا كَانَ بِهِ .  
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو لہے پر بھری ہوئی سینگی کھنچوائی کیونکہ آپ ﷺ کے پائے مبارک پر موج آگئی تھی۔ (ابوداؤد)

### توضیح

”ورک“ کو لہے اور موٹی ران کہہ رکے ہیں۔ ”من وثا“ ملا علی قاری اور علامہ طبری لکھتے ہیں کہ یہ لفظ واؤ کے زبر اور ثا کے سکون اور آخر میں ہمزہ کے ساتھ ہے۔ پاؤں میں موج آنے یا گوشت میں زخم لگنے کو کہتے ہیں وفی القاموس الوثاء وجع يصيب اللحم لا يبلغ العظم، او وجع في العظم بلا كسر او هو الفك.

اسی فک کو موج آنا کہتے ہیں لغت میں یہ لفظ زیادہ تر اسی موج آنے کے لئے بولا جاتا ہے لیکن اس حدیث میں موج آنے کا ترجمہ لینا بعید معلوم ہوتا ہے باقی دو مطلب زیادہ واضح ہیں کیونکہ پچھنے لگوانے کا فائدہ اس میں ظاہر ہو جاتا ہے۔

### سینگی کھنچوانے کی اہمیت

﴿۳۱﴾ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرَى بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَى مَلَأَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا أَمَرُوهُ مُرَامَتَكَ بِالْحِجَامَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے واقعات بتاتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ آپ ملائکہ کی جس جماعت کے پاس سے گزرے اس نے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) یہ حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم دیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

### توضیح

”مرامتک“ اس حدیث سے پچھنے اور سینگی کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ امراض دموی فساد خون سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ فساد خون تمام امراض کی جڑ ہے جن کو امراض دموی کہتے ہیں خون کے فشار اور فساد سے بلڈ پریشر ہوتا ہے جس سے شوگر ہو جاتی ہے اور شوگر ایک قسم موت ہے امراض دموی کا سب سے بڑا علاج خون نکلوانا ہے۔ جو حجامہ ہے۔ ”فصد“ کی نسبت پچھنے میں زیادہ فائدہ اس لئے ہے کہ اس سے جلد کی اطراف کے ہر حصہ سے خون کھینچا جاسکتا ہے فصد سے تو صرف ایک رگ سے خون نکلتا ہے۔

”امتک“ سے مراد پوری امت ہے جن کو اس علاج کی ضرورت پڑ جائے یہ عام مفہوم ہے اور امت سے صرف عرب بھی مراد لیا جاسکتا ہے کیونکہ ان کو بطور خاص مفید اور نافع تر ہے کیونکہ ان کا ملک سخت گرم ہے عام مفہوم لینا زیادہ واضح ہے کفار اغیار نے مسلمانوں سے ان کا طریقہ علاج چھین لیا ہے اب ان چیزوں کو وہ بجائے نافع کے مضر قرار دیتے ہیں ور مسلمان حکمران صرف دیکھتے ہیں۔

### مینڈک کی دوا بنانے کی ممانعت

﴿۳۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاها النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبدالرحمن ابن عثمانؓ سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کو دوا میں شامل کرنے کے بارے میں پوچھا (کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں؟) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مینڈک کے مارنے سے منع فرمایا۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”عن صفدع“ طبیب نے آنحضرتؐ سے یہ سوال اس لئے کیا کہ اس سے پہلے اطباء کے ہاں یہ دستور تھا کہ دوا میں مینڈک کو شامل کرتے تھے اسلامی نقطہ نظر سے طبیب نے یہ سوال کیا آنحضرتؐ نے مینڈک کو مارنے اور اسے دوا میں شامل کرنے سے منع فرمادیا۔ جامع صغیر میں ہے کہ ”نہی عن قتل الصفدع للدواء“ ملا علی قاری فرماتے ہیں ”ولم یکن النہی عن قتلہا ابقاء علیہا ومکرمة لہا بل لانہ لم یر التداوی بہا لرجسہا وقذارتہا“ (مرقات)

یعنی آنحضرتؐ مینڈک مارنے کی ممانعت اس پر ترس کھانے یا اسکے تقدس کی وجہ سے نہیں فرمائی بلکہ آنحضرتؐ نے اس کے مارنے کو اس لئے منع فرمایا کہ مینڈک میں اس کی نجاست اور کراہت طبع کی بنیاد پر علاج نہیں پایا۔ میرے خیال میں یہ حدیث علامات نبوت میں سے ایک علامت اور معجزہ ہے کیونکہ پوری دنیا میں میڈیکل تجربات مینڈکوں پر ہوتے ہیں کروڑوں مینڈک بے مقصد مارے جاتے ہیں۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ تھا نجس بھی تھا اور استقذار طبع بھی تھی۔

## آنحضرتؐ کے کھینچنے لگوانے کا بیان

﴿۳۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَكَانَ يَخْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاحِدَيْنِ وَعِشْرَيْنِ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن کی دونوں رگوں میں مونڈھوں کے درمیان بھری ہوئی سیبکی کھینچواتے تھے۔ (ابوداؤد) ترمذی اور ابن ماجہ نے یہ عبارت بھی نقل کی ہے کہ اور آنحضرتؐ سترھویں، انیسویں، اور اکیسویں تاریخ کو سیبکی کھینچواتے تھے۔

## توضیح

”اخذعین“ گردن کی دونوں جانب جو دو رگیں ہیں اس کو اخدعین کہتے ہیں۔ ”الکاهل“ کندھوں کے درمیان حصہ کو کاهل کہتے ہیں۔ بلکہ گردن کے نیچے پشت کے چھ مہروں پر مشتمل پورے حصہ کو کاهل کہا جاتا ہے (مرقات)

## کچھنے لگوانے کے دن اور تاریخیں

﴿۳۴﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْحِجَامَةَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاحِدَى وَعِشْرِينَ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سترھویں، انیسویں، اور اکیسویں، تاریخ کو سیٹگی کھنچوانا پسند فرماتے تھے۔ (شرح السنۃ)

توضیح

ان دنوں اور تاریخوں میں خون نکالنے یا نہ نکالنے کا تعین مفوض الی علم الشارع ہے اس میں کوئی شخص دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ بعض روایات میں کچھ دنوں کی خاصیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو جتنا اشارہ ہے اتنا ہی اشارہ سمجھ لینا چاہئے تاریخوں میں اطباء کا خیال ہے کہ چاند کے حساب سے انسان کے بدن کا خون بھی گھٹتا بڑھتا ہے چاند کی پندرہ تاریخ سے اکیس تک خون کا جوش بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان تاریخوں میں خون کا اخراج زیادہ ضروری اور قابل اصلاح ہوتا ہے۔

﴿۳۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاحِدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ہریرہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص سترھویں، انیسویں، اور اکیسویں تاریخ کو سیٹگی کھنچوائے گا اس کو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ (ابوداؤد)

﴿۳۶﴾ وَعَنْ كُبَشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثَّلَاثِ وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَوْمَ الثَّلَاثِ يَوْمُ الدَّمِّ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت کبشہ بنت ابی بکرہؓ سے روایت ہے کہ ان کے باپ اپنے گھروالوں کو منگل کے دن سیٹگی لگوانے سے منع کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ منگل کا دن خون (کے غلبہ) کا دن ہے اور اس دن ایسی گھڑی آتی ہے کہ خون بند نہیں ہوتا (لہذا اس دن خون نکلوانے کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہی گھڑی پڑ جائے اور خون رکنے کا نام نہ لے جس سے ہلاکت بھی واقع ہو سکتی ہے)۔ (ابوداؤد)

توضیح

اس حدیث میں منگل کے دن خون کے اخراج سے منع کیا گیا ہے اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں ایک وقت ہے جس میں اگر



خون نکالا گیا تو کبھی بند نہیں ہوگا آدمی مر جائے گا اور شاید حضرت آدمؑ کے بیٹے ہابیل کا خون قاتیل نے اسی دن گرایا تھا لہذا یہ خون خرابہ کا دن ہے۔ یزعم کا لفظ شک کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ حدیث مرفوع کے بجائے موقوف ہو سکتی ہے۔

﴿۳۷﴾ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ احْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَاصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ وَقَدْ أُسْنِدُوا وَلَا يَصِحُّ

اور حضرت زہری تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ (آپ نے فرمایا) جو شخص ہفتہ کے دن یا بدھ کے دن سیگی کھنچوائے اور پھر اس کو کورھ کی بیماری لگ جائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ (ابوداؤد، احمد) اور ابوداؤد نے کہا ہے کہ یہ حدیث (ایک روایت میں) مسند بیان کی گئی ہے (یعنی وہ روایت راویوں کے اعتبار سے متصل ہے اور وہ اسناد صحیح نہیں ہے۔

## توضیح

اس حدیث میں ہفتہ اور بدھ کے دن خون نکالنے سے منع کیا گیا ہے۔ ”وَضَحٌ“ یہ روشنی اور وضاحت سے لیا گیا ہے مراد یہ ہے کہ ان دنوں میں خون اتنا زیادہ گر جائے گا کہ آدمی کو برص کی بیماری لاحق ہو جائے گی وضح برص کو کہتے ہیں یعنی جسم کا سفید ہو جانا۔

”فلا یلومن“ یعنی کسی قانون اور کسی شرعی ضابطہ پر الزام نہ لگائے شریعت نے تو انکی رہنمائی فرمادی جب اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو اب اپنے آپ کو ملامت کرے۔

﴿۳۸﴾ وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ احْتَجَمَ أَوْ اِطْلَى يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ الْأَرْبَعَاءِ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فِي الْوَضَحِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

اور حضرت زہریؒ بطریق ارسال کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہفتہ یا بدھ کے دن بھری ہوئی سیگی کھنچوائے یا (اپنے بدن کے کسی عضو پر) لیپ کرے تو وہ کورھ میں مبتلا ہو جانے کی صورت میں اپنے آپ کو ملامت کرے۔ (شرح السنۃ)

مورخہ ۲ ربیع الاول ۱۲۱۸ھ

## شیطان کس طرح انسان کو غلط منتر جنت پر مجبور کرتا ہے

﴿۳۹﴾ وَعَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَأَى فِي غُنْقِي خَيْطًا فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ خَيْطٌ رُقِيَ لِي فِيهِ قَالَتْ فَآخِذْهُ فَقَطَعَتْ ثُمَّ قَالَ أَنْتُمْ أَلْ عَبْدِ اللَّهِ لَا غِنِيَاءَ عَنِ الشَّرْكِ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّقْيَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ فَقُلْتُ لِمَ تَقُولُ هَكَذَا لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ اخْتَلِفُ إِلَى فُلَانِ الْيَهُودِيِّ فَإِذَا رَقَاهَا سَكَتَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخَسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقِيَ كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَذْهَبُ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يَغَادِرُ سَقَمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینبؓ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ نے میری گردن میں تاگا پڑا ہوا دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تاگا ہے۔ جس پر میرے لئے منتر پڑھا گیا ہے زینبؓ کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ نے (یہ سن کر) اس تاگے کو میری گردن سے نکال لیا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور پھر کہا کہ اے عبداللہؓ کے گھر والو تم شرک سے بے پروا ہو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلاشبہ منتر منکے، اور ٹوٹے شرک ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ بات کس طرح کہہ رہے ہیں۔ جب کہ مجھ کو منتر سے بہت فائدہ ہوا ہے چنانچہ میری آنکھ (درد کے سبب) نکل پڑی تھی اور میں فلاں یہودی کے ہاں آیا جا یا کرتی تھی اس یہودی نے جب منتر پڑھ کر آنکھ کو دم کیا تو آنکھ کو آرام مل گیا۔ حضرت عبداللہؓ نے کہا کہ (یہ تمہاری نادانی و غفلت ہے) اور وہ درد اس کا اچھا ہو جانا منتر کے سبب سے نہیں تھا بلکہ حقیقت میں وہ شیطان کا کام تھا شیطان تمہاری آنکھ کو کوخنتا تھا (جس سے تمہیں درد محسوس ہوتا تھا) پھر جب منتر پڑھا گیا تو چونکہ وہ ایک شیطان کا کام تھا اس لئے شیطان نے کوخنتا چھوڑ دیا۔ تمہارے لئے وہ دعا بالکل کافی تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے (یعنی اے لوگوں کے پروردگار تو ہماری بیماری کو دور کر دے اور شفا عطا فرما دے کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے علاوہ شفا نہیں ہے ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔) (ابوداؤد)

## توضیح

”رقی لی فیہ“ یعنی یہ تاگا ہے جس پر میرے لئے منتر جنت پڑھا گیا ہے۔ ”الرقي“ یعنی وہ جھاڑ پھونک جس میں کسی بت یا شیطان یا فرعون و ہامان کا نام ہو یا کوئی شرکیہ کلمہ ہو یا جس کا معنی معلوم نہ ہو ایسے جھاڑ پھونک کرنا منع ہے۔

”والتمايم“ تمیمہ کی جمع ہے منکوں کو کہتے ہیں عرب لوگ کچھ ہڈیاں مہرے وغیرہ لیکر اس کا ہار بناتے تھے اور پھر بچوں کے گلے میں یا پاؤں میں باندھتے تھے ان کا خیال تھا کہ اس سے نظر بد وغیرہ آفات سے بچاؤ ہوتا ہے اصل حقیقت تمام کی یہی ہے پھر اس میں وسعت پیدا ہو گئی اور اس کا اطلاق عام تعویذات پر بھی ہونے لگا لہذا جن تعویذات میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو ادعیہ ماثورہ ہوں صالح و طائف ہوں اس کی ممانعت نہیں ہے یہ فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے شرکی تعویذات منع ہیں شرعی تعویذات جائز ہیں۔

واذا المنية أنشبتْ اظفارها الفيت كل تميمة لاتنفع

”التولة“ تا پرزیر ہے واؤ اور لام پرزبر ہے جادو کے ٹونکے کو کہتے ہیں کہ تاگہ پر کچھ جادو کے ٹونکے پڑھ کر عورت کو مرد اور مرد کو عورت پر عاشق بنایا جاتا ہے جس کو پشتو میں ”کوڈے“ کہتے ہیں اس میں عموماً جادو اور شرک کا عمل ہوتا ہے یہ سب ناجائز ہے اس لئے آنحضرت نے فرمایا کہ یہ سب شرک ہے یعنی بے شک منتر منکے اور ٹونکے شرک ہیں۔

حزب اللہ اور جماعت المسلمین کے گمراہ لوگ اس حدیث کے ان الفاظ کی صحیح تشریح نہیں کرتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں کہ مطلق تعویذات منع ہیں حالانکہ ان کا یہ کہنا غلط ہے تعویذات کا بنانا ثابت ہے البتہ اس کو کاروبار بنانا یا غلط انداز اختیار کرنا غلط ہے تو غلط لوگوں کے غلط کام کو غلط کہا جائے نہ کہ مطلق تعویذ کو غلط کہا جائے۔

”لم تقول هكذا“ یعنی آپ کیوں روکتے ہو حالانکہ ہمیں تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ منتر جنتر میں فائدہ ہوتا ہے ”تقذف“ یعنی آنکھیں دکھتی تھیں گویا اس میں کسی نے تزکا پھینکا ہو، مجہول کا صیغہ ہے۔  
 ”اختلف الى“ یعنی جھاڑ پھونک کے لئے فلاں یہودی کے پاس آتی جاتی رہتی تھیں۔  
 ”رقاها“ جب وہ دم کرتا تھا ”سكنت“ آرام آ جاتا تھا۔

”عمل الشيطان“ یعنی شیطان کا ایک منظم منصوبہ ہوتا ہے وہ عقائد و اعمال خراب کرنے کے لئے یہ سازش کرتا ہے کہ پہلے کسی جگہ کو دبا کر بیمار کرتا ہے جب انسان ناجائز جھاڑ پھونک کرتا ہے یا مزار پر حاضری دیکر چادر چڑھاتا ہے یا غیر اللہ کے نام نذر و نیاز اور زنج کرتا ہے تو شیطان اس جگہ سے انگلی ہٹاتا ہے تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا عقیدہ ان غلط منتروں اور ٹونکوں پر پکا ہو جاتا ہے۔ ”يخسها“ یعنی دباتا ہے مارتا رہتا ہے۔ ”كف“ یعنی یہ یہودی ملحد جب دم کرتا ہے تو شیطان اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، بیمار سمجھتا ہے کہ یہ کمال یہودی کے منتر میں ہے، تم کو چاہئے کہ نبوی ارشادات کے مطابق یہ وظائف پڑھا کرو۔

## نشرہ شیطان کا کام ہے

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّشْرِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ شیطانی کام ہے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”النشرة“ نون پر پیش ہے شین ساکن ہے را پر زبر ہے یہ ایک قسم کا سفلی عمل ہے جو آسیب کے دفعیہ کے لئے کیا جاتا ہے۔ علامہ طبیبی لکھتے ہیں کہ نشرہ ایک رقیہ و منتر ہے جس کے ذریعہ سے مجنون کے جنون کا علاج کیا جاتا ہے اس کو نشرہ اس لئے کہتے ہیں کہ عرب کا خیال تھا کہ جنات اس مرض کو مجنون سے لیکر ادھر ادھر پھیلاتے ہیں۔ جریر شاعر کہتا ہے۔

ادعوك دعوة ملهوف كان به مساً من الجن اور یحامن النشر

حدیث میں جس نشرہ کا ذکر ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے جادو کا عمل مراد ہے۔ اور اگر اس سے تعویذات اور منتر جنتر کا عمل مراد لیا جائے تو اس کا احتمال بھی ہے لیکن پھر تعویذات اور جھاڑ پھونک سے جاہلیت کے شرکیہ تعویذات مراد ہونگے اور غلط جھاڑ پھونک مراد ہوگا کیونکہ جائز تعویذات جائز ہیں۔

## گلے میں گندے لٹکانے کی مذمت

﴿۴۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَبَالِيُ مَا أَتَيْتُ  
إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تَرِياقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشَّعْرَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ہر عمل سے لا پرواہ ہو جاؤں گا اگر میں تریاق پیوں یا گلے میں منکا ڈالوں اور یا میں اپنے دل سے اور اپنے قصد و ارادہ سے شعر لکھوں۔ (یعنی خود

اشعار بناؤں) (ابوداؤد)

## توضیح

”وعن عبد اللہ بن عمر“ یہاں کاتب کی غلطی سے مشکوٰۃ کے نسخوں میں عبد اللہ بن عمر لکھا ہوا ہے یہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص ہیں عبد اللہ بن عمر بن خطاب نہیں۔

”ما ابالی“ یعنی مجھے کوئی باک اور پرواہ نہیں رہیگی کہ میں کوئی جائز یا ناجائز کار ارتکاب کروں اگر میں ان تین چیزوں کا ایک بار ارتکاب کروں۔ ”ما ابالی“ پہلا والا مانافیہ ہے دوسرا موصولہ ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان تین چیزوں کا ارتکاب کروں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کسی جائز اور ناجائز کار ارتکاب کروں پھر تو ہر نامشروع کام کا ارتکاب بھی جائز ہو جائے گا اگر ان ناجائز اشیاء کا ارتکاب میں کروں جب میں کسی ناجائز کار ارتکاب نہیں کرتا تو ان تین اشیاء کا بھی نہیں کرونگا۔ ایک ناجائز تو تریاق کا استعمال ہے جب اس میں شراب یا سانپ کا گوشت ملا یا گیا ہو تو یہ میرے لئے اور میری

امت سب کے لئے حرام ہے یا میں شریکہ منکے اور گندے گلے میں لٹکا دوں یہ شریکہ گندے میرے لئے بھی اور میری امت سب کے لئے حرام ہیں۔ اور یا میں شعر کہ دوں یہ میرے لئے حرام ہے البتہ میری امت کے لئے حرام نہیں ہے کیونکہ شعر تو ایک کلام ہے ”حسنہ حسن و قبیحہ قبیح“ لیکن شان نبوت کے یہ منافی ہے کہ میں شعر گوئی کروں شاعر بنوں اور شعر بناؤں ہاں دوسرے کا ایک آدھ شعر کبھی پڑھ لینا وہ منع نہیں ہے۔

اس زمانہ میں تریاق میں شراب یا سانپ کا گوشت ملایا جاتا تھا اور پھر زہر کا علاج ہوتا تھا اگر یہ ناجائز اشیاء تریاق میں نہ ہوں تو فی نفسہ تریاق تو ایک جائز مرکب کا نام ہے جو ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح شریکہ گندے اگر نہ ہوں صالح تعویذات ہوں تو امت کے لئے وہ بھی منع نہیں ہیں اور شعر تو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے منع تھے۔

### غلط جھاڑ پھونک منع ہے

﴿۴۲﴾ وَعَنْ الْمُغْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اكْتَوَىٰ أَوْ اسْتَرْفَىٰ فَقَدْ بَرَأَ مِنَ التَّوَكُّلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه

اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے داغ دلوایا یا منتر پڑھوایا تو وہ توکل سے بری ہوا۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

### توضیح

”اکتوی“ جھاڑ پھونک، علاج معالجہ اور داغ وغیرہ کو جو شخص موثر بالذات سمجھتا ہے تو یہ بالاتفاق ناجائز ہے اور اگر اسباب و ذرائع کے درجہ میں مباح سمجھ کر کرتا ہے تو یہ اسباب کا استعمال ہے اسباب پر اتکال اور بھروسہ ناجائز ہے اس کا استعمال تو جائز ہے اب زیر بحث حدیث کو یوں سمجھ لیجئے:

کہ اگر کوئی شخص جائز جھاڑ پھونک کرتا ہے اور علاج معالجہ کرتا ہے تو یہ جائز اور مباح ہے لیکن اگر کوئی شخص اس مباح سے بھی احتیاب کرتا ہے اور توکل کے اعلیٰ مقام پر رہنا چاہتا ہے تو جھاڑ پھونک اور علاج معالجہ کوئی فرض تو نہیں ہے کیونکہ اسباب کی طرف زیادہ توجہ کرنا اور اس میں رغبت کامل رکھنا اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کی دلیل ہے جس طرح ساتھ والی روایت میں ہے گویا اس حدیث کا تعلق اعلیٰ قسم کے متوکلین سے ہے جو مباح اشیاء کے استعمال سے بھی احتراز کرتے ہیں یا اس حدیث کا تعلق جاہلیت کے اس غلط جھاڑ پھونک سے ہے جس میں شرک ہو اور داغ دینے سے وہ داغ مراد ہے جس کو موثر بالذات سمجھ لیا جائے ساتھ دارالحدیث کو بھی اسی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

﴿۴۳﴾ وَعَنْ عِيْسَىٰ ابْنِ حَمْزَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَبِهِ حُمْرَةٌ فَقُلْتُ لَا تَعْلَقْ

تَمِيمَةً فَقَالَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عیسیٰ ابن حمزہؑ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عکیم کے پاس گیا تو (دیکھا کہ) ان کا بدن سرخی کی بیماری میں مبتلا تھا میں نے کہا کہ آپ تعویذ کیوں نہیں باندھ لیتے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کام سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ (کیونکہ) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کوئی چیز لٹکا تا ہے یا (باندھتا ہے تو اسی چیز کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد)

وہ امراض جن کے لئے جھاڑ پھونک بہت عمدہ ہے

﴿۴۴﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَقِيَّةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ بُرَيْدَةَ

اور حضرت عمران ابن حصینؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منتر یعنی جھاڑ پھونک کا اثر تو بس نظریا زہر دار جانور (جیسے بچھو وغیرہ) کے ڈنگ ہی پر ہوتا ہے (احمد، ترمذی، ابو داؤد) اور ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت بریدہؓ سے نقل کیا ہے۔

توضیح

”عین“ نظر بد کو کہتے ہیں ”او حمۃ“ کسی زہریلے حیوان کے زہریلے ڈنگ کو حمۃ کہا گیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جھاڑ پھونک تو درحقیقت ان دو بیماریوں کے لئے ہے اگرچہ دیگر امراض کے لئے بھی ہوتا ہے لیکن نظر اور زہریلے ڈنگ کے لئے جھاڑ پھونک تیر بہدف دوا اور علاج ہے گویا کسی اور چیز کے لئے جھاڑ پھونک اتنا مفید ہے ہی نہیں۔ اس سے جھاڑ پھونک کی نفی مقصود نہیں کیونکہ مشکوٰۃ جلد اول ص ۲۱ پر جائز تعویذات اور جھاڑ پھونک کا واضح ثبوت موجود ہے بلکہ ان دو چیزوں کے لئے جھاڑ پھونک کی خصوصی افادیت کا ذکر ہے۔

﴿۴۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رَقِيَّةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَةٍ أَوْ دَمٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منتر تو بس نظریا زہریلے ڈنگ اور خون پر اثر کرتا ہے۔ (ابو داؤد)

”اودم“ اس سے مراد نکسیر کا خون ہے اس لئے جھاڑ پھونک بہت مفید ہے

﴿۴۶﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تَسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَاسْتَرْقِي لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقْتُهُ الْعَيْنُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

اور حضرت اسماء بنت عمیسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جعفر طیارؓ کی اولاد (چونکہ خوبصورت و خوب سیرت ہے اس لئے ان کو نظر بہت جلدی لگتی ہے تو کیا ان کے لئے منتر پڑھوائیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا ہاں کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاسکتی تو وہ نظر ہوتی (یعنی نظر کا اثر یقیناً ایک سخت ترین چیز ہے لہذا اس کے دفعیہ کے لئے جھاڑ پھونک کرانا جائز ہے) (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

### توضیح

”العين“ کبھی عاین کی نظر منظور الیہ میں کام کرتی ہے یہ انکی نظر کے اندر ایک جراثیمی مادہ کا اثر ہوتا ہے لیکن کبھی منظور الیہ میں کشش کی وجہ سے ناظر کی نظر کھینچی جاتی ہے یہاں اسی صورت کا ذکر ہے کہ جعفر کی اولاد اتنی خوبصورت اور پرکشش ہے کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے نظر لگ جاتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دفعیہ اور توڑ کے لئے جائز جھاڑ پھونک کا استعمال کرو کیونکہ نظر بد کا لگنا ایک حقیقت ہے۔

### عورتوں کو لکھنا سکھانا کیسا ہے؟

﴿۴۷﴾ وَعَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ رُقِيَّةُ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت شفاء بنت عبد اللہؓ کہتی ہیں کہ (ایک دن) میں ام المؤمنین حضرت حفصہؓ کے پاس بیٹھی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور مجھ کو (دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم ان کو یعنی حفصہ کو نملہ کا منتر نہیں سکھا دیتیں جس طرح کہ تم نے ان کو لکھنا سکھایا ہے؟) (ابوداؤد)

### توضیح

”رقية النملة“ نملہ کے بارے میں پہلے بھی حدیث نمبر ۱۳ کے تحت لکھا جا چکا ہے۔ نملہ ان پھنسیوں کو کہتے ہیں جو انسان کی پسلیوں پر نکل آتی ہیں اور بہت تکلیف پہنچاتی ہیں جو شخص ان پھنسیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اس کے جسم پر چوئیاں ریگ رہی ہیں شاید اسی وجہ سے ان پھنسیوں کو نملہ (چیونٹی) کہا جاتا ہے۔

حضرت شفاء مکہ مکرمہ میں اس نملہ کے دفعیہ کے لئے ایک منتر پڑھ کر جھاڑ پھونک کیا کرتی تھیں جب حضرت شفاء نے

اسلام قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو اپنے اس منتر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا آنحضرت نے اس کی اجازت دیدی اور پھر فرمایا کہ جس طرح تم نے حصہ کو خط و کتابت سکھائی یہ منتر اس کو کیوں نہ سکھایا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس منتر کی طرف تھا جو عرب عورتیں چند کلمات بوقت جھاڑ پھونک کہا کرتی تھیں وہ کلمات یہ ہیں۔

العروس تستنعل وتختضب وتکتحل ☆ وکل شئی تفتعل غیر انها لاتعصى الرجل

یعنی دلہن جوتے پہن کر ہنڈی اور سرمہ بھی لگائے گی سب کچھ کرے گی لیکن شوہر کی نافرمانی نہیں کرے گی

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص یہ منتر حضرت حصہ کو سکھانے کا حکم اس لئے دیا کہ اس میں لاتعصى الرجل کے الفاظ ہیں اس میں حضرت حصہ پر تعریض ہے کہ انہوں نے واقعہ شرب غسل میں آنحضرت کا راز فاش کیا تھا جو نافرمانی تھی اور وفادار عورت شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی۔

”الکتابۃ“ جس طرح تم نے حصہ کو خط سکھایا تھا۔ ایک حدیث میں ہے ”لاتعلموهن الکتابۃ“ عورتوں کو خط مت سکھاؤ۔ ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ خط و کتابت کی ممانعت بعد میں آئی ہے یہ قصہ پہلے کا ہے لہذا خط سکھانے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خط و کتابت میں ازواج مطہرات کو بطور خاص اجازت تھی باقی عام عورتوں کے لئے ممانعت تھی۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ ابتدا میں اجازت تھی بعد کی عورتوں کے لئے بوجہ فساد زمان ممانعت آئی جس طرح ابتدا میں مسجد میں جا کر نماز باجماعت کی اجازت تھی مگر اب نہیں۔

### نظر بد لگنے کا ایک عجیب واقعہ

﴿۴۸﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّاتٍ قَالَ فَلَبِطَ سَهْلٌ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَقَالَ هَلْ تَتَّهَمُونَ لَهُ أَحَدًا فَقَالُوا نَتَّهَمُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتَغَلَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَبْرَكْتَ اغْتَسِلْ لَهُ فَعَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ فَرَّاحَ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ لَهُ بَأْسٌ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ تَوْضَأُهُ فَتَوْضَأُهُ



اور حضرت ابوامامہؓ ابن سہل ابن حنیف کہتے ہیں کہ (ایک دن) عامر ابن ربیعہؓ نے (میرے والد) سہل ابن حنیفؓ کو نہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم (سہل کے جسم اور ان کے رنگ و روپ کے کیا کہنے) میں نے تو آج کے دن کی طرح (کوئی خوبصورت بدن کبھی) نہیں دیکھا اور پردہ نشین (خوبصورت عورت) کی بھی کھال (سہل کی کھال جیسی نازک و خوش رنگ) نہیں دیکھی ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ (عامر) کا یہ کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا (جیسے) سہل کو گرا دیا گیا۔ چنانچہ ان کو اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! آپ سہل کے علاج کے لئے کیا تجویز کرتے ہیں خدا کی قسم یہ تو اپنا سر بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے آنحضرتؐ نے (سہل کی حالت دیکھ کر) فرمایا کہ کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے ان کو نظر لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا (جی ہاں) عامر ابن ربیعہؓ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ سکر) عامر کو بلایا اور ان کو سخت سست کہا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالنے کے درپے ہوتا ہے تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی تاکہ ان پر نظر کا اثر نہ ہوتا، پھر آپ نے عامر کو حکم دیا کہ تم سہل کے لئے (اپنے اعضاء کو) دھوؤ اور اس پانی کو اس پر ڈال دو۔ چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنا منہ ہاتھ، کہنیاں، گٹھے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پورے اور زیریناف جسم (یعنی ستران اور کولہوں) کو دھویا اور پھر وہ پانی (جس سے عامر نے یہ تمام اعضاء دھوئے تھے) سہل پر ڈالا گیا (اس کا اثر یہ ہوا کہ) سہل فوراً اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ (شرح السنۃ، موطا امام مالک) اور امام مالک کی ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے (ٹوکنے والے سے) فرمایا کہ نظر بد حق ہے تم نظر زدہ کے لئے وضو کرو چنانچہ اس نے نظر زدہ کے لئے وضو کیا۔

## توضیح

”ولا جلد مخبأة“ یعنی عامر نے سہل کے متعلق کہا کہ ان کی کھال اس طرح نرم و نازک اور خوبصورت ہے کہ آج تک ایسی خوبصورت چیز نہیں دیکھی ہے بلکہ پردہ نشین دو شیزہ لڑکی کی کھال بھی اس طرح خوش رنگ نہیں دیکھی ہوگی۔

”فلبط“ علامہ طبیبی نے اس صیغہ کو باب تفعیل سے معروف کا صیغہ لیا ہے اور سہل اس کا فاعل ہے لبط منہ کے بل زمین پر گرنے کے معنی میں ہے۔

ملا علی قاری نے اس صیغہ کو ضرب اور نصر سے مجہول کا صیغہ قرار دیا ہے گویا ایسا محسوس ہوا کہ سہل منہ کے بل زمین پر گرائے گئے۔

”فتغلط“ یعنی آنحضرتؐ نے عامر کو سخت الفاظ سے یاد کیا اور خوب ڈانٹا۔ ”الابرکت“ یعنی جب تم کو سہل کا بدن بھا گیا تھا تو تم نے اس کے لئے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ کہ بارک اللہ علیک کہہ دیتے۔

”اغتسل لہ“ یعنی اب ان کو اپنے اعضاء کے دھون کا پانی دیدو، علمائے لکھا ہے کہ عاین اور ناظر کلی اور وضو کرے پاؤں گٹھنے

اور ناف کے نیچے علاقہ کو دھوئے اور ایک ٹب میں پانی جمع کرے اور پھر نظر زدہ شخص کی پشت کی طرف سے اس کے سر پر وہ پانی ڈال دے، یہ شریعت کا حکم ہے جائز اور نافع ہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں اپنی عقل کو دخل دینا بے فائدہ ہے۔ علامہ مازنیؒ فرماتے ہیں کہ ناظر کا غسل کرنا اور پانی منظور الیہ کو دینا اس پر واجب ہے لہذا اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے تو اس کو مجبور کیا جاسکتا ہے بلکہ قید کیا جاسکتا ہے ایک مرتبہ رہا ہے دوسرا اعضاء کا دھون نہیں دے رہا یہ کونسا انصاف ہے؟ قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں جو شخص نظر لگانے میں مشہور ہو تو اس سے اجتناب کرنا اور اس کے سامنے نہ آنا اور احتیاط کرنا لازم ہے اور حاکم پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو لوگوں کے میل جول اور اختلاط سے روک دے اور اس کو پابند بنا دے کہ وہ صرف گھر میں رہے اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے اگر وہ غریب ہے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام بیت المال سے کرے مگر اس کو باہر آنے کی اجازت نہ دے۔

### معوذتین سے نظر بد کا علاج

﴿۴۹﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتْ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَاسِوَاهُمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئیں جب یہ سورتیں نازل ہوئیں تو آپ ان سورتوں کے ذریعہ دعا مانگنے لگے اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں سے پناہ مانگنی چھوڑ دی۔ (ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

### مُغْرِبُونَ کا مطلب کیا ہے؟

﴿۵۰﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْتُمْ فِيكُمْ الْمُغْرِبُونَ قُلْتُ وَمَا الْمُغْرِبُونَ قَالَ الَّذِينَ يَشْتَرِكُ فِيهِمُ الْجِنَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ فِي بَابِ التَّرَجُّلِ.

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارے اندر (یعنی انسانوں میں) مغربون دکھائی دیتے ہیں میں نے عرض کیا مغربون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مغربون وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جنات (یعنی شیاطین) شریک ہوتے ہیں؟۔ (ابوداؤد) اور حضرت ابن عباس کی روایت خیر ماتد اویتم اب باب الترجل میں نقل کی جا چکی ہے۔

## توضیح

”ہل رئی“ یعنی کیا انسانوں میں مغربوں دکھائی دیتے ہیں؟ یہاں استفہام، تنبیہ اور استیقاظ کے لئے ہے اور ہل بمعنی قد ہے۔ ”المغربون“ باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے دور کرنے اور بعید ہونے کے معنی میں آتا ہے اس مفہوم کے تعین میں چونکہ اشتباہ تھا اس لئے حضرت عائشہؓ نے پوچھا ”وما المغربون“ یعنی یہ اگ۔ کس ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، کس جنس اور کس طبقہ سے ان کا تعلق ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ مغربون وہ طبقہ اور لوگ ہیں جن کے ساتھ جنات کا اشتراک عمل ہے۔

## سوال

اب سوال یہ ہے کہ مغربوں کا تعارف اس حدیث میں صرف اتنا ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ شیاطین اور جنات کا اشتراک عمل ہے۔ ان الفاظ کا مفہوم خود متعین نہیں ہے کہ جنات کے اشتراک عمل کا مطلب کیا ہے؟

## جواب پہلا مفہوم

مغربوں کا ترجمہ دور ہونا اور بعید ہونا ہے اور اس لفظ کا ایک مفہوم و مطلب یہ ہے کہ مغربون وہ لوگ ہیں جو بوقت جماع ذکر اللہ سے دور رہتے ہیں یعنی جماع شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں اور یہ دعا نہیں پڑھتے ”اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان مارزقتنا“ جب یہ لوگ اپنے آپ کو ذکر اللہ سے اور اس دعا سے دور رکھتے ہیں تو شیطان قریب آجاتا ہے اور جماع کرنے والے شخص کے ذکر سے اپنے ذکر کو لپیٹ دیتا ہے اور جماع میں اس شخص کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ خیر و بھلائی سے دور ہو جاتی ہے اور شیطان کا ان پر پورا قابو آ جاتا ہے جس کو بعض مزاحی لوگ کہتے ہیں یہ لڑکا بے بسم اللہ پیدا ہوا ہے۔

شارحین لکھتے ہیں کہ آج کل نئی نسل کے بگاڑ کا ایک ذریعہ یہی کوتاہی ہے، قرآن عظیم میں ﴿وشارکھم فی الاموال والاولاد﴾ والی آیت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

## دوسرا مفہوم

یہ کہ مغربون سے مراد زنا کار مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کے ذریعہ سے حسب و نسب کو غائب کر کے خراب کر دیتے ہیں، دوسرے بعید نسب کو اپنے نسب میں شامل کر دیتے ہیں یا اپنے قریب نسب کو دوسرے بعید نسب میں شامل کر دیتے ہیں اور یہ سارا کام شیطان کے اشتراک عمل سے ہوتا ہے زنا پر آمادہ کرنا شیطان کا عمل اور اس کا کام ہے جیسے ﴿یا مہرہم بالفحشاء والمنکر﴾ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ و ساء سبیلاً﴾

## تیسرا مفہوم

مغربیوں اور اس کے اشتراک عمل کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد جنات کے وہ مرد ہیں جن کے انسانوں کی عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم ہوں اور وہ ان عورتوں سے زنا کرتے ہوں اور اس کے نتیجے میں ان عورتوں کی اولاد پیدا ہوتی ہو اس طرح جنات انسانوں کیساتھ شریک ہو گئے انسان جب اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے تو جن اس پر سوار ہو جاتے ہیں کیونکہ حفاظت کی باڑ ختم ہو جاتی ہے اور حصار ٹوٹ جاتا ہے۔

## چوتھا مفہوم

مغربیوں اور ان کے اشتراک عمل کا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ مغربیوں انسانوں میں کانہوں اور نجومیوں کا وہ طبقہ ہے جن کے بعض شیاطین کے ساتھ براہ راست تعلقات ہوتے ہیں چنانچہ شیاطین آسمان سے خبریں لا کر ان کو دیتے ہیں اور یہ جوگی لوگ اس کو عام انسانوں میں پھیلاتے ہیں اور جھوٹ موٹ ملا کر اپنے کاروبار کو چمکاتے اور چلاتے ہیں۔ پہلا مفہوم زیادہ واضح ہے۔

## الفصل الثالث

## صحت و بیماری کا مرکز معدہ ہے

﴿۵۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعْدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرْوُوقُ إِلَيْهَا وَارِدَةٌ فَإِذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرْوُوقُ بِالصِّحَّةِ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرْوُوقُ بِالسَّقَمِ

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا معدہ بدن کا حوض ہے اور پیٹ کی رگیں (جو اعضاء جسم سے پیوستہ ہیں) معدہ کی طرف (پانی پینے والے کی طرح) آتی ہیں جب معدہ درست ہوتا ہے تو یہ رگیں معدہ سے صحت بخش رطوبات کے ساتھ اعضاء جسم کی طرف جاتی ہیں جس سے بدن کو صحت و طاقت حاصل ہوتی ہے اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو یہ رگیں فاسد رطوبات کے ساتھ اعضاء کی طرف جاتی ہیں جس سے بدن کو بیماری اور ضعف لاحق ہو جاتا ہے۔

## توضیح

”حوض البدن“ یعنی انسان کے بدن اور اس کے معدے کے درمیان جو نسبت اور رشتہ و تعلق ہے وہ وہی نسبت ہے جو پانی کے حوض اور درخت و فصل کے درمیان ہے تو جس پانی و تالاب کے کنارے میں کھڑا درخت اپنی جڑوں کے ذریعہ پانی سے اپنی بقا کے لئے حیاتیاتی رطوبات حاصل کرتا ہے اسی طرح انسانی جسم مختلف رگوں کے ذریعہ اپنے معدہ سے صحت اور طاقت

کی رطوبات حاصل کرتا ہے چنانچہ اگر حوض میں پانی صاف اور صحت بخش ہوتا ہے تو وہ درخت کی تازگی کا سبب بنتا ہے اور اگر پانی کھارا اور مضر صحت ہوتا ہے تو وہ درخت کی خشکی اور تباہی کا ذریعہ بنتا ہے یہ تو اس حدیث کا مفہوم و مطلب ہے آگے نظام ہضم کے متعلق کچھ لکھتا ہوں تاکہ مزید وضاحت ہو جائے۔

### عجیب قدرتی نظام ہضم

اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں عجیب قدرتی نظام ہضم بنا رکھا ہے جو سالہا سال سے چلتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں کہ شکر ادا کرے چنانچہ غذا جب معدہ میں پہنچتی ہے تو معدہ کی مشینری تیز ہو جاتی ہے اور اس طرح عمل شروع کرتی ہے کہ معدہ غذا کے کچھ اجزاء کو فضلات کی صورت میں نیچے گرا دیتا ہے جو مقعد کے راستے سے خارج ہو جاتے ہیں اور غذا کے اچھے اجزاء کو جگر میں پہنچا دیتا ہے یہ نظام ہضم کا پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد جگر میں صفراء، سوداء، دم اور ماء جمع ہو جاتے ہیں جگر صفراء کو پتہ میں ڈال دیتا ہے یہ کڑوا تلخ پانی ہے اس کا ایک ایک قطرہ پتہ معدہ میں ڈالتا رہتا ہے تاکہ نئی غذا ہضم ہو کر تحلیل ہو جائے یہی قطرہ اگر معدہ میں نہ گرے بلکہ باہر ہو جائے تو پورے بدن میں صفراء سے ریقان کی بیماری پھیل جاتی ہے جگر سوداء کو تلی میں ڈال دیتا ہے اور تلی تازہ رہتی ہے جگر پانی کو گردوں میں پہنچا دیتا ہے اور گردوں کی نالیوں سے گزر کر فضلہ پانی مثانہ میں جا کر جمع ہو جاتا ہے اور پیشاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور پیشاب کی نالی سے خارج ہو جاتا ہے۔

جگر دم یعنی خون کو دل تک پہنچا دیتا ہے اور دل میں سپینگ کا دفاعی نظام ہے جو اس خون کو جسم کی تمام رگوں اور شریانوں میں پھیلا کر متحرک رکھتا ہے یہی حرکت اگر پانچ منٹ کے لئے بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے نبض کی حرکت اسی نظام کا حصہ ہے یہی خون جب مادہ حیوان کے تھنوں میں پہنچتا ہے تو وہاں تھن کے گوشت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فلٹر سسٹم قائم کیا ہے کہ یہی خون صاف اور شفاف دودھ میں بدل جاتا ہے جس کو مزے لے لے کر انسان پیتا ہے ”فتبارک اللہ احسن الخالقین“ زیر بحث حدیث میں اسی عجیب و غریب نظام ہضم اور نظام قدرت کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ ”المعدة حوض البدن“ اور اسی عجیب نظام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں خدا نہیں تھے بلکہ خدا کے بندے تھے ”کانا یا کلان الطعام“ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اور اس لمبے نظام ہضم سے ان کو گزرنا پڑتا تھا اسی کے شکر ادا کرنے کی طرف بابا سعدی نے اشارہ کر کے کہا ہے۔

ابرو بادومہ و خورشید فلک در کار اند ☆ تا تو نانے بکف آرے و بغفلت نخوری

### بچھو کے کاٹے کا علاج

﴿۵۲﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَيَّنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّيُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى

الْأَرْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَنَاولَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدْعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ أَوْ نَبِيًّا وَغَيْرَهُ ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إصْبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ. رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ایک روز رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تھا کہ اس (ہاتھ) کی انگلی میں چھوٹے کاٹ لیا آپ نے اپنی پاپوش مبارک کے ذریعہ اس چھوٹے کاٹ مار ڈالا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بچھو پر خدا کی لعنت ہو، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو یا یہ فرمایا کہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو، اس کے بعد آپ نے نمک اور پانی منگوایا اور دونوں کو ایک برتن میں گھول دیا اور پھر آپ اس پانی اور نمک کو انگلی کے اس حصے پر ڈالتے جاتے تھے جہاں بچھو نے کاٹا تھا اور انگلی کو ملتے جاتے تھے، نیز قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے ان دونوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

## آنحضرتؐ کے موئے مبارک

﴿۵۳﴾ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ أُرْسِلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدْحٍ مِنْ مَاءٍ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانُ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مَخْضَبَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُمَسِّكُهُ فِي جُلْجُلٍ مِنْ فِضَّةٍ فَخَضَخَتْهُ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ قَالَ فَاطَلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حُمْرَاءَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت عثمان ابن عبد اللہ ابن مویہ کہتے ہیں (ایک دن) میرے گھر والوں نے مجھ کو پانی کا ایک پیالہ دے کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کے پاس بھیجا، معمول یہ تھا کہ جب کسی کو نظر لگتی یا اور کوئی بیماری ہوتی تو ام سلمہ کے پاس ایک پیالہ بھیجا جاتا اور ام سلمہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک نکالتیں جس کو وہ چاندی کی ایک ٹکلی میں رکھتی تھیں اور اس موئے مبارک کو پانی میں ڈال کر ہلاتیں اور پھر مریض اس پانی کو پی لیتا، (جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمادیتا) راوی کہتے ہیں کہ میں نے چاندی کی اس ٹکلی میں جھانک کر دیکھا تو مجھ کو (آنحضرتؐ) کے کئی سرخ بال نظر آئے۔ (بخاری)

## توضیح

”بقدح“ مجھے پیالہ دیکر میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہؓ کی طرف بھیجا، ”وکان“ یعنی اس وقت معمول یہ تھا کہ کوئی بیمار ہوتا تو وہ اپنا برتن ام سلمہ کے پاس بھیجتا اور ام سلمہ کے پاس آنحضرتؐ کے موئے مبارک چاندی کی ایک ٹکلی میں رکھے

ہوئے تھے حضرت ام سلمہ ان بالوں میں سے ایک یا زیادہ بال نکال کر اس شخص کے پیالے کے پانی میں ڈال کر ہلا دیتیں تاکہ موئے مبارک کی برکت پانی میں آجائے وہ آدمی اپنے پیالے کے اسی مبارک پانی کو لے جاتا اور اپنے مریض کو شفا کی غرض سے پلاتا۔

”مخصبہ“ میم پر زیر ہے اور خ ساکن ہے ض پر زبر ہے اور ب کے بعد ضمیر ہے جو انسان کی طرف لوثی ہے مخضب ٹب، ترمی، لگن، تھال اور تغاری کو کہتے ہیں مراد برتن ہے جس میں پانی رکھا جاسکتا ہے ”فاخر جت“ یعنی حضرت ام سلمہ کی عادت تھی کہ ان بالوں میں سے بعض کو نکال لیتیں تاکہ اس پانی میں ڈال دیں۔ ”جلجل“ یعنی ان بالوں کو حضرت ام سلمہ نے ایک چاندی کی ڈبیہ اورنگی میں محفوظ کر رکھا تھا۔ جلجل اگرچہ جس اور گھنٹی کو کہتے ہیں لیکن یہاں گھنٹی نما ڈبیہ مراد ہے جو چاندی کی بنی ہوئی تھی اور اس مقصد کے لئے چاندی کا استعمال جائز تھا جس طرح کعبہ کو ریشم پہناتے ہیں اور سونا لگاتے ہیں۔

”فخصخصتہ“ مضمضتہ کی طرح ہے لفظاً و معنی۔ یعنی ام سلمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو اس شخص کے برتن کے پانی میں ڈال کر پانی کو ہلا دیتیں تاکہ پانی میں برکت آجائے یہ مطلب زیادہ واضح ہے کیونکہ اس سے پہلے حدیث میں تصریح موجود ہے کہ ام سلمہ بال کو نکال دیتی تھیں جو چاندی کی ڈبیہ میں رکھے ہوتے تھے لیکن ملا علی قاری نے یہاں اس ضمیر کو جلجل کی طرف راجع کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ”ای حرکت الجلجل فی الماء“ ڈبیہ کو پانی میں رکھ کر حرکت دیتی تھیں۔ شیخ عبدالحق نے اشعۃ اللمعات میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ موئے مبارک کو اس شخص کے برتن کے پانی میں ڈال کر حرکت دیتی تھیں تاکہ اس میں برکت آجائے چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں ”فاخر جت من شعر“ پس بیرون می آورد ام سلمہ بعضے از مو یہاں پیغمبر و در ان ظرف می انداخت۔

”فخصخصتہ“ پس می جنابید ام سلمہ مخضب را کہ در وی آب بودی و مو یہاں شریف را در وی انداختی۔ یعنی حضرت ام سلمہ جس موئے مبارک کو جس برتن میں ڈال چکی ہوتیں اس برتن کو ہلا دیتی تھیں اس حدیث کے سمجھنے میں مجھے ہمیشہ قلق رہتا تھا آج الحمد للہ یہ حدیث حل ہو گئی اور دل خوش ہو گیا۔

### کھمبی کے خواص

﴿۵۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاءُ جُدْرِي الْأَرْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاءُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُو أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَعَصَرْتُهُنَّ فَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِي قَارُورَةٍ وَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِي عَمَشَاءَ

فَبَرَأَتْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی حضرات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کھمبی زمین کی چیچک ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں (بلکہ) کھمبی من کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفا ہے اور عجوہ جو کھجور کی سب سے نفیس اور عمدہ قسم ہے جنت کی کھجور ہے اور اس میں زہر سے شفا کی خاصیت ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (آنحضرتؐ) کا یہ ارشاد سکر میں نے تین یا پانچ یا سات کھنیاں لیں اور ان کو نچوڑ لیا اور اس پانی کو ایک شیشی میں بھر کر رکھ لیا پھر میں اس پانی کو اپنی ایک چندھی لونڈی کی آنکھوں میں ڈالنے لگا تو وہ اچھی ہو گئی اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

## توضیح

”الکماء“ پہاڑی علاقوں میں ساون کے مہینوں میں زمین اور زمین پر پڑی ہوئی لکڑیوں میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کی کئی اقسام ہوتی ہیں بعض گیندے کے پھول کی طرح ہوتا ہے بعض چھتری نما ہوتا ہے جو اوپر سے سیاہی مائل ہوتا ہے اور نیچے سے سفید تر ہوتا ہے جس میں باریک نالیاں ہوتی ہیں جو اس چیز کے تراشے بنا دیتی ہیں، اس کا ذائقہ گوشت کا ہوتا ہے اس کو ساگ اور گوشت کی طرح پکایا جاتا ہے بہت لذیذ ہوتا ہے پشتو میں اس کو ”خرڑی“ کہتے ہیں۔ افریقی ملک زامبیا میں غریب لوگ ٹوکریوں میں بھر بھر کر سڑک کے کنارے پر لاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ ”جدری الارض“ یہ کھمبی کی ایک قسم ہے جو گویا زمین کے جسم پر دانے ہیں جو چیچک کی طرح لگتے ہیں اسی وجہ سے صحابہ نے پوچھا ہے کہ کیا یہ زمین کی چیچک ہے؟ ”من المن“ یعنی جس طرح بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلویٰ دیا تھا یہ کھمبی ہمارے لئے من کی جگہ میں ہے یہ چیچک نہیں بلکہ نعمت ہے جو محنت کے بغیر اللہ تعالیٰ دیتا ہے صحابہ نے کھمبی کی مذمت کا ارادہ کیا آنحضرتؐ نے ان کے خیال کو رد فرما کر اس کو نعمت قرار دیا۔ کھمبی کو سانپ کی چھتری بھی کہتے ہیں۔

”وماء هاشفاء“ یعنی آنکھوں کی بیماریوں اور نظر کے لئے شفاء ہے کہ اس کا اصلی طبعی پانی نچوڑ کر حاصل کیا جائے اور پھر اس کے قطرے آنکھوں میں ڈالے جائیں یہ انفرادی طور پر بھی علاج ہے اور ممکن ہے کہ دوسری ادویہ کے ساتھ ملا کر علاج ہوتا ہو۔ اس حدیث کے آخری حصہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کا اپنا تجربہ منقول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انفرادی طور پر علاج ہے۔ ”عمشا“ ایسی لڑکی جس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہوں۔

ہر ماہ کے پہلے تین ایام میں شہد چاٹنے سے شفاء

﴿۵۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعَقَ الْعُغْسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ فِي كُلِّ



شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِّنَ الْبَلَاءِ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں تین دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔

توضیح

”ثلاث“ حدیث میں ہر ماہ کے تین دن کا بتایا ہے خواہ کوئی بھی تین دن ہوں لیکن ابتدائی مہینہ کے تین دن مقرر کر لئے جائیں تو نظم و ضبط کے اعتبار سے بہتر ہوگا البتہ نہار منہ چاٹنے کی طرف غدوات کے لفظ سے اشارہ ہو سکتا ہے لہذا نہار منہ پانی میں ملا کر پی لینا چاہئے یا ویسے چاٹ لیا جائے مگر شرط یہ ہے کہ شہد خالص ہو، فارم کا نہ ہونہ شکر سے بنایا گیا ہو۔۔۔

اطباء لکھتے ہیں کہ نہار منہ شہد کو پینا یا چاٹنا بلغم کو چھانٹتا ہے معدے کو صاف کرتا ہے اس کی لزوجت اور فضلات کو دور کرتا ہے معدے کو اعتدال کے ساتھ گرمی پہنچاتا ہے بدن کے سُدّوں کو کھولتا ہے علاوہ ازیں شہد بدن کے استرخاء اور ہر قسم ریاہ کو زائل کرتا ہے پیشاب، حیض اور عورت کے دودھ کو جاری کرتا ہے مثانہ اور گردوں کی پتھری کو توڑتا ہے جسم کے ردی مواد کو خارج کرتا ہے۔

شفاء کے دو بڑے ذرائع

﴿۵۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ. رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ هَبَّيْنٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ الصَّحِيحُ أَنَّ الْأَخِيرَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ

اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا دینے والی دونوں چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو ایک تو شہد ہے دوسرے قرآن ان دونوں روایتوں کو ابن ماجہ اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، نیز بیہقی نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ دوسری حدیث (یعنی علیکم بالشفائین) مرفوع نہیں بلکہ ابن مسعود پر موقوف ہے۔

بلا ضرورت کھینچنے لگوانا نقصان دہ ہے

﴿۵۷﴾ وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ عَلَى هَامَتِهِ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ قَالَ مَعْمَرٌ فَاحْتَجَمْتُ أَنَا مِنْ غَيْرِ سَمٍ كَذَلِكَ فِي يَافُوخِي فَذَهَبَ حُسْنُ الْحِفْظِ عَنِّي حَتَّى كُنْتُ الْقَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ رَزِينٌ

اور حضرت بوکبک انمارئ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے سبب کہ جو بکری کا زہر آلود گوشت کھالینے کی وجہ سے لاحق ہوگئی تھی اپنے سر پر سیٹگی کھنچوائی، (حدیث کے ایک راوی) معمر کا بیان ہے کہ میں نے کوئی زہر آلود چیز کھائے بغیر اسی طرح اپنے سر پر سیٹگی کھنچوائی تو میں اپنے حافظہ کی خوبی سے محروم ہو گیا، یہاں تک کہ مجھ کو نماز میں الحمد سیکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ (رزین)

توضیح

”یافوخی“ یعنی ضرورت کے بغیر یا تجربہ کے بغیر سر کے تالو پر سچنے لگوادیئے اس سے حافظہ کی قوت ختم ہوگئی اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے بغیر نہ تو آپریشن کرانا چاہئے اور نہ خون نکالنا چاہئے ضرورت بھی ہو پھر بھی تجربہ کار کی نگرانی میں کرنا چاہئے کہتے ہیں۔

”نیم حکیم خطرہ جان ☆ نیم ملا خطرہ ایمان

سیٹگی کھنچوانے کے دن

﴿۵۸﴾ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ بَنُ عُمَرَ يَنَافِعُ يَنْبُعُ بِي الدَّمُ فَاتَنَنِي بِحَجَّامٍ وَاجْعَلُهُ شَابًا وَلَا تَجْعَلُهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَجَّامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَهِيَ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَاجًا فَيَوْمَ الْخَمِيسِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الْحَجَّامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ فَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثَّلَاثِ وَاجْتَنِبُوا الْحَجَّامَةَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمَ الَّذِي أَصِيبَ بِهِ أَيُّوبُ فِي الْبَلَاءِ وَمَا يَدُ جُذَامٍ وَلَا بَرَصٍ إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ أَوَّلَ لَيْلَةِ الْأَرْبَعَاءِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

اور حضرت نافع کہتے ہیں (ایک دن) حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ نافع میرے جسم میں خون جوش کھا رہا ہے ذرا تم سیٹگی کھینچنے والے کو بلاؤ لیکن جوان آدمی کو لانا، کسی بوڑھے یا بچے کو مت پکڑانا (کیونکہ طاقتور آدمی زیادہ اچھی طرح سیٹگی کھینچے گا) نافع کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بھری ہوئی سیٹگی نہار منہ کھنچو اننا زیادہ بہتر ہے اس سے عقل میں زیادتی ہوتی ہے (جس شخص کے حافظہ نہیں ہوتا) اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے اور (جس کا حافظہ تیز ہوتا ہے اس کے) حافظہ میں زیادتی ہوتی ہے لہذا جو شخص سیٹگیاں کھنچو اننا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے جمعرات کے دن سیٹگی کھنچوائے، اور جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے سیٹگی کھنچوانے سے اجتناب کرو، پھر پیر اور منگل کے دن کھنچوائے اور بدھ کے دن سیٹگی کھنچوانے سے اجتناب کرو کیونکہ بدھ کا دن وہ دن ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام مبتلائے بلاء

ہوئے اور جذام یا کوڑھ کی بیماریاں بدھ کے دن یا بدھ کی رات میں ظاہر ہوتی ہیں۔ (ابن ماجہ)

## توضیح

”الثَّلاثاء“، فصل ثانی میں حدیث نمبر ۳۶ میں مذکور ہے کہ منگل کے دن سیٹگی مت کھنچو اور یہاں حدیث میں اس دن کی اجازت بھی ہے فضیلت بھی ہے یہ تضاد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت کبشہ کی جو حدیث گزر چکی ہے اس پر کلام ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فضیلت اور اجازت اس منگل کے بارے میں ہے جو ہر مہینہ کی سترھویں تاریخ میں آجائے ہر منگل کی فضیلت و اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کے آخر میں جو بلاؤں کا ذکر کیا گیا ہے یہ اعلیٰ امور ہیں کوئی حصر نہیں۔

## سیٹگی ہو سترھویں تاریخ ہو منگل کا دن ہو

﴿۵۹﴾ وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَامَةُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعِ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ. رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكِرْمَانِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ هَكَذَا فِي الْمُتَنَقِّي وَرَوَى رَزِينٌ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

اور حضرت معقل ابن یسار کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منگل کے دن سترھویں تاریخ کو سیٹگی کھنچنا سال بھر کی بیماریوں کا علاج ہے، اس روایت کو حرب ابن اسماعیل کرمانی نے نقل کیا ہے جو امام احمد بن حنبل کے مصاحب ہیں اور روایت کی اسناد ایسی (قوی) نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جاسکے۔ (ابن جارود کی کتاب) ملتی میں بھی اسی طرح منقول ہے نیز اسی طرح کی روایت رزین نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے۔

## توضیح

اس حدیث میں منگل کے دن سیٹگی لگوانے کی فضیلت اور جواز کا ذکر ہے جبکہ اس سے پہلے حضرت کبشہ کی حدیث نمبر ۳۶ میں منگل کے سیٹگی لگوانے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت کبشہ کی روایت پر کلام ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ممانعت مطلق منگل کے دن کی ہے لیکن اگر منگل کا دن مہینہ کی سترھویں تاریخ میں آجائے تو اس کی اجازت بھی ہے اور افادیت بھی ہے۔

خلاصہ یہ کہ سیٹگی ہو سترھویں تاریخ ہو اور منگل کا دن ہو تو اجازت ہی اجازت ہے لہذا تضاد نہیں ہے۔

## باب الفال والطیرہ

### فال اور طیرہ کا بیان

ملاحظہ:- الحمد للہ یہ سطور میں ۲۹ شعبان ۱۴۲۶ھ میں بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ میں لکھ رہا ہوں

لفظ فال ہمزہ کے بغیر استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی اس کو فال کہتے ہیں اور شگون بھی کہتے ہیں اصل میں فال مطلق شگون میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا غالب استعمال اچھائی اور بھلائی میں ہوتا ہے اچھی فال اور نیک شگون کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے کسی خاص حالت میں کوئی اچھا کلمہ سن لیا یا کسی اچھی چیز کو دیکھ لیا تو اس کو اپنی اچھائی اور کامیابی کا راز قرار دیا، مثلاً ایک شخص بیمار ہے موت وزیست کی کشمکش میں مبتلا ہے اس نے کسی سے سنا جو کہہ رہا تھا یا سالم یا کوئی شخص تجارت کے لئے سفر پر نکلا ہے کہ اس نے کسی سے یہ کہتے ہوئے سنا یا فاجح یا فائز یا راشد۔

یا کوئی آدمی دشمن کے مقابلہ کے لئے میدان جہاد میں نکلا ہے کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام ظفر علی خان یا فتح علی خان تھا جس میں فتح و ظفر کی طرف اشارہ ہے۔ یا کوئی شخص پردیس میں ایک شہر میں داخل ہو رہا تھا کہ سامنے سے ایک شخص آیا جس کا نام بڑیدہ تھا جس سے ٹھنڈے اور اچھے حالات کی طرف اشارہ ہو رہا تھا۔

یا کوئی شخص اپنی گمشدہ چیز کی تلاش کے لئے نکلا کہ سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا اور کسی سے کہہ رہا تھا یا واجد۔ ان الفاظ سے اپنے مقصد کے لئے نیک شگون لینا فال ہے۔

شرعی اعتبار سے نیک فال اور نیک شگون لینا اور اس پر اپنی اچھائی کا اندازہ کرنا جائز ہے۔ فال کبھی کبھی برائی اور بدی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کو بد فال اور بد شگونی کہتے ہیں شرعاً بد فال لینے اور بد شگونی کی اجازت نہیں ہے۔

”الطیرہ“ یہ مصدر ہے جو تطیر باب تفعّل سے خاص طور پر آتا ہے عام مصادر ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ الطیرہ صرف بد فال اور بد شگونی کے معنی میں آتا ہے اس لفظ کے مفہوم میں طیر اور طیران پڑا ہے جس کے معنی اڑنے اڑانے کے ہیں۔ عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب ان میں سے کوئی شخص سفر پر جاتا تو وہ گھونسلوں اور دیگر مقامات سے پرندوں کو اڑانے بھگانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ اس سے نیک یا بد شگون لے سکے اگر پرندہ سیدھی جانب میں اڑتا تو اس کو عرب لوگ مبارک سمجھتے تھے اور اس کو ایمن کہتے تھے اور سفر جاری رکھتے تھے، اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑتا تو اس کو نامبارک سمجھتے تھے اور اس کو اشام کہتے تھے یعنی منحوس اور سفر سے باز آ جاتے تھے۔ ایمن کا ترجمہ ہے مبارک اور اشام کا ترجمہ ہے منحوس اور نامبارک۔ عرب اپنے اوہام کے تحت اڑنے والے اس پرندے کو سانح اور بارح بھی کہتے تھے۔

ساخت اس کو کہتے تھے جو دائیں جانب اڑ کر چلتا اور بارح اس کو کہتے تھے جو بائیں طرف اڑ کر جاتا، چونکہ یہ سب جاہلیت کے اوہام تھے اس لئے اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اس لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان اوہام سے اپنے آپ کو دور رکھے تاکہ وہ صحیح مسلمان رہے۔ ہر قوم اور ہر ملک اور ہر علاقے کے الگ الگ اوہام اور رسومات ہیں احادیث میں ان اوہام کا بیان ہے جو عرب کے ہاں رائج تھے مگر شریعت کا حکم عام ہے جہاں بھی اور جس انداز سے بھی لوگ ان اوہام میں مبتلا ہوں شریعت اس کو رد کرتی ہے۔

## الفصل الاول

### بدشگونی لینا منع ہے

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ قَالُوا وَمَا الْفَالُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ﴾

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بدشگونی بے حقیقت ہے اس سے بہتر تو (اچھی) فال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اور فال کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اچھا کلمہ ہے جس کو تم میں سے کوئی شخص سنے اور اس سے اپنی مراد پانے کی توقع پیدا کرے۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

”لا طیرہ“ یعنی بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے نفع اور نقصان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دفع مضرت میں بدشگونی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے لہذا اس کی طرف نسبت کرنا اور اس کو حقیقی سمجھنا شرک ہے۔ بدشگونی کے ذکر کے بعد آنحضرتؐ نے نیک فال کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا ”وخیرها الفال“ یعنی اس بدشگونی سے بہتر تو فال ہے۔ فال اور طیرہ سے متعلق پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔

### سوال

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے فال کے بارے میں فرمایا کہ یہ طیرہ سے زیادہ اچھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طیرہ بھی کچھ نہ کچھ اچھا ہے حالانکہ طیرہ میں کوئی اچھائی نہیں ہے؟

### جواب

اس ظاہری سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں خیر کا لفظ اسم تفضیل کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ اپنے اصل معنی فعلی میں

استعمال ہوا ہے جیسے ”الصیف احر من الشتاء“ یہاں شتاء میں حرارت کا تصور نہیں کہ صیف کی حرارت اس سے زیادہ ہو بلکہ اتنا بتانا ہے کہ موسم گرم ہوتا ہے اسی طرح ”وهو اھون“ کا صیغہ ہین کے معنی میں ہے ”واصحاب الجنة خیر“ اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے یا جیسے ”الاخص والاعم“ اپنے اصل معنی میں ہیں یا ”العسل احلی من الحنظل“ میں احلی اصل فعل میں استعمال ہوا ہے تو ”خیرھا الفال“ بھی اسی طرح ہے۔

### چند بے اصل اوہام اور اس کا بطلان

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ وَفَرٍ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا اور بد شکوئی ہامہ اور صفریہ سب چیزیں بے حقیقت ہیں (البتہ) تم جذامی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، (بخاری)

### توضیح

”لاعدوی“ یعنی بیماری میں چھوت چھات کا فلسفہ غلط ہے اور عوام الناس کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ بیماری ایک سے اڑ کر دوسرے کو لگتی ہے عام اطباء کا خیال ہے کہ سات قسم کی ایسی بیماریاں ہیں جو ایک سے دوسرے کو جا کر لگتی ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) جذام (۲) چیچک (۳) خارش (۴) آبلے اور بدن کے پھوڑے (۵) گندہ ذئی (۶) رمد یعنی آنکھوں کا دکھنا (۷) وبائی امراض۔ اطباء کی بات اور ان کے تجربات اپنی جگہ پر لیکن احادیث مقدسہ اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ایک سے سرایت کر کے دوسرے کو بیماری لگنے کا عقیدہ قائم کرنا اور یہ سمجھنا کہ صرف اور صرف اس بیمار شخص کی وجہ سے مجھے بیماری لاحق ہوگئی ہے یہ تو ہم پرستی ہے بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے اور اس کے نظام قدرت کے تحت پھیلتی ہے اگر چند لمحوں کے لئے یہ مان لیا جائے کہ یہ بیماری پہلے شخص سے اڑ کر اس دوسرے شخص پر آکر لگی ہے تو سوال یہ ہے اس پہلے شخص کی طرف یہ بیماری کیسے آئی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آئی ہے تو جس طرح پہلے شخص پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری آتی ہے اسی طرح دوسرے شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کے مستقل حکم سے آتی ہے اطباء کے خیال اور ان کے تجربات کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان حضرات نے بیماری کے ظاہری سبب اور علت کو دیکھا ہے اور شریعت نے بیماری کی اصلی اور حقیقی علت کو بیان کیا ہے دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے انبیاء کرام کی تعلیم اور ان کی نگاہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے لہذا ظاہری اسباب کا ذکر نہیں کرتے ہیں لیکن اطباء اور عوام الناس ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں تو اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔

”ولا طیرہ“ اسکی تشریح اس سے پہلے حدیث نمبر میں ہو چکی ہے۔

”ولاہامہ“ عربی لغت کے اعتبار سے ہامہ سر کی کھوپڑی کو کہتے ہیں لیکن یہاں اس لفظ کے مختلف مفہوم بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) بعض علماء نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ہامہ سے مراد وہ پرندہ ہے جو مردہ کی کھوپڑی سے پیدا ہو جاتا ہے زمانہ جاہلیت میں عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے وہ میت کے گھر پر آتا رہتا ہے جو اس گھر کے لئے نحوست کی علامت ہوتی ہے اسلام نے اس عقیدہ کو رد کر دیا کہ اس طرح کہانی صحیح نہیں ہے یہ تو ہم پرستی ہے۔

(۲) بعض علماء نے ہامہ کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ہامہ سے مراد اُلو ہے، عرب کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو مقتول کی کھوپڑی اور سر سے الو کی شکل میں ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے یہ الو چنچتا چلاتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو یعنی انتقام لو جب تک مقتول کے ورثاء اس کا قصاص اور بدلہ نہیں لیتے یہ پرندہ فریاد کرتا رہتا ہے جاہلیت کے عرب شعرا نے اس عقیدہ کو اپنے اشعار میں خوب اچھالا ہے چنانچہ ایک حماسی شاعر اپنے دوستوں کی قبروں پر یوں شعر پڑھتا ہے۔

اقیم علی قبر یکما لست بارحاً طوال الیالی اویجیب صدا کما (حماس ص ۱۵۰)

یہ جو لفظ ”صدا“ ہے یہ اسی عقیدہ کی طرف اشارہ ہے۔ اسلام نے جاہلیت کے اس عقیدہ کو باطل قرار دیا ہے۔

(۳) بعض علماء نے ہامہ کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ہامہ اور بوم اور بومہ سے یہی متعارف الومراہ ہے۔ الو کے متعلق عرب کا خیال تھا کہ یہ جہاں آکر کسی کے گھر اور مکان وغیرہ پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ جگہ ویران اور تباہ و برباد ہو جاتی ہے گویا الو کا ٹھکانہ ویران مقام ہے۔ اردو کا شاعر کہتا ہے۔

بلبلوں نے کر لیا گلشن میں جا ☆ بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا

عرب کے علاوہ عجم کے بعض اوہام پرست جاہل لوگ بھی الو کے متعلق یہی خیال رکھتے ہیں شریعت نے ان اوہام کو مسترد کر دیا ہے۔

”ولا صفر“ شارحین اس لفظ کے دو مفہوم بیان کرتے ہیں پہلا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں عرب کا عقیدہ تھا کہ جب صفر المظفر کا مہینہ آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ مختلف مصیبتیں اور بلائیں لاتا ہے یہ منحوس مہینہ ہے لہذا اس میں شادی نہیں کرنی چاہئے ہمارے علاقوں میں اوہام پرست عورتیں اپنے سروں پر کپڑا لپیٹ کر ہاتھ میں ڈنڈا لیتی ہیں اور گھر کے کونوں اور ستونوں کو مارتی ہیں اور اپنی زبان میں کہتی رہتی ہیں ”سپرے بلا اوڑھ سپرے بلا اوڑھ“ یعنی صفر کی بلا ہمارے گھر سے نکل جاؤ نکل جاؤ۔ شریعت نے اس توہم پرستی کو رد فرما دیا اور حکم دیا کہ لا صفر یعنی صفر کی کوئی نحوست نہیں ہے۔

لا صفر کا دوسرا مفہوم شارحین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بعض اوہام پرست لوگوں کا خیال تھا کہ پیٹ کے اندر ایک کیڑے کا نام صفر ہے اس کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ پیٹ کے اندر سے آمتوں کو کاٹتا ہے جس سے آدمی مر جاتا ہے شریعت نے اس

وہم کو مسترد کر دیا۔

بعض نے اس لفظ کا تیسرا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ اس میں نیسی کی طرف اشارہ ہے کہ صفر کو محرم اور محرم کو صفر سے تبدیل کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ عرب اپنی ضروریات اور اغراض و مقاصد کے تحت مہینوں اور سالوں میں رد و بدل کیا کرتے تھے جسکی تفصیل اس سے پہلے کتاب الحج میں گزر چکی ہے۔

اگلی روایت نمبر ۴ میں ”ولانوء“ کے الفاظ بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے کسی برج یا ستارہ کی وجہ سے نہیں ہوتی جس طرح عرب کا خیال تھا کہ نوء یعنی پختہ ستارہ اور برج کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور عجم لوگ سہیل اور سہیلے اور گپ اور گپ زئیں کی طرف بارش کو منسوب کرتے ہیں۔

”و فر من المجدوم“ جذام ایک خطرناک بیماری ہے جس سے اعضا غیر متوازن ہو کر کٹ جاتے ہیں۔

### سوال

جذام والے شخص سے متعلق مختلف احادیث وارد ہیں زیر بحث حدیث میں ہے کہ جذام والے شخص سے ایسے بھاگو جس طرح تم شیر کو خطرناک سمجھ کر بھاگتے ہو، دوسری حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ جذام والے شخص نے آنحضرتؐ سے بیعت لینے کا ارادہ کیا آنحضرتؐ نے پیغام بھیجا کہ واپس جاؤ ہم نے بیعت کر لی جیسے حدیث نمبر ۶ میں آرہا ہے۔ اس حدیث کے بعد حدیث نمبر ۱۰ میں ہے کہ آنحضرتؐ نے جذام والے ایک شخص کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ کھانے میں بٹھلا دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے بھروسہ اور توکل پر کھاؤ۔

اب ان احادیث میں آپس میں بھی تعارض ہے اور زیر بحث حدیث کے دونوں جملوں میں بھی تعارض ہے کیونکہ ایک میں ہے کہ ”لا عدوی“ یعنی بیماری ایک دوسرے کی طرف سرایت نہیں کرتی ہے اور اسی میں ہے کہ جذام والے شخص سے بھاگو تو ان تعارضات کا کیا جواب ہے؟

### پہلا جواب

ان تعارضات کے حل کے لئے علماء نے تین جوابات دیئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جذامی شخص سے احتراز اور اجتناب کی جو احادیث ہیں وہ ”سدا للذرائع“ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں بیماری اللہ تعالیٰ لاتا ہے لیکن لوگوں کو وہم اور وسوسہ آتا ہے اور شبہ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری اس بیمار کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے آئی ہو اس طرح لوگوں کے عقیدے خراب ہو گئے تو لوگوں کو اس غلطی میں پڑنے سے بچانے کے لئے فرمایا کہ جذامی شخص کے پاس سے بھاگو تا کہ تم اس وہم اور وسوسہ میں نہ پڑ جاؤ اس عارض کی وجہ سے آنحضرتؐ نے یہ فرمایا ورنہ اصل حکم وہی ہے کہ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی



ہے اور چھوت چھات کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تو لاعدوی کے ساتھ تعارض کا دفعیہ ہو گیا۔

### دوسرا جواب

اس تعارض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ”لاعدوی“ کے عام حکم سے صرف جذام کی بیماری کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے کہ اس میں تجاوز ہے باقی میں نہیں ہے۔

### تیسرا جواب

اس تعارض کے حل کے لئے تیسرا جواب یہ ہے کہ جذام والے شخص سے بھاگنے کا حکم ظاہری اسباب کی بنیاد پر ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جذام والے شخص کی اس بیماری میں ایک بو ہوتی ہے عام اختلاط سے وہ بوسرے میں اثر کر جاتی ہے اور دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے یہ اثر صرف ظاہری اسباب کی حد تک ہوتا ہے حقیقت میں بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے تو مجزوم سے عدم اختلاط کا حکم صرف حفظان صحت کے اصول کے تحت ہے۔ عداوی اور چھوت چھات کے اصول کے تحت نہیں ہے۔

باقی آنحضرت کو چونکہ کامل یقین تھا اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا اور حقیقی علت کی صحیح معرفت تھی اس لئے جذام والے شخص کو اپنے ساتھ بٹھلا کر ایک ساتھ کھانا کھایا اور دوسروں کو ڈرایا۔

### کسی بیماری کا متعدی ہونا بے حقیقت بات ہے

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدَوِي وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفَرٌ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ لَكَائِنَهَا الطَّبَّاءُ فَيَحْلِطُهَا الْبُعِيرُ الْأَجْرُبُ فَيَجْرُبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَعْدَا الْأَوَّلَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیماری کا ایک سے دوسرے کو اڑ کر لگنا ہامہ اور صفران سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک دیہاتی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! تو پھر ان اونٹوں کے بارے میں کیا کہا جائیگا جو (اپنی تندرستی اور اپنی جل، کھال کی صفائی ستھرائی کے اعتبار سے) ہرن کی مانند ریگستان میں دوڑتے پھرتے ہیں لیکن جب کوئی خارش اونٹ ان میں مل جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی خارش زدہ بنا دیتا ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو کس نے خارش زدہ بنایا؟ یعنی خارش پیدا ہونے کے لئے یہی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سے اڑ کر لگے لہذا جس طرح ان تندرست اونٹوں میں آملنے والے خارش زدہ اونٹ میں خارش کا پیدا ہونا بتقدیر الہی ہوتا ہے اسی طرح دوسرے اونٹوں کا خارش زدہ ہو جانا بھی حکم الہی کے تحت اور نظام قدرت کے مطابق ہوتا ہے۔ (بخاری)

## توضیح

”الرمل“ ریگستان اور صحرا مراد ہے اس سے دیہاتی نے صحت مند ماحول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ”الطبا“ طبی کی جمع ہے ہرن کو کہتے ہیں یعنی صحت اور تندرستی میں ہرن کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ ”یخالط“ ملنے اور اختلاط کے معنی میں ہے۔ ”الاجرب“ خارش اونٹ کو کہتے ہیں۔ ”فیجر بها“ یعنی ان تمام صحت مند اونٹوں کو یہ ایک خارش اونٹ بنا دیتا ہے تو یہ چھوت چھات کا اثر ہے اور ایک کی بیماری کا دوسروں کی طرف تجاوز اور متعدی ہونے کی دلیل ہے۔

”الاول“ یعنی سب سے پہلے جس اونٹ پر خارش کی بیماری آئی وہ کون لایا ہے؟ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قدرت کی وجہ سے آئی ہے اس لئے چھوت چھات اور بیماری کے تجاوز اور متعدی ہونے کا عقیدہ غلط ہے یہ بے حقیقت اور بے اصل بات ہے۔

اس قسم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شارع علیہ السلام کی نگاہ حقیقی علت اور حقیقی سبب پر ہوتی ہے انبیاء کرام ظاہری اسباب کے بجائے اصل حقیقت کی بات بطور تعلیم پیش کرتے ہیں اور عوام الناس اطباء اور تجربہ کار لوگوں کی نگاہیں ظاہری اسباب پر ہوتی ہیں اس لئے وہ ظاہری سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے ابتدا میں لکھا جا چکا ہے۔

## نوء اور پنچتر کی کوئی حیثیت نہیں ہے

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَذْوَى وَلَا هَامَةٌ وَلَا نَوَاءٌ وَلَا صَفَرٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾ اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سے دوسرے کو بیماری لگنا ہامہ، نوء، اور صفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ (مسلم)

## توضیح

”نوء“ نوء کی جمع انواء ہے ایک ستارہ یا ایک برج مراد ہے۔ شاعر ساحر کہتا ہے۔

جمد القطار ولورثہ کما تری بہت کما تبجس الانواء

نوء کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک ستارہ کا طلوع ہونا اور دوسرے کا غروب ہونا ہے اور موسم ربیع میں اس طرح تبدیلی آتی ہے عرب کا عقیدہ تھا کہ ان ستاروں کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے بارشیں ہوتی ہیں شریعت نے اس کو مسترد کر دیا اور بتا دیا کہ بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں ہوتی۔

نہا یہ میں لکھا ہے کہ نوء کی جمع انواء ہے جس کے معنی قمر اور چاند کی ان منازل کے ہیں جن کو پنچتر کہتے ہیں، قمر اور چاند کی

اٹھائیس منازل ہیں جس کی طرف قرآن میں اس طرح اشارہ ہے ﴿والقمر قدرناہ منازل﴾ اہل جاہلیت بارش کو انہیں منازل اور پختروں کی طرف منسوب کرتے تھے اور ان منازل اور پختروں کو بارش کے لئے مؤثر حقیقی سمجھتے تھے۔ چنانچہ جاہلیت میں عرب کا خیال تھا کہ چاند یا کوئی ستارہ جب ان منازل میں سے فلاں منزل میں اتر آتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے اس عقیدہ کو شریعت نے شرک قرار دیا ہے عجم کے لوگ بھی بعض بارشوں کو اس قسم کے ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں مثلاً جب سہیل ستارہ طلوع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سہیل کی بارش ہے یا یہ سہیلے کی بارش ہے۔ یہ گپ کی بارش ہے یہ گپ ڈنیں کی بارش ہے یہ سب شرکیہ عقائد ہیں۔

### غول اور چڑیل ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا

﴿۵﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرٌ وَلَا غَوْلٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری کا لگنا صفر اور غول کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ (مسلم)

### توضیح

”ولا غول“ غول کی جمع اغوال اور غیلان ہے یہ جنات اور شیاطین کی ایک جنس اور قسم ہے جس کو چڑیل کہتے ہیں عرب کا خیال تھا کہ جنگلات میں اس قسم کے جنات اور شیاطین ہیں جو اپنے رنگ روغن کو اور شکل و صورت کو تبدیل کرتے ہیں اور لوگوں کو ہلاک کر ڈالتے ہیں اور راستوں سے بھٹکاتے ہیں، آنحضرتؐ نے ان کے اس عقیدہ کو رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر غول اور یہ شیاطین کچھ نہیں کر سکتے ہیں تم اس بے حقیقت خطرہ سے خطرہ محسوس نہ کرو اور ان کے بڑوں سے پناہ نہ مانگو غول کی اصل حقیقت چڑیل ہے جس کو پشتو میں ”گڈریج“ کہتے ہیں یہ جنات کی ایک قسم ہے جو شکل و صورت تبدیل کر کے لوگوں کو ڈراتے ہیں ان سے جو ڈر گیا وہ مر گیا کیونکہ یہ چڑیل رات کے وقت سامنے آتی ہے کبھی گھوڑے کی شکل میں آگئی تو کچھ دیر بعد کتے کی شکل میں نمودار ہوگئی کچھ دیر کے بعد ایک ڈراؤنی چڑیل نمودار کی شکل میں آتی ہے کچھ دیر کے بعد ایک بڑے دیو کی شکل میں آ جاتی ہے کبھی مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ کڑک کڑک کر کے سامنے آ جاتی ہے دیکھنے والا ڈر جاتا ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا اور اگر کوئی نہیں ڈرا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آنحضرتؐ نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ ہلاک کرنے کی طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ غول اور چڑیل صرف ڈراتا ہے تو آنحضرتؐ نے ”لا غول“ فرما کر غول کے وجود کی نفی نہیں فرمائی بلکہ غول کے ان کرتبوں کے ضرر اور نقصان کی نفی فرمائی ہے کہ ڈر نہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ ان میں ایسی طاقت ہے کہ کسی کو راستے سے بھٹکا دے۔ جو لوگ صحرائی اور قبائلی نظام کو نہیں جانتے وہ

اس حدیث کے مفہوم کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔

## جذامی سے اجتناب

﴿۶﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَأَرْجِعْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اور حضرت عمرو بن شریدا اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں کا جو وفد آیا تھا اس میں ایک شخص جذامی بھی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ایک آدمی کو بھیج کر کہلادیا کہ ہم نے تم سے (زبانی) بیعت لے لی ہے، لہذا تم لوٹ جاؤ (گویا آپؐ نے اس کو سامنے نہیں بلایا تا کہ حاضرین مجلس کو کراہت محسوس نہ ہو)۔ (مسلم)

اس حدیث کی تفصیل پہلے لکھی جا چکی ہے۔

## الفصل الثانی

### نیک فال لینا جائز ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَطَيَّرُ وَكَانَ يُحِبُّ الْأِسْمَ الْحَسَنَ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ الشُّنَّةِ

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فال لیتے تھے اور شگون بد نہیں لیتے تھے، نیز آپؐ اچھے ناموں کے ذریعہ فال لینے کو پسند فرماتے تھے۔ (شرح السنۃ)

### پرندوں کو اڑانا اس کے نام اور آواز سے فال لینا شرک ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ قُطَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْعِافَةُ وَالطَّرْقُ وَالطَّيْرَةُ مِنَ الْجَبْتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت قطن ابن قبیصہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیافہ طرق اور شگون بد لینا یہ سب چیزیں جت میں سے ہیں۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”العیافہ“ عیافہ دانی عرب کے ہاں ایک فن سمجھا جاتا ہے اور اس سے فال نکالنے کا عام رواج تھا اسکی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص کسی پرندے کو بھگا کر اڑاتا تھا یا وہ خود اڑ کر جاتا تھا تو یہ شخص دیکھتا تھا کہ اس پرندے کا نام کیا ہے اسکی آواز کیسی ہے

اور کس طرف کس انداز سے اڑ کر جاتا ہے ان تمام چیزوں سے عرب فال نکالتے تھے۔ زیادہ تر پرندہ کے نام اور اسکی آواز سے فال لیتے تھے مثلاً اڑنے والے پرندے کا نام اگر عقاب ہوتا تھا تو اس سے عقوبت کی بد فالی لیتے تھے اور اگر غراب ہوتا تھا تو اس سے غریب الوطن اور سفر کی بد فالی لیتے تھے اور اگر نام ہد ہد ہوتا تھا تو اس سے ہدایت اور رہنمائی مراد لیتے تھے۔ عیافہ اور طیرہ میں اتنا فرق ہے کہ طیرہ عام ہے خواہ پرندہ ہو یا کوئی جانور اور انسان ہو اس سے بد فالی لینے کو طیرہ کہتے ہیں۔ لیکن عیافہ پرندوں کے ناموں اور آوازوں کے ساتھ خاص ہے۔ آج کل بھی ایسے اوہام پرست لوگ موجود ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں۔

”الطرق“ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ طرق کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں عرب کے ہاں فال لینے کی یہ بھی ایک صورت ہوتی تھی وہ لوگ اپنے مطلب معلوم کرنے کے لئے ہوا میں کنکریاں پھینکتے تھے اور مٹی یا راکھ وغیرہ اڑاتے تھے جس طرف راکھ اور مٹی زیادہ اڑ کر چلی جاتی یہ لوگ اسی طرف کا سفر کرتے دوسری طرف کو منحوس سمجھتے تھے ہمارے ہاں ایک شکاری آدمی چھوٹی سی تھیلی میں راکھ بھر لیا کرتا تھا اور پھر انگلی سے اس کو درمیان سے مارتا تھا جس طرف زیادہ راکھ چلی جاتی وہ آدمی اسی طرف شکار کے لئے جاتا تھا۔ شریعت نے اس کو منع کر دیا کہ یہ صرف توہم پرستی ہے۔

طرق کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ عرب کے لوگ ریت وغیرہ پر مختلف قسم کے ہند سے لکھتے تھے اسی طرح خطوط کھینچ کر زاپچے بنایا کرتے تھے اور اس سے اپنا مطلب نکالتے تھے جس طرح علم رمل و جفر ہوتا ہے اس کو بھی شریعت نے منع کر دیا ہے۔

”الجبت“ لفظ جبت سے یا جادو اور کہانت مراد ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ پرندوں کے گزرنے سے اور ان کی آوازوں اور ناموں سے اور کنکریاں پھینکنے اور مٹی اڑانے سے بدشگون لینا اور اس سے فال نکالنا یا رمل و زاپچہ کے ذریعہ حالات معلوم کرنا سب کے سب سحر اور کہانت کے حکم میں ہیں جو شرک کے کام ہیں۔

یا جبست سے مراد شیطان ہے تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سارے کام شیطانی ہیں شیطان اس کو پسند کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کرتا ہے۔

### اوہام پرستی سے بچنے کا علاج توکل ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّيْرَةُ شِرْكٌ قَالَ ثَلَاثٌ وَمَا مِنْهَا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا مِنْهَا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ هَذَا عِنْدِي قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا شگون بد لینا شرک ہے آپؐ نے اہمیت ظاہر کرنے کے لئے یہ بات تین مرتبہ فرمائی اور ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے بھروسہ اور توکل پر چلاتا ہے (یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کسی کام و سفر کے قصد و ارادہ کے وقت کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جس سے تقاضائے بشریت دل و دماغ میں کوئی وہم اور تردد پیدا ہو تو اس وہم و تردد پر قطعاً بھروسہ و اعتماد نہ کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل و یقین رکھتے ہوئے اس کام کو کیا جائے یا سفر پر چلا جائے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

## توضیح

”الطیرۃ شرک“ اگر بد شگونی کا پکا عقیدہ کوئی شخص رکھتا ہے اور بد شگونی کو قطعی اور یقینی امر سمجھتا ہے تو یہ شرک جلی ہے جو حرام ہے اور اگر عام عادت کے مطابق دستور اور رواج کے طور پر بد شگونی کرتا ہے تو یہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مشرکین کے طریقوں اور ان کی عادات میں سے ہے۔

”بالتوکل“ یعنی اوہام پرستی سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ آدمی ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور شکوک و شبہات کو مسترد کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات میں جو کچھ تغیر اور تصرف ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ایام و اوقات اور انسانوں اور ان کے حالات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہمارا نظام اللہ تعالیٰ کے کاموں پر اثر انداز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہمارے کاموں پر اثر انداز ہے۔ اس روایت کے آخر میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ”و مامنا“ آخر تک یہ کلام حضرت ابن مسعود کا اپنا کلام ہے مرفوع حدیث نہیں ہے۔

## انحضرتؐ نے جذامی کے ساتھ کھانا کھایا

﴿۱۰﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقُصْعَةِ وَقَالَ كُلْ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكَّلًا عَلَيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جذامی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھانے کے پیالہ میں اپنے ساتھ شریک کیا اور فرمایا کہ کھاؤ، میرا اللہ پر اعتماد و بھروسہ ہے اور میں اسی کی ذات پر توکل کرتا ہوں۔ (ابن ماجہ)

## بد شگونی کوئی چیز نہیں ہے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَامَةَ وَلَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الطَّيْرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت سعد ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہامہ کوئی چیز ہے نہ ایک سے دوسرے

کو بیماری کا لگنا کوئی حقیقت رکھتا ہے اور نہ شگون بد میں کوئی حقیقت ہے اگر کسی چیز میں شگون بد ہوتا تو گھر میں گھوڑے میں اور عورت میں ہوتا۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”ففی الدار“ اس حدیث کی تشریح و توضیح اس سے پہلے ہو چکی ہے لیکن چونکہ یہاں اس بحث کا اصل مقام ہے اس لئے کچھ اشارہ کرنا ضروری ہے بد شگونی اور نحوست کے سلسلے میں مختلف احادیث منقول ہیں بعض احادیث میں مطلقاً ہر قسم کی اشیاء سے بد شگونی کی نہی اور ممانعت مذکور ہے اور بعض احادیث میں گھوڑے، گھر اور عورت وغیرہ بعض اشیاء میں نحوست کے ثبوت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جیسے زیر بحث حدیث میں ہے۔ لہذا ان مختلف احادیث میں تطبیق دینا اور مناسبت و موافقت پیدا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ علماء اور شارحین حدیث نے مختلف توجیہات بیان کی ہیں۔

## توجیہ اول

پہلی توجیہ یہ ہے کہ زیر بحث حدیث میں آنحضرت کا کلام بطور فرض اور بطور شرط ہے کہ فرض کر لو اگر دنیا کی کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی لیکن چونکہ نحوست کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے لہذا ان تین چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے۔ قاضی عیاض نے بھی یہی توجیہ کی ہے فرماتے ہیں اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں اس کا موقع محل اور امکان تھا لیکن جب اس میں نہیں تو کسی چیز میں نہیں۔

## توجیہ دوم

دوسری توجیہ حضرت ابوہریرہ راوی حدیث نے خود بیان فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ گھر میں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنگ ہو گھوڑے میں نحوست یہ ہے کہ وہ سرکش ہو اور عورت میں نحوست یہ ہے کہ بد زبان اور بد اخلاق ہو۔

## توجیہ سوم

تیسری توجیہ یہ ہے کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ان تین چیزوں کی نحوست کو عام احادیث سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے کہ طبعی طور پر ان چیزوں میں نحوست کا دخل ہے مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

## آنحضرتؐ نیک فال لینے کو پسند فرماتے تھے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ يَارَاشِدُ يَانَجِيحُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لئے باہر نکلتے تو آپ کو یہ اچھا معلوم ہوتا کہ کسی کی زبان سے یہ سنیں اے راشد اے نجیح یعنی کسی کام کے لئے جاتے وقت اس طرح کے نام والفاظ سننا نیک قال ہے۔ (ترمذی)

﴿۱۳﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ فَإِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرَحَ بِهِ وَرُئِيَ بِشْرُ ذَالِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَالِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرَحَ بِهِ وَرُئِيَ بِشْرُ ذَالِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَالِكَ فِي وَجْهِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے شگون بدنہ لیتے تھے اور جب آپ کسی عامل (کارکن کو کہیں) روانہ کرنے لگتے تو اس کا نام دریافت فرماتے اگر اس کا نام اچھا معلوم ہوتا تو آپ اس سے خوش ہوتے اور آپ کی خوشی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہوتی اور اگر اس کا نام برا معلوم ہوتا تو اس سے آپ کی ناگواری آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہوتی (یہاں تک کہ آپ اس کے نام کو کسی اچھے نام سے بدل دیتے) اسی طرح جب آپ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس بستی کا نام پوچھتے اگر آپ کو اس کا نام اچھا معلوم ہوتا تو اس سے خوش ہوتے اور آپ کی خوشی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہوتی اور اگر اس کا نام برا معلوم ہوتا تو آپ کی ناگواری آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہوتی۔ (ابوداؤد)

### مکان میں بے برکتی کا ذکر

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثُرَ فِيهَا عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ قَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُوهَا ذِمِيمَةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (پہلے) ہم ایک مکان میں رہا کرتے تھے جس میں ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس مال بھی بہت تھا۔ پھر ہم ایک دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے تو اس میں ہمارے آدمیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی اور ہمارا مال بھی تھوڑا رہ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ سن کر) فرمایا کہ اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح

”ذروہا“ یعنی تمہیں جب یہ مکان برا لگتا ہے تو اسے چھوڑ دو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے مکان کی نحوست کو کیسے تسلیم کیا جبکہ آپ نے الطیرۃ شرک میں اسکی نفی فرمائی ہے؟ اس کا ایک سطحی جواب تو وہی ہے کہ نحوست کے بارہ میں جن تین اشیاء کا استثنیٰ کیا گیا ہے اس میں گھر بھی ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔

اس سوال کا بہترین جواب علامہ خطابی نے یہ دیا ہے کہ آنحضرتؐ نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کو یہ وہم پیدا ہو گیا ہے کہ اس



مکان کی وجہ سے ہمارے اموال اور افراد میں قلت آگئی ہے اور ہمیں اس مکان کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تو آنحضرت نے ان کو مکان چھوڑنے کا حکم دیدیا تاکہ ان کا عقیدہ خراب نہ ہو اور یہ وہم آگے جا کر ان کے عقائد کا حصہ نہ بن جائے اس لئے آنحضرت نے اس میں مصلحت دیکھی کہ ان کے وہم کی جڑ کو کاٹ دیا جائے اور ان کو اس وہم کے گرداب میں پھنسنے اور شرک خفی میں مبتلا ہونے سے بچایا جائے اور مکان چھوڑنے کا کہا جائے۔ ”یہ اسلوب حکیم کے طور پر تھا“

### وبازدہ علاقہ سے بھاگنے کا مسئلہ

﴿۱۵﴾ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فِرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا أَبَيْنَ وَهِيَ أَرْضٌ رِيفْنَا وَمِيرَتْنَا وَإِنْ وَبَاءَ هَا شَدِيدٌ فَقَالَ دَعَهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرْفِ التَّلَفَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت یحییٰ ابن عبد اللہ ابن بحیر کہتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا کہ جس نے حضرت فروہ ابن مسیک سے روایت سنی کہ انہوں نے (یعنی فروہ نے کہا) کہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے پاس ایک زمین ہے جس کو ”ابین“ کہا جاتا ہے اور وہ ہماری زراعت اور غلے کی زمین ہے (یعنی وہ غلہ منڈی ہے جہاں تجارت کے لئے دوسری جگہوں سے غلہ لا کر جمع کیا جاتا ہے اور دوسرے شہروں میں بھیجا جاتا ہے) لیکن اس زمین کی وبا سخت ہے (یعنی وہاں وبائی امراض زیادہ رہے ہیں آنحضرت نے یہ (سکر) فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو (یعنی وہاں رہنا اور آنا جانا ترک کر دو کیونکہ وہ طاعون زدہ آبادی کے حکم میں ہے) اور وہاں ہلاکت اور اتلاف کا باعث ہوتا ہے۔ (ابوداؤد)

### توضیح

”ابین“ یہ اس زمین اور علاقہ کا نام تھا جس کے بارے میں صحابی نے مسئلہ پوچھا تھا۔ ”ریفنا“ ریف زراعت کو کہتے ہیں ”ومیرتنا“ میرۃ غلہ کو کہتے ہیں ”وباء ہا“ یعنی اس زمین اور علاقہ میں کثرت سے وبائی امراض آتے ہیں اور شدید وبا پھیلتی ہے۔ ”دعھا“ یعنی اس کو چھوڑ دو ”القرف“ وبائی مرض کو قرف کہا گیا ہے۔ قرف کا اصل ترجمہ قرب اور نزدیکی ہے۔ ”التلف“ یہ ہلاکت کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ وبائی امراض کے قرب اور آنے سے ہلاکت واقع ہو جاتی ہے لہذا تم اس زمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ۔

### سوال

یہاں پر یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ وبائی امراض کی جگہ سے بھاگنے کو آنحضرت نے منع فرمایا ہے کئی صحیح احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے پھر آنحضرت نے اس حدیث میں ان لوگوں کو وبائی زمین سے بھاگ نکلنے کی اجازت کیسے دیدی؟

## جواب

اس سوال کا ایک جواب علامہ طیبی نے دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے عدویٰ اور مَحُوت چھات پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی اور نہ یہ اجازت عدویٰ کے نقطہ نظر سے تھی بلکہ اصول طب کے مطابق حفظانِ صحت کی بنیاد پر یہ حکم تھا کیونکہ اس جگہ کی آب و ہوا ان لوگوں کی طبائع کے موافق نہیں تھی۔ گویا اس حدیث کا تعلق وبائی امراض سے نہیں ہے بلکہ حفظِ ماقدم کی بنیاد پر حفظانِ صحت سے اس کا تعلق ہے کہ جب اس علاقہ کی آب و ہوا تمہارے موافق نہیں ہے تو اس علاقہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔

اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے ان لوگوں کو جگہ بدلنے کا حکم ان کے عقیدہ کے تحفظ کی بنیاد پر دیا تھا کیونکہ ان کو وہم ہو گیا تھا کہ شاید یہ جگہ ہمارے موافق نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آفات ہماری طرف متوجہ ہیں ممکن تھا کہ ان کا یہ وہم ان کے عقیدہ میں بدل جاتا اور وہ بدشگونئی کے برے عقیدہ میں مبتلا ہو جاتے اس کے سد باب کے لئے آنحضرتؐ نے مصلحت کے تحت ان کو چلے جانے کا حکم دیدیا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کہ وبائی جگہ سے بھاگنا جائز ہے مسئلہ یہ ہے کہ وبا کے پھوٹ پڑنے سے پہلے اس جگہ سے جانا جائز ہے اس کے بعد موت کے خوف سے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ باہر سے آکر وبائی امراض کے علاقہ میں داخل ہونا بھی منع ہے۔ سیلاب و طوفان اور آگ و زلزلہ سے بھاگنا اور محفوظ مقام پر جانا جائز ہے اس کو وبائی زمین پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔

## الفصل الثالث

## شگون بد سے بچنے کی دعا

﴿۱۶﴾ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ذُكِرَتِ الطَّيْرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنُهَا الْقَالَ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِنِيْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَنْفَعُ السَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا.

حضرت عروہ بن عامر (تابعی) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونئی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بہترین صورت (اچھی فال) ہے اور (یاد رکھو) کسی مسلمان کو شگون بد باز نہ رکھے (یعنی کسی مسلمان کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے اور پھر کسی چیز کو بدشگونئی سمجھ کر اس کام سے باز رہے) اور جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز کو دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو یہ چاہئے کہ یہ دعا پڑھے ”اللہم لایاتنی الخ“ اے اللہ اچھائیوں اور برائیوں کا لانے والا صرف تو ہے اور صرف تو ہی برائیوں اور خرابیوں کو دور کرنے والا ہے اور برائی سے منہ موڑنے اور نیکی کی طرف آنے کی توفیق و طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس روایت کو ابوداؤد نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

## باب الکھانۃ

### کاہنوں کا بیان

لغت کی کتاب صراح میں لکھا ہے کہ کہانت فال گوئی کو کہتے ہیں اور فال گوئی کے پیشہ کو بھی کہانت کہا جاتا ہے اس پیشہ کو اختیار کرنے والے شخص کو کاہن کہتے ہیں۔

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو آئندہ پیش آنے والے واقعات اور حوادث کی خبریں دیتا ہو اور مستقبل کے علم غیب اور معرفت و اسرار کا دعویٰ کرتا ہو۔ یعنی نشانات و امارات و علامات سے معلوم کر کے مستقبل کے بارے میں جو شخص غیب کی پیشگوئیاں کرے ایسے شخص کو عرب کاہن بھی کہتے ہیں اور عرفا بھی کہتے ہیں، ستاروں کے احوال کو دیکھ کر نجومی اور ہاتھ دیکھ کر فال نکالنے والے یا طوطے کے ذریعہ یا ریل جفر اور ابجد وغیرہ ہندسوں کے ذریعہ سے مستقبل کی خبریں دینے والے لوگ سب کے سب کہانت کے اس پیشہ میں داخل ہیں۔

حضور اکرمؐ کی ولادت اور بعثت سے پہلے عرب معاشرہ میں کہانت کا بہت زیادہ چرچا تھا یہاں تک کہ عدالتی فیصلے اور بڑے بڑے جھگڑے کاہنوں کے ذریعہ نمٹائے جاتے تھے۔

بنو زہرہ کی ایک کاہنہ عورت نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ کو دیکھا تو کہا ”یہ عورت یا خود نذیرہ ہوگی یا اس کے لطن سے نذیر پیدا ہوگا“۔ بنو زہرہ کی اسی کاہنہ عورت نے خواجہ عبداللہ کے ذبح کے بدلہ میں سوانٹ مقرر کیے تھے

### عرب معاشرہ میں کاہنوں کی مختلف قسمیں تھیں

(۱) بعض کاہنوں کے براہ راست جنات اور شیاطین سے رابطہ رہتے تھے شیاطین آسمان اول کے قریب جا کر فرشتوں سے آئندہ واقع ہونے والی کوئی بات سن لیتے تو ان کاہنوں تک پہنچاتے تھے کاہن اس ایک بات کے ساتھ سو جھوٹی باتیں ملا کر اپنے کاروبار جاری رکھتے تھے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے آنحضرت کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور جنات و شیاطین پر آسمان سے شہاب ثاقب مارے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

(۲) بعض کاہن روحانی اعتبار سے خبیث ہوتے تھے لہذا ان کے ساتھ ارواح خبیثہ کے رابطہ ہوتے تھے اور یہ کاہن ان ارواح خبیثہ سے استفادہ کر کے مخلوق خدا کو گمراہ کرتے تھے۔

(۳) بعض کاہن زمین و آسمان کی علامات سماوی اور علامات ارضی اور لوگوں کی علامات شخصی کو دیکھ کر ادھر ادھر سے غیب کی

بے سرو پا باتیں اڑاتے تھے اور اپنا دھندہ چلاتے تھے۔ اسلام نے ان تمام جیلوں اور ٹوٹکوں کو حرام قرار دیا اور اس سے حاصل شدہ کمائی کو حرام کر دیا لہذا کاہن کا یہ عمل حرام ہے اور اس کو کچھ شیری وغیرہ لینا دینا بھی حرام ہے۔

## الفصل الاول

### کہانت اور رمل ناجائز ہے

﴿۱﴾ عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَنْتَظِرُ قَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدُّكُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رَجَالٌ يَخْطُونَ خَطًّا قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

حضرت معاویہ ابن حکم کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایسی کتنی ہی چیزیں ہیں جن کو ہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے غیب کی باتیں پوچھا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم شگون بدلیا کرتے تھے آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے کوئی اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے لیکن یہ تم کو کسی کام سے نہ روکے یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص بتقاضائے بشریت شگون بد کا خیال بھی لائے تو اس سے متاثر ہو کر اپنے قصد و ارادہ سے باز نہ رہے کیونکہ بد شگونی وہم سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں اور خطوط کھینچتے ہیں آپ نے فرمایا انبیاء میں ایک نبی گزرے ہیں جو لکیریں اور خطوط کھینچا کرتے تھے لہذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو وہ مباح ہوگا۔ (مسلم)

### توضیح

”فلا یصدنکم“ یعنی تم کو یہ اوہام تمہارے کام سے نہ روکیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کام کرو۔ ”یخطون“ یعنی لکیریں کھینچتے تھے اور کچھ زاپچے بناتے تھے یہ علم رمل و جفر کی طرف اشارہ ہے جو خطوط اور زاپچوں کے حساب کے ذریعہ سے لوگ مستقبل کی معلومات حاصل کرتے تھے۔ ”نبی من الانبیاء“ شارحین لکھتے ہیں کہ اس نبی سے حضرت دانیال علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام مراد ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ رمل و جفر کا یہ علم عطا فرمایا تھا۔ چونکہ رمل و جفر کے اس علم کی نسبت ایک نبی کی طرف تھی اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکیمانہ انداز سے امت کو اس علم سے منع فرمادیا اور سابق نبی کے اس عمل پر اعتراض بھی نہیں کیا اور فرمایا کہ ایک نبی ایسا عمل کرتے تھے لیکن وہ چونکہ مامون و محفوظ

و معصوم تھے اور بطور معجزہ ایسا کرتے تھے اس لئے ان کا عمل صحیح تھا اب اگر تمہارا یہ عمل اس نبی کے عمل کے بالکل موافق ہو جائے تو صحیح ہوگا اور اگر موافق نہ ہو تو صحیح نہیں ہوگا اب تم خود فیصلہ کر لو کہ جب تم کو معلوم بھی نہیں کہ تمہارا عمل اس نبی کے عمل کے موافق ہے یا نہیں تم اگر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہیگی، لہذا تم اس سے اجتناب کرو کیونکہ یہ علم اب دنیا سے اٹھ گیا ہے اس طرح حکیمانہ جواب سے آنحضرت نے اس عمل کو منع بھی فرمایا اور کسی نبی پر اعتراض بھی نہیں آیا۔

## کہانت کی بنیاد کیسی ہے؟

﴿۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ أَنَسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ لَيَسُوءُ بِشْيَءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَلِكِ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا الْجِنُّ فَيَقْرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَأَ الدَّجَاجَةُ فَيَخْلُطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وہ کچھ نہیں ہیں یعنی وہ جن بانوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہوتی ہیں اس لئے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتماد و بھروسہ مت کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بعض دفعہ وہ ایسی بات بتاتے ہیں یا ایسی خبر دیتے ہیں جو سچ ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات حق ہوتی ہے جس کو جن (یعنی شیطان) اچک لیتا ہے اور اپنے دوست (کاہن) کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح مرغ کوئی دوسرے مرغ کو دانہ لینے کے لئے بلاتا ہے پھر وہ کاہن اس بات میں سو۱۰۰ سے زیادہ جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”یکون حقا“ یعنی کبھی کبھی ان کاہنوں کی بتائی ہوئی بات صحیح ثابت ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ ”یخطفها“ حضور اکرم نے حضرت عائشہؓ کو بتا دیا کہ کاہنوں کی ایک آدھ بات جو صحیح ثابت ہوتی ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آجاتا ہے آسمان کے نیچے بادلوں میں فرشتے آپس میں اس حکم سے متعلق گفتگو کرتے ہیں جنات میں سے سرکش قسم کے شیاطین آسمان کے نیچے بادلوں میں چھپ چھپا کر جاتے ہیں اور فرشتوں سے ایک آدھ بات سن کر اچک لیتے ہیں اور زمین پر لاتے ہیں۔

”فیقر“ مرغ کی کڑک کڑک کی آواز کو کہتے ہیں یعنی مرغی جب دوسری مرغی کو دانہ کی طرف بلاتی ہے اور کڑک کڑک کی

آواز دیتی ہے اسی طرح یہ جن اپنے دوست کاہن اور جوگی کے کانوں میں اوپر کی بات ڈال دیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر پھیلاتا ہے آئندہ حدیث نمبر ۹ میں شیاطین کے چڑھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ بزدل شیطان سب سے نیچے زمین پر رہتا ہے اس کے کاندھوں پر دوسرا کھڑا ہوتا ہے اس طرح سب سے بہادر بالکل اوپر آسمان کے قریب بادلوں میں پہنچ جاتا ہے اوپر سے ان پر شہاب ثاقب مارا جاتا ہے اگر کسی پر لگا تو وہ مر جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے مگر ان سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سنی ہوئی بات زمین تک آجائے اور ان کی گمراہی کی مہم جاری ہو جائے۔

### ایک سچ کے ساتھ سو جھوٹ

﴿۳﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلِيكَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَذَكَرُ الْأَمْرِ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَيُتَوَحَّجُهُ إِلَى الْكُفَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتوں کی کوئی جماعت جب عنان یعنی ابر میں اترتی ہے اور (آپس میں) ان باتوں اور ان امور کا تذکرہ کرتی ہے جو آسمان میں مقرر ہوئے ہیں (اور دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے ہیں) تو شیاطین چوری چھپے ان کی باتوں کو سننے کے لئے کان لگائے رکھتے ہیں اور جب وہ کوئی بات سن لیتے ہیں تو اس کو کاہنوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں اور وہ کاہن شیاطین سے سنی ہوئی اس بات میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ (بخاری)

### نجومیوں کے پاس جانے والے کی چالیس دن کی نمازیں مردود

﴿۴﴾ وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى عَرَافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَوةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے (یعنی غیب کی باتیں دریافت کرے) تو اس کی چالیس دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ (مسلم)

### توضیح

”صلوة اربعین لیلۃ“ یعنی دن رات کی فرض نمازیں قبول نہیں ہوگی یا تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی یہ سزا اس شخص کی ہے جس نے نجومی کی تصدیق کی، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان اپنی اہم عبادت نماز سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ جرم کتنا سخت ہے کہ چالیس دن تک اس کا اثر باقی رہتا ہے حالانکہ نجومی کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہوتا ہے بلکہ سب دھوکہ ہے بابا سعدی نے

گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک نجومی کے گھر میں ان کی بیوی کے ساتھ ایک اجنبی مرد گھسا ہوا لطف اٹھا رہا تھا اور نجومی قریب بازار میں لوگوں کو آسمان کی باتیں بتا رہا تھا اس پر سعدی بابا نے فرمایا ۔

بر اوج فلک چہ دانی چیست چوں نہ دانی کہ در سرائے تو کیست  
یعنی تم آسمان کی بلندیوں کی کوئی بات معلوم کر لو گے جبکہ تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟  
علامہ اقبال نے فن نجوم سے متعلق کہا ۔

تیری تقدیر کو انجم شناس کیا جانے تو خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں

ستاروں کو بارش کا سبب قرار دینا کفر ہے

﴿۵﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِيَّةِ عَلَى أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَذَرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوَاءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت زید ابن خالد جہنی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جب کہ رات میں بارش ہو چکی تھی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے اس وقت کیا فرمایا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے (آج) اس حال میں صبح کی کہ بعض تو مجھ پر ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا چنانچہ جس شخص نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کے ساتھ کفر کیا (یعنی ستاروں کے اثر کے منکر ہیں) اور جس شخص نے کہا کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے اور فلاں ستارے کے غروب ہونے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”کافر بی“ اگر کوئی شخص بارش برسانے میں کسی ستارے مثلاً سہیل سہیلے گپ اور گپ ڈکیں کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے تو یہ شخص کافر ہو جاتا ہے اور اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بارش فقط اللہ تعالیٰ برساتا ہے یہ ستارے ظاہری اسباب ہیں تو یہ کفر نہیں ہے مگر یہ عقیدہ رکھنا بھی مکروہ ہے حدیث کے الفاظ سے مطلق حرمت معلوم ہوتی ہے۔

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يَنْزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ بِكُوكِبٍ كَذَا وَكَذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی برکت نازل کرتا ہے تو انسانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت اس کے ذریعہ کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے (یعنی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس برکت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے دوسرے ذرائع و اسباب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کے اثر سے بارش ہوئی ہے۔) (مسلم)

## الفصل الثانی

### علم نجوم اور سحر و جادو ایک چیز ہے

﴿۷﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم نجوم کا ایک حصہ سیکھتا ہے تو گویا وہ علم سحر کا ایک حصہ سیکھتا ہے اس طرح وہ اتنا ہی زیادہ سحر کا علم سیکھتا ہے جتنا زیادہ نجوم کا علم سیکھتا ہے۔ (ابوداؤد، احمد، ابن ماجہ)

”شعبة من السحر“ یعنی علم نجوم بھی جادو اور ٹوٹکے کا ایک حصہ ہے جس شخص نے جتنا زیادہ علم نجوم سیکھا اس نے اتنا ہی جادو سیکھ لیا اور ظاہر ہے جادو سیکھنا حرام ہے۔

### نجومیوں کی تصدیق کرنا حرام ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا وَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا فَقَدْ بَرِئَ عَمَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن کے پاس جائے اور اس کا بتائی ہوئی باتوں کو سچا جانے یا جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہو یا جو شخص اپنی بیوی کے پیچھے کی طرف بدفعلی کرے تو وہ

اس چیز (یعنی قرآن و سنت و شریعت) سے بیزار ہوا جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوا۔ (احمد، ابوداؤد)

”برائی“ اگر نجومی کی تصدیق بھی کی اور اس حرام کام کو حلال بھی جانا تو اس صورت میں یہ شخص واقعہً کافر ہو گیا اور اگر اس نے اس فعل کو حلال نہیں کہا بلکہ معصیت کے درجہ میں گناہ کیا تو پھر یہ حدیث تشدید و تہدید اور توخی و تغلیظ پر حمل ہوگی۔



## الفصل الثالث

### کاہنوں کو غیب کی بات کس طرح پہنچتی ہے

﴿۹﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَمَسَمِعَهَا مُسْتَرْقُوا السَّمْعَ وَمُسْتَرْقُوا السَّمْعَ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُفْيَانٌ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَبَيْنَ أَصَابِعَهُ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةٌ كَذِبَةٍ فَيَقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کا حکم جاری کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے خوف و عاجزی سے اپنے بازوؤں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی آواز اس زنجیر کی آواز کی مانند ہوتی ہے جس کو صاف پتھر پر کھینچا جائے پھر جب فرشتوں کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے مقرب فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم جاری فرمایا ہے مقرب فرشتے وہ حکم بتاتے ہیں جو پروردگار نے جاری کیا ہے (یا مقرب فرشتے دریافت کرنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پروردگار نے فرمایا ہے) حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بلند قدر اور بلند مرتبہ ہے چنانچہ ان باتوں کو جو فرشتوں کے درمیان ہوتی ہیں چوری چھپے سننے والے (یعنی جنات و شیاطین) سن لیتے ہیں اور وہ چوری چھپے سننے والوں کی ہیئت کو اپنے ہاتھ (کی انگلیوں) کے ذریعہ بیان کیا چنانچہ انہوں نے ہاتھ کو ٹیڑھا کر کے انگلیوں کے درمیان فرق کیا (یعنی حضرت سفیان نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر تلے ہونے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ وہ جنات و شیاطین آسمان سے زمین تک اس طرح سلسلہ وار اور اوپر تلے کھڑے رہتے ہیں) اور اوپر والا جن فرشتوں کی بات چوری چھپے سن کر اپنے نیچے والے جن کو پہنچا دیتا ہے اور وہ اپنے نیچے والے جن کو پہنچاتا ہے یہاں تک کہ آخری جن (جو سب سے نیچے ہوتا ہے) اس بات کو ساحریا کاہن کی زبان تک پہنچاتا ہے ادھر (ان جنات و شیاطین کو مارنے اور بھگانے کے لئے آسمان سے شعلے پھینکے جاتے ہیں تو) کبھی تو یہ شعلے ساحریا کاہن تک وہ بات پہنچانے سے پہلے ہی چوری چھپے سننے والے (جن کو) آکھڑتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جن اس شعلے کے پہنچنے سے پہلے ساحریا کاہن تک وہ بات پہنچ جاتی ہے تو وہ اس میں سو جھوٹی باتیں شامل کر لیتا ہے (اور لوگوں کے سامنے ان جھوٹی باتوں کے درمیان وہ بات بھی بیان کرتا ہے جو اس تک

جنات و شیاطین کے ذریعہ پہنچتی ہے) چنانچہ جب کوئی شخص اس کاہن کو (اس کی بتائی ہوئی باتوں میں سے جھوٹی باتوں کے ذریعہ جھٹلاتا ہے) (یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے جو فلاں فلاں بات کہی تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی تو ان گمراہ لوگوں کی طرف سے جو کاہن کی باتوں کو سچا جانتے ہیں جھٹلانے والے کے سامنے) یہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے اور کیا تم نہیں جانتے کہ اس کاہن نے فلاں فلاں دن ہم سے فلاں بات کہی تھی اور اس طرح اس کاہن کی سچائی کی تصدیق اس بات سے کی جاتی ہے جو اس تک (جنات کے ذریعہ) آسمان سے پہنچی تھی۔ (بخاری)

## توضیح

”خصمانا“ عاجزی اور تواضع اور خوف کے طور پر بازو پھڑپھڑاتے ہیں، ”صفوان“ مضبوط چٹان کو کہتے ہیں۔ ”فرع“ یعنی جب فرشتوں کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ ”ماذا قال ربکم“ نیچے آسمان والے فرشتے مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ”الحق“ یعنی مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا آیا ہے وہ حق ہی ہے۔ ”فحرفها“ یعنی سفیان ثوری نے شیاطین کے اوپر چڑھنے کی کیفیت بتائی آپ نے ہاتھ کو ٹیڑھا کیا اور انگلیوں کو اوپر نیچے رکھ کر بیچ میں فرق کیا۔ حدیث نمبر ۲ میں اس کی کیفیت کی تفصیل لکھی جا چکی ہے کہ جو سب سے بزدل ہے وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے اس کے اوپر دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے یہ سلسلہ اوپر تک جاتا ہے۔

## شہاب ثاقب کی حقیقت

﴿۱۰﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَنَاهُمْ جُلُوسٌ لَّيْلَةً مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُمِيَ بِنَجْمٍ وَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وَلَدَ اللَّيْلَةِ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَا يُرْهِاسِي بِهَا لَمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا حَيَوْتِهِ وَلَكِنْ رَبَّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلُ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يُلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَا قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّىٰ يَبْلُغَ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَيُخَطَفُ الْجَنُّ السَّمْعَ فَيَقْدِفُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وَيَرْمُونَ فَمَا جَاءَ وَبِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرَفُونَ فِيهِ وَيَرِيدُونَ.

رواه مسلم

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابہ میں سے ایک صحابی نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک

دفعہ رات کے وقت کچھ صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا اور اس کی تیز روشنی پھیل گئی (یہ دیکھ کر) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم زمانہ جاہلیت میں اس طرح ستارہ ٹوٹنے کو کیا کہتے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا حقیقت حال اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں ہم تو یہ کہا کرتے تھے کہ آج کی رات کوئی بڑا آدمی پیدا کیا گیا ہے اور (کبھی یہ کہتے کہ) آج کی رات کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارہ نہ تو کسی کی موت سے ٹوٹتا ہے اور نہ کسی کے پیدا ہونے سے بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارا رب جس کا نام بابرکت ہے جب کوئی حکم جاری فرماتا ہے تو عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے تسبیح (یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنے لگتے ہیں) پھر (ان کی تسبیح کی آواز سن کر) آسمان کے فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہیں یہاں تک کہ اس تسبیح کی آواز (ایک دوسرے آسمان سے ہوتی ہوئی) آسمان دنیا پر پہنچنے والے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتوں سے قریب رہتے ہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ وہ فرشتے ان کو وہ بات بتاتے ہیں جو پروردگار نے فرمائی ہے پھر اس بات کو ان سے دوسرے فرشتے دریافت کرتے اور ان سے اور فرشتے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آسمان دنیا پر پہنچنے والوں تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس سنی ہوئی بات کو جنات اچک لیتے ہیں یعنی وہ کان لگائے ایسی باتوں کے منتظر رہتے ہیں اور جب وہ چوری چھپے کوئی بات سن لیتے ہیں تو اس کو وہاں سے لے اڑتے ہیں اور اپنے دوستوں یعنی کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں چنانچہ ان جنات کو مارنے کے لئے ستارے پھینکے جاتے ہیں (لہذا ان ستاروں کے پھینکے جانے کا سبب یہ ہے نہ کہ وہ جس کا تم اعتقاد رکھتے ہو یعنی کسی کی موت یا پیدائش وغیرہ) اس طرح کاہن اگر اس بات کو جو آسمان سے سنی گئی ہے اور جنات کے ذریعہ اس تک پہنچتی ہے جوں کی توں بیان کریں تو وہ یقیناً صحیح ثابت ہوگی لیکن وہ کاہن ایسا نہیں کرتے بلکہ اس میں جھوٹی باتیں شامل کر دیتے ہیں اور ایک بات کی بہت سی باتیں بنا لیتے ہیں۔ (مسلم)

### ستارے کس مقصد کے لئے پیدا کیے گئے؟

﴿۱﴾ وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَعَلَامَاتٍ يَهْتَدِي بِهَا فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا لِغَيْرِ ذَالِكَ أَخْطَاءً وَأَضَاعَ نَصِيئَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْلَمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا وَفِي رِوَايَةٍ رَزَيْنٍ وَتَكَلَّفَ مَا لَا يَنْبَغِيهِ وَلَا يَعْلَمُ لَهُ بِهِ وَمَا عَجَزَ عَنْ عِلْمِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمَلَائِكَةُ وَعَنِ الرَّبِّيعِ مِثْلُهُ وَزَادَ وَاللَّهُ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي نَجْمٍ حَيَوَةً أَحَدٍ وَلَا رِزْقَةً وَلَا مَوْتَ وَأَنَّمَا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَيَتَعَلَّلُونَ بِالنُّجُومِ

اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین باتوں کے لئے پیدا کیا ہے ایک تو یہ کہ ان کو آسمانوں کی زینت

بتایا ہے اور دوسرے شیاطین و جنات کو مارنے کے لئے اور تیسرے علامات کے لئے کہ لوگ ان کے ذریعہ (جنگل و سمندر میں) اپنا راستہ پا سکیں لہذا جس شخص نے ان (ستاروں میں ان تین باتوں کے سوا اور کوئی غرض بیان کی تو اس نے خطا کی، اپنا حصہ ضائع کیا اور پھر اس چیز میں تکلف کیا جس کو وہ نہیں جانتا (یعنی آسمان کی چیزوں کے بارے میں جو حقوق ہیں ان کا علم قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی ذریعہ سے حاصل ہونا ممکن نہیں اور جب قرآن و سنت میں ستاروں کی غرض ان تین باتوں کے علاوہ اور کوئی بیان نہیں کی گئی ہے تو مذکورہ باتوں کے علاوہ کوئی اور غرض بیان کرنا ایسی بات کا بیان کرنا ہے جس کا معلوم ہونا متصور ہی نہیں ہے)۔ اس روایت کو بخاری نے بغیر سند کے نقل کیا ہے اور زرین کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی اور اس چیز میں تکلف کیا (یعنی اس چیز کو جاننے کا دعویٰ کیا) جس کا اس کو علم نہیں اور اس چیز میں تکلف کیا جس کے علم سے انبیاء اور فرشتے عاجز رہے ہیں، ربیع نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ قسم ہے خدا کی اللہ تعالیٰ نے ستارے میں نہ تو کسی کی زندگی (یعنی پیدائش) مقرر کی ہے نہ کسی کا رزق (یعنی مال و جاہ وغیرہ) اور نہ کسی کی موت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کاہن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی افتراء پردازی کرتے ہیں اور ستاروں کے طلوع و غروب ہونے کو کسی واقعہ و حادثہ کی علت قرار دیتے ہیں۔

## توضیح

”الثلاث“ شہاب ثاقب کے بارے میں بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ عام ستارے نہیں ہیں بلکہ جنات کو مارنے کے لئے مستقل شعلے اور راکٹ ہیں بظاہر یہ آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں اگرچہ یہ بھی ستارے ہیں لیکن آسمان میں مرکز ستارے نہیں ہیں واللہ اعلم۔

اسلام سے پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ کسی بڑے آدمی کے پیدا ہونے یا اس کی موت کے حادثہ کے وقت ستارے ٹوٹ جاتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے ستاروں کے تین مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ (۱) آسمان دنیا کی زینت کے لئے ہیں کیونکہ آسمان انسانوں کے لئے بمنزلہ چھت ہے اور چھت میں روشنی اور زینت کے لئے لوگ مختلف چیزیں جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی چھت میں زینت اور روشنی کے لئے سورج اور چاند اور ستارے جوڑ دئے۔ ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾

(۲) ستاروں کو جوڑنے کا دوسرا مقصد شیاطین کا مارنا ہے جو اوپر جاتے ہیں ان پر شہاب پڑتا ہے۔ (۳) ستاروں کے پیدا کرنے کا تیسرا مقصد دنیا کے لوگوں کی رہنمائی ہے سمندر ہو یا دشت و بیابان اور صحرا ہو اس ایٹمی دور میں بھی انسان ستاروں سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے اور ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ ”اضاع نصیبہ“ یعنی عمر کا ایک حصہ ضائع کیا اور ستاروں کے اصل مقاصد کو مد نظر نہیں رکھا۔

”وَيَتَعَلَّلُونَ بِالْجُؤْمِ“ یعنی ستاروں کو کسی حادثہ اور واقعہ کے لئے بطور علت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں ستارے سے یہ ہو گیا فلاں سے وہ ہو گیا فضول اندازوں اور انکلوں کے پل باندھتے ہیں

## نجمی ساحر ہے اور ساحر کا فر ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَبَسَ بَابًا مِّنْ عِلْمِ النُّجُومِ لَغَيْرِ

مَآذِ كَرَّ اللَّهُ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ الْمُنْجَمِ كَاهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ كَافِرٌ. رَوَاهُ رَزِينٌ

اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم کا کوئی حصہ سیکھا اور سیکھنے کی غرض ان تین چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے متعلق ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں تو اس نے بلاشبہ علم سحر کا ایک حصہ سیکھا (جب کہ علم سحر ایک برا علم ہے کیونکہ اس کی بعض قسم فق میں داخل ہے اور بعض قسم موجب کفر ہے) اور یاد رکھو منجم کا ہن کے حکم میں ہوتا ہے اور کاہن ساحر کے حکم میں ہے اور جو شخص سحر کے اور اس کے جائز ہونے کا اعتقاد رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے (اسی طرح منجم اور کاہن بھی اپنی بد اعتقادات کی بنا پر کافر ہو جاتے ہیں)۔ رزین

## توضیح

”المنجم کاہن“ نجومی کو اس لئے کاہن قرار دیا گیا ہے کہ دونوں ایک ہی جنس کے لوگ ہیں ایک میدان ہے اور ایک ہی کام ہے کیونکہ نجومی بھی غیب کی باتوں میں کاہن کی طرح الٹی سیدھی باتیں بناتا ہے اور پھر بتاتا ہے۔ ”والکاهن ساحر“ کاہن کو اس لئے ساحر کہا گیا کہ جو نقصان انسانوں کو جادو گر پہنچاتا ہے وہی نقصان کاہن بھی پہنچاتا ہے لہذا ضرر اور نقصان میں دونوں یکساں ہیں تو کاہن ساحر ہے ”والساحر کافر“ یعنی جادو گر کا فر ہے۔

## سحر کی تعریف

سحر اور جادو کی ایک تعریف یہ ہے۔ ”السحر هو اخراج الباطن في صورة الحق“۔

دوسری تعریف اس طرح ہے۔ ”كل مَادَقٍ وَلَطْفٍ مَّا خُذَهُ فَهُوَ سِحْرٌ“ یعنی ہر باریک اور لطیف انداز سے حاصل شدہ چیز سحر اور جادو ہے۔ گویا ہاتھ کی صفائی اور فنون لطیفہ کا اعلیٰ مظاہرہ سحر اور جادو ہے یہاں چند خارق عادت اور مافوق الفطرت چیزوں کا بیان کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے اگرچہ جلد اول ص ۲۴۸ میں اس کا بیان ہو چکا ہے چنانچہ خارق عادت اور مافوق العادة چیزیں سات ہیں۔

(۱) خارق عادت اشیاء میں سے پہلی چیز ”ارہاص“ ہے اگر نبی کے ہاتھ نبوت سے پہلے خارق عادت چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو ارہاص کہتے ہیں گویا یہ چیز اس نبی کی آمد کا اعلان ہے جیسے نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو پتھروں کا سلام کرنا تھا۔

(۲) معجزات: اگر مدعی نبوت کے ہاتھ پر اس کی نبوت کی تصدیق کے لئے کوئی خارق عادت امر ظاہر ہو جائے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔

(۳) کرامت: اگر کسی تتبع سنت صاحب ایمان شخص کے ہاتھ پر کوئی خارق عادت امر ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ پیغمبر کو اپنے معجزہ کا علم بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ظہور کا قصد بھی ہوتا ہے لیکن ولی کی کرامت میں یہ شرط نہیں ہے۔  
(۴) معونات: یہ وہ خارق عادت امور ہیں جو کسی تتبع سنت شخص کی مدد کے لئے ظاہر ہو جائیں جیسے حالت محصہ میں غیب سے کھانا پینا مل جائے۔

(۵) استدراج: یہ ایسے خارق عادت امور ہیں جو کسی کافر دشمن خدا کے ہاتھ پر اس کے مقصود کے موافق ظاہر ہو جائیں جیسے دجال کے ہاتھ پر ظاہر ہونگے۔

(۶) اہانت: یہ ایسے خارق عادت امور ہیں جو کسی کافر دشمن خدا کے ہاتھ پر اس کے مقصود کے خلاف ظاہر ہو جائیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو جائے جیسے مسیلہ کذاب نے ایک چشم شخص کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا تو دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی باغ میں درختوں کی جڑوں میں کلی کر کے پانی ڈال دیا تو سارے درخت سوکھ گئے ایک بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا تو اس کا حافظہ ختم ہو گیا۔  
(۷) السحر: خارق عادت میں ساتویں چیز جادو ہے یہ ایسے خارق عادت امور ہیں جو کسی انسان کے ہاتھ پر منتر جنتر اور جادو کے ذریعہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔

معتزلہ کے نزدیک جادو ایک وہم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن جمہور کے نزدیک سحر اور جادو کی ایک حقیقت ہے اور اس کی یہ تعریف ہے ”اخراج الباطل فی صورة الحق“ یا ”کل مالطف ودق مأخذ فہو سحر“ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ساحر کافر ہے لہذا واجب القتل ہے۔

ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ اگر جادو کے عمل میں ضروریات دین کا انکار ہے تو یہ کفر ہے اور اگر جادو کے عمل میں صرف شریکہ کلمات ہیں تو یہ شرک ہے اور اگر اس میں ایسے کلمات ہوں جو اعمال حسنہ کے منافی ہیں تو یہ معصیت اور گناہ کبیرہ ہے اور اگر اس میں ایسے کلمات ہیں جو صحیح ہیں اور صحیح مقصد کے لئے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ مباح اور جائز ہے جیسے زوجین کے درمیان اصلاح مقصود ہو، احناف کی یہ تفصیل بہت عمدہ ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح مسلمان جادو کا دنیا میں کہیں وجود بھی ہے یا صرف تصور ہے؟ کیونکہ جادو کی بنیاد خبیث اعمال و افعال اور خبیث اقوال پر قائم ہے۔

## کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے نسبت غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ الْقَطْرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ مِائَتِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لَا صَبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولُونَ سُقِينَا بِنُوءِ الْمَجْدَحِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

اور حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ پانچ برس تک اپنے بندوں کو بارش سے محروم رکھے اور پھر بارش برسائے تو لوگوں کی ایک جماعت اس صورت میں بھی کفر کرتی ہوئی یہ کہے گی کہ مجروح یعنی قمر کی منزل کے سب ہم پر بارش ہوئی ہے۔ (نسائی)

### توضیح

”بنو المجدح“ مجروح میم کے کسرہ کے ساتھ ہے جیم ساکن ہے اور دال پر زبر ہے۔ چاند کے منازل میں سے ایک منزل کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کا خیال تھا کہ اس منزل میں جب چاند داخل ہو جاتا ہے تو خوب بارشیں ہوتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ کو باطل قرار دیا اور بطور دلیل اشارہ فرمادیا کہ مثلاً پانچ سال تک جو بارش رکی ہوئی تھی تو مجروح منزل کہاں تھی اس نے بارش کیوں نہیں برسائی اگر بارش مجروح منزل برساتی تو یہ موجود تھی اور بارش نہیں تھی اب جب اللہ تعالیٰ نے بارش برسادی تو لوگوں نے مجروح کی طرف نسبت کر دی یہ افسوس کی بات ہے۔

اس حدیث میں جس علت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ درحقیقت ایک ضابطہ ہے کہ کائنات میں جن جن امور کو لوگ مزاروں اور پیروں فقیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو جاتے ہیں لیکن اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دیتے ہیں یہ بہت زیادتی اور ظلم ہے کہ کام تو کرے اللہ جل وعلیٰ اور نسبت اور تعریف کا سہرا کسی اور کے سر پر باندھا جائے۔

## کتاب الرؤیا

### خوابوں کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾

رؤیا باب فتح یفتح سے آتا ہے لیکن مصدر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے اگر مصدر رؤیة آجائے تو آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے اگر مصدر رأیاً آجائے تو رائے قائم کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، اگر مصدر رئة آجائے تو اس کو رؤیت پڑپوسی کہتے ہیں یعنی جن کے پیچھے بڑے خراب ہو جائیں اور اگر مصدر رؤیاً آجائے تو خواب میں دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے کتاب میں یہی مراد ہے۔

اللہ تعالیٰ انسان کے دل و دماغ میں نیند کی حالت میں نبی اسی طرح علوم و الدیتا ہے جس طرح کہ بیداری کی حالت میں ڈالتا ہے نیند کی حالت میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کو خواب کہتے ہیں۔

### خواب کی تین قسمیں ہیں

(۱) خواب کی پہلی قسم تو محض خیال ہے گویا دن بھر انسان کو بوسمتا پھرتا ہے اور آنکھوں سے مختلف چیزوں کا نظارہ کرتا ہے رات کو خواب میں وہی چیزیں متشکل ہو کر آتی ہیں کیونکہ دل و دماغ پر انھیں اشیاء کا نقشہ چھایا رہتا ہے۔

(۲) خواب کی دوسری قسم اضغاث و احلام ہے یہ وہ ڈراؤنے، ہیبت ناک اور پراگندہ خواب ہوتے ہیں جو شیطانی اثرات کے عکاس ہوتے ہیں۔

(۳) خواب کی تیسری قسم وہ خواب ہیں جو من جانب اللہ ہوتے ہیں اور بشارت و بھلائی اور بہتری کو ظاہر کرتے ہیں اسی قسم کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے دل و دماغ میں علم و معرفت کا ایک نور پیدا کر دیتا ہے اس لئے وہ خواب میں ان چیزوں کا ایسا ہی ادراک کرنا ہے جس طرح بیداری میں ادراک کرتا ہے یہ دراصل آئندہ وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کبھی یہ اشارہ انتہائی خفی ہوتا ہے کہ صرف ماہرین اس کی تعبیر کو سمجھ سکتے ہیں اور کبھی اتنا واضح ہوتا ہے کہ ہر کس و نا کس اس کو جان لیتا ہے۔

خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے امام تو حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہیں لیکن امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیة



میں خوابوں کے سب سے بڑے امام علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔

خواب کی تعبیر ”علی رجل الطائر“ ہوتا ہے یعنی جس نے جس طرح بتا دیا اسی طرح تعبیر وقوع پذیر ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود تعبیر خواب کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ ابن سیرینؒ کی طرف منسوب کتاب تعبیر الرویا کی ابتدا میں اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے (۱) ایک اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کے قواعد و ضوابط کے تحت شریعت کی روشنی میں خواب کی تعبیر کو تلاش کیا جائے اور پھر تعبیر نکالی جائے۔

(۲) دوسرا اصل یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت یا حدیث کے الفاظ کو دیکھ کر اس کی روشنی میں تعبیر نکالی جائے۔

(۳) تیسرا اصل یہ ہے کہ عربی لغت سے استفادہ کر کے اس کی مدد سے تعبیر نکالی جائے یہی وجہ ہے کہ خواب کی تعبیر ایسے آدمی سے معلوم کرنا چاہئے جو خواب دیکھنے والے کا خیر خواہ بھی ہو اور قواعد کا ماہر بھی ہو۔

خواب کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ انبیاء کرام کے خواب وحی خفی کا درجہ رکھتے ہیں اور دیگر صالحین کے خواب اگر شریعت کے کسی ضابطہ سے نہیں ٹکراتے تو ایسے خواب باعث تسلی ہوتے ہیں اس سے کوئی شرعی ضابطہ نہیں بنتا۔ احادیث میں سچے خوابوں کو مبشرات سے یاد کیا گیا ہے۔

## الفصل الاول

### سچے خواب مبشرات ہیں

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَزَادَ مَالِكٌ بِرِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ.

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے آثار میں سے کچھ باقی نہیں رہا ہے علاوہ مبشرات کے صحابہ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے خواب۔ (بخاری) اور امام مالک کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ مسلمان آدمی خود خواب دیکھے یا اس کے بارے میں دیکھا جائے۔

### توضیح

”المبشرات“ یہ بشارات سے ہے خوشخبری کے معنی میں ہے یعنی نبوت کا دروازہ اب بند ہو گیا نبی آخر الزمان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا آسمانی وحی کا نزول ختم ہو گیا ہے اب خواب کی صورت میں صرف بشاراتیں رہ گئیں ہیں، خواب میں چونکہ غالب عنصر بشارت کی ہوتی ہے اس لئے بطور غلبہ اس غالب حیثیت کو مطلقاً مبشرات قرار دیا گیا ہے ورنہ بعض خواب سچے

ہوتے ہیں لیکن اس میں بشارت کے بجائے نذارت ہوتی ہے یعنی غم کی خبر ہوتی ہے اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں مبشرات سے مطلق خبر مراد ہے خواہ بشارت پر مشتمل ہو یا نذارت پر مشتمل ہو۔

### سچا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت کے چھیا لیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”جزء من ستة“ یعنی سچے خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔

سوال

یہاں پر یہ سوال ہے کہ بعض روایات میں زیر بحث روایت میں ۳۶ کا ذکر ہے مگر بعض دیگر روایات میں ۲۶ کا ذکر ہے بعض میں ۲۴ اور بعض میں ۶ کا ذکر ہے جو بظاہر تضاد ہے اس تضاد کا کیا جواب ہے؟

جواب

اس سوال کا ایک جواب تو وہی معروف جواب ہے کہ اعداد میں تضاد نہیں ہوتا ہے کیونکہ عدد اقل عدد اکثر کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں کسی عدد میں حصر بیان کرنا اور تعین و تحدید بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ محض تکثیر بیان کرنا مقصود ہے۔ باقی خاص خاص اعداد کا ذکر کرنا یہ شریعت کے اسرار میں سے ہے ہم اس کی علت اور وجہ بیان کرنے کے مکلف نہیں ہیں البتہ علماء نے چھیا لیسویں کے عدد کی ایک حکمت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پوری نبوت کا زمانہ ۲۳ سال ہے اور چھ ماہ اس میں وہ زمانہ رہا ہے جس میں صرف سچے خواب آئے ہیں اس اعتبار سے چھ ماہ ۲۳ سال کا چھیا لیسواں حصہ بنتا ہے اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ سچے خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔

سوال

یہاں ایک سوال اور ایک اشکال ہے جس کو قادیانی لوگ بھی پیش کرتے ہیں اشکال یہ ہے کہ کسی چیز کا جزء اس کے کل کا حصہ ہوتا ہے اس سے الگ شمار نہیں ہوتا ہے لہذا جب نبوت ختم ہوگئی تو اس کا ایک جزء اور ایک حصہ کیسے باقی رہ گیا؟ معلوم ہوا نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔

## جواب

اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نبوت ہے اور ایک علم نبوت ہے تو نبوت اگرچہ ختم ہو گئی ہے لیکن علم نبوت باقی ہے سچے خواب خود نبوت نہیں بلکہ علم نبوت سے متعلق ہیں قادیانی دجال ہے۔

## حضور اکرمؐ کو خواب میں دیکھنے کی تحقیق

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے درحقیقت مجھ کو ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں بن سکتا۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”فقد رآنی“ یعنی جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعہ مجھے ہی دیکھا اس شخص کا یہ خواب اضغاث احلام میں سے نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ شیطان اپنے آپ کو میری شکل و صورت میں نہیں ڈھال سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی ہدایت محض ہے اور شیطان ضلالت محض ہے دونوں میں واضح فرق اور واضح تضاد ہے اگر شیطان اس طرح کرنے پر قادر ہو جائے تو پھر شریعت میں دخل اندازی کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔

آج کل حزب اللہ اور جماعت المسلمین کے لوگ حضور کو خواب میں دیکھنے کا انکار کرتے ہیں اور بطور دلیل کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے علاوہ کسی نے دیکھا نہیں ہے خواب میں وہ چیز کھائی دیتی ہے جو آدمی نے پہلے دیکھا ہو، اس مہمل سوال کا جواب یہ ہے کہ جب صحیح حدیث موجود ہے تو تمہاری اس منطق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہی حق ہے اور اس شخص نے حضور ہی کو دیکھا ہے ہاں آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے حضور کی زیارت کرتا ہے اگر اعمال اچھے ہیں تو آنحضرت کو اچھی صورت میں دیکھتا ہے اور اگر اعمال خراب ہیں تو حضور کو اسی کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک مکمل طور پر شامل میں مذکور ہے اس سے دیکھنے کا اندازہ ہو جاتا ہے بہر حال یہ خصائص نبوی اور اعجاز نبوی میں سے ہے کہ آپ کی شکل و صورت میں شیطان نہیں آ سکتا ہے۔

## جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے حق دیکھا یعنی اس کا خواب سچا ہے کہ اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”الحق“ یعنی اس شخص نے مجھے ہی دیکھا یہ حق ہے جھوٹ نہیں ہے اس بارے میں دروغ خیالی اور شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا ہے یہ اعزاز حضور اکرم کے خصائص میں سے ہے جو اعجاز نبوی کا حصہ ہے ہر آدمی آنحضرت کو اپنے اعمال کے آئینہ میں دیکھتا ہے۔

### آنحضرت کو خواب میں دیکھنے کی فضیلت

﴿۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا وہ جلد ہی مجھ کو بیداری کے عالم میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں بن سکتا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”فسیرانی فی الیقظۃ“ یعنی جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا وہ شخص عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ میرے زمانہ میں جو شخص کہیں سے مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھ سے ملاقات کر کے مجھے بیداری میں دنیا میں دیکھے گا اس صورت میں اس حدیث کا تعلق آنحضرت کی حیات طیبہ سے ہے۔

اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے گا تو وہ مجھے عالم آخرت میں بیداری میں دیکھے گا گویا اس شخص کا انجام اچھا رہے گا اور ایمان کے ساتھ اٹھ کر دنیا سے رخصت ہوگا۔

### اچھے اور برے خواب دیکھنے کے وقت آدمی کیا کرے؟

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يَحْدِثْ بِهِ إِلَّا مَنَ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتَفَلَّ فَلَئِنْ لَا يَحْدِثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب

شیطان کی طرف سے ہے لہذا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس سے وہ خوش ہو تو چاہئے کہ اس خواب کو صرف اس شخص کے سامنے بیان کرے جس کو وہ دوست و ہمدرد سمجھتا ہے (جیسے علماء و صلحاء اور اقرباء نیز وہ اس خواب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی حمد و تعریف کرے جیسا کہ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں منقول ہے) اور جب ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند نہیں کرتا تو چاہئے کہ اس خواب کی برائی اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور شیطان کو دور کرنے کے قصد سے تین مرتبہ تھکار دے نیز اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے (خواہ دوست ہو یا دشمن) اور یہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

ہر قسم خواب کی اصل قدرت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن اچھے خواب دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ایک بشارت حاصل ہو جاتی ہے جس پر بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس اعتبار سے یہ خواب رحمان کی طرف سے ہے۔ لیکن برے خواب سے آدمی غمگین اور پریشان ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وساوس میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے شیطان بہت خوش ہو جاتا ہے اس لئے کہا گیا کہ ایسے خواب شیطان کی طرف سے ہے یعنی شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اس کو خوار کرنے کے لئے شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایسی حالت میں بائیں جانب تھوک مار دے تاکہ شیطان ذلیل ہو کر بھاگ جائے اور ایسے خواب کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے۔ الغرض اچھے خواب پر اللہ کا شکر ادا کرے اور برے خواب پر شیطان سے نفرت کا اظہار کرے اگلی روایت میں ہے کہ تین دفعہ بائیں جانب تھکار دے اور اعوذ باللہ پڑھے اور کروٹ کو بدل دے۔

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيُصْصِقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ﴾  
اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو اس کو چاہئے کہ بائیں طرف تین بار تھکار دے اور تین بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اپنی کروٹ کو تبدیل کر دے جس پر وہ خواب دیکھنے کے وقت (سو یا ہوا) تھا۔ (مسلم)

## خوابوں کے لئے اصولی ضابطہ

﴿٨﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ يَكْذِبْ يَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِّنَ النَّبُوءَةِ فَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوءَةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَأَنَا أَقُولُ الرُّوْيَا ثَلَاثٌ حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقْضُهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيَصِلْ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ الْغُلَّ فِي النَّوْمِ وَيَعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثُبَاتٌ فِي الدِّينِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهَشِيمٌ وَأَبُو هَلَالٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ يُونُسُ لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَيْدِ وَقَالَ مُسْلِمٌ لَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ بْنُ سِيرِينَ وَفِي رِوَايَةٍ نَحْوَهُ وَإِذْ رَاجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ وَكَرَهُ الْغُلَّ إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کہ زمانہ قریب ہوگا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا اور مومن کا خواب نبوت کے چھیا لیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے اور جو چیز نبوت کے اجزاء میں سے ہو وہ جھوٹی نہیں ہوا کرتی حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو نفس کا خیال، دوسرے شیطان کا ڈرانا اور تیسرے خدا کی طرف سے بشارت پس جو شخص کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور اٹھے اور نماز پڑھ لے نیز ابن سیرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں طوق کو دیکھنا اچھا نہیں سمجھتے تھے اور قید کو دیکھنا پسند فرماتے تھے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ قید کا مطلب دین پر ثابت قدم رہنا ہے یہ پوری روایت بخاری و مسلم نے نقل کی ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو قتادہ یونس ہشیم اور ابو ہلال نے محمد ابن سیرین سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے اور یونس نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ حدیث کا وہ جزء جس میں ابن سیرین نے قید کا ذکر کیا ہے یعنی یہ الفاظ (يعجبهم القيد والقيد ثبات في الدين) حضرت ابو ہریرہؓ کا قول نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور امام مسلم نے یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ جزء کہ جس میں قید کے الفاظ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا ابن سیرین کا اپنا قول ہے۔ مسلم کی ایک اور روایت میں اسی طرح کے الفاظ ہیں نیز مسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ (حضرت ابو ہریرہؓ یا محمد ابن سیرین نے حدیث میں ادراج کیا ہے بایں طور کہ انہوں نے کہا میں طوق کو دیکھنا اچھا سمجھتا ہوں۔۔۔ الخ۔) گویا مسلم کے قول کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا پورا آخری جزء جو طوق اور قید کے ذکر پر مشتمل ہے آنحضرت کا ارشاد نہیں ہے بلکہ حضرت ابو ہریرہؓ یا محمد ابن سیرین کا اپنا قول ہے نیز بخاری و مسلم کے ان اقوال کی روشنی میں قال وکان یکرہ الخ کی ضمیروں کی حقیقت حال بھی منکشف ہو جاتی ہے کہ ان ضمیروں کو کس کی طرف راجع ہونا چاہئے۔

توضیح

”اذا اقترب الزمان“ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب قرب قیامت کا زمانہ آجائے تو مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ سچے خواب آنے لگیں گے چونکہ غیب کا پردہ اٹھنے والا ہوگا تو خواب بھی سچے ہوں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کی موت

کا زمانہ قریب ہو جائے تو اسکے خواب سچے ہونگے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ جب زمانہ میں دن اور رات کا وقت برابر ہو جائے اور زمانہ میں اعتدال آجائے جس سے لوگوں کے مزاج میں بھی اعتدال آجاتا ہے تو اس وقت سچے خواب آئیں گے جس طرح صبح کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے اسی طرح اس معتدل زمانہ کا خواب سچا ہوگا۔ اس حدیث کے عمومی الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں اس بارے میں امام ابن سیرین نے کچھ وضاحت فرمائی ہے کہ سچا خواب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو ہر خواب سچا بھی نہیں اور جھوٹا بھی نہیں پھر آپ نے خوابوں کی تین قسمیں بیان فرمائیں ”قال“ اس میں فاعل کی ضمیر ابن سیرین کی طرف لوٹی ہے اور ”وکان یکرہ“ میں ضمائر آنحضرت کی طرف لوٹی ہیں۔ ”العل“ بغین پر پیش اور لام پر شد ہے طوق کو غل کہتے ہیں ”القیّد“ ڈنڈا بیڑی کو قید کہتے ہیں۔

### ڈراؤنے اور مہمل خوابوں کی تعبیر نہ پوچھا کرو

﴿۹﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَقَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میرا سر کاٹ ڈالا گیا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دئے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے خواب میں اس کے ساتھ شیطان تماشہ کرے تو وہ اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ (مسلم)

### توضیح

”اذا لعب“ یعنی شیطان انسان کو ڈراؤنے خواب دکھاتا ہے اور اس کو کھیل کود اور لوگوں کے لئے تماشہ بناتا ہے اس لئے آنحضرتؐ نے اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی کہ شیطان کے اس طرح کے ڈراؤنے خوابوں کا اثر نہ لیا کرو اور نہ اس کو اہمیت دو کہ اس کی تعبیر کے لئے مارے مارے پھرتے رہو گے یہ مہمل خواب ہیں اس کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرو۔

### خواب کی تعبیر کا ایک ضابطہ

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّاسُ كَأَنَّا فِي دَارِ عَقَبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأَوْتَيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةُ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک رات کو ان چیزوں میں جن میں سونے والا دیکھتا ہے (یعنی خواب میں) دیکھا گویا میں اور میرے صحابہ عقبہ ابن رافع کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے سامنے تازہ کھجوریں لائی گئیں جن کو رطب ابن طاب کہا جاتا ہے چنانچہ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ ہمارے لئے دنیا رفعت و سر بلندی ہے اور آخرت میں نیک عاقبت یعنی اچھی جزا کا انعام ہے اور یہ ہمارا دین اچھا ہے۔ (مسلم)

توضیح

”ان الرفعة لنا“ اس حدیث سے تعبیر خواب کا ایک اصل اور ضابطہ معلوم ہوتا ہے ابتداء بحث میں تعبیر کے تین اصولوں میں سے ایک اصل یہ تھا کہ کبھی عربی لغت کی بنیاد پر تعبیر نکالی جاتی ہے زیر بحث حدیث میں آنحضرتؐ نے تین ناموں کی لغت سے تعبیر نکالی ہے۔ عقبہ کے لفظ سے آنحضرتؐ نے عاقبت اور آخری انجام کی بھلائی کی تعبیر نکالی اور رافع کے لفظ سے آپؐ نے دنیا و آخرت کی بلندی کی تعبیر نکالی اور طاب کے لفظ سے آپؐ نے دین اسلام کے طیب اور اچھا ہونے کی تعبیر لی۔

### ہجرت سے متعلق آنحضرتؐ کا ایک خواب

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلَيْ إِلَى أَنِّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرَ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرُبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ہجرت سے پہلے مکہ میں ایک دن میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایک ایسی زمین کی طرف جا رہا ہوں جس میں کھجوروں کے درخت ہیں، چنانچہ اس خواب کی تعبیر میں میرا یہ خیال ہوا کہ وہ شہر (جہاں میں ہجرت کر کے جاؤں گا) یمامہ ہو گا یا ہجر لیکن حقیقت میں وہ مدینہ نکلا جس کا قدیم نام یثرب ہے اور میں نے اپنے اس خواب میں یہ بھی دیکھا تھا کہ میں نے اپنی تلوار کو ہلایا اور وہ اوپر سے ٹوٹ گئی چنانچہ تلوار ٹوٹنے کی تعبیر جنگ احد کے دن پریشانیوں اور مصائب کی صورت میں ظاہر ہوئی جس سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا پھر میں نے خواب ہی میں تلوار کو دوسری مرتبہ ہلایا تو وہ تلوار نہ صرف درست ہو گئی بلکہ پہلے سے بھی بہتر ہو گئی چنانچہ تلوار درست ہونے کی تعبیر (جنگ احد ہی کے موقع پر) فتح مکہ یا صلح حدیبیہ کے وقت (اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی فتح اور مسلمانوں کی اجتماعیت کی صورت میں ظاہر ہوئی)۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”یمامہ“ پہلے زمانہ میں یمامہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ اور حجاز کے شہروں میں سے ایک مرکزی شہر تھا ہجر بھی بہت زیادہ



سرسبز و شاداب تھا ان دونوں شہروں میں بھجور کے بہت زیادہ باغات تھے آنحضرت کا خیال اسی کی طرف گیا کہ شاید خواب میں اسی کی طرف ہجرت کا اشارہ ہو رہا ہے آج کل یمامہ سعودی عرب کے دار الخلافۃ ریاض کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہو کر رہ گئی ہے اور ہجرت کی بھی یہی حالت ہے۔

”یشرب“ مدینہ منورہ کا پرانا نام یشرب تھا آنحضرتؐ نے اسے بدل دیا اور مدینہ نام رکھا مدینہ میں بھجوروں کے بہت زیادہ باغات ہوتے تھے اسی لئے اس کا نام نخلہ بھی ہے مدینہ منورہ کے اسلامی نام سو کے قریب ہیں میں نے توضیحات ج چہارم کتاب الحج ص ۴۱۰ میں سب کو ذکر کیا ہے۔

”ورئیت“ یہ ایک اور خواب کا بیان ہے جو ہجرت کے بعد آنحضرتؐ نے دیکھا تھا جیسے دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ خواب کا یہ حصہ بھی ہجرت سے پہلے دیکھا ہو جو اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے اگرچہ یہ بعید لگ رہا ہے۔ ”ہزرتہ“ تلوار ہلانے کو کہتے ہیں۔ تلوار کا ٹوٹنا گویا شکست کی طرف اشارہ تھا اور پھر جڑنا مسلمانوں کے دوبارہ جمع ہونے اور فتح حاصل کرنے کی طرف اشارہ تھا یا تلوار کا دوبارہ جڑنا آئندہ فتوحات مثلاً فتح مکہ صلح حدیبیہ اور فتح خیبر کی طرف اشارہ تھا۔

## آنحضرت کے ایک اور خواب کی تعبیر

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَوْ تَيْتٌ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبَّرَا عَلَيَّ فَأَوْحَى إِلَيَّ أَنْ أَنْفَعَهُمَا فَفَنَفَعْتُهُمَا فَذَهَبَا فَأَوَّلَتْهُمَا الْكَذَّابَيْنِ الَّذِينَ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءٍ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ يُقَالُ أَحَدُهُمَا مُسَيْلَمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَالْعَنَسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءٍ لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنِ التِّرْمِذِيِّ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ایک دن) میں سو رہا تھا کہ (خواب میں) زمین کے خزانے میرے سامنے لائے گئے پھر میرے ہاتھ پر سونے کے دو کڑے رکھے گئے جو مجھ پر گراں گزرے اس کے بعد مجھ پر وحی آئی (یعنی خواب ہی میں بطور الہام میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی) کہ ان کڑوں پر پھونک مارو، چنانچہ میں نے پھونک ماری تو وہ کڑے اڑ گئے میں نے ان دونوں کڑوں سے ان دونوں جھوٹوں کے بارے میں تعبیر لی (باعتبار مسکن علاقہ کے) جن کے درمیان میں ہوں یعنی ایک تو یمامہ والا اور دوسرا صنعاء والا، بخاری و مسلم اور ایک روایت میں (جس کو ترمذی نے نقل کیا ہے) یوں ہے کہ آپ نے ان دونوں جھوٹوں کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ (ان میں سے ایک کو تو مسیلہ کہا جاتا ہے جو یمامہ کا رہنے والا ہے اور دوسرا سو غنسی ہے جو صنعاء کا رہنے والا ہے) مصنف مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت بخاری و مسلم میں نہیں ملی ہے اور اس کو صاحب جامع الاصول نے ترمذی سے نقل کیا ہے۔

## توضیح

”سوارین“ آنحضرت نے سونے کے دو کنگن اور کڑے اپنے ہاتھ کی تھیلی میں دیکھے جس کو آپ نے پسند نہیں کیا آپ کو اسے پھونکنے کا حکم ملا تو آپ نے اس میں پھونک مار دی جس سے وہ ان علاقوں کی طرف چلے گئے جہاں دو جھوٹے نبی ظاہر ہونے والے تھے ایک تو صنعاء یمن کا کذاب اسود غنسی تھا جس نے اسلام پر بڑی مصیبت لا ڈالی لیکن اس کے علاقے کے مسلمان چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے اور فیروز دیلمی نے اس کو قتل کر دیا اس کے دو دن بعد شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ نے صحابہ کو بتا دیا ”فیروز فاز فیروز“ کہ فیروز کامیاب ہو گیا مجھے جبریل نے بتا دیا کہ فیروز نے اسود غنسی کو قتل کر دیا۔ دوسرا مسیلہ کذاب یمامہ میں کھڑا ہو گیا حضرت صدیق اکبر چٹان کی طرح اس کے مقابلے پر کھڑے رہے آخر کار اسلام کے لشکر جرار نے حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں حدیقۃ الموت میں اس خبیث پر حملہ کر دیا اور وحشی بن حرب اور حضرت ابودجانہ کی مشترکہ کاروائی سے مسیلہ کذاب واصل جہنم ہو گیا۔

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ رَأَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مِطْعُونٍ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ يُجْرِي لَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ام العلاء انصاریہؓ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان ابن مظعونؓ کے لئے (پانی کا) ایک چشمہ جاری ہے جب میں نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے عمل کا ثواب ہے جو ان کے لئے جاری رکھا گیا ہے۔ (بخاری)

## توضیح

”عینا تجری“ عین سے مراد آنکھ نہیں بلکہ اس سے پانی کا چشمہ مراد ہے حضرت عثمان بن مظعونؓ شان والے صحابی ہیں اور آنحضرتؐ کے رضاعی بھائی اور آپ کے محبوب تھے مدینہ منورہ میں وہ پہلے شخص ہیں جو یقیناً الغرقہ میں دفن کئے گئے۔ چشمہ جاری رہنے سے ان کے عمل کے مسلسل جاری رہنے کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ یہ صحابی مرابط تھے اور مرابط کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے اس لئے ان کا عمل اس طرح نظر آ گیا۔

## عالم برزخ کی سیر سے متعلق ایک خواب

﴿۱۴﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتِيَانِي فَأَخَذَا بِيَدَيَّ فَأَخْرَجَانِي إِلَى

أَرْضٍ مُّقَدَّسَةٍ فَاذَارُجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ فَيَشُقُّهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَمِسُ شِدْقَهُ هَذَا فَيَعُوذُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفَهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ يَشْدُخُ بِهَا رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَتْهُ تَدَهَّدَ الْحَجَرُ فَاَنْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَمِسَ رَأْسَهُ وَعَادَ رَأْسَهُ كَمَا كَانَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَتْهُ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا إِلَى ثَقَبٍ مِثْلِ التَّنُورِ أَخْلَاهُ ضَبِّقٌ وَاسْفُلُهُ وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضِرَاءٍ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصَبِيَّانِ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَا بَيْتِ الشَّجَرَةِ فَأَدْخَلَانِي دَارًا وَسَطَ الشَّجَرَةِ لَمْ أَرَقُطٌ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شُبُوحٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصَبِيَّانِ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بَيْتِ الشَّجَرَةِ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ مِنْهَا فِيهَا شُبُوحٌ وَشَبَابٌ فَقُلْتُ لَهُمَا إِنَّكُمَا قَدْ طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ قَالَا نَعَمْ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَهُ يَشُقُّ شِدْقَهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذِبَةِ فَتَحْمِلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيَصْنَعُ بِهِ مَا تَرَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يَشْدُخُ رَأْسَهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقَبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلَ الرِّبَا وَالشَّيْخُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ وَالصَّبِيَّانِ حَوْلَهُ فَأُولَٰئِكَ النَّاسُ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنِ النَّارِ وَالَّذِي الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارَ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِئِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعُ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ وَفِي رِوَايَةٍ مِثْلُ الرِّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي ادْخُلْ مَنْزِلِي قَالَ إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَغْمِلْهُ فَلَوْ اسْتَغْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَذَكَرَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ فِي بَابِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ .

اور حضرت سرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ (صبح کی) نماز سے فارغ ہوتے تو اپنا چہرہ اقدس ہماری طرف متوجہ کرتے اور پوچھتے کہ آج کی رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ حضرت سرہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اس کو بیان کرتا اور آپ اس کی وہ تعبیر فرمادیتے جو اللہ تعالیٰ الہام فرماتا، چنانچہ (اپنے معمول کے مطابق) ایک دن آنحضرتؐ نے ہم سے وہی سوال کیا اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا لیکن میں نے آج کی رات خواب دیکھا ہے (اور وہ یہ) کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر مجھے مقدس سرزمین ملک شام کی طرف لے چلے پس ایک جگہ پہنچ کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص اپنے ہاتھ میں لوہے کا آکڑا لے کھڑا ہے اور وہ اس آکڑے کو بیٹھے ہوئے شخص کے گلے میں ڈالتا ہے اور اس کو چیرتا ہے یہاں تک کہ اس کی گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے پھر وہ دوسرے گلے کے ساتھ اس طرح کرتا ہے (یعنی اس کو بھی گدی تک چیر دیتا ہے) جب وہ کلہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے تو پھر پہلے کی طرح وہی عمل کرتا ہے آنحضرتؐ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے (یہ دیکھ کر) ان دونوں آدمیوں سے پوچھا (جو مجھے اپنے ساتھ لائے تھے) یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ چلتے رہے (یعنی یہ مت پوچھئے کہ کیا ہو رہا ہے بلکہ آگے چلیئے ابھی بہت عجائبات دیکھنے ہیں اس کی تعبیر معلوم ہو جائے گی) چنانچہ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ آئے جہاں ایک شخص چت پڑا ہوا تھا اور ایک شخص اس کے سر کے پاس اتنا بڑا پتھر لے کھڑا تھا جس سے ہاتھ بھر جائے اور اس سے چت پڑے شخص کے سر کو کچلتا تھا چنانچہ جب وہ پتھر کو (پھینچ کر) اس کے سر پر مارتا تو پتھر (سر پھیل کر) لڑھکتا ہوا اور چلا جاتا (پھر دوبارہ مارنے کی غرض سے) اس پتھر کو اٹھانے کے لئے جاتا اور جب لوٹ کر آتا تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس شخص کا سر درست ہو جاتا اور پھر وہ اس پر پتھر مارتا اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا (کہ اس کا سر درست ہوتا رہتا) اور وہ اس پر پتھر مارتا رہتا میں نے (یہ دیکھ کر) پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ چلے چلیئے چنانچہ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسے گڑھے پر پہنچے جو نور کی مانند تھا کہ اس کے اوپر کا حصہ تنگ تھا اور نیچے کا حصہ کشادہ تھا اور اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی جب آگ اوپر کی طرف بھڑکتی تو کچھ لوگ جو آگ کے اندر تھے (شعلوں کے ساتھ) اوپر آ جاتے یہاں تک کہ اس گڑھے سے نکلنے کے قریب ہو جاتے اور جب شعلہ کا زور گھٹ جاتا تو وہ سب پھر اندر چلے جاتے (میں نے دیکھا کہ) اس آگ میں کئی مرد تھے اور کئی عورتیں تھیں اور سب ننگے تھے میں نے (یہ دیکھ کر) پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ چلے چلیئے چنانچہ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسی نہر پر پہنچے جو (پانی کے بجائے) خون سے بھری ہوئی تھی جو نہر کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور ایک شخص اس کے کنارے پر تھا جس کے آگے پتھر رکھے ہوئے تھے جب وہ

شخص جو نہر کے بیچ میں تھا آگے (کنارے پر) آیا اور چاہا کہ باہر نکل آئے تو اس شخص نے جو کنارے پر تھا اس کے منہ پر پتھر پھینک کر مارا جس سے وہ اپنی جگہ لوٹ گیا اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا کہ نہر کے اندر کا آدمی جب باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تھا تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پتھر مارتا اور اس کو اسی جگہ واپس کر دیتا (میں نے یہ دیکھ کر) پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ چلے چلے۔ چنانچہ ہم آگے چلے یہاں تک ایک سرسبز و شاداب باغ کے پاس پہنچے اس باغ میں ایک بڑا درخت تھا اور اس کی جڑ پر ایک بوڑھا اور کچھ لڑکے (بیٹھے) تھے پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے پاس ایک اور شخص بھی ہے جس کے آگے آگے آگے جل رہی ہے وہ اس کو جلا بھڑکا رہا تھا پھر وہ دونوں آدمی مجھ کو لے کر درخت پر چڑھے اور مجھ کو ایک ایسے گھر میں داخل کیا جو درخت کے بالکل درمیان تھا (اور یہ گھر اتنا اچھا تھا کہ) میں نے کبھی اس سے اچھا کوئی گھر نہیں دیکھا اس گھر میں کتنے ہی جوان بوڑھے مرد تھے کتنی ہی عورتیں اور کتنے ہی بچے تھے اس کے بعد وہ دونوں مجھ کو اس گھر سے نکال کر درخت کے اور اوپر لے گئے اور مجھ کو ایک ایسے گھر میں داخل کیا جو پہلے گھر سے بھی بہت اچھا اور افضل تھا اس میں بھی بوڑھے اور جوان آدمی موجود تھے اب میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ آج کی رات تم نے مجھ کو خوب گھمایا پھر ایا لیکن میں نے جو کچھ دیکھا اس کی حقیقت سے تو مجھ کو آگاہ کرو؟ ان دونوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں (پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ) جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کے گلے چیرے جا رہے تھے وہ ایسا شخص ہے جو جھوٹا تھا جھوٹ بولتا تھا اور اس کی جھوٹی باتیں نقل و بیان کی جاتی تھیں جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی تھیں چنانچہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو آپ نے دیکھا اور اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر پکلا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا تھا (یعنی اس کو قرآنی علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی) لیکن وہ شخص اس (قرآن سے) بے نیاز ہو کر رات میں سوتا رہا اور دن میں قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا چنانچہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو آپ نے دیکھا اور اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور جن لوگوں کو آپ نے تنور میں دیکھا وہ زنا کار ہیں اور جس شخص کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سودخور ہے (ان سب کو بھی اپنے کئے کی سزا مل رہی ہے اور قیامت تک یوں ہی ملتی رہے گی) اور جس بوڑھے شخص کو آپ نے درخت کی جڑ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے پاس جو بچے ہیں وہ آدمیوں کی اولاد ہیں اور جو شخص درخت سے کچھ فاصلے پر آگ جلا رہا ہے وہ دوزخ کا داروغہ ہے اور درخت کے اوپر پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ (جنت میں عام) مومنوں کا مکان ہے اور یہ گھر (جو پہلے گھر سے اوپر واقع ہے) شہداء کا مکان ہے میں جبرئیل ہوں اور یہ (جو میرے ساتھ ہیں) میکائیل ہیں اور ذرا آپ اوپر سر اٹھائیے (ان حضرت فرماتے ہیں کہ) میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر (نہایت بلندی میں) ابر کی مانند کوئی چیز ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تہہ درتہ سفید ابر کی مانند کوئی چیز ہے ان دونوں نے کہا کہ یہ ابر کی مانند جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں دراصل جنت میں آپ کا مکان ہے۔ میں نے کہا کہ تو پھر تم لوگ مجھے چھوڑ دو تا کہ میں اپنے مکان میں چلا جاؤں ان دونوں نے کہا کہ ابھی تو آپ کی عمر باقی ہے جس کو آپ نے پورا نہیں

کیا ہے جب آپ اپنی عمر کو پورا کر لیں گے تو اپنے مکان میں چلے جائیں گے (بخاری) اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت جو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھنے سے متعلق ہے وہ حرم مدینہ کے باب میں نقل کی جا چکی ہے۔

## توضیح

”فاخر جانی“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کئی معراج ہوئے ہیں یہ معراج انہیں میں سے ایک ہے لیکن لیلۃ الاسریٰ والی معراج خواب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ وہ جسد عنصری کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ ”کلبوب“ لوہے کی سلاخ کو کہتے ہیں جس کو اردو میں ”آکٹرا“ کہتے ہیں۔ ”شدقہ“ کلمے کو شوق کہتے ہیں جس کو باجھ بھی کہتے ہیں۔ ”یلتنم“ التمام جڑنے کے معنی میں ہے۔ ”بفھر“ بڑے پتھر کو کہتے ہیں جو لوہے کی طرح مضبوط ہوتا ہے جس کو دوسرے الفاظ میں چٹان کہتے ہیں۔ ”یشدخ“ سر کچلنے کے لئے شدخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ”تدھدھہ“ پتھر کے لڑھکنے کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ”خمدت“ آگ بجھنے اور اس کے شعلے نیچے چلے جانے کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

## الفصل الثانی

### تعبیر کے لئے خواب کو یا حبیب یا لیبیب کے سامنے رکھو

﴿۱۵﴾ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَا تُحَدِّثِ الْأَحْبِيَّ أَوْ لَبِيَّيَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ الرُّؤْيَا عَلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعْبَرْ فَإِذَا عَبَّرَ وَقَعَتْ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا تَقْصُصْهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي رَأْيٍ

حضرت ابو رزین عقیلیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور خواب کو جب تک بیان نہ کیا جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے اور جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے (راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آنحضرتؐ نے (یہ بھی فرمایا) دانا اور دوست کے علاوہ کسی اور کے سامنے خواب کو بیان نہ کرو، (ترمذی) اور ابوداؤد کی روایت میں یوں ہے کہ آپؐ نے فرمایا خواب کی جب تک تعبیر بیان نہیں کی جاتی وہ پرندہ کے پاؤں پر ہوتا ہے اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ تعبیر واقع ہو جاتی ہے اور میرا خیال ہے کہ آنحضرتؐ نے (یہ بھی) فرمایا اور دوست و عقلمند کے علاوہ کسی اور کے سامنے خواب کو بیان نہ کرو۔

توضیح

”علیٰ رجل طائر“ بے ثباتی اور بے قراری اور سر بیج زائل ہونے کے لئے عرب کے ہاں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ چیز تو پرندہ کے پاؤں اور پنچے کے ساتھ لٹک رہی ہے پرندہ کے پاؤں کو قرار نہیں جو نبی اس نے حرکت کی توں ہی وہ چیز گر جائے گی اسی طرح خواب کا معاملہ ہے کہ جب تک کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا تو قائم ہے لیکن فائدہ ظاہر نہیں ہوتا اور جب کسی کے سامنے ظاہر کیا تو فوراً زائل ہو گیا اور اپنی تعبیر کی طرف چلا گیا گویا خواب تعبیر نکالنے والے کے انتظار میں رہتا ہے جو نبی اس نے تعبیر نکالی خواب ختم ہو جائے گا اس لئے حبیب یعنی خیر خواہ محبوب کے سامنے رکھو وہ اچھی تعبیر کا خیال کریگا یا لبیب یعنی عاقل اور ماہر کے سامنے رکھو وہ اچھی تعبیر نکال لیگا۔

### ورقہ بن نوفل کا میاب ہو کر مرا ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرَقَةَ قَالَتْ لَهُ حَدِيثُهُ إِنَّهُ كَانَ قَدْ صَدَّقَكَ وَلَكِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيْضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا گیا (کہ وہ مومن تھے یا نہیں؟) اور حضرت خدیجہؓ نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ آپ کی تصدیق کرتے تھے لیکن آپ کی نبوت ظاہر ہونے سے پہلے مر گئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو خواب میں ورقہ بن نوفل کو اس حالت میں دکھلایا گیا ہے کہ اس پر سفید کپڑے تھے اور اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان کے جسم پر اور طرح کے پٹے ہوتے۔ (احمد و ترمذی)

### اگر ممکن ہو تو بیداری میں خواب پر عمل کراؤ

﴿۱۷﴾ وَعَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي خُزَيْمَةَ أَنَّهُ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَاضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ صَدِّقُ رُؤْيَاكَ فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَسَنَدُ كُرْ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ كَانَ مِيزَانًا نَزَلَ فِي السَّمَاءِ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

اور حضرت خزیمہ ابن ثابت اپنے چچا (حضرت ابو خزیمہؓ) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حالت میں جس میں سونے والا دیکھتا ہے یعنی خواب میں دیکھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا ہے پھر انہوں نے یہ خواب

آنحضرتؐ کے سامنے بیان کیا تو آپ (وہ خواب سن کر) ابو خزیمہ کی خاطر لیٹ گئے (تاکہ وہ پیشانی اقدس پر سجدہ کر لیں) اور فرمایا کہ اپنے خواب کو سچا کرو یعنی اپنے خواب کے مطابق عمل کرو، چنانچہ انہوں نے آنحضرتؐ کی پیشانی پر سجدہ کر لیا (شرح السنۃ) اور حضرت ابو بکرؓ کی یہ روایت ”کان میزانا نزل من السماء“ کو مناقب ابو بکر و عمر کے باب میں نقل کیا جائیگا۔

## توضیح

”علیٰ جہتہ“ یعنی ابو خزیمہؓ نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ لگا رہا ہے صبح اس نے وہ خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو آپ لیٹ گئے اور فرمایا کہ اپنا خواب سچا کر دو اور میری پیشانی پر سجدہ لگا دو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ جب تک کسی خواب پر بیداری میں عمل کرنا کرنا ممکن ہو تو خواب دیکھنے والے کو اس پر عمل کرنا چاہئے خاص کر جب عبادات کا معاملہ ہو کہ خواب میں ایک خاص مسجد میں نماز پڑھی یا خاص دن میں روزہ رکھا یا خاص بزرگ کی زیارت کی تو بیداری میں ان افعال پر عمل کرنا چاہئے۔

## الفصل الثالث

﴿۱۸﴾ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا فَيَقْصُصُ عَلَيْهِ مِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقْصُصَ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ آتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلِقْ وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ بِطَوِيلٍ وَفِيهِ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهِيَ قَوْلُهُ فَاتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طَوِيلًا فِي السَّمَاءِ فَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرٍ وَلَدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُ لُهُمَا مَاهُذًا مَاهُولًا قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرِ رَوْضَةً قَطُ اعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ قَالَ قَالَا لِي إِرْقَ فِيهَا قَالَ فَارْتَقَيْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بَلْبِنٍ ذَهَبٍ وَلَبِنٍ فَضِيَّةٍ فَاتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رَجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ قَالَ قَالَا لَهُمْ اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ قَالَ فَادْنَاهُمْ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوا فَرَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَذَكَرَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ



وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوَّلَهُ فَأَكُلُ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ  
كَانُوا شَطَرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطَرٌ مِنْهُمْ فَبَيْعٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ قَدْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا  
تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت سرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اکثر یہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ جس کو (خواب دکھانا چاہتا اور وہ خواب دیکھتا تو وہ اپنا خواب آنحضرتؐ کے سامنے بیان کر دیتا ایک دن آنحضرتؐ نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ آج رات (میں نے خواب دیکھا کہ) دو شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ کو اٹھا کر کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے چنانچہ میں ان کے ساتھ چل پڑا اس کے بعد حدیث کے راوی سرہؓ نے وہی طویل حدیث بیان کی جو (اس خواب سے متعلق) پہلی فصل میں گزر چکی ہے لیکن اس حدیث میں پہلی فصل والی حدیث سے کچھ زیادہ باتیں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ آپؐ نے فرمایا پس ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے (جہاں درختوں کی کثرت اور ان میں سرسبزی و شادابی کی بہتات کی وجہ سے) اندھیرا پھیلا ہوا تھا باغ میں ہر طرف بہار ہی بہار تھی اور ہمہ اقسام کے شگوفے کھلے ہوئے تھے، پھر اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ باغ کے بچوں بچ ایک شخص کھڑے ہوئے ہیں وہ بہت لمبے تھے کہ ان کا سر بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان کی لمبائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی پھر مجھے یہ بھی نظر آیا کہ ان کے گرد بہت سے لڑکے تھے جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ لمبا شخص کون ہے اور یہ لڑکے کون ہیں؟ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ان دونوں نے (میری بات کا جواب دینے کے بجائے) مجھ سے کہا کہ چلے چلیے چنانچہ ہم آگے چلے اور ایک بہت بڑے باغ کے پاس پہنچے جس سے بڑا اور جس سے اچھا کوئی اور باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا آنحضرتؐ نے فرمایا کہ (وہاں پہنچ کر) ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ باغ کے اندر چلیے یا اس کے درختوں پر چڑھئے چنانچہ ہم چڑھے اور ایک ایسے شہر کے قریب پہنچے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے پھر ہم اس شہر کے دروازے پر آئے اور اس کو کھلوا دیا اور جب وہ دروازہ ہمارے لئے کھول دیا گیا تو ہم اندر داخل ہوئے اور اس شہر میں ہم ایسے کتنے ہی لوگوں سے ملے جن میں سے ہر ایک کے بدن کا آدھا حصہ اس سے بھی بہتر تھا جس کو تم دیکھتے ہو اور آدھا حصہ اس بھی بدتر تھا اور آدھا حصہ انتہائی حسین و تندرست تھا اور آدھا حصہ انتہائی بھدا و خراب تھا آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ان دونوں نے ان سب سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں غوطہ لگاؤ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں نے یہ بات کہی تو (میں) میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عرضا ایک نہر بہ رہی ہے جس کا پانی خالص دودھ کی طرح سفید ہے چنانچہ وہ لوگ نہر کے پاس گئے اور اس میں کود گئے، پھر جب وہ (غوطہ لگا کر) ہمارے پاس واپس آئے تو ان کے جسم کی خرابی و برائی دور ہو چکی تھی اور ان کا پورا جسم بہترین شکل و صورت میں تبدیل ہو گیا تھا، اس کے بعد آنحضرتؐ نے حدیث کے ان زیادہ الفاظ کی وضاحت

میں فرمایا کہ وہ لمبے شخص جو باغ میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے گرد جولا کے تھے وہ ایسے بچے تھے جو فطرت پر مرجاتے ہیں (یعنی جو بچے چھوٹی عمر میں نابالغ مرجاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کے پاس رہتے ہیں) راوی یہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اور مشرکوں کے لڑکے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا مشرکوں کے نابالغ لڑکے بھی حضرت ابراہیم ہی کے پاس رہتے ہیں اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم اچھا اور آدھا جسم برا تھا وہ ایسے لوگ تھے جن کے اعمال ملے جلے تھے کہ انہوں نے کچھ اچھے عمل کئے اور کچھ برے عمل، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا دیا۔ (بخاری)

### جھوٹا خواب بیان کرنا بڑا جھوٹ ہے

﴿۱۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرَى الرَّجُلُ عَيْنِيهِ مَا لَمْ تَرِيَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بہتانوں میں سے ایک بڑا بہتان یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں سے وہ چیز دکھائے جو (حقیقت میں آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے)۔ (بخاری)

توضیح

”افری الفری“ یعنی سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی آنکھوں سے وہ چیز دکھائے جو آنکھوں نے نہیں دیکھی یعنی جھوٹا خواب بیان کرنا بڑے بہتانوں میں سے ایک بہتان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب کا تعلق وحی سے ہے اور نظام وحی اور نظام غیب پر بہتان اور جھوٹ باندھنا عام جھوٹ کی طرح نہیں بلکہ بہت سخت ہے۔

### صبح کا خواب سچا ہوتا ہے

﴿۲۰﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

اور حضرت ابوسعید خدریؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا پچھلے پہر کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ ترمذی، دارمی

توضیح

”الاسحار“ چونکہ رات کے آخری حصہ میں پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کے پراگندہ بخارات ختم ہو جاتے ہیں نیز آدمی بشری آلائشوں سے دور ہو کر ملکوتی صفات پر آ جاتا ہے اس لئے اس وقت کے خواب سب سے زیادہ سچے اور یکے ہوتے ہیں۔

## کتاب الآداب

### آداب کا بیان

آداب جمع ہے اس کا مفرد ادب ہے۔ ادب ہر اس قول اور فعل کا نام ہے جس کو اچھا اور قابل تحسین کہا جائے۔ بعض نے ادب کی تعریف اس طرح کی ہے۔ ”الادب هو اعطاء كل شئى حقه و وضع كل شئى موضعه“ یعنی موقع و محل کے پیش نظر ہر چیز کو اس کا جائز مقام دینا ادب کہلاتا ہے بعض نے کہا کہ بڑوں کا احترام کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کا نام ادب ہے۔ ادب کا مفہوم چونکہ بہت وسیع ہے اس لئے یہ انسانی زندگی اور انسانی تہذیب کے تمام پہلوؤں کو شامل ہے یہی وجہ ہے کہ آداب کے ضمن میں زندگی سے تعلق رکھنے والی مختلف احادیث آئیں گی۔

ادب کے ضمن میں سلام کا باب بھی ہے اس کے بعد استیذان کا باب بھی ہے پھر مصافحہ و معافہ کا باب ہے پھر باب القیام ہے اس کے بعد عطا و اور یتاد کا باب ہے اس کے بعد باب الضحک ہے پھر باب الاسامیٰ اور اس کے بعد باب البیان والشعر ہے۔ الغرض کتاب الرقاق تک تمام ابواب کتاب الآداب کے ماتحت ہیں سب سے پہلے باب جو آ رہا ہے وہ باب السلام ہے۔

### باب السلام

#### سلام کا بیان

سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے یعنی وہ اللہ جو ہر عیب اور ہر نقص و کمزوری سے پاک اور محفوظ ہے۔

اسلام کے ابتدائی دور میں سلام کی ابتداء ہوئی اس وقت چونکہ مسلم و غیر مسلم میں پہچان کی ضرورت تھی تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کہتا تھا السلام علیکم یعنی میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی وہ جواب میں کہتا تھا وعلیکم السلام یعنی میری طرف سے بھی تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی گویا ابتداء میں سلام کو ڈنمبر کے طور پر استعمال کیا گیا پھر شریعت نے اس کو عام کر کے مسلمانوں کے لئے مشروع قرار دیا۔ اب سلام کا پورا مفہوم اس طرح ہے کہ السلام علیکم کہنے والا دوسرے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں ہر قسم ظاہری و باطنی مصائب سے محفوظ رکھے جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام کہہ کر یہی مفہوم ادا کرتا ہے اب دونوں طرف سے ایک دوسرے کو سلامتی کی ضمانت بھی دیدی گئی اور دعا بھی ہو گئی اسی مفہوم کے پیش نظر پہلے زمانہ میں حکام جب کسی مجرم کو سزا دینا چاہتے تھے تو وہ سلام کے جواب میں کہتے تھے لا سلام ولا کلام یعنی میں تجھے سلامتی کی ضمانت نہیں دیتا ہوں آج کل چونکہ حکام جاہل ہیں اس لئے وعلیکم السلام بھی کہتے ہیں اور پھر گالی دے کر سزا بھی دیتے ہیں یہ

لوگ سلام کے مفہوم سے جاہل ہیں اور جاہل حیوان لا یعقل ہی ہوتا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے اگرچہ اس واجب سے یہ سنت افضل ہے۔

فاسق فاجر کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہئے ہاں اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے اسی طرح غیر مسلم کا معاملہ ہے کہ ان کے سلام کا جواب دینا چاہئے مگر سلام میں پہل نہیں کرنی چاہئے پھر سلام کے اصول میں سے چند اصول اس طرح ہیں کہ کم لوگوں کو چاہئے کہ زیادہ لوگوں کے سلام میں پہل کریں اسی طرح چھوٹوں کو چاہئے کہ بڑوں کے سلام میں پہل کریں کھڑے لوگوں کو چاہئے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کریں اسی طرح گاڑی وغیرہ پر سوار آدمی کو چاہئے کہ وہ پیدل آدمی کو سلام کرے ہر آنے والے شخص کو چاہئے کہ وہ مقامی مجلس کے لوگوں کو سلام میں پہل کرے۔

جو لوگ کھانا کھانے میں مشغول ہوں ان کو سلام نہیں کرنا چاہئے کیونکہ سلام کرنے والا اپنے سلام کے جواب کا منتظر رہتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کھانے والے روٹی کھانے کی وجہ سے سلام میں سستی کریں تو یہ شخص ناراض ہو جائے گا ہاں اگر سلام کرنے والا بھوکا ہو تو وہ سلام کر سکتا ہے اس کے سلام کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا یہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہے۔

پیشاب پاخانہ یا کسی جہری گناہ میں آلودہ شخص کو سلام نہیں کرنا چاہئے اسی طرح تلاوت اور ذکر اذکار یا مطالعہ و تکرار میں مشغول شخص کو سلام نہیں کرنا چاہئے جہاں سلام کرنا جائز نہیں وہاں سلام سننے والوں پر جواب دینا بھی لازم نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے اشعار کے ایک طویل قصیدہ میں ان تمام مواضع کو ذکر کیا ہے جہاں سلام نہیں کرنا چاہئے فقہ کی کتابوں شامی وغیرہ میں وہ قصیدہ دیکھنا چاہئے۔

## الفصل الاول

### تخلیق آدم اور فرشتوں کو سلام

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعَ مَا يَحْيَوْنَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَرَادَوْهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَكُلْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ان کی لمبائی ساٹھ گز کی تھی، جب خدا نے ان کو بنایا تو ان سے فرمایا جاؤ اور اس جماعت کو سلام کرو اور وہ جماعت فرشتوں کی تھی جو وہاں بیٹھی ہوئی

تھی پھر سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتی ہے وہ (جو جواب دے گی) وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا جواب ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام (اس حکم خداوندی کی تعمیل میں فرشتوں کی اس جماعت کے پاس گئے اور کہا ”السلام علیکم“ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ آنحضرت نے فرمایا کہ ”گویا“ آدم کے سلام کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا لفظ فرشتوں نے زیادہ کیا (پھر) آپ نے فرمایا کہ پس جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ آدم کی صورت پر ہوگا بایں طور پر کہ اس کی لمبائی ساٹھ گز کی ہوگی پھر حضرت آدم کے بعد لوگوں کی ساخت برابر کم ہوتی رہی یہاں تک کہ موجودہ مقدار کو پہنچی۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”علیٰ صورتہ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر بنایا، اس حدیث کے سمجھنے میں چند اقوال ہیں۔

(۱) پہلا قول یہ ہے کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہے لہذا کسی تاویل کی ضرورت نہیں بلکہ سلف صالحین کے طرز پر یہ کہا جائے گا ”ما یلیق بشانہ“ یعنی جو اللہ کے شایان شان ہو ہم اس کو مانتے ہیں

(۲) بعض علماء نے اس حدیث کے مفہوم میں یہ تاویل کی ہے کہ صورتہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ اچھے صفات ہیں جن صفات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا جیسے ”حسی، عالم، کسریہ، بصیر، متکلم“ گویا انسان اللہ تعالیٰ کے صفات کا مظہر ہے۔ اس توجیہ میں ”بصورتہ“ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی اور صورت سے صفت مراد ہوگی۔

(۳) بعض علماء نے اس حدیث کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ہی کی صورت پر بنایا یعنی جس صورت پر حضرت آدم کو بنایا وہ آدم ہی کی قسمت میں تھی آدم اپنی نظیر آپ تھے کسی اور کی صورت کا نمونہ نہیں تھے جس طرح بعض بچہ نہ باپ کی شکل میں ہوتا ہے اور نہ ماں کی شکل میں ہوتا ہے تو مائیں کہتی ہیں کہ یہ اپنی شکل پر پیدا ہوا ہے اس تاویل کے پیش نظر بصورتہ میں ضمیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لوٹے گی اور مطلب وہی ہوگا کہ آدم اپنی نظیر آپ تھے۔

(۴) اس حدیث کا مفہوم بعض علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے صورت اور مجسمہ کی شکل میں پیدا کیا یعنی مرحلہ وار پیدا نہیں کیا کہ پہلے نطفہ ہو پھر مضغ ہو پھر عظام ہو پھر لحم ہو اور پھر تخلیق ہو اس طرح نہیں ہوا بلکہ ابتدائے آفرینش سے مکمل صورت تھی کہ آپ ۶۰ گز کے قد پر تھے ”فبارک اللہ احسن الخالقین“ اس کے بعد انسان کم ہوتا گیا اب ڈھائی تین گزرہ گیا پھر جب انسان جنت میں داخل ہوئے تو ۶۰ گز کے پورے ہوئے بہر حال حضرت آدم نے فرشتوں کو سلام کیا فرشتوں نے جواب دیا وہی طریقہ اولاد آدم میں چلا آیا جو اس وقت صرف مسلمانوں کے پاس ہے باقی انسان وحوش و طیور میں شامل ہو گئے ہیں یاد رہے کہ شرعی گز کم و بیش دو بالشت ہوتا ہے۔

سلام کرنا بہترین عمل ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  
اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اہل اسلام کی  
کوئی خصلت بہتر ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ کھانا کھانا اور ہر شناسا و ناشناس کو سلام کرنا۔ (بخاری و مسلم)

### ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھ حق ہیں

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ  
خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُسَمِّتُهُ إِذَا  
عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ لَمْ أَجِدْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحَمِيدِيِّ وَلَكِنْ ذَكَرَهُ  
صَاحِبُ الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ النَّسَائِيِّ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر مسلمان کے چھ حق ہیں جب (کوئی) مسلمان  
بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے، جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو، جب کوئی کھانے  
پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، جب ملے تو اس کو سلام کرے، جب چھینکے تو اس کا جواب دے اور چھٹے یہ کہ (ایک  
مسلمان دوسرے مسلمان کی ہر حالت میں) خیر خواہی کرے خواہ وہ حاضر ہو یا غائب اور مشکوٰۃ کے مؤلف کہتے ہیں کہ میں نے  
اس حدیث کو نہ تو صحیحین میں پایا ہے اور نہ حمیدی کی کتاب میں البتہ اس کو صاحب جامع الاصول نے نقل کیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ (۱) بیمار پرسی کرنا (۲) جنازہ پڑھنا (۳) دعوت قبول کرنا (۴) بوقت ملاقات سلام کرنا (۵) چھینک مارنے  
پر جواب دینا (۶) ہر حال میں اس کی خیر خواہی کرنا

### آپس میں سلام کرنا محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے

﴿۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا  
حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ  
اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب تک کہ ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں  
ہو سکو گے اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم (اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے) آپس میں تعلق  
و دوستی قائم نہ کرو نیز آپؐ نے فرمایا اور کیا میں تمہیں ایک ایسا ذریعہ نہ بتا دوں جس کو تم اختیار کرو تو آپس میں دوستی کا تعلق قائم  
ہو جائے اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کا چلن عام کرو یعنی آشنا و نا آشنا سب کو سلام کرو۔ (مسلم)

### کون کس کو سلام کرے؟

﴿۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّابِّ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى

الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سواری پر ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ تعداد والے آدمیوں کو سلام کرے۔ (بخاری و مسلم)

﴿۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ (بخاری)

### حضور اکرمؐ نے بچوں کو سلام کیا ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى غُلَمَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لڑکوں کے پاس سے گزرے تو آپؐ نے ان کو سلام کیا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

اگرچہ اصولی طور پر بچوں کو چاہئے کہ وہ بڑوں کو سلام کرنے میں پہل کریں لیکن آنحضرتؐ نے تواضع اور شفقت کے طور پر پہلے بچوں کو سلام کیا ہے جس سے جواز کا پتہ چلا نیز بچے زیادہ بھی تھے اس لئے آپؐ نے ان کو سلام کیا نیز آپؐ گزرنے والے بھی تھے اس لئے آپؐ نے سلام کیا نیز بچوں کو سلام کی تعلیم دینی تھی۔

### غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْدُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَصِيْقِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں ابتداء نہ کرو اور جب تم راستے میں ان میں سے کسی سے ملو تو ان کو تنگ ترین راستے پر چلے جانے پر مجبور کرو۔ (مسلم)

توضیح

”لا تَبْدُوا“ یعنی یہود و نصاریٰ کو سلام میں ابتداء نہ کرو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم کو سلام میں ابتداء کرنا حرام ہے الا یہ کہ سخت مجبوری ہو تو سلام میں ابتداء کرنا جائز ہوگا اگر ناواقفی میں کافر کو سلام کیا تو اس طرح واپس کرنا چاہئے کہ

”استرجعت سلامی“ میں اپنا سلام واپس کر رہا ہوں اگر غیر مسلم نے ابتداء میں سلام کیا تو صرف جواب دینا جائز ہے۔ مبتدع کو بھی ابتداء میں سلام نہیں کرنا چاہئے ہاں اگر مجبوری ہو تو صحیح ہے۔ اس حدیث میں ایک حکم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی راستہ میں تمہیں ملے تو اس کو تنگ راستہ پر چلنے کی طرف مجبور کر دو، مسئلہ کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر اہل کتاب میں سے کوئی ذمی ہو تو اس کو کھلے راستے پر جانے کا حق نہیں ہے اسی طرح اگر مسلمان اور اہل کتاب ایک راستہ پر چل رہے ہوں اور راستہ مسلمانوں کے لئے تنگ پڑ رہا ہو تو یہود و نصاریٰ کو کھلے راستے پر چلنے کا حق نہیں لہذا اس کو تنگ راستہ پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اگر وہ اس پر عمل نہیں کریگا تو دھکے دیکر ان کو مجبور کیا جائیگا، ہائے افسوس یہ بھی ایک دور تھا کہ مسلمان یہود و نصاریٰ کو دھکے دیا کرتے تھے مگر جب مسلمانوں کے حکمران نااہل ہو گئے تو آج یہود و نصاریٰ مسلمانوں کو تنگ و تاریک مقام کی طرف دھکے دے رہے ہیں غیر مسلم کے سلام کے جواب میں ہدایہ اللہ کے الفاظ سے جواب دینا چاہئے۔

### مسلمانوں سے یہود کی عداوت و شرارت

﴿۹﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُوا أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہو وہ لوگ یوں کہتے ہیں ”السام علیک“ (یعنی تمہیں موت آئے) لہذا تم ان کے جواب میں یہ کہو ”وعلیک“ (یعنی تمہیں موت آئے)۔ (بخاری و مسلم)

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم ان کے جواب میں کہو علیکم۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

یہود کی شرارت و خباثت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ یہ خبیث کسی مسلمان کو ملاقات کے وقت بھی معاف نہیں کرتے بلکہ سلام کی صورت میں دعا کے بجائے بددعا دیتے ہیں۔ جب صحابہ کو سلام کرتے تو السلام علیکم کی جگہ زبان موڑ کر السام علیکم کہا کرتے تھے جس کا ترجمہ موت اور ہلاکت ہے اس وجہ سے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ تم ان کو جواب میں علیکم کہا کرو یعنی یہ موت و ہلاکت تم پر ہو۔ بعض روایات میں صرف علیکم کا لفظ ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ علیکم میں تشریک کا خطرہ ہے



کیونکہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ہلاکت اور موت کے ساتھ تم پر بھی موت و ہلاکت ہو، جن روایات میں وعلیکم ہے تو اس میں واو استناف کے معنی میں لیا جائے گا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ موت و ہلاکت صرف تم پر ہو ”ای وعلیکم ماتستحقون“ بہر حال دونوں لفظ جائز ہے۔

### آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم و صبر

﴿۱۱﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِسْتَاذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَلَسَامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاوَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَنَّ الْيَهُودَ اتَّوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَلَسَامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَلَسَامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعُفْ وَالْفُحْشَ قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا تَكُونِي فَاحِشَةً فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالْفُحْشَ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی چنانچہ ان کو اجازت دے دی گئی اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو کہا کہ تم پر موت ہو پس میں نے کہا ”بلکہ تمہیں موت آئے اور تم پر لعنت ہو“ آنحضرتؐ نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ محبت و نرمی کرنے والا ہے اور ہر کام میں محبت و نرمی کو پسند کرتا ہے میں نے عرض کیا کیا آپ نے سنا نہیں، انہوں نے کیا لفظ کہا ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا بیشک میں نے سنا اور میں نے (ان کے جواب میں) کہا کہ وعلیکم اور ایک روایت میں یہ لفظ وعلیکم ہے یعنی واو کا ذکر نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم) اور بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے (السلام علیکم) کہنے کے بجائے یہ کہا کہ السام علیکم آنحضرتؐ نے فرمایا کہ وعلیکم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کی یہ بدتمیزی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں نے ان کے جواب میں کہا کہ تمہیں موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم پر اللہ کا غضب ٹوٹے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ عائشہ رک جاؤ تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہئے نیز سخت گوئی اور لچر باتوں سے اجتناب کرنا چاہئے حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا لفظ کہا ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا اور کیا تم نے نہیں سنا انہوں نے جو کچھ کہا ہے میں نے اس پر کیا جواب دیا ہے؟ (تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ) ان کے حق میں میری دعا (یابد دعا) تو قبول ہوتی ہے لیکن میرے حق میں ان کی دعا (یابد دعا) قبول نہیں ہوتی اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا عائشہ تم لچر باتیں کرنے والی

مت بنو کیونکہ اللہ تعالیٰ لہجہ باتوں کو اور بہ تکلف لہجہ باتیں بنانے کو پسند نہیں کرتا۔

توضیح

یہود کی عداوت و خباثت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام میں بددعا دینے کی کوشش کرتے تھے "السلام علیکم" بولتے تھے جس کا معنی یہ تھا کہ تجھ پر موت اور ہلاکت آجائے آنحضرتؐ سنتے تھے اور سمجھتے تھے لیکن صرف وعلیکم سے جواب دیا کرتے تھے ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے سنا تو خوب جواب دیا جس پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اے عائشہؓ نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں تم نرمی سے کام لو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ کیا ان یہودیوں کی بات کو آپ نہیں سن رہے ہیں جو سلام میں بددعا دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں ان کی بددعا میرے حق میں قبول نہیں ہوتی اور میری بددعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور صبر برداشت کا بڑا نمونہ موجود ہے۔ "الفحش" یعنی کمزور اور خلاف وقار بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔

التفحش "یعنی تکلف کر کے فحش بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔

### مسلم اور غیر مسلم کی مخلوط مجلس میں سلام کا طریقہ

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ اخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور مشرکین باہم بیٹھے ہوئے تھے اور مشرکین میں بت پرست بھی تھے اور یہودی بھی، چنانچہ آپؐ نے مجلس والوں کو سلام کیا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

"اخلاط" یعنی ایک ہی مجلس میں مسلم اور غیر مسلم جب بیٹھے ہوں تو ان کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کی نیت کر کے آدمی سلام کرے، اسی طرح فاسق مجاہر اور حلقہ لہجہ یعنی داڑھی منڈانے والا اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو صالحین کی نیت کر کے سلام کرنا چاہئے۔ حلقہ لہجہ اور فاسق مجاہر کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہئے۔

### راستوں اور چبوتروں میں بیٹھنا کب جائز ہو جاتا ہے؟

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بَدَّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ

حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابو سعید خدریؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے جہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا جب تم (مجبوری کی بناء پر) بیٹھنے کے علاوہ دوسری صورت سے انکار کرتے ہو تو پھر راستہ کو اس کا حق ادا کرو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ راستہ کا کیا حق ہے؟ آپؐ نے فرمایا آنکھوں کا بند کرنا یعنی حرام چیزوں پر نظر نہ ڈالنا، ایذا رسانی سے باز رہنا یعنی تنگ راستہ دینے یا کسی اور طرح گزرنے والوں کو ایذا نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ (بخاری و مسلم)

### توضیح

اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ راستوں اور چبوتروں پر بیٹھ کر لوگوں پر آوازیں کسنا اور گپ کرنا منع ہے ہاں اگر بوجہ مجبوری باہر بیٹھنا پڑ رہا ہو تو پھر اس کے جواز کے لئے یہ شرط ہے کہ گزرنے والوں کے سلام کا خوب جواب دے اور اگر وہ ناواقف ہو تو ان کو راستہ کی رہنمائی کرے معروف کا حکم کرے نگاہیں نیچے رکھے۔

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَإِرشَادُ السَّبِيلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ هَكَذَا

اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کے سلسلے میں نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے (یہ بھی فرمایا کہ) جو شخص راستہ بھول جائے یا جو شخص راستہ نہ جانتا ہو اس کو راستہ بتانا اس روایت کو ابو داؤد نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت کے بعد اسی طرح نقل کیا ہے جیسا کہ صاحب مصابیح نے اور ان کی اتباع میں صاحب مشکوٰۃ نے یہاں نقل کیا ہے۔

﴿۱۵﴾ وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَتَغِيثُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَكَذَا وَلَمْ أَجِدْهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ.

اور حضرت عمرؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کے سلسلے میں نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے یہ بھی فرمایا کہ مظلوم کی فریاد رسی کی جائے اور گم کردہ راہ کو راستہ بتایا جائے اس روایت کو حضرت ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے بعد اسی طرح نقل کیا ہے اور میں نے ان دونوں حدیثوں کو صحیحین میں نہیں پایا۔

”ملہوف“ مصیبت زدہ فریاد کرنے والے کو کہتے ہیں ان کی مدد کرنا اور گم کردہ راہ کو صحیح رہنمائی کرنا یہ ایسے امور ہیں کہ اس کی وجہ سے راستہ میں بیٹھنا جائز ہو جاتا ہے کیونکہ یہ نیک ارادہ سے بیٹھنا ہے۔

## الفصل الثانی

### اسلامی معاشرہ کے چھ باہمی حقوق

﴿۱۶﴾ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُوذُهُ إِذَا مَرَضَ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالذَّارِمِيُّ

حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر مسلمان کے چھ حقوق ہیں جو حسن سلوک سے متعلق ہیں جب کوئی مسلمان ملے تو اس کو سلام کرنا، جب کوئی مسلمان (کھانے کے لئے یا کسی اور غرض سے بلائے) تو اس کو قبول کرنا، جب کوئی مسلمان چھینکے تو اس پر یرحمک اللہ کہنا، جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ جانا اور مسلمان کے لئے اس چیز کو پسند کرنا جس کو خود اپنے لئے پسند کرتا ہے (ترمذی، دارمی)

### توضیح

”بالمعروف“ شارحین لکھتے ہیں کہ بالمعروف میں باکا متعلق محذوف ہے اصل عبارت اس طرح ہے۔ ”للمسلم علی المسلم خصال ستة متبسة بالمعروف“ یعنی ان چھ خصال کو معروف اور اچھے طریقے سے پورا کرنا چاہئے دستور کے مطابق اس کا حق ادا کرنا چاہئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مرا نہیں ہے۔

جن چھ خصال کو دستور کے موافق اور حسن سلوک اور خوش اسلوبی سے پورا کرنا چاہئے وہ یہ ہیں۔ (۱) بوقت ملاقات سلام کرنا (۲) دعوت طعام قبول کرنا (۳) چھینک کا جواب دینا (۴) بیمار پر سی کیلئے مریض کے پاس جانا (۵) موت پر اس کا جنازہ پڑھنا (۶) جنازہ کے ساتھ جانا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ مذکورہ خصال پانچ ہیں جبکہ چھ کا حکم ہے۔ اس کا جواب شیخ عبدالحق نے یہ دیا ہے کہ جنازہ کے ساتھ چلنا یہ جنازہ پڑھنے کے بعد ہوا ہے لہذا جنازہ پڑھنے کا ذکر ضمن میں آ گیا مستقل طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔

### سلام جتنا کامل ہوگا ثواب بھی کامل ملے گا۔

﴿۱۷﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

وَبَرَكَاتُهُ فَرَدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ ثَلَاثُونَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عمران ابن حصینؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم آنحضرتؐ نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ شخص بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لئے دس نیکیاں لکھی گئی ہیں پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آنحضرتؐ نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا کہ اس کے لئے بیس نیکیاں لکھی گئی ہیں اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آنحضرتؐ نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا کہ اس کے لئے تیس نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح

یعنی ایک شخص صرف السلام علیکم کہتا ہے اس پر دس نیکیاں ملتی ہیں اگر ساتھ ورحمۃ اللہ ملا دیا تو بیس نیکیاں ہو جائیں گی اور اگر ”وَبَرَكَاتُهُ“ ملا دیا تو تیس نیکیاں سلام کرنے والے کو ملیں گی الغرض جتنا سلام کامل ہوگا اس کا ثواب بھی کامل ملے گا اور معروف الفاظ کے اضافہ کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوگا آنے والی حدیث میں ومغفرۃ کا لفظ بھی ہے جس کی وجہ سے چالیس نیکیوں کی بشارت دی گئی ہے سلام اگرچہ ایک آدمی کو کیا جا رہا ہو مسنون طریقہ یہی ہے کہ علیکم جمع کی ضمیر کو استعمال کیا جائے سلام کرنے میں بھی اور جواب دینے میں بھی۔

﴿۱۸﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ ثُمَّ أَتَى آخِرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ وَقَالَ هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت معاذ بن انسؓ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کی حدیث کے ہم معنی روایت نقل کی ہے جس میں معاذؓ نے یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں، پھر ایک اور شخص یعنی چوتھا شخص آیا اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ آپ نے (اسکے سلام کا جواب دیا) اور فرمایا کہ اس کے لئے چالیس نیکیاں لکھی گئی ہیں نیز یہ فرمایا کہ اسی طرح ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یعنی سلام کرنے والا جس قدر الفاظ بڑھاتا جائے گا اسی قدر اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ (ابوداؤد)

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک تر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ (احمد و ترمذی، ابوداؤد)

توضیح

ابتداء بالسلام کی فضیلت اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ دوساتھیوں کا کسی راستہ میں آمناسا منا ہو جائے اگر ایسا نہ ہو تو سلام

کرنے کے جو قواعد ہیں اس میں افضل یہی ہے کہ قلیل کثیر کو سلام کریں آنے والا بیٹھنے والوں کو اور سوار پیدل کو سلام کریں اور چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔

## اجنبیات کو سلام کرنے کا حکم

﴿۲۰﴾ وَعَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ  
اور حضرت جریر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ (احمد)

توضیح

”فسلم علیہن“ یعنی آنحضرتؐ نے عورتوں کو سلام کیا اس حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ عورتیں بوڑھی تھیں یا جوان تھیں یا مخلوط تھیں جو کچھ بھی ہو عورتوں کو سلام کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے میں ایک خصوصیت تھی آپ اس امت کے باپ کے حکم میں ہیں اس لئے امت کی خواتین آنحضرت کی بیٹیاں ہیں ہاں آنحضرت کے علاوہ کسی مسلمان اور کسی پیر فقیر کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو سلام کریں البتہ اگر عورت بالکل بوڑھی ہو تو اس کو سلام کرنا جائز ہے جو ان عورتوں کو اجنبی مرد کا سلام کرنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ یہ فتنہ کھولنے کا سبب اور دروازہ ہے۔

## ایک آدمی کا سلام کرنا یا جواب دینا پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے

﴿۲۱﴾ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ يُجْزَىٰ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزَىٰ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يُرَدَّ أَحَدُهُمْ. رَوَاهُ النَّبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مَرْفُوعًا وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ

اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا جب کچھ لوگ گزر رہے ہوں تو ان میں سے کسی ایک کا سلام کرنا ان سب کی طرف سے کافی ہوگا اسی طرح جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان میں سے کسی ایک کا جواب دینا ان سب کی طرف سے کافی ہوگا۔ اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں بطریق مرفوع نقل کیا ہے اور ابوداؤد نے اس روایت کو (بطریق موقوف) نقل کیا ہے نیز انہوں نے (اپنی سند بیان کر۔۔ کے بعد) کہا کہ اس روایت کو حسن ابن علیؑ نے مرفوع بیان کیا ہے اور یہ حسن ابن علیؑ (امام حسن ابن علی ابن ابی طالب نہیں ہیں بلکہ) وہ حسن ہیں جو ابوداؤد کے استاد و شیخ ہیں اور ابوداؤد نے بھی حسن ابن علیؑ کی سند سے مرفوع ہی نقل کیا ہے لیکن دوسری سند سے موقوف نقل کیا ہے۔

توضیح

سلام کرنے میں پہل کرنا مستحب اور افضل ہے مگر یہ سنت علی الکفایہ ہے مطلب یہ کہ جماعت میں سے کسی ایک نے سلام

کیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا اور اگر سننے والوں میں سے کسی ایک نے جواب دیدیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا اگر سب شرکت کریں تو یہ بھی منع نہیں ہے۔

### سلام کرنے میں یہود و نصاریٰ کی مشابہت اختیار نہ کرو

﴿۲۲﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ إسناده ضَعِيفٌ

اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے غیروں کے ساتھ مشابہت کرنے کا وہ ہم میں سے نہیں ہے تم نہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت کرو اور نہ عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کا سلام کرنا انگلیوں کے ذریعہ اشارہ کرنے اور عیسائیوں کا سلام کرنا ہتھیلیوں کے ذریعہ اشارہ کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی اسناد ضعیف ہے۔

### توضیح

”الاشارة بالاصابع“ چونکہ سلام کرنا تمام انبیاء کی سنت رہا ہے اور اسلام جس سلام کو پیش کرتا ہے یہ انبیاء کرام کا طریقہ تھا لیکن یہود و نصاریٰ نے انبیاء کرام کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اپنی طرف سے سلام کے طریقے وضع کئے چنانچہ یہود نا بہود انگلیوں کے اشاروں سے سلام کرتے ہیں اور نصاریٰ نے ہتھیلی سے سلام کرنے کو اختیار کیا جس کی شکل سیلوٹ کی ہے سلام کا لفظ کسی کے ہاں نہیں ہے اس لئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہاتھ کے بجائے زبان سے السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ سلام کریں صرف ہاتھ ہلا کر سلام نہ کریں ہاں اگر کوئی آدمی دور ہو اور اس تک آواز نہیں جاتی ہو تو ہاتھ کے ساتھ سلام کرنا جائز ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ زبان سے سلام کے الفاظ بھی ادا کرے۔ خلاصہ یہ کہ اہل کتاب کی کسی بھی خصوصیت میں ان سے مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے خاص کر سلام کے معاملہ میں اجتناب کرنا اور اپنے اسلامی شعائر کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح بعض قومیں سلام میں ہاتھ جوڑ کر نمستے کے الفاظ ادا کرتی ہیں کچھ لوگ کمر جھکا کر سلام کرتے ہیں اور کوئی صرف سر جھکا کر سلام کرتے ہیں یہ سب طریقے اسلام میں منع ہیں اسلام کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے یہ کسی بھی طریقہ میں غیر مسلموں کا محتاج نہیں ہے۔

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

”اسنادہ ضعیف“ عمرو بن شعیب کا طریقہ ضعیف ہے لیکن دیگر طرق صحیح ہیں

## ہر نئی ملاقات پر سلام کرنا چاہئے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ خَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو چاہئے کہ (پہلے) اس کو سلام کرے اور اس کے بعد اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا (بڑا) پتھر حائل ہوا اور پھر اس سے ملاقات ہو تو اس کو (دوبارہ) سلام کرے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

مستثنیٰ صورتوں کے علاوہ ہر ملاقات پر ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ سلام کرنا مسنون ہے خواہ ان دونوں کی جدائی کچھ وقت کے لئے کیوں نہ ہو بس ذرا سا غائب ہونے کے بعد ملاقات پر سلام کرنا چاہئے مثلاً بیچ میں دیوار یا درخت بھی حائل ہو جائے پھر بھی ملاقات پر سلام کرنا مسنون ہے اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جو لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اٹھ کر سلام شروع کر دیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے جیسے نمازوں کے بعد یا عیدین کے بعد۔ ہاں رخصت کے وقت سلام جائز اور مسنون ہے۔

## گھر میں داخل ہوتے یا نکلے وقت سلام کرو

﴿۲۴﴾ وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا

اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں گھسو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو اور جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے گھر والوں کو سلام کے ذریعہ رخصت کرو۔ اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

## توضیح

”علی اہلہ“ یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت اور اسی طرح نکلتے وقت اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو داخل ہوتے وقت کا سلام تو امن و امان کی دعا ہے اور رخصت کے وقت کا سلام دیانت و امانت کی دعا ہے لیکن بیوی کو سلام کرنے سے پہلے اسکو سمجھا دینا چاہئے کہ اس صرح سلام کرنا سنت طریقہ ہے اگر ایسا نہ کیا تو خطرہ ہے کہ بیوی یہ خیال کر لگی کہ آج تو میاں مجھے سلام کرنے لگا ہے کل سجدہ کریگا۔



”فاو دعوا“ یعنی گھروالوں کو الوداعی سلام کر کے گھر سے باہر جاؤ۔

اس مطلب کے پیش نظریہ صیغہ وداع سے ہوگا جو رخصت کرنے کے معنی میں ہے لیکن شیخ عبدالحقؒ نے لکھا ہے کہ اودعوا ایداع سے ہے جو امانت رکھنے کے معنی میں ہے گویا یہ شخص اپنے سلام کے ذریعہ سے اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو اپنے گھر میں بطور امانت رکھ کر جا رہا ہے یہ مطلب بعید ہے۔

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَهٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے جب تم اپنے گھروالوں سے ملو تو سلام کرو وہ سلام تم پر اور تمہارے گھروالوں پر خیر و برکت کے نزول کا باعث ہوگا۔ (ترمذی)

کلام سے پہلے سلام کرنا چاہئے

﴿۲۶﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَسَلَامٌ قَبْلَ الْكَلَامِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کلام سے پہلے ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔

توضیح

سلام کا جو مقصد ابتدا میں لکھا گیا ہے اس کے پیش نظر دو آدمیوں کی ملاقات میں سب سے پہلے سلام کا لفظ ہونا چاہئے تاکہ طرفین کی سلامتی کی ضمانت فراہم ہو جائے اس کے بعد دیگر کلام کا آغاز کرنا چاہئے۔ بعض لوگ پہلے دوسری باتیں کرتے ہیں اور پھر سلام کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے جیسے ریڈیو پاکستان میں خبروں کا آغاز اس طرح کرتے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے السلام علیکم۔ اسی طرح بعض قومیں خوش آمدید، مرحبا اور احلا وسهلا اور بخیر راغله کے الفاظ پہلے استعمال کرتے ہیں پھر سلام کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے سلام ہو پھر کلام ہو۔

سلام میں جاہلیت قدیمہ و جدیدہ کی تقلید نا جائز ہے

﴿۲۷﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَقُولُ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَأَنْعَمَ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِنَا عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عمران ابن حصینؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ کہا کرتے تھے ”انعم اللہ بک عینا وانعم

صبحا“ یعنی خدا تمہاری وجہ سے آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے اور تم ہر صبح نعمتوں میں داخل ہو۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہمیں یہ کہنے سے منع کر دیا گیا۔ (ابوداؤد)

## توضیح

اسلام سے پہلے جاہلیت کے لوگ مل ملاقات کے وقت مختلف اوقات کے لئے کچھ کلمات کہا کرتے تھے ان میں ایک کلمہ ”انعم اللہ بک عیناً“ تھا اور دوسرا کلمہ ”انعم صباحاً“ تھا دونوں میں خوشحالی اور تروتازگی کی دعا تھی اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے اس نے اپنے ماننے والوں کو کسی غیر کی طرف محتاج نہیں بنایا ہے بلکہ اپنے مل ملاقات کے اسلامی طریقہ وضع کر کے دیئے ہیں مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل اسلام سے بیزار مسلمانوں نے جاہلیت جدیدہ کے طور طریق کو اپنے لئے فخر کا ذریعہ بنایا ہے جاہلیت جدیدہ میں صبح کے لئے گڈ مارنگ اور شام کے لئے گڈ ایوننگ اور دوسرے اوقات کے لئے دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ تقلید غلط ہے جو قومیں اپنی حدود میں اپنی روایات اور حرکات سے خود تنگ آچکے ہیں ہم خوشی سے اس کو اپناتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے۔

مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خورشید میں پھیلا دے سائے ہم نے

## غائبانہ سلام اور اس کا جواب

﴿۲۸﴾ وَعَنْ غَالِبٍ قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ بِيَابِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّيهِ فَاقرئه السَّلَامَ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت غالب کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصریؒ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ نے اور ان سے ان کے باپ (یعنی میرے دادا نے) بیان کیا کہ مجھ کو میرے باپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہوئے کہا کہ تم آنحضرتؐ کے پاس جاؤ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرو میرے دادا نے بیان کیا ہے کہ میں آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے باپ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے آنحضرتؐ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم پر اور تمہارے باپ پر سلامتی ہو۔ (ابوداؤد)

## توضیح

اگر کوئی شخص دور سے کسی کا سلام کسی شخص کے لئے لائے اور اس پر پیش کرے تو اس کا جواب کس طرح دینا چاہئے اس کی تعلیم اس حدیث میں دی گئی ہے کہ اس کے جواب میں ”وعلیک وعلیہ السلام“ یا اس شخص کا نام لیکر ”وعلیک وعلی ابیک

السلام“ کہا کرے اس طرح اسلام نے سلام لانے والے اور بھیجنے والے دونوں کو سلام کے جواب میں شریک کر دیا ہے۔

### خطوط میں سلام لکھنے کا طریقہ

﴿۲۹﴾ وَعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ الْعَلَاءَ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ عَامِلٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو العلاء حضرمیؒ کہتے ہیں کہ علاء حضرمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عامل مقرر تھے جب وہ آنحضرت کو خط لکھتے تو اپنی طرف سے شروع کرتے۔ (ابوداؤد)

توضیح

”ابی العلاء الحضرمی“ حضرمی نسبت ہے حضرموت کی طرف اور حضرموت یمن کے مشہور شہر کا نام ہے حضرت العلاء الحضرمی اسی شہر کی طرف منسوب ہیں یہ جلیل القدر صحابی ہیں آنحضرت نے ان کو بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا پھر حضرت صدیق و عمر کے دور میں بھی آپ گورنر رہے بڑے مجاہد تھے ان کے ہاتھ پر بڑی کرامات ظاہر ہوئیں مشکوٰۃ کے نسخوں میں عن ابی العلاء الحضرمی کے الفاظ ہیں بعض نسخوں میں عن ابن العلاء الحضرمی ان العلاء الحضرمی کے الفاظ آئے ہیں یہی واضح اور قابل فہم ہیں اس حدیث میں حضرت علاء حضرمی کے خط کے الفاظ میں ان کا نام پہلے ہے اور اس کے بعد آنحضرت کا نام ہے اور پھر سلام ہے خطوط میں سلام کے لکھنے کا یہی مسنون طریقہ ہے آنحضرت نے بھی اسی طرز کو اختیار فرمایا ہے۔

### خط لکھ کر اس پر مٹی چھڑکنے کی وجہ

﴿۳۰﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيَتَرَبَّهُ فَإِنَّهُ أَنْجَحٌ لِلْحَاجَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ

اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص (کسی کو) خط لکھے تو چاہئے کہ وہ خط (لکھنے کے بعد) اس پر مٹی ڈال دے یا مٹی چھڑک کر جھاڑ دے کیونکہ یہ چیز حاجت براری کیلئے بہت کارآمد ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔

توضیح

”فلیترہہ“ یعنی خط لکھنے کے بعد اس خط کو خاک آلود کر دو۔ خط کو خاک آلود کرنے کی مصلحت میں علماء نے مختلف باتیں لکھی

ہیں۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ پہلے زمانہ میں قلم اور دوات کے ساتھ خط لکھا جاتا تھا قلم کی سیاہی خط لکھنے کے بعد بھی گیلی رہتی تھی اگر کاغذ کو لپیٹ لیا جاتا تو لکھا ہوا خط مٹ جاتا اس لئے خط کے حروف سکھانے کے لئے لوگ اس پر باریک غبار ڈالتے تھے آنحضرتؐ نے بھی اسی چیز کی تعلیم دی ہے کہ اس طرح کرو تمہاری حاجت بہت جلد پوری ہو جائے گی حدیث کا یہ مطلب بہت واضح ہے اور سمجھنے کے اعتبار سے بالکل آسان ہے۔

بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس خط کو لکھنے کے بعد مٹی پر رکھ دو اور کہہ دو کہ اس کے مضمون میں جو درخواست ہے اس حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے یہ خط کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے جو استعمال کیا گیا ہے بہر حال علماء نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے۔

### مضمون کے تسلسل کے لئے قلم کان پر رکھنا چاہئے

﴿۳۱﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فَإِنَّهُ أَذْكُرُ لِلْمَالِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

اور حضرت زید ابن ثابتؓ کہتے ہیں کہ میں (ایک دن) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ کے سامنے ایک لکھنے والا بیٹھا ہوا تھا میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قلم کو اپنے کان پر رکھ لو کیونکہ یہ چیز مطلب کو بہت یاد دلاتی ہے، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں ضعف ہے۔

### ضرورت کے تحت غیر مسلموں کی زبان سیکھنا جائز ہے

﴿۳۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُودَ وَقَالَ إِنِّي مَا أَمَّنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ قَالَ فَمَا مَرَّبِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُ فَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبْتُ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيَّ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت زید ابن ثابتؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ حکم دیا کہ میں سریانی زبان سیکھوں اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرتؐ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں یہودیوں سے خط و کتابت کرنا سیکھ لوں نیز آپ نے فرمایا کہ خط و کتابت کے معاملہ میں مجھے یہودیوں پر اطمینان نہیں ہوتا، زید ابن ثابتؓ کہتے ہیں کہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد) آدھا مہینہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ میں نے (یہودیوں کی زبان سیکھ لی اور ان سے خط و کتابت کرنا) سیکھ لیا چنانچہ جب آنحضرتؐ یہودیوں کو کوئی مکتوب بھیجنا چاہتے تو اس کو میں ہی لکھتا اور جب یہودی آپ کے پاس کوئی مکتوب

بیجے تو اس کو آپ کی خدمت میں میں ہی پڑھتا۔ (ترمذی)

## توضیح

”السرانیة“ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی لیکن یہود عبرانی اور سریانی دونوں کو استعمال کرتے تھے اور یہ دونوں زبانیں قریب قریب تھیں آنحضرت کو بعض دفعہ کسی کو خط لکھنا پڑتا تو سریانی میں ضرورت پڑتی یا سریانی میں لکھا ہوا خط آتا تو آنحضرت اس کے پڑھنے اور لکھنے دونوں میں یہود سے استفادہ فرماتے لیکن یہود پر اعتماد و اعتبار نہیں تھا یہ احتمال تھا کہ وہ کچھ کے بجائے کچھ کہدے اور کچھ لکھدے اس لئے آنحضرت نے زید کو حکم دیا کہ تم سریانی اور یہودی زبان میں لکھنا سیکھ لو ان کے ذہن پر شاباش ہو کہ نصف ماہ پندرہ دن سے بھی کم میں آپ نے یہ زبان سیکھ لی اور اس میں لکھنا شروع کر دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلم معاشرہ میں ہر قسم کے افراد کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ مسلمان کسی شعبہ میں غیر مسلموں کی طرف محتاج نہ ہوں۔

امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اپنا حجام ہونا چاہئے اپنا طبیب ہونا ضروری ہے اپنا لوہار چاہئے اپنا انجینئر وغیرہ وغیرہ۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے تحت غیر مسلموں کی زبان سیکھنا جائز ہے۔

## ملاقات اور رخصت کے وقت سلام کرو

﴿۳۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَأَ لَمْ يَنْجَلِسْ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيَسْتَ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو (پہلے) سلام کرنے اور پھر اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، نیز جب کھڑا ہو تو اس وقت بھی سلام کرے کیونکہ پہلا سلام کرنا دوسرے سلام کرنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ (ترمذی و ابو داؤد)

## راستہ میں بیٹھنے کا حق ادا کرو

﴿۳۴﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا خَيْرَ فِي جُلُوسٍ فِي الطُّرُقَاتِ إِلَّا لِمَنْ هَدَى السَّبِيلَ وَرَدَّ التَّحِيَّةَ وَغَضَّ الْبَصَرَ وَأَعَانَ عَلَى الْحُمُولَةِ . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي جُرَيْجٍ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ شَرْحُ السُّنَّةِ .

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے ہاں جو شخص (راستہ بھولے ہوئے یا اندھے کو) راستہ بتلائے۔ سلام کا جواب دے۔ (حرام چیزوں کو دیکھنے سے) آنکھوں کو بند رکھے اور اس شخص کی مدد کرے جو بوجھ لادے ہوئے ہو تو ایسے شخص کا راستہ پر بیٹھنا گوارا ہے۔ شرح السنۃ اور ابی جری کی روایت باب فصل الصدقۃ میں نقل کی جا چکی ہے۔

”الحمولة“ یہ اس جانور کو کہتے ہیں جس پر بوجھ لاداجاتا ہے مطلب یہ کہ راستہ میں بیٹھنے کا حق اس شخص کو حاصل ہے کہ وہ یہ کام بھی کرے کہ کسی مجبور شخص کے ساتھ مدد کر کے اس کی سواری پر اس کا سامان لاد کر رکھے اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو فضول راستہ میں نہ بیٹھا کرے۔

### الفصل الثالث

#### سلام کی ابتداء حضرت آدمؑ نے کی

﴿۳۵﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَمِدَ اللَّهُ بِآذِنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ يَا آدَمُ أَذْهَبَ إِلَيَّ أَوْلَيْكَ الْمَلَائِكَةُ إِلَى مَلَأٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوا عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ وَيَدَاةَ مَقْبُوضَتَانِ اخْتَرْتَاهُمَا شَيْئٌ فَقَالَ اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكَلْنَا يَدَي رَبِّي يَمِينَ مَبَارَكَةً ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ قَالَ ذُرِّيَّتُكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَاءُ هُمْ أَوْ مِنْ أَضْوَاءِ هُمْ قَالَ يَارَبِّ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمُرَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ يَارَبِّ زِدْ فِي عُمُرِهِ قَالَ ذَلِكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ قَالَ أَيُّ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِي سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَنْتَ وَذَاكَ قَالَ ثُمَّ سَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَهْبَطَ مِنْهَا وَكَانَ آدَمُ يُعَدُّ لِنَفْسِهِ فَاتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ عَجَلْتُ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدْتُ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ فَنَسِيتُ ذُرِّيَّتَهُ قَالَ فَمِنْ يَوْمٍ مِثْلِ أَمْرِ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی انہوں نے الحمد للہ کہا اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق و اجازت سے خدا کی حمد کی۔ اللہ

تعالیٰ نے ان (کی حمد) کے جواب میں فرمایا یرحمکم اللہ یعنی تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اور پھر فرمایا کہ آدم فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور کہو السلام علیکم چنانچہ حضرت آدمؑ ان فرشتوں کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا فرشتوں نے (جواب میں) کہا کہ علیک السلام ورحمۃ اللہ اس کے بعد حضرت آدمؑ اپنے پروردگار کے پاس آئے (یعنی اس جگہ لوٹ کر آئے جہاں پروردگار نے ان سے کلام کیا تھا) اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو دیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا درآئحالیکہ اس کے دونوں ہاتھ بند تھے کہ ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو حضرت آدمؑ نے کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کے داہنے ہاتھ کو پسند کر لیا اور میرے پروردگار کے دونوں ہاتھ داہنے بائیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو کھولا تو حضرت آدمؑ نے کیا دیکھا کہ اس میں آدم اور آدم کی اولاد کی صورتیں تھیں انہوں نے پوچھا کہ پروردگار یہ کون ہیں؟ پروردگار نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ حضرت آدمؑ نے یہ بھی دیکھا کہ ہر مسلمان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے پھر انکی نظر ایک ایسے انسان پر پڑی جو سب سے زیادہ روشن تھا یا ان میں کے روشن ترین لوگوں میں سے ایک تھا حضرت آدمؑ نے پوچھا کہ میرے پروردگار یہ کون ہے؟ پروردگار نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے اور میں نے اس کی عمر چالیس سال لکھی ہے حضرت آدمؑ نے کہا کہ پروردگار اس کی عمر کچھ اور بڑھا دے پروردگار نے فرمایا وہ چیز ہے جس کو میں اس کے حق میں لکھ چکا ہوں۔ حضرت آدمؑ نے کہا کہ پروردگار (اگر اس کی عمر لکھی جا چکی ہے تو میں اپنی عمر سے ساٹھ سال اس کو دیتا ہوں پروردگار نے فرمایا تم جانو اور تمہارا کام جانے یعنی اس معاملہ میں تم مختار ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت آدمؑ جنت میں رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور پھر ان کو (جنت سے) زمین پر اتارا گیا اور حضرت آدمؑ برابر اپنی عمر کے سالوں کو گنتے رہے (یہاں تک کہ ان کی عمر نو سو چالیس سال ہوئی تو) موت کا فرشتہ (روح قبض کرنے کے لئے) ان کے پاس آیا۔ حضرت آدمؑ نے اس سے کہا کہ تم نے جلدی کی میری عمر تو ایک ہزار سال کی مقرر کی گئی ہے فرشتے نے کہا کہ (یہ صحیح ہے) لیکن آپ نے اپنی عمر کے ساٹھ سال اپنے بیٹے داؤد کو دیدیئے ہیں۔ حضرت آدمؑ نے اس سے انکار کیا اور ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے نیز حضرت آدمؑ (اس ممانعت کو) بھول گئے تھے (جو حق تعالیٰ کی طرف سے مشہور درخت کا پھل کھانے سے متعلق تھی اور ان کی اولاد بھی بھولی تھی) آنحضرتؐ نے فرمایا اس دن سے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ (ترمذی)

## توضیح

”اضواء“ یعنی سب سے زیادہ چمکدار اور روشن تھے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جزئی فضیلت تھی اور شاید حضرت آدمؑ کا ان کی طرف متوجہ ہونا وہ قلبی میلان اور مناسبت ہو جو دونوں میں خلافت ارضی کی وجہ سے تھی کیونکہ حضرت آدمؑ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ الگ رکھا اور خلافت کا الگ رکھا، حضرت داؤدؑ میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سلسلہ جمع فرما دیا اسی طرح ان کے بعد بھی نبوت کے ساتھ خلافت کا عہدہ اکٹھا کیا گیا۔

”ستین سنة“ یہاں ساٹھ سال دینے کی بات ہے جبکہ مشکوٰۃ ج ۱ ص ۳۲۵ باب الایمان بالقدر میں چالیس سال کا ذکر آیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ چالیس سال دینے والی بات زیادہ واضح اور رائج ہے ساٹھ سال کی بات کسی راوی سے سہو ہو گیا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عمر دیکر پھر انکار کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قصد و ارادہ سے یہ انکار نہیں کیا بلکہ مرور و زہور کی وجہ سے آپ بھول گئے تھے۔ ”فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْه“

﴿۳۶﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فسلمَ عَلَيْنَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِمِيُّ

اور حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے پاس سے گزرے جب کہ ہم کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں تو آپ نے ہمیں سلام کیا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

### سلام کے ثواب کے حصول کے لئے بازار کا چکر لگانا

﴿۳۷﴾ وَعَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي ابْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سِقَاطٍ وَلَا عَلَى صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مَسْكِينٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ فَبِحُثِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَبَعْنِي إِلَى السُّوقِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْتَأْذِنُ عَنِ السَّلَامِ وَلَا تَسُومُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ فَأَجْلِسُ بِنَاهُنَا نَتَحَدَّثُ قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَا أَبَا بَطْنٍ قَالَ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

اور حضرت طفیل ابن ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ وہ حضرت (عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور پھر صبح کے وقت ان کے ساتھ بازار جایا کرتے تھے حضرت طفیل کہتے ہیں کہ جب ہم صبح کے وقت بازار میں جاتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر جس سقاطی، جس بیچنے والے، جس مسکین اور جس کسی شخص کے پاس سے گزرتے تو اس کو سلام کرتے حضرت طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور وہ مجھ کو اپنے ہمراہ بازار لے جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بازار جا کر کیا کریں گے آپ نہ تو کسی خرید و فروخت کی جگہ ٹھہرتے ہیں اور نہ کسی بیچنے والے چیز کے بارے میں دریافت کرتے ہیں نہ تو مول تول اور کوئی سودا کرتے ہیں اور نہ بازار کی کسی مجلس میں شریک ہوتے ہیں (لہذا بازار جانے سے اچھا تو یہی ہے کہ) آپ ہمارے ساتھ یہیں بیٹھیں تاکہ کچھ باتیں ہی کریں حضرت طفیل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے (یہ سکر)



مجھ سے کہا کہ اے بڑے پیٹ والے راوی کا بیان ہے کہ طفیل کا پیٹ بڑا تھا (کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم خرید و فروخت کرنے یا کسی اور غرض سے بازار جایا کرتے ہیں، نہیں بلکہ) ہم صرف سلام کرنے کی غرض سے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو سلام کرتے ہیں جو ہم کو ملتا ہے اور اس طرح ہم بازار جا کر ثواب حاصل کرتے ہیں۔ (مالک، بیہقی)

## توضیح

”فاستبغنی“ یعنی مجھے ساتھ لیا اور بازار روانہ ہو گئے۔ ”لا تقف“ یعنی کسی بیع پر خرید و فروخت کے لئے کھڑے نہیں ہوتے ہو؟ ”ولاتسوم“ یعنی سودا بھی کرتے ہو تو صرف گھومنے سے کیا فائدہ ہے یہاں مسجد میں بیٹھ جائیں اور اس میں حدیث پڑھ پڑھ کر ہمیں سنائیں۔ ”سقاطی“ کہاڑ مال میں کاروبار کرنے والا۔ ”یا ابابطن“ یعنی اے پیٹ والے، جس آدمی کا پیٹ بڑا ہو اس کو ابو بطن کہتے ہیں جس طرح یہاں کہا گیا ہے لیکن علم کے زیادہ شوقین آدمی کو بھی ابو بطن کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ان کو ابو بطن کہہ دیا ہو اس میں کوئی منافات نہیں حضرت علی کو بھی علم کی کثرت کی وجہ سے شیخ بطین کہتے ہیں۔

## سلام میں بخل کرنے والا بڑا بخیل ہے۔

﴿۳۸﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِفُلَانٍ فِي حَائِطِي عَذْقٌ وَإِنَّهُ قَدْ أَذَانِي مَكَانٌ عَذْقِهِ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ بَعْنِي عَذْقَكَ قَالَ لَا قَالَ فَهَبْ لِي قَالَ لَا قَالَ فَبِعْنِيهِ بَعْدَقٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخُلُ بِالسَّلَامِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے باغ میں فلاں شخص کے کھجور کا درخت ہے اور صورت حال یہ ہے کہ وہاں اس درخت کے ہونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس شخص کے پاس بھیجا تا کہ اس کو بلا لائے جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا کھجور کا درخت میرے ہاتھ فروخت کر دو اس نے کہا کہ میں فروخت نہیں کرتا آپ نے فرمایا کہ (اگر اس درخت کو بیچنے میں تمہیں کوئی عار محسوس ہوتا ہے تو) اس کو میرے نام بہہ کر دو، اس نے کہا میں بہہ بھی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا کہ اچھا اس درخت کو تم میرے ہاتھ کھجور کے ایسے درخت کے عوض فروخت کر دو جو تمہیں جنت میں ملے اس نے کہا کہ اس طرح بھی فروخت کرتا نہیں آپ نے فرمایا میں نے تم سے بڑا بخیل کسی شخص کو نہیں دیکھا علاوہ اس شخص کے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے یعنی سلام کے معاملہ میں کوتاہی کرنے والا شخص تم سے بھی بڑا بخیل ہے کہ وہ اتنا ذرا سا کام کر کے بھی زیادہ ثواب حاصل نہیں

کرنا چاہتا۔ (احمد بیہقی)

## توضیح

سلام میں کچھ خرچ نہیں ہوتا زبان کے چند کلمات ہیں جس کا فائدہ بہت زیادہ ہے اس میں بخل کرنے والا واقعی بڑا بخیل ہے۔ ”عذق“ کھجور کے درخت کو عذق کہا گیا ہے۔ اس شخص کی عجیب حالت تھی کہ آنحضرت نے ان سے درخت خریدا چاہا اس نے انکار کیا پھر آپ نے بطور عطیہ مانگ لیا اس نے پھر انکار کیا پھر آپ نے اس کے عوض جنت میں کھجور کے درخت کا وعدہ فرمایا اس نے پھر انکار کیا تو آنحضرت نے فرمایا کہ اس شخص سے دنیا میں کوئی بھی بڑا بخیل نہیں ہے ہاں سلام میں جو شخص بخل کرے وہ اس سے بڑا بخیل ہے اس شخص کی طبیعت میں سختی تھی رائج یہ ہے کہ مسلمان تھا بس ”وخلق الانسان ضعيفا“

## سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے

﴿۳۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَادِيُ بِالسَّلَامِ بَرَاءٌ مِنَ الْكِبَرِ .  
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ .

اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔ (بیہقی)

## توضیح

”البادی“ یا تو راستے میں دوسا تھیوں کے ملنے پر جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ مراد ہے کہ اس میں کوئی تکبر نہیں ہوتا ہے۔ یا اس سے مراد ایسے دو شخص ہیں جو ایک دوسرے سے ناراض ہوں اور ملاقات پر ایک نے سلام میں پہل کیا اور باتوں کو کھول دیا تو اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور یہ تکبر سے بھی خالی ہے۔ پہلا مفہوم زیادہ عام ہے۔ یہ سطور میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے لکھ رہا ہوں الحمد للہ ۹ رمضان ۱۴۲۶ھ

## باب الاستیذان اجازت لینے کا بیان

قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسْلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾  
اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل مذہب اور عالمی قانون ہے اس لئے اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کے تمام مسائل کے حل کی بہترین ضمانت دی گئی ہے اسی سلسلہ میں انسانی معاشرت کے مسائل میں سے ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے کا مسئلہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسْلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارجعوا فارجعوا هَٰؤُلَاءِ كَمَا كُنْتُمْ يَوْمَ الْأَوَّلِ﴾ (سورۃ نور ۲۷، ۲۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سلام اور استیذان دونوں کو جمع فرمایا ہے۔ ادب و تہذیب کا تقاضا ہے کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو کیونکہ اس سے بہت سارے نقصانات واقع ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے شریعت نے اس امر کو مستحب قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ پہلے جا کر گھر کے سامنے کھڑا ہو جائے اور پھر اندر داخل ہونے کی اجازت مانگ لے، اگر گھر کے مالک پر پہلے نظر پڑے تو سلام کرے اور پھر اس طرح اجازت مانگے ”أَدْخُلْ“ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟

اگر گھر کا مالک گھر پر نہ ہو یا نظر نہیں آ رہا ہے تو تین دفعہ السلام علیکم کے الفاظ سے سلام کہہ دے اور پھر واپس چلا جائے اسی طرح اگر گھر کا مالک گھر پر موجود ہے لیکن اس نے کہہ دیا کہ بھائی میں مصروف ہوں واپس چلے جاؤ تو اس آنے والے شخص کو چاہئے کہ واپس چلا جائے چونکہ استیذان اجازت مانگنے کے معنی میں ہے تو گھر کے مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اجازت دے یا نہ دے اجازت دینا آنے والے شخص کا کوئی جبری حق نہیں ہے بلکہ آنے والے شخص کے لئے یہ بہتر و اطہر اور پاکیزہ طریقہ ہے کہ کسی شکایت یا عداوت کے بغیر واپس چلا جائے قرآن کا اعلان ہے ﴿هَٰؤُلَاءِ كَمَا كُنْتُمْ يَوْمَ الْأَوَّلِ﴾ (سبحان اللہ اسلام کیا ہی پاکیزہ نظام دیتا ہے۔

## الفصل الاول

تین بار سلام پراگر اجازت نہ ملی تو واپس جاؤ

﴿عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ آتَانَا أَبُو مُوسَى قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَاتَيْتُ بَابَهُ

فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَامْنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت عمرؓ میرے پاس ایک شخص کو بھیج کر مجھے بلا بھیجا تھا جب میں حسب طلب ان کے دروازے پر پہنچا اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے کیلئے تین مرتبہ سلام کیا تو مجھ کو سلام کا جواب نہیں ملا چنانچہ میں واپس چلا آیا پھر (بعد میں ملاقات ہوئی تو حضرت عمرؓ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس آنے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر تین مرتبہ سلام کیا لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اور نہ آپ کے کسی خادم نے جواب دیا لہذا میں واپس آ گیا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص (کسی کے گھر جائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر) تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو چاہئے کہ واپس چلا آئے حضرت عمرؓ نے یہ سن کر) فرمایا کہ اس حدیث کے گواہ لاؤ یعنی اس حدیث کے صحیح ہونے پر گواہ پیش کرو کہ یہ آنحضرت کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ کے ساتھ (چلنے کے لئے) کھڑا ہوا اور حضرت عمرؓ کے پاس جا کر گواہی دی۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”مامنعک“ یعنی آپ کو میں نے بلایا تھا تو کس چیز نے آپ کو میرے پاس آنے سے روکا تھا؟ ”اقم علیہ بیتہ“ یعنی جو حدیث آپ نے بیان کی ہے اب اس پر گواہ پیش کرو کہ یہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ کثرت سے احادیث بیان کرنے لگے ہیں تو آپ نے احادیث بیان کرنے میں احتیاط کے پیش نظر یہ قانون بنایا تھا کہ جو شخص حدیث بیان کریگا اس پر لازم ہوگا کہ کم از کم ایک آدمی کو اس پر بطور گواہ پیش کرے کہ اس نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ واقعی مرفوع حدیث ہے یا نہیں ابتداء میں ایسا نہیں تھا بعد میں بطور احتیاط یہ قانون بنایا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خبر واحد قابل اعتبار نہیں خبر واحد تو پھر بھی خبر واحد رہیگی یہ حضرت عمرؓ کی طرف سے احتیاط تھی تاکہ جھوٹے لوگ غلط حدیثیں گھڑنے کی جرأت نہ کر سکے۔

”فقلت انی“ اصل عبارت اس طرح ہے ”فقلت معنی لانی“ یہ حضرت عمرؓ کے سوال ”مامنعک“ کا جواب ہے۔ ”قال ابوسعید“ تفصیلی روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ پریشانی کے عالم میں صحابہ کی اس مجلس

میں پہنچ گئے جہاں حضرت ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے ان حضرات نے دل لگی کے طور پر حضرت ابو موسیٰؓ کو مزید ڈرا دیا حضرت ابو موسیٰؓ نے فرمایا میرے بھائیو میں پریشان ہوں میری مدد کرو اور جس نے یہ حدیث سنی ہو وہ میرے ساتھ چلا جائے حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ ہم اس مجلس میں سب سے چھوٹے صحابی کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے تاکہ اس قصہ کو زیادہ اہمیت حاصل نہ ہو مجلس میں سب سے چھوٹے حضرت ابوسعید خدریؓ بیٹھے ہوئے تھے وہ حضرت ابو موسیٰؓ کے ساتھ چلے گئے اور گواہی دیدی کہ واقعی یہ مرفوع حدیث ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعبؓ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ حضور اکرمؐ کے صحابہ کے لئے عذاب اور تکلیف کا سبب نہ بنیں حضرت عمرؓ نے فرمایا سبحان اللہ میں عذاب نہیں بننا چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگ حدیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیں۔

تین بار سلام کرنے میں پہلا سلام تعارف کے لئے ہوتا ہے دوسرا سلام اجازت کے لئے ہوتا ہے اور تیسرا سلام واپس چلے جانے کے لئے ہوتا ہے۔

### حضرت ابن مسعود کا آنحضرتؐ سے قرب

﴿۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَكَ عَلَى أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْتَمِعَ سَوَادِي حَتَّىٰ أَنْهَاكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم پردہ اٹھاؤ اور میری باتیں سنو تاکہ میں تمہیں منع نہ کر دوں۔ (مسلم)

### توضیح

”ان ترفع الحجاب“ یعنی گھر کے دروازہ کا پردہ اٹھاؤ اور میری باتیں سنو ”سوادی“ ای سراری یعنی ایسی پوشیدہ باتیں کہ اس کے کرنے کے وقت ایک جسم دوسرے کے جسم کے ساتھ لگ جائے تاکہ کوئی اور نہ سنے۔ حضور اکرمؐ کے گھر کے دروازہ پر بور یہ کا پردہ تھا حضرت ابن مسعود کو یہ خصوصی حیثیت حاصل تھی کہ صرف پردہ اٹھائیں اور اندر جائیں ہاں اگر پردہ اٹھانے کے بعد حضور اکرمؐ نے داخل ہونے سے منع کر دیا تو پھر اجازت نہیں ہوگی ورنہ صرف پردہ اٹھانا ہی اجازت تھی اس سے حضرت ابن مسعود کی شان عالی اور قرب نبوی کا خوب پتہ چلتا ہے عام نووارد صحابہ خیال کرتے تھے کہ حضرت ابن مسعود حضور اکرمؐ کے گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہیں ہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت ابن مسعود کا یہ آنا جانا بیٹھک کی حد تک تھا ازواج مطہرات سے پردہ تو لازم تھا گھر کی بے پردگی کبھی نہیں ہوئی۔

## اپنا تعارف غیر مبہم الفاظ میں کرنا چاہئے

﴿۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں ایک قرض کے معاملہ میں جو میرے باپ پر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لئے دروازے کو کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ہوں، آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ میں ہوں، میں ہوں، گویا آپ نے میرے اس طرح جواب دینے کو برا سمجھا۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”فسی دین“ حضرت جابر کے والد صاحب جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے لیکن آٹھ بچیوں کے علاوہ اپنے پیچھے بہت سارا قرض بھی چھوڑ گئے تھے۔ حضرت جابر اس سلسلہ میں انتہائی پریشان رہتے تھے آنحضرتؐ نے ان سے بہت تعاون بھی کیا اسی قرض کے سلسلہ میں حضرت جابر آنحضرت کے دروازہ پر آئے تھے کہ قرض خواہوں سے کچھ بات ہو جائے تاکہ وہ نرمی کریں یا قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت بن جائے چنانچہ آنحضرت کی برکت سے یہ قرض اتر گیا اور تھوڑی سی کھجوروں میں برکت آ گئی۔

”من ذا“ اس لفظ سے حضور اکرمؐ نے آواز دینے والے کی تعین و تمیز کا ارادہ کیا تھا آگے سے حضرت جابر نے ”انا“ کا لفظ استعمال کیا جس سے نہ تعین ہو سکا اور نہ تمیز حاصل ہوئی اس پر آنحضرت نے نکیر فرمائی کہ انا انا کیا چیز ہے صاف الفاظ میں اپنا نام بتا دو تاکہ ابہام دور ہو جائے انا کے لفظ کے استعمال کرنے سے تو ابہام اب تک باقی ہے پھر اس کے بولنے سے فائدہ کیا ہوا؟

آنحضرت نے حضرت جابر کی آواز پہچانی ہوگی مگر تعلیم امت کے لئے نکیر فرمائی بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف دروازہ کھٹکھٹانے سے آنحضرت ناراض ہوئے کیونکہ اجازت کے لئے تو اسلام میں سلام اور استیذان مقرر ہے۔

اس حدیث سے ان لوگوں کو بھی تعلیم ملتی ہے جو ٹیلیفون کر کے باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اپنا نام نہیں بتاتے گویا ان کا خیال ہے کہ ان کی آواز دنیا کے سب لوگ پہچان لیتے ہیں یہ خام خیالی ہے صاف الفاظ میں کہنا چاہئے کہ میں معروف شاہ ہوں اور قطر سے بات کر رہا ہوں لفظ ”انا انا“ میں اگر آنحضرت کی نکیر اور ناراضگی کو اس طرح لیا جائے کہ آنحضرت نے فرمایا کہ میں بھی میں ہوں یعنی میں میں سے تو کوئی تعارف حاصل نہیں ہو سکتا تو اس مطلب کا بھی امکان ہے اگرچہ میں نے کہیں لکھا ہوا نہیں دیکھا ہے۔

## قاصد کے ساتھ آنے کے وقت مزید اجازت کی ضرورت نہیں

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَنَا فِي قَدْحٍ فَقَالَ أَبَاهِرِ الْحَقَّ بِأَهْلِ الصُّفَةِ فَادْعُهُمْ إِلَى فَاتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (آپ کے گھر) میں داخل ہوا تو آپؐ نے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا پایا آپؐ نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہؓ اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس بلاؤ، چنانچہ میں ان کے پاس جا کر ان کو بلا لایا جب وہ لوگ آئے تو دروازے پر رک کر اندر آنے کی اجازت چاہی آپؐ نے ان کو اجازت دی تو وہ اندر آ گئے۔ (بخاری ذم)

### توضیح

”اہل صفہ“ حضرت ابو ہریرہؓ مسجد نبوی میں آنحضرت کے مدرسہ صفہ کے طالب علم تھے صفہ میں کبھی اسی (۸۰) طالب علم رہتے تھے کبھی چار سو تک بڑھ جاتے کبھی کم ہو جاتے، ضرورت کے وقت جہاد کے لئے تیار رہتے تھے گویا یہ قطعہ منتظرہ کے مجاہدین تھے جو جہادی مدرسہ میں پڑھتے تھے حضرت ابو ہریرہؓ انھیں میں سے ایک تھے خود بھوکے تھے دودھ کا پیالہ آگیا خوش ہوا کہ میں پی لوں گا مگر حضرت ابو ہریرہؓ کو حکم ہوا کہ سب کو بلا لو قاصد کے ساتھ آکر انہوں نے گھر کے پاس اندر داخل ہونے کے لئے پھر اجازت مانگ لی شاید یہ اس وجہ سے مانگی کہ یہ حضرات دیر سے آگئے ہونگے یا شدت حیا کی وجہ سے دروازہ کے پاس دوبارہ اجازت مانگی جو ایک استقبالی امر ہے۔ حدیث نمبر ۶ میں وضاحت ہے۔

### الفصل الثانی

#### سلام کر کے اجازت مانگو

﴿۵﴾ عَنْ كَلْدَةَ بِنِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ ابْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَ بِلَبْنٍ أَوْ جِدَايِهِ وَضَعَا بَيْسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ اسْتَأْذِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ؟ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

حضرت کلدہ ابن حنبلؓ کہتے ہیں کہ صفوان ابن امیہؓ نے میرے ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دودھ، ہرن کا بچہ اور ککڑی بھیجی اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی کنارہ پر (جس کو معلیٰ کہتے ہیں) قیام پذیر تھے، کلدہ

کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں یونہی چلا گیا تو میں نے آنحضرت کی قیامگاہ میں داخل ہونے سے پہلے نہ سلام کیا اور نہ اندر آنے کی اجازت مانگی، چنانچہ آنحضرتؐ نے مجھ سے فرمایا کہ واپس جاؤ (یعنی یہاں سے نکل کر دروازہ پر جاؤ) اور وہاں کھڑے ہو کر) کہو کہ السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ (ترمذی، ابوداؤد)

## توضیح

”جدایۃ“ جدایہ ہرن کے اس چھوٹے بچے کو کہتے ہیں جو چھ ماہ کا ہو بھڑکری کے بچے کو بھی جدایہ کہتے ہیں جیم پر کسرہ اور فتح دونوں جائز ہے۔ ”ضغابیس“ یہ ضغوس کی جمع ہے ککڑی کو کہتے ہیں جو ایک فٹ سے زیادہ لمبے اور انگوٹھے کی طرح موٹے ہوتے ہیں اس کو پشتو میں ترہ کہتے ہیں۔ ”اعلیٰ الوادی“ اس سے مکہ مکرمہ کے بالائی حصے مراد ہیں جس کو المعلاۃ کہتے ہیں۔ ”ارجع“ یعنی اجازت کے لئے اس شخص نے سلام نہیں کیا آنحضرتؐ نے بطور تعلیم و تنبیہ اس کو واپس جانے کا حکم دیا اور پھر سلام کر کے آنے کا حکم دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت لینے کے لئے سلام کرنا ضروری امر ہے۔

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو بلایا جائے اور وہ اسی کے ساتھ چلا آئے جو اس کو بلانے گیا ہے تو اس کے ساتھ آنا ہی اس کے لئے اجازت ہے۔ (ابوداؤد) اور ابوداؤد ہی کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کسی شخص کا کسی شخص کو بلانے کے لئے اس کے پاس آدمی بھیجنا ہی اس کی طرف سے اجازت ہے۔

## اجازت کے وقت دروازہ سے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہئے

﴿۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تَلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سَتُورٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فِي بَابِ الضِّيَافَةِ.

اور حضرت عبد اللہ ابن بسرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر جانے کیلئے اس کے دروازہ پر پہنچتے تو دروازہ کی طرف منہ کر کے کھڑے نہ ہوتے تاکہ گھر والوں پر نظر نہ پڑ جائے (بلکہ دائیں بائیں جانب کھڑے ہوتے اور پھر اجازت مانگنے کے لئے) فرماتے السلام علیکم اور دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ اس



زمانہ میں دروازوں پر پردے نہ پڑے ہوئے تھے۔ (ابوداؤد) اور انس کی یہ روایت قال علیہ الصلوٰۃ والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ باب الضیافۃ میں نقل کی جا چکی ہے

توضیح

”لم یستقبل“ یعنی دروازہ کے مقابل کھڑا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ جب دروازہ کھل جائے گا تو اس طرح گھر کے اندر نظر پڑ سکتی ہے بلکہ دائیں بائیں کھڑا ہونا چاہئے جیسے تبلیغ والے اور ٹیوشن والے کرتے ہیں مفید قسم کے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بالکل بیچ میں کھڑے ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اس حدیث کے آخری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی دور اسلام میں مسلمانوں کے دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے اور بعد کے دور میں پردے آگئے لہذا اگر نظر اندر پڑنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر سامنے کھڑا ہونا منع نہیں ہوگا ممانہ کی اصل علت تو نظر کا اندر پڑنا ہے۔ البتہ نفس سنت پر عمل کرنے کی غرض سے سامنے کھڑا ہونا مناسب نہیں ہوگا۔

### الفصل الثالث

گھر میں ماں بھی ہو پھر بھی اجازت مانگ کر جاؤ

﴿۸﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَسْتَاذِنُ عَلَى أُمِّي فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَاذِنُ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَاذِنُ عَلَيْهَا أَتَحِبُّ أَنْ تَرَاهَا غُرْبَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَاذِنُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

حضرت عطاء ابن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے میں بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اس کے جسم کے اعضاء کھلے ہوئے ہوں جو بیٹے کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے پاس جانا چاہو تو اجازت حاصل کر کے جاؤ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کا خادم ہوں آپ نے فرمایا بہر صورت اجازت حاصل کر کے اس کے پاس جاؤ۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ اس شخص نے کہا کہ ہرگز نہیں آپ نے فرمایا تو پھر اجازت حاصل کر کے اس کے پاس جایا کرو۔ اس روایت کو امام مالک نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

## توضیح

”فاسْتَأْذَنَ“ یعنی گھر میں بسا اوقات عورتیں ایسی حالت میں بیٹھی رہتی ہیں جس میں کوئی آدمی پسند نہیں کرتا ہے کہ ان پر نظر پڑ جائے لہذا ہر صورت میں اجازت مانگ کر اندر جانا چاہئے اجازت کی صورت یہ بھی ہے کہ سلام کے علاوہ داخل ہوتے وقت آدمی کھنکار کر جائے جو توں کی آہٹ بڑھا کر جائے یا دروازہ کو جھٹکا دیکر جائے تاکہ اندر کی خواتین کو آنے والے کا اندازہ ہو جائے حدیث میں ماں کا ذکر ہے مراد وہ تمام عورتیں ہیں جو محارم کے قبیلے سے ہوں ہاں اگر گھر میں صرف بیوی ہو تو اس طرح اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔

## حضرت علیؑ کو اجازت کی ایک صورت

﴿۹﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنْحَنحُ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

اور حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو بھی اور دن کو بھی آیا جایا کرتا تھا، چنانچہ جب میں رات کے وقت حاضر ہوتا تو آپ مجھے اجازت دینے کے لئے کھنکھار دیتے تھے۔ (نسائی)

## توضیح

”تنحنح لی“ حدیث سے یہ بات واضح ہوگئی کہ حضرت علیؑ کو رات کے وقت آنحضرت کے گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت اس طرح ہوتی تھی کہ آنحضرت کھنکار لیتے تھے اس سے یہ امر معلوم نہ ہو سکا کہ دن کے وقت اجازت کی کوئی علامت مقرر تھی ممکن ہے کہ دن کے وقت حضرت علیؑ کا کھنکھارنا اجازت کی علامت ہوتی تھی جس طرح کہ عام طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ آنحضرت کا کھنکھارنا عدم اجازت کی دلیل تھی اس لئے حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ آپؐ کے کھنکھارنے سے میں واپس چلا جاتا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آنحضرت کا کھنکھارنا اجازت اور عدم اجازت دونوں کی علامت ہوتی تھی تاہم خارجی قرینہ سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ اجازت کی علامت ہے اور یہ عدم اجازت کی علامت ہے۔

﴿۱۰﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سلام سے پہل نہ کرے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دو۔ (بیہقی)

## باب المصافحة والمعانقة

### مصافحہ اور معانقہ کا بیان

اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے مصافحہ کرنا مسلمانوں کی معاشرت کا ایک حصہ ہے اس لئے اسلام میں اس کے مسائل و فضائل کا ذکر کیا گیا ہے مصافحہ صفحہ سے ہے صفحہ کسی چیز کی چوڑائی والے حصہ کو کہتے ہیں۔ چہرہ کے چوڑے حصہ کو بھی صفحہ کہتے ہیں درگزر اور اعراض کا معنی بھی صفحہ میں پڑا ہے تو مصافحہ کا مطلب یہ ہوا ایک ہاتھ کی چوڑائی کو دوسرے کے ہاتھ کی چوڑائی پر رکھنے کا نام مصافحہ ہے اس طرح ہاتھ رکھنے اور آپس میں ملنے سے درگزر کا معنی بھی پورا ہو جاتا ہے کیونکہ مصافحہ میں درگزر ہوتا ہے۔

اسلام میں سلام کرنے کا الگ مقام ہے اور مصافحہ کرنے کا الگ مقام ہے لیکن سلام مع المصافحہ بھی اسلام میں مشروع ہے تاکہ ملاقات کا پورا حق ادا ہو جائے۔

مل ملاقات کے وقت دیگر اقوام کے بھی کچھ طریقے ہیں یہود انگلیوں سے ایک خاص طرز پر اشارہ کرتے ہیں اور عیسائی ہتھیلی سے سلیوٹ کرتے ہیں اسلام نے نہایت عمدہ طریقہ سکھایا ہے اور آنحضرت کا طریقہ سب سے عمدہ ہے کیونکہ۔

جہاں تک آپ کی تقلید ہے اسی حد تک ☆ سلیقہ بشریت بشر کو ملتا ہے

مصافحہ دونوں ہاتھ سے کرنا علماء و صلحاء کی نشانی ہے اور یہ کامل سنت ہے لیکن غیر مقلدین اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔

اگر سلف صالحین کے ہاں کبھی کبھار ایک ہاتھ سے مصافحہ ہوا ہو تو وہ عام عادت نہیں تھی عام عادت جو منقول ہے اور جن کو علماء و صلحاء نے کامل سنت کہا ہے وہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ ہے جو متواتر چلا آیا ہے اگرچہ کسی صریح حدیث سے واضح طور پر اس کا ثبوت مجھے نہیں ملا ہے امام بخاری نے بخاری میں ایک عنوان قائم کر رکھا ہے لیکن وہ اخذ الید بالیدین ہے کہ آنحضرت نے حضرت ابن مسعود کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے غیر مقلدین کے علاوہ وہ جزیرہ عرب اور سعودی کے لوگ اور عام جنٹلمین لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔

نماز جمعہ و عیدین اور پنجگانہ نمازوں کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کو علماء نے خلاف سنت بلکہ بدعت کہا ہے اور اس کو مکروہ لکھا ہے، کسی اجنبیہ جوان عورت سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جن کو دیکھنا جائز نہ ہو اس کا جسم چھونا بھی جائز نہیں ہے بوڑھی عورت سے سلام بوجہ عدم فتنہ جائز ہے۔

سلام کے بعد سینہ پر ہاتھ رکھنا کسی حدیث و نص سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ اغلاط عوام میں سے ہے اور عشاق کا طریقہ ہے شاعر ساحر کہتا ہے۔

حاولن تفدیتی وخفن مراقباً ☆ فوضعن ایدھن فوق ترائباً  
”والمعانقة“ سلام اور مصافحہ کے ساتھ معافۃ بھی اسلام میں جائز ہے معافۃ گردن کو گردن سے اور کچھ سینہ کو سینہ سے ملا کر ملنے کو کہتے ہیں کچھ لوگ اس کی ایک مکروہ شکل بناتے ہیں اور پیٹ کو جھٹکے دیتے ہیں یہ معافۃ نہیں بلکہ مباطنہ ہے خیال رکھنا چاہئے۔ فیض نہ ہونے کی صورت میں بھی معافۃ مکروہ ہے۔

## الفصل الاول

### مصافحہ ثابت ہے

﴿۱﴾ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لَأَنْسِ أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت قتادہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ سے دریافت کیا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ (باہمی ملاقات کے بعد) مصافحہ کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ (بخاری)

### بچے کو چومنا مستحب ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَنَدُ كُرْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْمٌ لَكَّعَ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَذَكَرَ حَدِيثُ أُمِّ هَانِيٍّ فِي بَابِ الْأَمَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کا بوسہ لیا تو ایک صحابی اقرع ابن حابس نے جو اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھے کہا کہ میرے دس بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کا کبھی بوسہ نہیں لیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکران کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا یعنی جو شخص اپنی اولاد یا مخلوق اپنی اولاد یا مخلوق خدا پر لطف و شفقت نہیں کرتا اس پر اللہ کی رحمت و شفقت نہیں ہوتی۔ (بخاری و مسلم)

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ”اثم کلع“ کو ہم انشاء اللہ مناقب اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم اجمعین کے باب میں نقل کریں گے اور حضرت ام ہانی کی روایت باب الامان میں نقل کی جا چکی ہے۔

## الفصل الثانی

### مصافحہ کی فضیلت

﴿۳﴾ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ الْأَغْفَرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ إِذَا لَتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَيَتَصَافَحَانِ وَحَمِدَا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا

حضرت براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے خدا ان کو بخش دیتا ہے۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ) اور ابوداؤد کی روایت میں یوں ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا جب دو مسلمان ملیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور بخشش چاہیں تو ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے۔

### سلام کے وقت جھکنا ممنوع ہے

﴿۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّجُلُ مِمَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْحَنِیْ لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَقْبَلْتَرُمُهُ وَيُقْبَلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَفِيَاخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی جب اپنے مسلمان بھائی یا اپنے دوست سے ملاقات کرے تو کیا وہ جھک جائے؟ آپؐ نے فرمایا نہیں اس شخص نے کہا کہ کیا اس سے گلے ملے اور اس کو بوسہ دے؟ آپؐ نے فرمایا نہیں اس نے کہا تو کیا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے مصافحہ کرے؟ آپؐ نے فرمایا ہاں۔ (ترمذی)

### توضیح

”قال لا“ یعنی سلام کے وقت جھکنا ممنوع ہے اس سے بدعت اور شرک کا دروازہ کھل سکتا ہے اس حدیث میں جس طرح سلام کے وقت جھکنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اسی طرح اس میں ایک دوسرے سے چپک کر معانقہ کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے اور ہاتھ وغیرہ چومنے کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ ہاتھ کا بوسہ اگر دنیا کی غرض سے ہو تو یہ بالاتفاق مکروہ تحریمی ہے لیکن اگر والدین یا اساتذہ یا مشائخ اہل

اللہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا جائے تو یہ جائز ہے مگر دنیا دار کے ہاتھ وغیرہ کو دنیا کی غرض سے چومنا جائز نہیں ہے لہذا ممانعت کی صورت انھیں ممنوع صورتوں کے ساتھ ہے۔

## سلام کا ایک طریقہ

﴿۵﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ فَيُسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمُصَافَحَةُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعْفَهُ

اور حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پھر پوچھے کہ اس کا کیا حال ہے؟ اور تمہارا پورا سلام کہ جو تم آپس میں کرتے ہو مصافحہ ہے یعنی جب تم سلام کرو تو مصافحہ بھی کرو تا کہ سلام پورا اور کامل ہو۔ اس روایت کو احمد و ترمذی نے نقل کیا ہے اور اس کو ضعیف کہا ہے۔

## سفر سے آنے والے سے معانقہ اور تقبیل جائز ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَاتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرِيَانًا يَجْرُ ثَوْبُهُ وَاللَّهُ مَا رَأَيْتُهُ غُرِيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں ایک مرتبہ زید بن حارثہ مدینہ پہنچے تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، زیدؓ آنحضرتؐ (کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے میرے گھر) آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ بدن اپنے کپڑے یعنی چادر کو کھینچے ہوئے زید سے ملنے کے لئے باہر تشریف لے گئے (یعنی اس وقت آنحضرتؐ کے جسم مبارک پر تہبند کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا اور آپؐ اسی حالت میں دروازہ پر تشریف لے گئے) قسم ہے خدا کی میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی آپؐ کو برہنہ نہیں دیکھا (یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپؐ نے کسی کے استقبال کے وقت اس طرح اظہار شوق و تمنا کیا ہو اور اس سے ملنے کے لئے برہنہ بدن باہر تشریف لے گئے ہوں) بہر حال آپؐ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا اور بوسہ دیا۔ (ترمذی)

توضیح

”فاعتنقه“ یعنی آنحضرتؐ نے زید بن حارثہ سے معانقہ کیا، اس حدیث سے معانقہ اور تقبیل کا ثبوت ملتا ہے آئندہ حضرت

جعفر کی حدیث نمبر ۱۰ سے بھی معانقہ و تقبیل کا ثبوت ملتا ہے فقہاء نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ یہ جائز ہے جہاں ممانعت کی روایت ہے وہ اس تقبیل پر محمول ہے جو دنیا کی غرض سے ہو۔ ”عریانا“ یعنی آنحضرتؐ صرف تہبند پہنے ہوئے تھے بالکل برہنہ بدن نہیں تھے۔

### معانقہ جائز ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ بُشَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَزْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيتُمُوهُ قَالَ مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافِحَنِي وَبَعَثَ إِلَيَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ أَكُنْ فِي أَهْلِي فَلَمَّا جِئْتُ أُخْبِرْتُ فَاتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ فَالْتَزَمَنِي فَكَانَتْ تِلْكَ أَجُودَ وَأَجُودَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ایوب ابن بشیر قبیلہ عذرہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابوذرؓ سے پوچھا جب آپ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے تو کیا آنحضرتؐ آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ حضرت ابوذرؓ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی آنحضرتؐ سے ملاقات کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصافحہ کیا اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ آنحضرتؐ نے مجھے بلانے کے لئے میرے پاس (ایک شخص) کو بھیجا اس وقت میں اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ جب میں گھر آیا تو مجھے اس کی اطلاع دی گئی، چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت ایک تخت پر تشریف فرما تھے آپ نے مجھ کو گلے لگایا اور یہ گلے لگانا (حصول لطف و سرور اور برکت کے اعتبار سے مصافحہ کی نسبت) بہتر تھا کہیں زیادہ بہتر۔ (ابوداؤد)

### حضرت عکرمہؓ کی آمد پر معانقہ

﴿۸﴾ وَعَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جِئْتُهُ مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت عکرمہؓ ابن ابی جہل کہتے ہیں کہ (فتح مکہ کے بعد اس دن جب کہ میں اسلام قبول کرنے کے لئے) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپؐ نے (مجھے دیکھ کر) فرمایا (اللہ اور رسول کی طرف یا دار الحرب سے دارالاسلام کی طرف) ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید۔ (ترمذی)

### توضیح

فتح مکہ کے موقع پر عکرمہ بن ابی جہل مسلمانوں کے مقابلے پر آیا تھا مگر حضرت خالد بن ولیدؓ کے ہاتھوں شکست کھا کر یمن کی طرف بھاگ نکلا ان کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی اس نے اس کے لئے آنحضرتؐ سے امان لے لی یہ آمد اسی موقع کی ہے

آنحضرت نے بطور تلافیٰ انکو ”الراکب“ اور ”المہاجر“ کے نام سے یاد کیا کیونکہ اونٹ پر سوار آرہے تھے اور کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کر کے آرہے تھے تفصیلی روایت میں معانقہ کا ذکر ہے اس حدیث سے کسی مسافر کی آمد پر استقبال کا ثبوت بھی ملتا ہے اور مبارک باد کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔

## ایک شخص کا آنحضرت کو بوسہ دینے کا عجیب قصہ

﴿۹﴾ وَعَنْ أَسِيدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مَزَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتِهِ بَعُودٌ فَقَالَ أَصْبِرْنِي قَالَ أَصْطَبِرُ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ قَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت اسید ابن حذیرؓ جو انصار میں سے تھے کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ اس وقت جب کہ (اسید) لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کے مزاح میں خوش طبعی و ظرافت تھی اس کے تحت لوگوں کو ہنسارہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ازراہ مزاح) ان کے پہلو میں ایک لکڑی سے ٹھوکا دیا، انہوں نے آنحضرتؐ سے کہا کہ مجھے اس ٹھوکا دینے کا بدلہ دیجئے آپؐ نے فرمایا کہ بوجھ سے بدلہ لے لو، انہوں نے کہا کہ آپؐ کے جسم پر کپڑا ہے اور میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ اٹھا دیا اسید آپؐ کے پہلو سے لپٹ گئے اور پہلو پر بوسہ دینا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! میں صرف یہی چاہتا تھا (یعنی بدن مبارک پر بوسہ دینا)۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”رجل“ مصابیح میں رجل کا لفظ مجرور ہے جو اسید بن حذیر کی صفت ہے اس سے یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ آنحضرتؐ سے بدلہ لینے کا جو واقعہ مذکور ہے یہ انصار کا مایہ ناز شان والے مشہور صحابی اسید بن حذیر ہیں لیکن مزاح کا یہ انداز ان کی شان کے خلاف ہے لہذا یہ واقعہ کسی اور آدمی کا ہے جس کی طبعیت میں مزاح تھا اور وہ بھی انصار میں سے تھے اس کا قصہ مشہور صحابی حضرت اسید بن حذیر نے بیان کیا ہے اس بات کی تائید جامع الاصول کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔

جہاں لفظ رجل جلا ہے تو عبارت اس طرح ہے ”عن اسید بن حذیر قال ان رجلا من الانصار كان فيه مزاح“ بہر حال صحیح اور راجح یہی ہے کہ حضرت اسید بن حذیرؓ اس حدیث کے راوی ہیں قصہ اور واقعہ کسی اور شخص کا ہے۔

”اصبرنی“ یعنی میں آپؐ سے بدلہ لوں گا اس لئے آپؐ میرے لئے صبر کریں مطلب یہ کہ مجھے بدلہ دیں۔ ”اصطبر“ یعنی میں بدلہ دینے کے لئے صبر کروں گا تم اپنا بدلہ لے لو۔ ”موسلا“ ان حضرات نے اس روایت کو بطریق ارسال نقل کیا ہے



لیکن شرح السنۃ میں بیاضی کے حوالے سے اس حدیث کو متصل ذکر کیا ہے بیاضی بیاضہ بن عامر کی طرف منسوب ہے مطلق بیاضی کا ذکر جہاں ہو وہاں عبد اللہ بن جابر انصاری مراد ہوتے ہیں۔

### پیشانی پر بوسہ دینا ثابت ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ هَبَّاقٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُرْسَلًا وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنِ الْبَيَاضِيِّ مُتَّصِلًا

اور حضرت شعبی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب سے ملے تو ان کو گلے سے لگایا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اس روایت کو ابو داؤد اور شعب الایمان میں بیہقی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے جب کہ مصابیح کے بعض نسخوں اور شرح السنۃ میں یہ روایت بیاضی سے بطریق اتصال نقل کی گئی ہے۔

### توضیح

”جعفر بن ابی طالب“ حضرت جعفر طیار نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کی زیر بحث حدیث میں اسی حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ذکر ہے آنحضرت کی حضرت جعفر سے ملاقات کا جو ذکر ہے وہ اسی موقع کا ہے۔ ”قبل بین عینہ“ اس سے پیشانی کا بوسہ لینا ثابت ہو جاتا ہے۔

### قدم جعفر پر خوشی

﴿۱۱﴾ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قِصَّةِ رُجُوعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتَّى آتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَتَلَقَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَنِي ثُمَّ قَالَ مَا أَدْرِي أَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَفْرَحُ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ وَوَأَفَقَ ذَلِكَ فَفَتْحَ خَيْبَرَ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ

اور حضرت جعفر بن ابی طالب سرزمین حبشہ سے واپسی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ملاقات کی آپ نے مجھے گلے لگایا اور فرمایا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں خیبر کے فتح ہو جانے کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے واپس آنے کی وجہ سے، اور اتفاق سے حضرت جعفر اسی دن آئے تھے جس دن خیبر فتح ہوا تھا۔ (شرح السنۃ)

## پاؤں کو بوسہ دینا کیسا ہے؟

﴿۱۲﴾ وَعَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت زارع جو عبد القیس کے وفد میں شامل تھے کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترنے لگے چنانچہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ (ابوداؤد)

### توضیح

”ورجلہ“ یعنی ہم سواریوں سے اتر کر آنحضرت کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ ہاتھ یا پیشانی کے بوسہ دینے میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اہل دین کی پیشانی اور ہاتھوں کو بوسہ دینا احادیث سے ثابت ہے اگر کوئی دنیوی غرض نہ ہو تو اس بوسہ میں کوئی کلام نہیں ہے البتہ پاؤں کو بوسہ دینے میں جھکنا پڑتا ہے جس سے سجدہ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اس میں کلام ہے۔ اگر کوئی شخص اوپر پلنگ وغیرہ بلند مقام پر ہو اور کوئی شخص اس کے پاؤں کو چوم رہا ہو اور سجدہ کی صورت نہیں بن رہی ہو تو اس میں بحث نہیں ہے بحث اس میں ہے کہ پاؤں کو بوسہ دینے میں جو سجدہ کی صورت بنتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ احناف کے کچھ علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کو سجدہ تعظیمی سے الگ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں نہ عبادت والا سجدہ ہے اور نہ تعظیم والا سجدہ ہے یہ صرف احترام و اکرام کی ایک صورت ہے۔ ”عمدة الفقہ“ میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اور احسن الفتاویٰ میں مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز لکھا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو ثابت کرنے اور دلائل پیش کرنے کی بڑی کوشش کی ہے زیر بحث حدیث ان حضرات کی بڑی دلیل ہے لیکن عام فقہاء پاؤں کو بوسہ دینا جائز نہیں سمجھتے ہیں اور زیر بحث حدیث کو خصوصیت پیغمبری پر حمل کرتے ہیں اور قدم بوسی کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں بندہ عاجز بھی انھیں فقہاء کی رائے کو پسند کرتا ہے جنہوں نے پاؤں چومنے کو ناپسند عمل قرار دیا ہے اور حدیث کو خصوصیت پیغمبری پر حمل کیا ہے یا یہ کہ ابتداء میں یہ عمل جائز تھا پھر ممنوع قرار دیا گیا یا کوئی اور وجہ ہوگی بہر حال پاؤں میں پڑ کر جھکنا اور اس کو چومنا اسلامی تعلیمات کی روح کے منافی معلوم ہوتا ہے۔

### حضرت فاطمہؓ کا عمل

﴿۱۳﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَذَلًّا وَفِي رَوَايَةِ حَدِيثًا وَكَلَامًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا

وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے طور طریقہ، عادات و روش اور نیک خصلتی اور ایک روایت میں ہے کہ بات چیت اور کلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت فاطمہؓ سے زیادہ کسی اور شخص میں نہیں دیکھی (یعنی حضرت فاطمہؓ ان امور میں آنحضرتؐ سے بہت مشابہ تھیں) فاطمہؓ جب آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آنحضرتؐ کھڑے ہو جاتے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ان کو بوسہ دیتے اور پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کو دیکھ کر کھڑی ہو جاتیں آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتیں پھر آپ کو بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔ (ابوداؤد)

توضیح

”سمتا“ طور و طریقہ کو کہتے ہیں ”ہدیاً“ عادات اور روش کے معنی میں ہے ”ودلا“ چال چلن کو کہتے ہیں ان الفاظ میں ترادف بھی اور معمولی تغایر بھی ہے۔

حضرت فاطمہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ چومنا جائز ہے اس میں کوئی کلام نہیں کہ والدین کے ہاتھ چومنا جائز بھی ہے اور اولاد کو اس پر عمل بھی کرنا چاہئے والدین اگر بطور شفقت اپنی اولاد کے ہاتھ کو بوسہ دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ محبت و شفقت پر محمول امور ہیں اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہئے

### حضرت صدیق کا عمل

﴿۱۴﴾ وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُصْطَجِعَةً قَدْ أَصَابَهَا حُمَّى فَاتَّاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بَنِيَّةُ وَقَبَّلَ خَدَّهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی غزوہ سے حضرت ابوبکرؓ کے مدینہ آتے ہی ان کے ساتھ گیا تو دیکھتا ہوں کہ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہیں اور بخار میں مبتلا ہیں چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ میری بیٹی تمہاری طبیعت کیسی ہے اور انہوں نے براہ شفقت و محبت یا برعایت سنت ان کے رخسار پر بوسہ دیا۔ (ابوداؤد)

### اولاد گل ریحان کی مانند ہیں

﴿۱۵﴾ وَعَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِصَبِيٍّ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ أَمَّا إِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجْنِبَةٌ وَأَنَّهُمْ لَمِنْ رِيحَانِ اللَّهِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ.

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا آپ نے اس کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ جان لویہ اولاد بخل کا باعث اور بزدلی کا سبب ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اولاد خدا کی عطا کردہ نعمت اور رزق بھی ہے۔ (شرح السنۃ)

## توضیح

”مبخلۃ“ اولاد بخل کا ذریعہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کی اولاد نہ ہوں تو وہ ہاتھ کھلا رکھتا ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے اندھا دھند خرچ کرتا ہے لیکن جب چوزوں کی طرح اولاد آجاتی ہیں تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ اب ان بچوں کی پرورش کے لئے پیسہ بچا کر رکھنا ضروری ہے اس طرح آدمی بخل پر اتر آتا ہے اور کھل کر اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا۔

”مبجنۃ“ آدمی کی جب اولاد نہیں ہوتی تو وہ اندھا دھند میدان جنگ میں کود جاتا ہے نہ اس کو اپنی فکر ہوتی ہے اور نہ جان کی فکر ہوتی ہے لیکن اگر اولاد ہوں تو یہ آدمی انتہائی احتیاط سے زندگی گزارنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں لڑنا نہیں چاہتا اس طرح وہ بزدل بن جاتا ہے۔

”ریحان اللہ“ یعنی خوشبودار پھول کی طرح یہ چھوٹے بچے گھومتے پھرتے ہیں عام والدین بچے کو ناک سے لگا کر سونگھتے رہتے ہیں۔ ریحان سے رزق بھی مراد لیا جاسکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔

## الفصل الثالث

﴿۱۶﴾ عَنْ يَعْلَى قَالَ إِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا اسْتَبَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

حضرت یعلیٰ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کہیں سے دوڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان دونوں کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ بچے بخل کا سبب ہیں اور بزدلی کا باعث ہیں۔ (احمد)

## ہدیہ دیا کرو محبت بڑھے گی

﴿۱۷﴾ وَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ وَتَهَادُّوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبُ الشُّحْنَاءُ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا

اور حضرت عطاء خراسانی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو کہ اس سے بغض و کینہ جاتا رہے گا اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ و تحفہ بھیجتے رہا کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور دشمنی جاتی رہتی ہے۔ امام مالک نے اس روایت کو بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

”الغل“ کینہ و حسد اور بغض و عداوت کو الغل کہتے ہیں غین پر زیر ہے۔ ”الشحناء“ دل کے اندر جو کینہ ہوتا ہے اس کو شحناء کہتے ہیں مراد دشمنی ہے۔

### مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں

﴿۱۸﴾ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَانَ مَا صَلَّاهُمْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ .

اور حضرت براء ابن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دوپہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھی اس نے گویا ان چار رکعتوں کو شب قدر میں پڑھا اور دو مسلمان جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کوئی گناہ باقی نہیں رہتا بلکہ جھڑ جاتا ہے اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

## باب القیام

## تعظیماً کھڑے ہونے کا بیان

قیام کھڑے ہونے کے معنی میں ہے لیکن یہاں مطلق کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ کسی آنے والے کے سامنے تعظیم کے لئے احتراماً کھڑے ہونے کا بیان ہے، بعض احادیث میں اس قیام کی سخت ممانعت آئی ہے حضور اکرمؐ نے اپنے لئے اس قیام کی سخت ممانعت فرمائی ہے اور اس کو عجمیوں کا ناجائز طریقہ بتایا ہے لیکن بعض احادیث سے قیام کی اجازت معلوم ہوتی ہے اس لئے اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف آیا ہے۔

## علماء کا اختلاف

احادیث و روایات اور واقعات میں اختلاف کی وجہ سے علماء کرام کے درمیان اختلاف آیا ہے کہ تعظیماً و احتراماً کسی کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے یا جائز نہیں؟  
علماء کا ایک طبقہ اس طرف گیا ہے کہ کسی کے لئے احتراماً کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا طبقہ علماء کرام کا کہتا ہے کہ کسی شخص کی آمد پر بطور احترام و اکرام کھڑا ہونا جائز ہے۔

## دلائل

جو علماء اس قیام کو منع کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قیام کی ممانعت میں بہت ساری احادیث آئی ہیں اس میں سخت وعیدات ہیں اور اس کو اجماع کفار وغیرہ کا طریقہ قرار دیکر منع کیا گیا ہے مثلاً حدیث نمبر ۴ و ۵ و ۶ میں واضح الفاظ میں اس قیام کو ناجائز کہا گیا ہے لہذا یہ قیام مکروہ بلکہ بدعت ہے۔

جو علماء اس قیام کو جائز کہتے ہیں وہ حضرت سعد کی حدیث نمبر ۱ سے استدلال کرتے ہیں جس میں ”قوموا الی سیدکم“ کے الفاظ آئے ہیں اسی طرح احادیث میں ہے کہ آنحضرت حضرت فاطمہ الزہراء کے لئے کھڑے ہوئے تھے حضرت عکرمہ کی آمد پر آپ کھڑے ہو گئے تھے اور حضرت عدی کی آمد پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے یہ سب جواز کے دلائل ہیں۔

## جواب

علماء کا جو طبقہ قیام کو منع کرتے ہیں وہ قیام کے جواز کی روایات کا اس طرح جواب دیتے ہیں کہ حضرت سعدؓ کے واقعہ کو ان کی مجبوری پر حمل کرتے ہیں کہ وہ زخمی تھے اپنی سواری سے خود نہیں اتر سکتے تھے اس لئے آنحضرت نے فرمایا!

”قوموا الی سیدکم“ یعنی ان کی مدد کے لئے کھڑے ہو جاؤ اگر احترام اور تعظیم کی بات ہوتی تو آنحضرت ”قوموا الی سیدکم“ فرماتے باقی حضرت عکرمہ وعدی وغیرہ کی روایات سخت ضعیف ہیں۔

علماء کا دوسرا طبقہ جو قیام کے جواز کا قائل ہے وہ قیام کی ممانعت کی احادیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ آنحضرت نے عجمیوں کے طرز پر قیام کو منع فرمایا ہے اور وہ یقیناً ممنوع ہے کیونکہ اس میں بڑا شخص مجلس میں بیٹھا رہتا تھا جب تک وہ بیٹھا رہتا باقی لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے رہتے بلکہ وہ کھڑے رہنے کے پابند ہوتے تھے وہ اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتے تھے اور مجلس کا ڈیرہ اس قیام کو چاہتا تھا بلکہ حکم دیتا تھا اس طرح قیام کی حرمت و بدعت ہونے میں کیا شبہ ہے؟ یہ تو سب کے نزدیک حرام ہے لیکن اگر کسی صاحب فضل و بزرگی والے شخص کے لئے محض احترام اور دینی محبت کی بنیاد پر کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ عالم و فاضل شخص اس قیام کو پسند بھی نہیں کرتا ہے تو جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس طرح کھڑا ہونا جائز ہے۔

علامہ طیبی اور محی السنۃ نے لکھا ہے کہ صلحاء اور علماء بزرگوں اور اولیاء کے لئے دینی محبت کی بنیاد پر کھڑا ہونا جائز ہے۔ ”مطالب المؤمنین“ نے ”قیہ“ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص خود قیام چاہتا ہے تو اس خود پسندی کی وجہ سے اس کے لئے قیام مکروہ ہے لیکن جو شخص صاحب احترام ہو اور وہ قیام کو طلب بھی نہیں کرتا ہو تو اس کے لئے قیام مکروہ نہیں ہوگا۔ قاضی عیاض مالکی لکھتے ہیں کہ احادیث میں ممنوعہ قیام سے وہ قیام مراد ہے جو عجمی لوگ کرتے تھے کہ بیٹھے رہنے والے شخص کے احترام میں کچھ لوگ آخر تک کھڑے رہتے تھے اور وہ اس کے پابند ہوتے تھے یہ مکروہ و ممنوع ہے۔

خلاصہ

اس پوری بحث کا خلاصہ اور محاکمہ یہ ہے کہ جو شخص صاحب اکرام ہو عالم ہو ولی کامل اور نیک ہو وہ اپنے لئے کسی کے قیام کو پسند بھی نہیں کرتا اور کوئی شخص دنیوی غرض کے بغیر خالص دینی محبت کی بنیاد پر اس کے احترام کے لئے کھڑا ہوتا ہو اور یہ قیام عجمیوں کے طرز پر بھی نہ ہو تو اس قیام میں مضائقہ نہیں ہے جن احادیث سے جواز کا پتہ چلتا ہے وہ اسی پر محمول ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص عالم فاضل نہیں ہے یا عالم فاضل ہے لیکن اس قیام کو چاہتا ہے تو اس کے لئے قیام منع ہے اور اگر کوئی دنیا دار شخص ہے اور دنیوی اغراض کے تحت لوگ اس کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دل سے اس کو چاہتا ہے تو یہ سخت ممنوع ہے جن احادیث میں قیام کی ممانعت آئی ہے وہ اسی طرح کے قیام پر محمول ہیں۔

## الفصل الاول

حضرت سعدؓ کے لئے مجلس والوں کا اٹھنا

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَيَّ سَيِّدُكُمْ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَضَى الْحَدِيثُ بِطَوْلِهِ فِي بَابِ حُكْمِ الْأَسْرَاءِ

حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ جب بنو قریظہ حضرت سعد کے حکم و ثالث بنانے پر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو حضرت سعد کے پاس بھیجا اس وقت حضرت سعد آنحضرت کی قیام گاہ کے قریب ہی فروکش تھے، چنانچہ وہ خر پر بیٹھ کر آئے اور جب مسجد کے قریب پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان کو دیکھ کر) فرمایا اے انصار تم اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ، (بخاری و مسلم) اور یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ قیدیوں کے باب میں گزر چکی ہے۔ اس باب کی ابتدائی بحث گویا اس حدیث کی تشریح و توضیح ہے جو تفصیل سے لکھی گئی ہے نیز کتاب الجہاد میں حکم الاسرا میں یہ حدیث گزری ہے وہاں کی تشریح ملاحظہ کیجئے۔

کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھنا جائز نہیں ہے

﴿۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفْسُحُوا وَتَوَسَّعُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ایسا نہ ہونا چاہئے کہ جو آدمی جس جگہ بیٹھ گیا ہو کوئی شخص اس کو وہاں سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے البتہ (بیٹھنے کی) جگہ کو کشادہ رکھو اور آنے والے کو جگہ دو (تاکہ اٹھانے کی حاجت نہ ہو) بخاری و مسلم

بعض لوگ حیلہ بہانہ کر کے دوسرے کو مجلس سے اٹھا کر رخصت کرتے ہیں اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ زبردستی اٹھانا تو اور زیادہ مکروہ و ممنوع ہے مجلس میں وسعت پیدا کرنا چاہئے۔

مجلس سے کچھ دیر کیلئے اٹھنے والے کی جگہ کا حکم

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جائے اور پھر وہاں واپس آئے تو اس جگہ کا زیادہ حق دار وہی ہوگا۔ (مسلم)

توضیح

”فہو احق“ یعنی ایک شخص مجلس سے کچھ دیر کیلئے اٹھ کر چلا گیا اگر اس نے اپنی جگہ پر اپنی کوئی نشانی رکھ لی یا فوراً واپس



آگیا تو یہ شخص اپنی جگہ کے سب سے زیادہ مستحق اور حقدار ہے لیکن اگر یہ شخص دیر تک نہیں آیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور بیٹھ گیا تو اب اس کا حق باقی نہیں رہا اسی طرح اگر کسی شخص نے جگہ گھیر لی اور اس پر چادر وغیرہ رکھ دی لیکن طویل عرصہ تک جگہ سے غائب رہا تب بھی اس کی جگہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اگرچہ اس نے نشانی رکھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں کسی جگہ کو اپنے لئے اس طرح خاص کرنا جائز نہیں ہے کہ اس پر کوئی دوسرا بیٹھ بھی نہ سکے۔

## الفصل الثانی

### آنحضرت اپنے لئے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے

﴿۴﴾ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهِ لَذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب و عزیز کوئی اور شخص نہیں تھا لیکن (اس محبت و تعلق کے باوجود) صحابہ جب آنحضرت کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنحضرت اس کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

### توضیح

آنحضرت نے اپنے لئے قیام کو پسند نہیں فرمایا یہ آپ کی کمال انکساری اور تواضع تھی نیز یہ روکناسد اللذرائع بھی تھا اگر آپ اس قیام کو رواج دیتے تو نہ معلوم بات کہاں سے کہاں تک جا پہنچتی لہذا مختلف اوقات و مقامات اور مختلف حالات کو دیکھنا پڑیگا کہ کن صورتوں میں قیام کی ممانعت ہے اور کن کن صورتوں میں اباحت ہے تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

### لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا رکھنے کی شدید وعید

﴿۵﴾ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ اور حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے سیدھے کھڑے رہیں تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ دوزخ میں تیار کرے۔ (ترمذی ابو داؤد)

### توضیح

”قیاما“ وہی عجمیوں والا قیام مراد ہے جس میں نخوت و تکبر اور ترفع و تجبر ہوتا ہے جو یقیناً منع ہے آج کل جمعیت علماء اسلام

کے جلسوں میں لیڈر کی آمد پر پنڈال والے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ وہی ممنوع صورت ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے ان لیڈروں پر واجب ہے کہ وہ عوام کو اس سے روکے اور وعید سے بچ جائیں۔

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِنًا عَلَى عَصَا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصا مبارک پر سہارا دیئے ہوئے باہر تشریف لائے تو ہم آپ کے احترام میں کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس طرح کھڑے نہ ہو جس طرح عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان میں بعض بعض کی تعظیم کرتے ہیں۔ (ابوداؤد)

﴿۷﴾ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةِ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبٍ مَنْ لَمْ يَكُسْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت سعید ابن ابوالحسن رحمۃ اللہ جو ایک جلیل القدر اور ثقہ تابعی اور حضرت حسن بصری کے بھائی ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکرہ صحابی ہمارے پاس گواہی دینے کے لئے تشریف لائے ایک شخص ان کے احترام میں اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا لیکن انہوں نے اس جگہ پر بیٹھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے نیز آنحضرتؐ نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی ایسے شخص کے کپڑے سے اپنے ہاتھ پونچھے جس کو اس نے کپڑا نہیں پہنایا ہے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”فی شہادۃ“ یعنی کسی مقدمہ میں آپ کو گواہی دینی تھی اس لئے آپ تشریف لائے تھے۔ ”فأبى“ حضرت ابوبکرہ نے اس لئے انکار کیا کہ شاید وہ شخص دل سے خوش نہیں تھا صرف رعایت کی خاطر کھڑے ہو گئے اور جگہ چھوڑ دی یا حضرت ابوبکرہ نے تقویٰ اور احتیاط کی بنیاد پر ایسا کیا یا کوئی اور عارضی وجہ ہوگی کیونکہ یہ عدالت اور محکمہ عدالت کا ماحول تھا۔

اگر مجلس میں واپس آنا ہو تو نشانی رکھ کر جاؤ

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابَهُ فَيَسْتَبْنُونَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت ابودرداءؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف رکھتے اور ہم آپ کے گرد بیٹھتے اور پھر آپ واپس

آنے کے ارادہ سے (گھر میں جانے کے لئے) اٹھتے تو (اپنی جگہ) پر جوتیاں اتار کر رکھ جاتے (اور ننگے پیر چلے جاتے) یا اپنے بدن کی کوئی چیز (جیسے چادر وغیرہ) اس جگہ چھوڑ جاتے، اس سے آپؐ کے صحابہ جان لیتے کہ آپؐ مجلس میں پھر آئیں گے چنانچہ وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہتے۔ (ابوداؤد)

## دو آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھنا منع ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کسی شخص کے لئے یہ حلال نہیں کہ دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر جدائی ڈالے۔ (ترمذی و ابوداؤد)

## توضیح

”ان یفرق“ یعنی دوساھی آپس میں بیٹھے ہیں کہ اتنے میں تیسرا آدمی آکر ان کے درمیان گھس کر بیٹھ گیا اور دونوں کے درمیان جدائی کر دی یہ منع ہے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دونوں آپس میں ضروری بات کرتے ہوں یا ویسے ان کو وحشت ہوتی ہو یا کوئی اور ترجیحی وجہ موجود ہو اگر اس طرح کوئی مجبوری نہ ہو تو پھر اس طرح بیٹھنے میں مضائقہ نہیں۔ بعض علماء نے تفریق سے دو آدمیوں کے درمیان نفاق اور تفرقہ پیدا کرنا مراد لیا ہے پھر تو مطلب بہت واضح ہوگا آنے والی حدیث میں ہے کہ اگر یہ دونوں ساھی اجازت دیتے ہیں تو پھر درمیان میں کسی کا بیٹھنا جائز ہوگا بہر حال اس طرح احادیث کا تعلق ازدحام کی حالت سے ہے۔

﴿۱۰﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (پہلے سے بیٹھے ہوئے) دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھو، الا یہ کہ ان کی اجازت حاصل ہو۔ (ابوداؤد)

## الفصل الثالث

## مجلس برخاست ہونے پر قیام جائز ہے

﴿۱۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ

يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنًا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے ساتھ بیٹھتے اور باتیں کیا کرتے تھے، پھر جب آپ اٹھتے تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے اور (دیر تک) کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ ہم دیکھتے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک گھر میں تشریف لے گئے۔

توضیح

”قمناً قیاماً“ اس قیام کا تعلق اس قیام سے نہیں جس کی ممانعت آئی ہے بلکہ یہاں قیام اس لئے کیا کہ مجلس ہی درخواست ہوگی لہذا اب بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں تھا تو جانے کے لئے کھڑے ہو گئے لیکن قیام کی حالت میں صحابہ کرام کچھ انتظار فرماتے تھے کیونکہ ہو سکتا کہ آنحضرت واپس مجلس میں آجاتے یا ان کو اور کوئی ضرورت پیش آجاتی اس لئے صحابہ کچھ انتظار کرتے تھے۔

مجلس میں آنے والے شخص کو اہمیت دینا سنت ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْخَطَّابِ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَزَحَّزَحَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فِي الْمَكَانِ سَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلْمُسْلِمِ لِحَقًّا إِذَا رَأَاهُ أَخُوهُ أَنْ يَتَزَحَّزَحَ لَهُ رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ .

اور حضرت وائلہ ابن خطابؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جب کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو (جگہ دینے) کے لئے اپنی جگہ سے حرکت کی اور ایک طرف کھسک گئے اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مکان میں بیٹھنے کی جگہ کافی فراخ و کشادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کو اس کا مسلمان بھائی آتا دیکھے تو اس کے لئے اپنی جگہ چھوڑ دے اور ایک طرف کھسک جائے ان دونوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح

”یتزحزح“ یعنی آنے والے شخص کے لئے آنحضرت اپنی جگہ سے کچھ ہل گئے اس شخص نے کہا یا رسول اللہ جگہ ہے آپ نہ بلیں اس پر حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ ایک نو وارد مسلمان کا یہ حق ہے کہ مجلس کے بھائی انکو دیکھ کر کچھ ہل جائیں اس میں ایک تو اچھی تہذیب ہے دوسرا یہ کہ اس شخص کی آمد پر اس کو اہمیت دینا ہے جس سے وہ بہت خوش ہوگا کہ ان لوگوں نے میرے آئے کو بوجھ نہیں سمجھا بلکہ مجھے اہمیت دی اس سے محبتیں بڑھتی ہیں

## باب الجلوس والنوم والمشي

### بیٹھنے لیٹنے اور چلنے کا بیان

اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے یہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کی کفالت کرتا ہے اسی سلسلہ میں اسلام اپنے ماننے والوں کو سونے، جاگنے، چلنے، پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے اگر کوئی شخص معاشرتی زندگی میں پیش آنے والی ان چیزوں میں شریعت سے رہنمائی حاصل نہیں کریگا تو لامحالہ پھر دیگر اقوام کی تقلید کرنے میں مہو کر گمراہ ہو جائیگا۔

### الفصل الاول

#### گوٹ مار کر بیٹھنا جائز ہے

﴿۱﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَنَاءِ الْكُعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  
حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے صحن میں اپنے ہاتھوں کے ذریعہ گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ (بخاری)

#### توضیح

”محتبیًا“ گوٹ مار کر بیٹھنے کو احتباء کہتے ہیں یہ ایک خاص طریقہ پر بیٹھنے کا نام ہے وہ طریقہ اس طرح ہے کہ آدمی کا مقعد زمین پر ہو اور گھٹنے کھڑے کر کے منہ کے قریب ہو اور دونوں ہاتھوں کو یا کسی پٹی کو یا چادر کو گھٹنوں سے لپیٹ کر بیٹھ جانے کو احتباء کہتے ہیں حدیث میں صرف دو ہاتھوں کے ساتھ احتباء کا ذکر کیا گیا ہے لیکن احتباء کی صورت عام ہے خواہ ہاتھ سے ہو یا کپڑے سے ہو۔

احتباء کے طرز پر بیٹھنے میں عاجزی اور تواضع ہوتی ہے اس لئے اس طرز پر بیٹھنا مستحب ہے گوٹ مارنے کی صورت میں اگر کسی کے پاس شلوار اور پاجامہ ہو تو اس صورت میں ستر کھلتا نہیں لیکن اگر شلوار پاجامہ نہ ہو بلکہ احرام کی دو چادریں ہوں اور اس میں گوٹ مار کر کوئی آدمی بیٹھتا ہے تو اس میں ستر کھل جاتا ہے لہذا اس طرز پر بیٹھنا منع ہے تبند کا بھی یہی حکم ہے۔

#### آنحضرت کا مسجد میں آرام کرنا ثابت ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ

مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا اِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں اس طرح چٹ لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ نے ایک قدم دوسرے قدم پر رکھا ہوا تھا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”واضعاً“ یعنی آپ مسجد میں آرام کی غرض سے لیٹ گئے اور ایک قدم دوسرے قدم پر رکھ دیا ساتھ والی روایت میں قدم پر قدم رکھ کر چٹ لیٹنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے حالانکہ یہاں اسی صورت کی اجازت دی گئی ہے تو دونوں روایتوں میں تعارض ہو گیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ صرف پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھنا منع نہیں ہے کیونکہ اس میں ستر کھلنے کا خطرہ نہیں ہے ہاں اگر ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ لی جائے جس سے ستر کھل جاتا ہے وہ منع ہے۔ الغرض گوٹ مار کر کر لیٹنے کی ممانعت کا مدار ستر کے کھلنے پر ہے اگر ستر کا انتظام ہو گیا ہو تو گوٹ مارنا منع نہیں ہے۔

ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر چٹ لیٹنا منع ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایک پاؤں کھڑا کر کے دوسرا پاؤں اس پر رکھ لے درآں حالیکہ وہ چٹ لیٹا ہوا ہو۔ (مسلم)

توضیح

اس حدیث میں ایک خاص طریقہ پر لیٹنے کو منع کر دیا گیا ہے کیونکہ اس میں ستر کھل جاتا ہے وہ طریقہ اس طرح ہے کہ ایک آدمی چٹ لیٹتا ہے اور ایک ٹانگ کھڑی کر دیتا ہے اور اس کے گھٹنے پر دوسری ٹانگ اور پاؤں رکھ دیتا ہے جس سے نیچے کا پورا علاقہ نظر آنے لگتا ہے آدمی احرام میں ہے ازار بند میں ہے تو اس طرح کرنا منع ہے لیکن اگر اس آدمی نے شلوار پہن رکھی ہو یا ستر کا انتظام ہوا ہو تو پھر اس طرح لیٹنا جائز ہے بہر حال اس حدیث میں ممانعت کی ایک خاص صورت ہے لہذا اس کا سابق حدیث سے تعارض نہیں ہے۔

﴿۴﴾ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى

الْأُخْرَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح چلت نہ لیٹے کہ ایک پاؤں کھڑا کر کے اس پر دوسرا پاؤں رکھ لے۔ (مسلم)

## تکبر کی چال چلنے والے کا انجام

﴿۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخَّرُ فِي بُرْدَيْنِ وَقَدْ أَحْبَبَتْهُ نَفْسُهُ خُسْفًا بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دودھاری دارکپڑوں میں (ملبوس) اترا ہٹ اور اکڑ کے ساتھ چل رہا تھا نیز اس کے نفس نے اس کو غرور و خود بینی میں مبتلا کر دیا تھا زمین نے اس شخص کو نگل لیا چنانچہ وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھنسا چلا جائے گا۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

بعض علماء نے اس شخص کو قارون قرار دیا ہے لیکن علامہ نووی اور دیگر شارحین کہتے ہیں کہ یہ قارون کے علاوہ کوئی متکبر شخص تھا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اسلام سے پہلے کسی دور کے کسی آدمی کا قصہ ہے۔

زمین پر اللہ والوں کے چلنے کا انداز اس طرح ہوتا ہے ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

## الفصل الثانی

### آنحضرت نے تکیہ استعمال کیا ہے

﴿۶﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِنًا عَلَى وَسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت جابر بن سمرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ گھٹیا آپ کے بائیں جانب رکھا ہوا تھا۔ (ترمذی)

## گوٹ مار کر بیٹھنے کا ذکر

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ

اِحْتَبٰی بِيَدَيْهِ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ

اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تو دونوں رانوں کو کھڑا کر لیتے اور پنڈلیوں پر دونوں ہاتھوں سے حلقہ باندھ لیتے۔ (رزین)

کبھی آنحضرتؐ قرفصاء کی صورت میں بیٹھتے تھے

﴿۸﴾ وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقَرْفَصَاءَ قَالَتْ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتَخَشَّعَ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرْقِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت قیلہ بنت مخرمہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں بہ بیت قرفصاء بیٹھے ہوئے دیکھا قیلہ کہتی ہیں کہ جب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح انتہائی فروتنی و انکساری کے عالم میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں مارے ہیبت کے کانپ گئی۔ (ابوداؤد)

توضیح

”القرفصاء“ قاف پر پیش ہے راسا کن ہے فا پر پیش ہے اس کے بعد مد ہے اور پھر ہمزہ ہے فا پر زبر پڑھنا بھی جائز ہے۔ تواضع اور انکساری سے بھرپور آنحضرتؐ کی ایک نشست کا نام قرفصاء ہے یہ اس طرز پر بیٹھنا ہے کہ مثلاً ایک آدمی قعدہ کی شکل میں بیٹھ جائے اور گھٹنے زمین پر رکھے اور پاؤں پیچھے ٹیک دے پھر دائیاں ہاتھ بائیں اور بائیاں ہاتھ دائیں بغل میں دبا کر رکھے اور اپنے پیٹ کو رانوں اور گھٹنوں پر جھکا کر ڈال دے اور سر کو زمین کے قریب لے جائے یہ قرفصاء بیٹھنا ہے اس میں عاجزی، تواضع اور انکساری ہے اس لئے حضور اکرمؐ نے اسے استعمال فرمایا۔

”المتخشع“ یعنی خشوع خضوع اور انکساری کی یہ صورت جب میں نے دیکھ لی تو میں کانپ اٹھی، آنحضرتؐ کو اللہ تعالیٰ نے رعب و دبدبہ دیا تھا اس لئے آپؐ نے جتنی تواضع اختیار فرمائی اتنا ہی آپؐ کا رعب بڑھ گیا اس لئے خاتون ڈر گئی۔ ”ارعدت“ میں کانپ اٹھی۔ ”من الفرق“ یہ لفظ جب سمع سمع سے آجائے تو یہ خوف اور ڈر کے معنی میں ہوتا ہے۔

آنحضرتؐ فجر کی نماز کے بعد چاشت تک بیٹھتے تھے

﴿۹﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنَاءَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت جابر بن سمرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو چار زانو بیٹھ جاتے اور سورج اچھی طرح روشن ہو جانے تک اسی طرح بیٹھے رہتے۔ (ابوداؤد)



## توضیح

چاشت تک بیٹھنا ثابت ہے تو اس کے ضمن میں چاشت کی نماز بھی ثابت ہوگئی لہذا چاشت کی نماز کا انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ ”تربع“ یعنی آنحضرت چارزانوں ہو کر بیٹھتے اور طلوع آفتاب تک انتظار فرماتے جس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ مکروہ وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یہاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دین اسلام زندہ و تابندہ مذہب ہے جس میں حضور اکرمؐ کے بیٹھنے کی کیفیت تک بھی الحمد للہ محفوظ ہے۔

## آنحضرتؐ کے پڑاؤ ڈالنے کا طریقہ

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَإِذَا عَرَسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ. **شرح السنّة**  
اور حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے دوران آرام کرنے اور سونے کے لئے کسی جگہ رات میں اترتے تو دائیں کروٹ لیٹتے اور جب صبح کے قریب اترتے تو اس طرح لیٹتے کہ اپنا ایک ہاتھ کھڑا کر کے اس کی ہتھیلی پر سر مبارک رکھ لیتے۔ (شرح السنّة)

## توضیح

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے دوران جب آنحضرتؐ رات کے وقت کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے اور رات کا کچھ حصہ باقی رہتا تو آپ دائیں کروٹ پر سو جاتے تھے جیسا کہ حضر میں آپ کی عادت تھی لیکن اگر رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہوتا اور صبح صادق کا وقت بالکل قریب ہوتا تو آنحضرتؐ کروٹ پر نہیں سوتے تھے بلکہ دائیں ہاتھ اور بازو کو کھڑا کرتے اور اس کی ہتھیلی پر سر مبارک رکھتے اور کچھ آرام فرماتے اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ صبح صادق قریب ہوتی تھی تو آپ گہری نیند سونے سے بچنے کی کوشش فرماتے تاکہ فجر کی نماز فوت نہ ہو جائے اس لئے ہتھیلی پر سر رکھ کر کچھ سستانے اور آرام لینے کی کوشش فرماتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی آخر الزمان فجر کی نماز کے لئے کتنا اہتمام فرماتے اور آج کل مسلمان کتنی غفلت برت رہے ہیں ہزاروں میں ایک آدمی مشکل سے ایسا ملیگا جو رات سے اہتمام کرتا ہوگا کہ فجر کی نماز قضاء نہ ہو۔

## آنحضرتؐ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا کر کبھی نہیں سوئے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ بَعْضِ آلِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِمَّا يُوَضَّعُ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ. **رواہ ابو داؤد**

اور ام سلمہؓ کے ایک لڑکے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا اس کپڑے کی مانند تھا جو آپؐ کی قبر شریف میں رکھا گیا تھا اور مسجد آپؐ کے سر مبارک کے قریب رہا کرتی تھی۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”مما یوضع“ یہ صیغہ مضارع کے بجائے وضع ماضی کا صیغہ ہونا چاہئے تھا لیکن راوی نے حکایت بزمانہ حال کی غرض سے مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ”نحواً“ مانند اور مقدار کے معنی میں ہے اس حدیث میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ آنحضرتؐ اپنی زندگی میں نیچے بچھانے کے لئے اتنا مختصر کپڑا استعمال فرماتے تھے جتنا کپڑا آپؐ کی قبر میں بچھایا گیا تھا جو بالکل مختصر تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ کپڑا قبر میں کیوں بچھایا گیا تھا اور کس نے بچھایا تھا؟

تو علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرتؐ مرض وفات میں نیچے بچھانے کے لئے ایک چادر استعمال فرماتے تھے جس کو صحابہ نے دیکھا تھا آپؐ کے غلام شقران نے اسی چادر کو اٹھا کر چپکے سے قبر میں بچھا دیا کہ مبادا آنحضرتؐ کے بعد کوئی اس کو استعمال نہ کرے لیکن صحابہ کرام نے اسے دیکھ لیا اور قبر سے نکال دیا۔

”عند مسجدہ“ یعنی آنحضرتؐ قبلہ رخ سوتے تھے آپؐ کا حجرہ مسجد نبوی کے بائیں جانب میں تھا جب آپؐ اپنے حجرہ میں دائیں کروٹ پر سوتے تھے تو آپؐ کے سر کے پاس مسجد ہوتی تھی اس بیان سے غرض یہ ہے کہ راوی بتانا چاہتا ہے کہ آنحضرتؐ دائیں کروٹ پر سوتے تھے اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آنحضرتؐ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ سوتے وقت بیت اللہ کی طرف چہرہ کیا کرو کیونکہ میں نے زندگی بھر ایسا کیا ہے۔

اس سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ آپؐ زندگی بھر سوتے وقت قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں سوئے ہیں آج کل عرب پر تعجب ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلا کر سویا جائے جو ایسا نہیں کرتا اسکو ایسا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ”ان کان هذا بیت اللہ فانا عبد اللہ“ اگر یہ بیت اللہ ہے تو میں عبد اللہ ہوں پاؤں پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## پیٹ اور منہ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مغبوض ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضِجَّةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اوندھا لیٹے ہوئے دیکھا تو آپؐ نے اس سے

فرمایا کہ اس طرح لیٹنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ (ترمذی)

## توضیح

”ضجعة“ لیٹنے کو ضجعة کہتے ہیں لیٹنے کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہے سونے اور لیٹنے کے چار طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ چت لیٹنے کا ہے یہ اہل اعتبار کا طریقہ ہے جو آسمان کے نظام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔

دوسرا طریقہ دائیں کروٹ پر لیٹنے کا ہے یہ عبادت گاروں کا طریقہ ہے اس میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے توبہ کی ہوتی ہے تو نیند چکی ہوتی ہے تو عبادت کے لئے اٹھنا آسان ہوتا ہے۔

تیسرا طریقہ بائیں کروٹ پر لیٹنے کا ہے یہ طریقہ آرام کے طلبگاروں کا ہے اس میں دل نیچے دب کر رہ جاتا ہے تو نیند خوب غفلت کے ساتھ آتی ہے۔

چوتھا طریقہ اہل نار کا ہے یہ لوگ پیٹ اور منہ کے بل اونڈھا ہو کر لیٹتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی طرح لیٹنے کو منع کیا گیا ہے کیونکہ دوزخ میں دوزخی اسی طرح ہونگے۔

﴿۱۳﴾ وَعَنْ يَعِيشَ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغَفَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مُصْطَجِعٌ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت یعیش ابن طخفہ ابن قیس غفاری اپنے والد ماجد سے جو اصحاب صفہ میں سے تھے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں سینہ کے درد کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص مجھے اپنے پاؤں سے ہلا رہا ہے اور پھر میں نے سنا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے لیٹنے کے اس طریقہ کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے اور پھر میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

”من السحر“ سحر سینہ کے درد کو کہا گیا ہے اصل میں سحر پھپھڑے کو کہتے ہیں یہاں سینہ کا درد مراد ہے یعنی اس مجبوری سے میں منہ کے بل سو گیا تھا۔

## چہار دیواری یا پردہ کے بغیر چھت پر سونا منع ہے

﴿۱۴﴾ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ وَفِي رِوَايَةٍ حِجَارٌ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ الدِّمَةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي مَعَالِمِ السُّنَنِ لِلْخَطَّابِيِّ حَجَّيْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت علی ابن شیبان کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں گھر کی ایسی چھت پر سونے جس

پر پردہ نہ ہو اور روایت میں یوں ہے کہ جس کے گرد رکاوٹ والی چیز نہ ہو تو اس سے ذمہ جاتا رہا۔ (ابوداؤد) اور خطاب کی کتاب معالم السنن میں (لفظ حجاب کے بجائے) جچی کا لفظ ہے۔

## توضیح

”حجاب“ ایک لفظ حجاب ہے جو پردہ کے معنی میں ہے دوسرا لفظ حجار ہے جو پتھر کے معنی میں ہے تیسرا لفظ جچی ہے جو عقل اور رکاوٹ کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس چھت پر چار دیواری یا کوئی منڈیر یا پردہ نہ ہو اور کوئی آدمی رات کو اس پر سوتا ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نیند میں یہ آدمی کروٹیں بدل بدل کر چھت سے گر جائے اور نیچے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جائے۔

”الذمة“ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے تحفظ کے لئے فرشتے بھی مقرر فرمائے ہیں اور اس تحفظ کے راستے اور طریقے بھی بتائے ہیں اور شریعت نے اس کی تعلیم بھی دی ہے اب جب کوئی شخص ان تمام طریقوں کو نظر انداز کرتا ہے تو شریعت کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اٹھ جاتی ہے اب یہ شخص اپنے آپ کو ملامت کرے اپنے گرنے کی نسبت کسی اور کی طرف نہ کرے نہ یہ الزام لگائے کہ میں مسلمان تھا اسلام نے اس مقام پر میری رہنمائی نہیں کی۔

﴿۱۵﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھٹھے پر سونے سے منع فرمایا ہے جس پر پردہ (کی دیوار) نہ ہو۔ (ترمذی)

## حلقہ کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت

﴿۱۶﴾ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ الْحَلَقَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعہ اس شخص کو ملعون قرار دیا گیا ہے جو حلقہ کے درمیان بیٹھے۔ (ترمذی و ابوداؤد)

## توضیح

”وسط الحلقۃ“ اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں ایک شخص باہر سے آتا ہے مجلس میں جگہ نہیں ہے مگر یہ شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ پھلانگ مارتا ہے اور آ کر حلقہ کے درمیان بیٹھتا ہے یہ منع ہے ان کو کنارہ

پر بیٹھنا چاہئے تھا۔ اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک حلقہ ہے اس میں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے آمنے سامنے بات کرتے ہیں ایک شخص آتا ہے اور ان کے درمیان بیٹھ جاتا ہے اور ان کے درمیان حائل بن جاتا ہے جس سے ان لوگوں کو ایذا پہنچ جاتی ہے کیونکہ ان کے درمیان پردہ اور خلل پڑ جاتا ہے اس لئے یہ منع ہے۔

اس جملہ کا تیسرا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ایک شخص بے حیا اور بد تہذیب بن کر لوگوں کی مجلس کے بیچ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مسخرہ پن کا مظاہرہ کرتا ہے بندر کی طرح حرکات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنساتا ہے اس پر لعنت لی گئی ہے یہ مطلب بہت واضح ہے۔

**بہترین مجلس وہ ہے جو کشادہ جگہ میں ہو**

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جو کشادہ و فراخ جگہ میں منعقد کی جائے۔ (ابوداؤد)

**توضیح**

مطلب یہ ہے کہ وعظ و نصیحت یا حلقہ احباب کی محفل ہو یا کوئی مباح تقریب ہو تو اس کی مجلس نشست ایسی جگہ میں ہونی چاہئے جو کھلی ہو تا کہ کسی کو تنگی نہ ہو۔ یہ امر ارشادی ہے اور برائے رہنمائی ہے اور مسلمانوں کی تہذیب کو زندہ رکھنے کی تعلیم ہے۔

**مجلس میں الگ الگ نہ بیٹھو**

﴿۱۸﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ جُلُوسٌ فَقَالَ مَالِي أَرَكُمُ عَزِيزِينَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت جابر بن سمرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ (مسجد نبوی) میں آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم میں لوگوں کو متفرق و منتشر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ (ابوداؤد)

**توضیح**

”عزیزین“ عزت کی جمع ہے لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں یہاں الگ الگ جماعتیں مراد ہیں آنحضرتؐ نے امت کو یہ تعلیم دیدی ہے کہ اتحاد و اتفاق اور محبت و یگانگت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی نشست میں بیٹھنا ہو تو ایک ساتھ بیٹھا کرو علیحدہ علیحدہ بیٹھنے سے وحشت اور بیگانگی میں اضافہ ہوگا جبکہ مسلمانوں کی صفت قرآن میں ﴿كَانَهُمْ بَنِيَانٍ مَرْصُوصٍ﴾ مذکور ہے لہذا

آنحضرتؐ نے فرمایا کہ الگ الگ ٹکڑیوں میں بیٹھنے کے بجائے ایک ساتھ بیٹھا کرو۔

ایسی جگہ نہ بیٹھو جہاں کچھ سایہ اور کچھ دھوپ ہو

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ فَلْيَقُمْ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ مَوْفُوفًا .

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سایہ میں بیٹھا ہو اور پھر وہ سایہ ختم ہو رہا ہو یاں طور کہ اس کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ حصہ سایہ میں ہو تو اس کو چاہئے کہ وہاں سے اٹھ جائے۔ (ابوداؤد) اور شرح السنۃ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تم میں سے جو شخص سایہ میں بیٹھا ہو اور پھر وہ سایہ ختم ہو رہا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہاں سے اٹھ جائے کیونکہ ایسی جگہ جو کچھ سایہ میں ہو اور کچھ دھوپ میں، وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح معمر نے بھی اس روایت کو حضرت ابو ہریرہؓ سے بطریق موقوف نقل کیا ہے۔

توضیح

”مجلس الشیطان“ اس روایت میں وفی شرح السنۃ سے آخر تک یہ کلام حضرت ابو ہریرہؓ کا کلام ہے مرفوع حدیث نہیں ہے لیکن اس جیسے خلاف العقل مسائل میں جب موقوف روایت آتی ہے تو مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے بہر حال حضرت ابو ہریرہؓ کے کلام ”انہ مجلس الشیطان“ کا ایک مطلب یہ ہے کہ واقعی شیطان ایسی جگہ بیٹھتا ہے تو یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہوگئی پھر شیطان بے کار نابکار ایسی جگہ میں کیوں بیٹھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کا کونسا کام اچھا ہے؟ ”اونٹ رے اونٹ تیری کوئی کل سیدھی ہے“

اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شیطان ایسی جگہ میں بیٹھنے سے خوش ہوتا ہے کہ جس جگہ میں بیٹھنے سے انسان کو تکلیف ہوگی اور ان کی صحت خراب ہوگی کیونکہ آدھا بدن گرم ہو کر خون دوڑنے لگے گا اور آدھا بدن ٹھنڈا منجمد ہوگا اس سے بدن کی صحت پر اثر پڑیگا اور شیطان یہی چاہتا ہے اور اسی سے خوش ہو جاتا ہے۔

عورتوں کو راستے کے کنارے پر چلنے کا حکم ہے

﴿۲۰﴾ وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ لَانْصَارِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ

الْمَسْجِدَ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ  
الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى أَنْ ثَوْبَهَا لِيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ.  
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي هَاشِمٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

اور حضرت ابو اسید انصاریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب کہ آپؐ مسجد سے باہر نکل رہے تھے بیان کرتے ہوئے سنا پھر راستہ میں مرد عورتوں سے مل گئے یعنی مرد اور عورتیں مخلوط ہو کر راستہ میں چلنے لگے آنحضرتؐ نے عورتوں سے فرمایا کہ تم مردوں کے پیچھے چلو اور ان سے الگ رہو کیونکہ تمہارے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم راستہ کے درمیان چلو بلکہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم راستہ کے کنارے پر چلا کرو چنانچہ عورتوں نے آنحضرتؐ کے اس حکم پر اس طرح عمل کیا کہ وہ راستہ چلتیں تو دیواروں سے لگ کر چلا کرتیں یہاں تک کہ (بعض اوقات) ان کا کپڑا دیوار سے انک جاتا تھا۔ (ابوداؤد، بیہقی)

## توضیح

عورتوں کی شرافت اور حشمت و عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گھر کی رانی اور چھپا ہوا خزانہ ہو جو گھر میں ہو لیکن اگر کسی شرعی مجبوری سے ان کو کھلے راستے میں چلنے کی ضرورت پڑ جائے تو شریعت کا حکم ہے کہ عورتیں مردوں کے کندھوں سے کندھے ملا کر جھوم جھوم کر نہ چلیں بلکہ ان کو انتہائی عاجزی اور شرافت و عظمت کے ساتھ جھک جھک کر راستے کے کنارے کنارے چلنا چاہئے اور سر پر بڑی اوڑھنی ڈالنی چاہئے اس سے ہر مفسد کے دل پر ان باعظمت خواتین کا رعب اور دبدبہ پڑیگا۔ بہر حال اسلام نے عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے لیکن ان کو مردوں سے تمام شعبوں میں پیچھے رکھا ہے اسی کا حصہ ہے کہ راستے کے بیچ میں ان کو نہیں چلنا چاہئے بیچ میں چلنے کا حق مردوں کو حاصل ہے۔

## مرد کو دو عورتوں کے درمیان نہیں چلنا چاہئے

﴿۲۱﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ  
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا یعنی مرد کو۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”ان یمشی“ یعنی دو عورتوں کے درمیان کسی مرد کا چلنا منع ہے کیونکہ یہ بے شرمی بھی ہے اور فتنہ میں پڑنے کا خطرہ بھی ہے

اور بڑی قباحت بھی ہے کہ مرد اجنبی عورتوں کی جھرمٹ میں جھوم جھوم کر جا رہا ہے اور فتنہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے ساتھ تنہائی میں چلنا بھی منع ہے اور کئی عورتوں کے ساتھ چلنا بھی منع ہے جس میں ناجائز اختلاط ہے۔

### مجلس میں جہاں جگہ دیکھو وہاں بیٹھو

﴿۲۲﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا آتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي رِوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فِي بَابِ الْقِيَامِ وَسَنَدُهُ كَرُحْدِيثِي عَلِيٍّ وَآبِي هُرَيْرَةَ فِي بَابِ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

اور حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم حاضر ہوتے تو ہم میں سے جو شخص جہاں جگہ دیکھتا اور آخر میں جو جگہ خالی ہوتی وہاں بیٹھ جاتا۔ (ابوداؤد) اور عبد اللہ ابن عمرو کی دونوں حدیثیں باب القیام میں نقل کی جا چکی ہے اور حضرت علیؓ و حضرت ابو ہریرہؓ کی دونوں روایتوں کو ہم انشاء اللہ باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ میں نقل کریں گے۔

### توضیح

”حيث ينتهي“ یعنی مجلس جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے آخری کنارے میں جگہ موجود ہے تو اسی میں بیٹھو یہ نہیں کہ اچھی جگہ کی تلاش میں لوگوں کے سروں کو پھلانگ کر آگے بڑھو اور لوگوں کی گالیاں اور بددعائیں سنو۔

### الفصل الثالث

### بیٹھنے کا ایک ممنوع طریقہ

﴿۲۳﴾ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى الْيَدِ الْيُمْنَى قَالَ اتَّقِعْدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

حضرت عمرو ابن شرید اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جب کہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ میرا بائیں ہاتھ تو میری پیٹھ کے پیچھے تھا اور انگوٹھے کی جڑ کے گوشت پر میں سہارا دیئے ہوئے تھا آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم اس ہیئت پر بیٹھے ہوئے ہو جس ہیئت پر وہ لوگ بیٹھے ہیں جن پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ (ابوداؤد)



توضیح

”المغضوب علیہم“ اس سے مراد یہود ہیں کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو چکا ہے اب یہ نیک ہوں یا برے ہوں اللہ تعالیٰ کے غضب سے باہر نہیں نکل سکتے سورت فاتحہ میں بھی ”غیر المغضوب علیہم“ کے الفاظ سے یہودی مراد ہیں۔ جس طرز پر بیٹھنے کو آنحضرت نے منع فرمایا یہ متکبرانہ انداز بھی ہے اور یہود سے مشابہت بھی ہے اور خود اس طرح بیٹھنا عجیب کارٹون کی شکل بھی ہے۔ کیونکہ اس میں آدمی بائیاں ہاتھ اپنی پیٹھ پر پیچھے سے رکھتا ہے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ میں جوا بھرا ہوا گوشت ہے اس پر ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے اس عجیب ہیئت پر بیٹھنے سے آنحضرت نے منع فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصاریٰ کی چھوٹی چھوٹی علامات میں بھی ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہئے۔

منہ کے بل لیٹنا دوزخیوں کا طریقہ ہے

﴿۲۴﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ مَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ يَا جُنْدُبُ إِنَّمَا هِيَ ضِجَّةُ أَهْلِ النَّارِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

اور حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جب کہ میں اپنے پیٹ کے بل یعنی اوندھا لیٹا ہوا تھا، آپؐ نے (یہ دیکھ کر) اپنے پاؤں سے مجھے ٹھوکا دیا اور فرمایا جندب (تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ) اس طرح لیٹنا دوزخیوں کا طریقہ ہے۔ (ابن ماجہ)

توضیح

”اہل النار“ اس لفظ کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ فساق و فجار اور کفار اہل النار کی دنیا میں یہی عادت ہے کہ وہ پیٹ کے بل پر اوندھے ہو کر سوتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کفار جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو وہ منہ کے بل گرے ہوئے پڑے ہوں گے تو دوزخیوں کی ہیئت دوزخ میں اس طرح ہوگی اس لئے کسی مسلمان کو یہ ہیئت اختیار نہیں کرنا چاہئے۔ یہ مطلب زیادہ واضح ہے۔

## باب العطاس والتشاؤب

## چھینکنے اور جمائی لینے کا بیان

العطاس چھینک کو کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لی ہے چنانچہ آپ کے بدن میں جب روح ڈالی گئی تو آپ نے چھینک لی اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ الحمد للہ کہد وجب حضرت آدم نے الحمد للہ کہد یا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ”یرحمک اللہ یا آدم“۔

چھینکنا انسان کے لئے صحت کی علامت ہوتی ہے دماغ کی کدورت اس سے ختم ہو جاتی ہے جسم خوش اور چست ہو جاتا ہے ثقل دماغ اور بوجھ اتر جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ شکر کے طور پر الحمد للہ پڑھ لے اور جو شخص اس کو سنے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ”یرحمک اللہ“ کہدے اس کے بعد چھینکنے والے کے لئے مستحب ہے کہ وہ ”یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“ سے ان کو دعا دے اگر چھینکنے والے نے الحمد للہ نہیں پڑھایا آہستہ پڑھا کہ کسی نے نہیں سنا تو جواب دینا کسی پر واجب نہیں ہوگا یعنی یہ ضروری نہیں کہ یرحمک اللہ کہدے۔

اگر چھینکنے والے کے جواب میں پوری جماعت میں سے ایک آدمی نے یرحمک اللہ کہد یا تو سب کی طرف سے یہ کافی ہے اگر چھینکنے والا بار بار چھینکتا ہے تو وہ زکام اور بیماری میں مبتلا ہوگا لہذا ہر بار جواب دینا کسی پر لازم نہیں ہے، بعض روایات میں الحمد للہ علی کل حال کے الفاظ آئے ہیں یہ زیادہ بہتر الفاظ ہیں اور عام فہم اور آسان ہیں، اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے وہ مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے ”والتشاؤب“ جمائی لینے کو کہتے ہیں اس کے مسائل بھی آرہے ہیں۔

## الفصل الاول

## چھینکنے سے رحمان اور جمائی سے شیطان خوش ہوتا ہے

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَسَ وَيَكْرَهُ التَّشَاؤْبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَأَمَّا التَّشَاؤْبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرِدْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَنَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ

حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینکنے کو تو پسند کرتا ہے لیکن جمائی کو ناپسند کرتا ہے لہذا تم میں سے جب کوئی شخص چھینکے اور اللہ کی تعریف کرے تو اس چھینک اور الحمد للہ کو سننے والے ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، رہی جمائی کی بات تو جمائی کا آنا شیطانی اثر ہے لہذا تم میں سے جب کسی کو جمائی آئے تو چاہئے کہ وہ حتی الامکان اس جمائی کو روکے واضح رہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لیتا ہے تو اس پر شیطان ہنستا ہے۔ (بخاری) اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (تو چاہئے کہ حتی الامکان اس جمائی کو روکے) کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص ہاء کہتا ہے (یعنی جمائی لیتا ہے) تو اس پر شیطان ہنستا ہے۔

## توضیح

”یحب العطاس“ یعنی اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے یہ اس لئے کہ چھینک سے چستی آتی ہے بیداری اور چالاکی پیدا ہوتی ہے جس سے فہم و ادراک بڑھ جاتا ہے پورا جسم ہشاش بشاش ہو جاتا ہے اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جمائی سے بوجھ و ثقل بڑھ جاتا ہے اونگ و غفلت اور سستی و بد فہمی بڑھ جاتی ہے اس لئے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور شیطان کو پسند ہے۔ عطاس اور مثاقب دونوں اپنے انجام اور اپنے نتیجہ کے اعتبار سے پسند یا ناپسند ہیں جمائی کے انجام و ثمرہ کو شیطان پسند کرتا ہے رحمان کو ناپسند ہے اور عطاس کے انجام اور ثمرہ کو رحمان پسند کرتا ہے شیطان کو ناپسند ہے آسیب زدہ آدمی مسلسل جمائی لیتا رہتا ہے۔

”کان حقاً“ اس لفظ کی وجہ سے علماء کرام نے مختلف رائے قائم کی ہیں کہ آیا چھینک کا جواب فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے احناف کے ہاں چھینک کا جواب واجب علی الکفایہ ہے حنابلہ کا مسلک بھی اسی طرح ہے شوافع کے ہاں چھینکنے والے کا جواب سنت علی الکفایہ ہے۔ مالکیہ کے ہاں مختلف اقوال ہیں وجوب کا قول بھی ہے اور سنت کا بھی ہے اور مستحب کا بھی ہے۔ غیر مقلدین حضرات کے ایک طبقہ کے نزدیک چھینک کا جواب فرض ہے۔ بہر حال احناف سمیت جمہور علماء کے نزدیک چھینک کا جواب واجب علی الکفایہ ہے مگر وہ شرط برقرار ہے کہ چھینکنے والا زور سے الحمد للہ کہہ دے۔

جمائی سے متعلق ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی پشت اپنے منہ پر رکھے یا کوئی کپڑا رکھے تاکہ منہ ڈھک جائے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے جمائی کے وقت انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے تو شیطان ہنستا ہے اور مزاق اڑاتا ہے کہ اس کی شکل کو دیکھو اس کی وجہ سے میں مرد و ڈھبرا ہوں۔

## چھینک کے جواب کا مسنون طریقہ

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ

لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو چاہئے کہ وہ الحمد للہ کہے اور اس کے بھائی یا یہ فرمایا کہ اس کے دوست کو چاہئے کہ وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے اور جب اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے تو چھینکنے والے کو چاہئے کہ یوں کہے یھدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کرے اور تمہارے دل و تمہارے احوال درست کرے۔ (بخاری)

چھینکنے والا اگر الحمد للہ نہ کہے تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتْ هَذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي قَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَلَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی تو آنحضرتؐ نے ان میں سے ایک آدمی کو چھینک کا جواب دیا اور دوسرے کی چھینک کا جواب نہیں دیا جس آدمی کی چھینک کا جواب آپؐ نے نہیں دیا تھا اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپؐ نے اس آدمی کو تو جواب دیا لیکن مجھ کو جواب نہیں دیا؟ آپؐ نے فرمایا اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی تھی یعنی الحمد للہ کہا جب کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح

”فشمت“ یہ تشمیت سے ہے چھینکنے والا جب الحمد للہ کہتا ہے اور اس کے جواب میں کوئی شخص یرحمک اللہ کہتا ہے اس جواب کو تشمیت کہتے ہیں آنحضرتؐ نے اس شخص کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا جس نے الحمد للہ کہہ دیا تھا اور جس نے نہیں کہا اس کو جواب نہیں دیا اس نے شکایت کی اسی شکایت اور اس کے جواب کا بیان اس حدیث میں ہے۔

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور اللہ کی حمد کرے تو اس کو جواب دو یعنی یرحمک اللہ کہو اور اگر وہ اللہ کی حمد نہ کرے تو اس کو جواب نہ دو۔ (مسلم)

## مزکوم شخص کی چھینک کا جواب دینا لازم نہیں

﴿۵﴾ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَزْكُومٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي الثَّلَاثَةِ إِنَّهُ مَزْكُومٌ

اور حضرت سلمہ ابن اکوع سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی چھینک کا جواب دیتے سنا۔ جہلیوں وقت آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا چنانچہ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ پھر جب اس کو دوسری بار چھینک آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو زکام ہو گیا ہے (مسلم) اور ترمذی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے اس شخص کو تیسری مرتبہ چھینکنے پر یہ فرمایا کہ اس شخص کو زکام ہو گیا ہے۔

## جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھو

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فَمِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے کیونکہ شیطان اس میں گھس جاتا ہے۔ (مسلم)

ہاتھ رکھنے سے شیطان اندر داخل نہیں ہوتا چونکہ یہ غفلت کی علامت ہے تو اس فرصت کو غنیمت جان کر شیطان اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے وساوس داخل کرتا ہے ہاتھ رکھنے سے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔

## الفصل الثانی

### چھینک کے وقت منہ ڈھانک کر آواز پست کرنا چاہئے

﴿۷﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تو اپنے چہرہ مبارک کو اپنے ہاتھوں یا اپنے کسی کپڑے سے ڈھانک لیتے تھے اور اپنی چھینک کی آواز کو پست کر لیتے۔ اس روایت کو ترمذی اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے، نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

## توضیح

چھینکنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ منہ اور چہرہ کو آدمی ڈھانک لے تاکہ خراب شکل نظر نہ آئے اور آواز جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا کم کیا جائے۔ بعض آدمی بڑے اخلاص سے آواز میں اتنا بڑا دھماکہ پیدا کرتا ہے کہ پاس والے گھبرا جاتے ہیں دو سال پہلے یہاں حرمین میں ایک آدمی آیا تھا وہ اتنے زور سے چھینک مارتا تھا کہ حرم مکہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بلند آواز جاتی تھی اور لوگ دیکھنے لگ جاتے کہ کوئی واقعہ ہوا میں نے خود بار بار اس شخص کی آواز سنی ہے اس طرح نہیں کرنا چاہئے۔

## چھینک اور اس کا جواب

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلِ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلِ هُوَ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

اور حضرت ابوایوب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو چاہئے کہ وہ یوں کہے الحمد للہ علی کل حال یعنی ہر حال میں خدا کی تعریف ہے اور جو شخص اس کا جواب دے اس کو یوں کہنا چاہئے یرحمک اللہ اور پھر چھینکنے والے کو یوں کہنا چاہئے یرحمکم اللہ ویصلح بالکم یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت بخشنے اور تمہارے دل یا تمہارے احوال کو درست فرمائے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

## یہود کی چھینک پر آنحضرت کا جواب

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ یہودی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو جان بوجھ کر چھینکتے اس امید میں کہ آپ ان کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے لیکن آپ محض یہ فرماتے یرحمکم اللہ ویصلح بالکم۔ (ترمذی، ابوداؤد)

## توضیح

یہود ایک منصوبہ ساز قوم ہے ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اسلام قبول کئے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں اور آنحضرت کی زبان سے اس کا اعلان ہو اس لئے وہ آنحضرت کی مجلس میں بار بار چھینک مارتے تھے اور حضور کی جانب سے یرحمک اللہ کے انتظار میں رہتے آنحضرتؐ نے ہمیشہ ان کو ہدایت کی دعا فرمائی لیکن ایمان سے پہلے ان کو رحمت کی دعا نہ فرمائی

”یہدیکم اللہ“ فرماتے تھے۔

## چھینک کے وقت السلام علیکم پر حضور ناراض ہوئے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ أَمَّا ابْنِي لَمْ أَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ہلال ابن یساف کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سالم ابن عبید کے ساتھ تھے کہ جماعت میں سے ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے (الحمد للہ کے بجائے) السلام علیکم کہا۔ حضرت سالم نے اس شخص کے جواب میں کہا کہ تم پر اور تمہاری ماں پر بھی سلام، اس شخص نے گویا اپنے دل میں ان الفاظ کا برامانا، حضرت سالم نے (اس ناگواری کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ) (اس ناگواری کی کیا بات ہے) تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ میں نے وہی الفاظ کہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھینکا تھا اور اس نے السلام علیکم کہا تھا چنانچہ آنحضرتؐ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ تم پر اور تمہاری ماں پر سلام پھر آپؐ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو اس کو چاہئے کہ الحمد للہ رب العالمین کہے اور جواب دینے والے کو چاہئے کہ یرحمک اللہ کہے اور پھر چھینکنے والے کو چاہئے کہ یوں کہے یغفر اللہ لی ولکم یعنی اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح

”وجد فی نفسہ“ وجد موجدۃ سے سخت غصہ ہونے کے معنی میں ہے غصہ ہونے والا یہ شخص صحابی نہیں تھا بلکہ تابعی تھا اس پچارے نے مجلس میں چھینک مارنے پر کہا ”السلام علیکم“ اس کے جواب میں سالم بن عبید صحابی نے کہا وعلیک وعلی اکم السلام۔ اس طرز سلام میں اس شخص کی ماں کا ذکر مجلس میں آ گیا اس لئے یہ غصہ ہوئے صحابی نے اس کے غصہ کو محسوس کیا تو پھر بتا دیا کہ آپ ناراض نہ ہوں میں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ آنحضرتؐ نے بھی ایک شخص کے بارے میں اختیار فرمایا تھا میں نے سنت پر عمل کیا۔

سوال

اب یہاں یہ سوال ہے کہ آنحضرتؐ نے چھینک مارنے والے شخص کی غلطی پر اس کی ماں کو کیوں یاد فرمایا؟

جواب

اس سوال کے دو جواب ہیں، پہلا جواب یہ ہے کہ اس شخص نے سلام کو بے موقع اور بے محل استعمال کیا تو یہ ایسا ہی ہوا کہ گویا کوئی شخص مخاطب کے بجائے اس کی ماں کو سلام کا جواب دیدے۔ جس طرح وہ بے موقع اور بے محل ہوگا اسی طرح چھینک کے جواب میں السلام علیکم بے موقع اور بے محل ہوگا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے اشارہ کر دیا کہ یہ جو کچھ تجھ سے سرزد ہوا ہے یہ تیرا قصور نہیں ہے بلکہ تیری ماں کا قصور ہے کہ اس نے تجھے صحیح تعلیم نہیں دی اور تیری صحیح تربیت نہیں کی اس لئے تم ان آداب سے محروم رہ گئے لہذا اصل شاباش تمہاری ماں کو ہے۔ اس حدیث سے امت کو یہ تعلیم حاصل ہوگئی کہ شریعت کی اصطلاحات اور اطلاقات کو بے جا اور بے محل استعمال کرنا جائز نہیں ہے جو حکم جس مقام کے لئے ہوا اسی میں استعمال کرنا چاہئے دوسری یہ تعلیم بھی حاصل ہوگئی کہ شریعت کے وضع کردہ الفاظ کے بجائے دوسرے الفاظ کو استعمال کرنا جائز نہیں اگرچہ اس کا معنی بہت اچھا ہو۔

تین بارتک چھینک کا جواب آخری حد ہے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رَفَاعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَمِتَ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَشَمِتَهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

اور حضرت عبید بن رفاعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا چھینکنے والے کی لگاتار تین چھینک تک جواب دیا جائے اور اگر کوئی شخص تین بار سے زائد چھینکے تو اس صورت میں اختیار ہے کہ چاہے اس کو جواب دیا جائے اور چاہے جواب نہ دیا جائے۔ اس روایت کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَمِتَ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَهُوَ زَكَاةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اور حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ تم اپنے (مسلمان) بھائی کی چھینک کا تین بارتک جواب دو اگر وہ اس سے زائد بار چھینکے تو (سمجھو) کہ اس کو زکام ہو گیا ہے۔ اس روایت کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔



## الفصل الثالث

شارع کے وضع کردہ الفاظ کی پابندی ضروری ہے

﴿۱۳﴾ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ (ایک دن) کا واقعہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کے برابر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے چھینکا اور پھر کہا الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ حضرت ابن عمرؓ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ لیکن یوں ہے نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے (اور وہ) یہ ہے کہ ہم یوں کہیں الحمد للہ علی کل حال یعنی ہر حال میں خدا کی تعریف ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

## توضیح

اس حدیث میں بھی وہی بات مذکور ہے جو اوپر لکھی گئی ہے کہ شریعت کے وضع کردہ اصطلاحات اور اطلاقات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگرچہ کوئی شخص اپنی طرف سے بہت ہی اچھے جملے بنا کر پڑھ رہا ہو لیکن یہ رائج سکھ نہیں ہے اس پر شریعت کا ٹھپہ نہیں لگا ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں اب یہاں دیکھئے اس شخص نے درود پڑھا جو اچھے جملے ہیں لیکن بے محل ہونے کی وجہ سے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ یہ اچھے جملے تو میں بھی کہتا ہوں اور جائز بھی ہے لیکن اس وقت اس کا موقع محل نہیں ہے بلکہ یہ بے محل ہے اس لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اس بے موقع عمل پر آج کل بدعتی حضرات کے بعض اعمال بھی قیاس کئے جاسکتے ہیں جیسے وہ جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں اور الفاظ بھی درود کے نہیں ہوتے ہیں تو درود تو اچھا عمل ہے لیکن اس کے لئے ایک موقع محل ہے روضہ اطہر پر جا کر خطا کے الفاظ کے ساتھ درود ہوتا ہے مگر یہ حضرات روضہ اطہر کے بجائے گلگت اور خجرا ب سے وہ الفاظ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جو لوگ انکا ساتھ نہیں دیتے تو کہتے ہیں یہ دشمن رسول ہیں یاد رکھو یہ بدعتی لوگ غلط راستے پر چل پڑے ہیں جس طرح بابا سعدی نے کہا۔

ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعرابی کیں راہ کہ تومی روی بترکستان است

## باب الضحک

### ہسنے کا بیان

اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبہ کی کفالت موجود ہے اسی سلسلہ میں انسان کے ہسنے کے مسائل بیان کئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں ہسنے کا مادہ رکھا ہے لہذا ہنسنا منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے لیکن اس میں حد اعتدال سے تجاوز کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے چہرہ کی رونق اور وقار ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور روحانی اعتبار سے دل مردہ ہو جاتا ہے سب سے اچھا تبسم ہے اور سب سے برا قہقہہ ہے صحابہ کرام خوب ہستے تھے لیکن ان میں کبھی غفلت نہیں آئی وہ دن کے شہسوار تھے اور رات کے رہبان اور عابد و زاہد و دلش تھے، ہسنے کے باوجود ان کے دلوں میں ایمان ایک پہاڑ کے برابر ہوتا تھا حضور اکرم کا اکثر ہنسنا تبسم کی صورت میں ہوتا تھا۔

### الفصل الاول

#### آنحضرت تبسم فرماتے تھے

﴿۱﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا صَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ہستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ (آپ کا منہ کھل گیا ہو اور) مجھے آپ کا کوا (یا سوڑھا) نظر آیا ہو بلکہ آپ کا ہنسنا مسکرانے کی حد تک رہتا تھا۔ (بخاری)

### توضیح

”مستجمعا“ اجتماع مکمل طور پر ہسنے کو کہا گیا ہے جس سے قہقہہ لگانا مراد ہے ”لهواته“ حلق اور تالو میں جو کوا لٹکا رہتا ہے اس کو لھوات کہتے ہیں مکمل قہقہہ لگانا ہنسنا مراد ہے کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔

”یتبسم“ ہسنے کے تین اقسام ہیں اگر زور سے ایسا ہنسنا ہو جس سے حلق اور پورا منہ نظر آ جائے تو یہ قہقہہ ہے اور اگر آواز کے ساتھ معمولی ہنسنا ہو تو اس کو ضحک کہتے ہیں اور اگر آواز بالکل نہ ہو صرف سامنے کے دانت کھل جائیں تو یہ تبسم ہے۔

#### آنحضرت کا جریر بن عبد اللہ کے ساتھ معاملہ

﴿۲﴾ وَعَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ اسْلَمْتُ وَلَا أَرَانِي إِلَّا تَبَسَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت جریر کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ کو ملاقات سے منع نہیں کیا اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے تو مسکراتے۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي آنحضرت کی وفات سے چند دن پہلے مسلمان ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرتی حسن سے اتنا نوازا تھا کہ ان کو اس امت کا یوسف کہا گیا ہے۔ یہ اپنے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو خصوصیات کا ذکر فرماتے ہیں۔

”ما حجبني“ ایک خصوصیت یہ تھی کہ میں نے جب بھی چاہا کہ آنحضرت سے ملاقات کروں آپ نے مجھے کبھی نہیں روکا بلکہ ملنے کی اجازت دی۔ اس سے گھر کی بے پردگی مراد نہیں بلکہ آنحضرت سے میل جول اور ملاقات مراد ہے۔ دوسری خصوصیت یہ کہ جب کبھی حضور اکرم نے مجھے دیکھا آپ نے تبسم فرمایا شاید حضور اکرم کو حضرت جریر کے چہرہ میں اللہ تعالیٰ کے انوار کا پرتو نظر آتا ہو گا یا قدرت الہی کے حسین و جمیل منظر کو دیکھ کر فتبارک اللہ احسن الخالقین پر تبسم فرماتے ہوں گے۔

## قصہ ہائے پارینہ پر ہنسنا جائز ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيُضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ يَتَنَاشَدُونَ الشَّعْرَ.

اور حضرت جابر ابن سمرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جس مصلے پر فجر کی نماز پڑھتے وہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ سورج (اچھی طرح) نہ نکل آتا جب سورج نکل آتا تو آپ اشراق کی نماز پڑھنے یا گھر میں تشریف لے جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے اس دوران صحابہ زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے رہتے اور ہنسا کرتے ان کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے رہتے (مسلم) اور ترمذی کی روایت میں یوں ہے کہ صحابہ اشعار پڑھنے سننے میں لگے رہتے۔

”يتنشدون الشعر“ یعنی جائز حد تک اشعار پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آنحضرت کی منقبت اور انسانی حکمت پر مشتمل اشعار پڑھتے تھے یہ زندہ دل لوگوں کی نشانی ہے اور جائز ہے۔

## الفصل الثانی

### حضور اکرم بہت مسکراتے تھے

﴿۴﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزء کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور شخص کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ (ترمذی)

## الفصل الثالث

### صحابہ کرام خوب ہنستے تھے

﴿۵﴾ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُونَ؟ قَالَ نَعَمْ وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَغْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ وَقَالَ بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ أَدْرَكْتُهُمْ يَشْتَدُونَ بَيْنَ الْأَعْرَاضِ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوا رَهَبَانًا. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

حضرت ابوقتادہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ سے دریافت کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے، حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہاں: حالانکہ ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی بڑا ایمان تھا اور حضرت بلال ابن سعدؓ تاہی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تیر کے نشانوں کے درمیان دوڑا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی باتوں پر ہنسا کرتے تھے مگر جب رات آتی تو وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہو جاتے۔ (شرح السنۃ)

### توضیح

”قال نعم“ پوچھنے والا تابعی ہے جو حضرت ابن عمرؓ صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا صحابہ ہنستے بھی تھے سائل کا خیال یہ تھا کہ ہنسا چونکہ غفلت کا ایک حصہ ہوتا ہے اور صحابہ غفلت سے بہت دور تھے اس لئے ہنسنے نہیں ہوں گے۔ اس کے جواب میں حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ہاں صحابہ خوب ہنستے تھے لیکن ان کے دلوں میں ہنسنے کی وجہ سے غفلت نہیں آتی بلکہ دلوں میں پہاڑ برابر ایمان ہوتا تھا۔ اس جملہ میں حضرت ابن عمرؓ نے اس شخص کے قلبی خدشہ کا جواب دیدیا ہے اور اشارہ کر دیا کہ جائز حد تک ہنسا انسانی فطرت ہے اور یہ زندہ دل لوگوں کی علامت ہے۔

حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ملاقات کے موقع

پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہنسے جس پر حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ آپ خدا کو بھول گئے ہو کہ ہنستے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے اتنے مایوس ہو گئے؟ اس پر دونوں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جائے کہ ان دونوں میں سے کون اچھی حالت میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تم دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ محبوب ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں یعنی فیصلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہو گیا۔

زیر بحث حدیث میں ایک راوی بلال بن سعد تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ تیر اندازی کے نشانوں کے درمیان دوڑتے تھے اور ایک دوسرے پر ہنسا کرتے تھے لیکن رات کو راجب بن جاتے اور عبادت کرتے تھے یعنی دن کے شہسوار اور رات کے تہجد گزار تھے۔ ”رہبان اللیل و فرسان النہار“

مورخہ ۳۰ ربیع الاول ۱۲۱۸ھ

## باب الأسماء

### ناموں کا بیان

اسامی اور اسماء جمع ہے اس کا مفرد اسم ہے نام کو اسم کہتے ہیں اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے اس نے مسلمانوں کی ہر سطح پر رہنمائی فرمائی ہے یہاں تک کہ نام رکھنے میں بھی رہنمائی ہے چنانچہ اس باب میں وہ احادیث آئیں گی جن میں اچھے ناموں کے رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور برے ناموں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے یا اسے تبدیل کرنے کی رہنمائی کی گئی ہے۔

## الفصل الاول

### آنحضرت کی کنیت پر اپنی کنیت رکھنے کا حکم

﴿عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِأَسْمِي وَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے ایک شخص نے ابو القاسم کہہ کر پکارا آپ نے پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا اس نے عرض کی کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا تھا بلکہ اس شخص کو آواز دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میرے نام پر نام رکھ لو لیکن میری کنیت پر کنیت مقرر نہ کرو۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”ولاتکسنو اب کنیتی“ ایک اسم محض ہوتا ہے جو والدین اپنی اولاد کے لئے پیدائش کے وقت رکھتے ہیں ایک لقب ہوتا ہے جو معاشرہ میں لوگ کسی کو دیتے ہیں جیسے ولی الدین یا مصلح الدین وغیرہ۔ ایک کنیت ہوتی ہے یہ وہ ہے کہ کوئی شخص مثلاً اپنے بیٹے یا بیٹی یا باپ وغیرہ کے نام سے اپنے آپ کو متعارف اور مشہور کرتا ہے جیسے ابوبکر، ابوذر، ابو حفص، ابن عباس، ابن مسعود۔ اسلام نے کنیت رکھنے کی اجازت دیدی ہے لیکن صحیح احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ آنحضرت کی کنیت جو ابوالقاسم تھی اس پر کسی کو کنیت رکھنے کی اجازت نہیں تھی آنحضرتؐ کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا آنحضرت کی کنیت انہیں کی وجہ سے ابوالقاسم تھی۔ اب محل بحث یہ امر ہے کہ آیا آنحضرت کی حیات مبارکہ تک اس کنیت کے رکھنے کی ممانعت محدود تھی یا یہ ممانعت ہمیشہ کے لئے ہے اس بارے میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔

## شوافع کا قول

شوافع اور اہل ظواہر کے ہاں کسی شخص کو ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز نہیں ہے۔

## امام محمدؒ

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لئے یہ تو جائز نہیں کہ وہ اپنا نام محمد رکھے اور کنیت ابوالقاسم رکھے، اگر الگ الگ رکھنا چاہتا ہے تو محمد نام رکھنا بھی جائز ہے اور نام کچھ اور ہو تو ابوالقاسم کنیت رکھنا بھی جائز ہے۔

## امام مالک کا قول

امام مالک فرماتے ہیں کہ نام اور کنیت سب جائز ہے حضور اکرم کی حیات طیبہ میں آپ کی کنیت رکھنے کی ممانعت تھی اب سب کچھ جائز ہے۔

## احناف کا قول

ائمہ احناف نے اس کو رائج قرار دیا ہے کہ حضور اکرم کی حیات میں آپ کی کنیت پر کنیت رکھنا سخت منع تھا اب اگرچہ اس طرح سخت ممانعت نہیں مگر ایک قسم کی ممانعت اب بھی ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری واضح فیصلہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رائج اور صحیح یہی ہے کہ کنیت رکھنے کی یہ ممانعت حضور اکرم کی حیات تک محدود تھی کیونکہ آپ کی حیات میں اس لفظ کے استعمال سے اشتباہ آتا تھا جیسا کہ حدیث نمبر ۱ میں تفصیل ہے کہ ایک شخص نے پکارا یا ابوالقاسم، آنحضرتؐ نے انکی آواز سن لی تو چہرہ انور موڑ کر دیکھا اس شخص نے کہا کہ آپ کو نہیں میں کسی اور شخص کو بلارہا ہوں جس کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ اس پر آنحضرتؐ نے ابوالقاسم کنیت رکھنے کو منع فرمادیا کیونکہ اس سے آنحضرتؐ رنجیدہ ہو جاتے تھے نیز یہود کی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے بارے میں ابوالقاسم کی

کنیت شاید کافی مشہور تھی اسی لئے یہود آپ کو ابوالقاسم ہی کی کنیت سے پکارتے تھے اس اشتباہ کی وجہ سے بھی یہ کنیت ممنوع تھی لیکن جب آنحضرت کا انتقال ہو گیا تو کنیت کی یہ ممانعت ختم ہو گئی گویا یہاں انتہاء حکم بوجہ انتہاء علت ہو گیا۔

## مجھے میرے رب نے قاسم بنایا ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي لِنَمَّا جَعَلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت پر کنیت مقرر نہ کرو کیونکہ مجھ کو قاسم قرار دیا گیا ہے اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”اقسم بینکم“ قاسم تقسیم کرنے والے کو کہتے ہیں آنحضرت کی جو کنیت ابوالقاسم تھی یہ صرف بیٹے کے نام کی وجہ سے نہ تھی بلکہ آپ کی کچھ صفات اور خصوصیات کی وجہ سے بھی آپ کو ابوالقاسم کہا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کی صفت تقسیم کی وجہ سے بھی آپ کو ابوالقاسم کہا گیا ہے کیونکہ آپ مال غنیمت بھی تقسیم فرماتے تھے اموال صدقات بھی تقسیم فرماتے تھے اور علوم وحی کی تقسیم کی وجہ سے بھی آپ کو ابوالقاسم کہا گیا ہے جس طرح فضائل والے شخص کو ابوالفضل کہتے ہیں صفت حرب میں شہرت رکھنے والے شخص کو ابوالحرب کہتے ہیں اسی طرح آنحضرت کی صفت فیاضی اور صفت تقسیم اموال کی وجہ سے ابوالقاسم کہا گیا ہے اس حدیث میں آپ کی کنیت کی علت اور سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

## عبداللہ اور عبدالرحمن سب سے بہتر نام ہیں

﴿۳﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاءٍ كُنْمَ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل کے نزدیک تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پسند نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں۔ (مسلم)

## توضیح

”عبد اللہ“ ان جیسے ناموں میں چونکہ کمال درجہ کی توحید اور کمال درجہ عبدیت ہے اس لئے یہ محبوب نام ہیں لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نام انبیاء کرام کے ناموں کے بعد پسندیدہ ہیں لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ دونوں نام زیادہ پسندیدہ نہیں ہونگے یا کم تر ہوں گے یا اسم محمد کے ساتھ پسندیدگی میں برابر ہونگے۔

## غلام کا نام یسار اور اراح نہ رکھو

﴿۴﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رِبَاخًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَتَمَّ هُوَ؟ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رِبَاخًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا

اور حضرت سمرہ ابن جندبؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام کا نام یسار، رباح، نجیح اور اراح نہ رکھو کیونکہ اگر کسی وقت تم نے کسی شخص سے پوچھا کہ کیا وہ یسار یا رباح یہاں ہے اور وہ وہاں نہ ہو تو جواب دینے والا کہے گا کہ وہ (یعنی یسار یا رباح) یہاں نہیں ہے۔ (مسلم) اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے غلام کا نام رباح، یسار، اراح اور نافع نہ رکھو۔

### توضیح

”یسار“ یہ یسر سے ہے جو آسانی کے معنی میں ہے رباح ربح سے نفع کے معنی میں ہے نجیح کامیابی کے معنی میں ہے اور اراح بھی کامیابی اور نجات کے معنی میں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے نام نہ رکھو جن کے ظاہری معنی اچھی صفات اور کامیابیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہوں مثلاً سعد ہے نجیح اور یسار ہے جب گھر میں کوئی آواز دے گا کہ اندر یسار ہے افلح ہے تو جواب آئے گا کہ یسا نہیں ہے اراح نہیں ہے اس سے بظاہر ایک خیر کی نفی ہوتی ہے۔ جس کو بد دعا کہہ سکتے ہیں اس لئے آنحضرتؐ نے ایسے ناموں کو رکھنا منع کر دیا اس میں اگرچہ ان ناموں کی ذات کی نفی مراد ہوتی ہے لیکن ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ناموں میں جو صفات ہیں اس کی بھی نفی ہو رہی ہے اگرچہ غیر ارادی طور پر ہو اس لئے ممانعت کر دی گئی لیکن یہ ممانعت مکروہ تنزیہی کے درجہ میں ہے جو خلاف اولیٰ اور افضل غیر افضل کی بات ہے آنے والی حضرت جابر کی روایت سے خود واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے ابتداء میں یہ حکم صادر فرمایا تھا مگر امت کے حرج میں پڑنے کے پیش نظر آنحضرتؐ نے بعد میں اس پر خاموشی اختیار کی اور منع نہیں کیا۔

## اب اراح اور یسار نام رکھنا جائز ہے

﴿۵﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبَبْرَكَةَ وَبِأَفْلَحَ وَبِيسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ سَكَتَ بَعْدَ عَنَّا ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ یعلیٰ برکت، اراح، یسار، نافع اور اس طرح کے دوسرے نام رکھنے سے لوگوں کو منع فرمادیں لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس ارادہ کے بعد آپ نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ



آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ان ناموں کے رکھنے کو منع نہیں فرمایا۔ (مسلم)

توضیح

اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ وہ سابق حکم بعد میں موقوف ہو گیا چونکہ اس میں امت کے لئے بڑا حرج تھا اس لئے بعد میں آنحضرت نے اس پر خاموشی اختیار کی ورنہ پھر تو عبداللہ نام رکھنا بھی مشکل ہو جاتا کہ گھر میں اللہ کا بندہ نہیں ہے ان دو قسم کی روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ ابتداء اور انتہاء کا فرق ہے ابتدا میں منع کیا گیا آخر میں اجازت دیدی گئی۔

فتح ترین نام اور لقب شہنشاہ ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاَكِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ أَعْظَمَ رَجُلٌ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاَكِ لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین نام والا وہ شخص ہوگا جس کو شہنشاہ کا نام دیا جائے۔ (بخاری) اور مسلم کی روایت میں یوں ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغضوب ترین اوسب سے بدتر وہ شخص ہوگا جس کو شہنشاہ کا نام دیا جائے خدا کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔

توضیح

”ملک الاملاک“ کا ترجمہ فارسی میں شہنشاہ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ بادشاہ ہوں کا بادشاہ ہے چونکہ بادشاہ علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس طرح نام میں مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ پر بادشاہی کا دعویٰ لازم آتا ہے اور یہ بات بہت بڑا جرم ہے اس لئے اس کو فتح ترین نام قرار دیا گیا ہے۔ ”اخنٰی“ فتح کے معنی میں ہے اغلظ و اجبث بھی یہی چیز ہے۔ شاہ ایران نے یہ نام رکھا تھا پھر معزول ہونے کے بعد ساحل سمندر کی طرف بھاگتا ہوا نظر آ گیا ایک کتے نے اس کا پیچھا کیا تھا کوئی ملک اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا کینسر سے مر گیا مصر میں مجبوراً دفن کیا گیا فرعون کا پڑوسی بن گیا۔

ایسا نام مناسب نہیں جس میں خود رائی ہو

﴿۷﴾ وَعَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبَرِّ مِنْكُمْ سَمُّوْهَا زَيْنَبَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ کہتی ہیں کہ میرا نام برہ (یعنی نیکوکار) رکھا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس کی تعریف نہ کرو تم میں جو شخص نیکوکار ہے اس کو اللہ خوب جانتا ہے اس بچی کا نام زینب رکھو۔ (مسلم)

## توضیح

”برہ“ نیکو کار کے معنی میں ہے اس طرح نام رکھنے میں خود بنی اور خود رائی کا احتمال ہے اور اس میں اپنے نفس کے لئے تزکیہ کا دعویٰ بھی ہے جو مناسب نہیں ہے اس لئے اس نام کو آنحضرت نے تبدیل فرما دیا لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح یسار اور نجیح کی ممانعت تھی پھر اجازت مل گئی اسی طرح برہ کا معاملہ سمجھ لینا چاہئے۔

﴿۸﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ جُورِيَّةٌ اِسْمُهَا بَرَّةٌ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِسْمَهَا جُورِيَّةً وَكَانَ يَكْرَهُ اَنْ يُقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ کا نام برہ تھا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ نام بدل کر جویریہ رکھ دیا کیونکہ آنحضرت کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی شخص یوں کہے کہ آپ برہ کے پاس سے نکلے۔ (مسلم)

## برانا م تبدیل کرنا چاہئے

﴿۹﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ بِنْتَ كَانَتْ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةٌ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے ایک بیٹی تھی جس کو عاصیہ کہا جاتا تھا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ (مسلم)

## توضیح

زمانہ جاہلیت میں عرب کا دستور تھا کہ وہ ڈراؤنے نام رکھتے تھے نیز نافرمانی اور آزادی کی طرف اشارہ کرنے والے نام رکھتے تھے اسی لئے ان کے ناموں میں جبل، حجر، حرب، صخرہ، حمار، اسد، فہد اور اس قسم کے بارعب نام ملتے ہیں آنحضرتؐ نے ایسے ناموں کی اصلاح فرمائی ہے اور اس کو تبدیل کیا ہے اور اس طرح ہر عالم کو کرنا چاہئے کہ علاقے کے برے ناموں کو تبدیل کرے تو مومنوں میں آج کل سب سے عمدہ نام بنگلہ دیش کے لوگ رکھتے ہیں اور سب سے بیکار نام سندھی اور پٹھانوں اور پھر پنجابیوں کے ہیں پٹھانوں میں جب آخر میں خان کا لفظ آجائے تو یہ کافی ہے خواہ اصل نام کچھ بھی نہ ہو درخت کے پتے کے ساتھ خان لگایا جائے تو پتے خان بہترین نام ہے۔

﴿۱۰﴾ وَعَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَتَى اِسْمَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَيْنَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلٰی فِخْذِهِ فَقَالَ مَا اِسْمُهُ؟ قَالَ فَلَانٌ قَالَ لَا لَكِنْ اِسْمُهُ الْمُنْدِرُ مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ

اور حضرت سہل ابن سعدؓ کہتے ہیں کہ منذر ابن ابی اسید جب پیدا ہوئے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا آپ نے ان کو اپنی ران مبارک پر رکھا اور پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے لانے والے نے بتایا کہ فلاں نام ہے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ (یہ نام اچھا نہیں ہے) بلکہ اس کا نام منذر ہے۔ (بخاری و مسلم)

### اپنے غلام اور لونڈی کو عبدی و امتی نہیں کہنا چاہئے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَامْتِي كُلُّكُمْ عَبْدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَّتِي وَفَتَاتِي وَلَا يَقُلْ الْعَبْدُ رَبِّي وَلَكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِي وَفِي رِوَايَةٍ لِيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَفِي رِوَايَةٍ لِيَقُلْ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ فَإِنَّ مَوْلَاكُمْ اللَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص (اپنے غلام اور باندی کو) عبدی اور امتی نہ کہے تمہارے سب مرد اللہ کے بندے اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی لونڈیاں ہیں بلکہ یوں کہے کہ میرا غلام یعنی میرا لڑکا اور میری جاریہ یعنی میری لڑکی۔ یا میرا خادم اور میری خادمہ اسی طرح کوئی غلام (اپنے مالک کو) میرا رب نہ کہے بلکہ میرا سردار کہنا چاہئے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میرا سردار یا میرا مولیٰ کہنا چاہئے ایک اور روایت میں یوں ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک کو میرا مولیٰ نہ کہے کیونکہ تمہارا مولیٰ صرف اللہ ہے۔ (مسلم)

### توضیح

”عبدی“ جاہلیت کے دور میں عرب اپنے غلام کو یا عبدی اے میرے بندے کہتے تھے اور لونڈی کو یا امتی اے میری مملوکہ کہتے تھے اس میں ایک انسان کو اپنا بندہ قرار دیا جاتا تھا حالانکہ انسان سارے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اسی طرح امتہ مملوکہ کے معنی میں لیتے تھے حالانکہ حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اس لئے یہ الفاظ موہم شرک بنتے تھے تو آنحضرتؐ نے اس کی ممانعت فرمادی۔

اب سوال یہ ہے کہ عبد اور امتہ کا اطلاق قرآن میں موجود ہے ﴿مَنْ عِبَادُكُمْ وَأَمَانُكُمْ﴾ تو اس حدیث میں ممانعت کیسے کی گئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ممانعت اس صورت میں ہے کہ کوئی شخص تکبر و تجبر اور غرور و سرکشی کے طور پر اس طرح اطلاق کرتا ہو اور غلط معنی لیتا ہو گویا عبدی سے اپنا بندہ میرا لیتا ہو کہ میں نے پیدا کیا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس طرح نہیں کرتا ہو تو پھر یہ اطلاق جائز ہے جس طرح قرآن وحدیث میں ہے گویا عبد اور امتہ کا ایک مفہوم غلط ہے اس مفہوم میں پکارنا جائز نہیں ہے اور دوسرا مفہوم صحیح ہے اس میں پکارنا جائز ہے۔

اسلام نے جس طرح آقاؤں کی اصلاح فرمائی ہے اسی طرح غلاموں اور لونڈیوں کی بھی اصلاح کی ہے کہ اپنے آقاؤں کو رب یا ربی کہہ کر پکارنا جائز نہیں ہے اس میں بھی وہی بات ہے کہ رب کا ایک مفہوم ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس صفت اور اس مفہوم میں کسی کو رب کہہ پکارنا جائز نہیں ہے۔ لیکن رب کا ایک مفہوم ایسا ہے کہ اس کا اطلاق غیر اللہ پر ہوتا ہے وہ صرف مالک و آقا کے معنی میں ہے اس لئے اس کی اجازت ہے لہذا رب کے اطلاق کی نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے۔ اسی طرح لفظ مولیٰ ہے اس کے پانچ معنی آتے ہیں بعض معانی کے اعتبار سے کسی مخلوق کو مولیٰ کہہ کر نہیں پکارا جاسکتا ہے جو خالق و مالک کے معنی میں ہے لیکن بعض معانی کے اعتبار سے غیر اللہ پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اس لئے نفی و اثبات کے الگ الگ مواقع ہیں۔

### انگور کو ”کرم“ کہنے کی ممانعت

﴿۱۲﴾ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكَرَمَ فَإِنَّ الْكَرَمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكَرَمَ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبَ وَالْحَبْلَةَ

اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کرم نہ کہو کیونکہ کرم مومن کا دل ہے (مسلم) اور مسلم ہی کی ایک حدیث میں حضرت وائل ابن حجر سے یوں منقول ہے کہ انگور کے درخت کو (کرم نہ کہو بلکہ عنب اور حبلہ کہو۔

### توضیح

عرب کے لوگ انگور کو اس لئے کرم کہتے تھے کہ انگور سے شراب بنتی تھی جو کہ کرام الناس پی لیتے تھے ایک حماسی شاعر کہتا ہے ۔

إِنَّا مُحْيُوكَ يَا سَلَمَى فَحِينَا      وَان سَقِيَتْ كَرَامِ النَّاسِ فَاسْقِينَا

بہر حال کرم کے لفظ میں شراب کا پس منظر پڑا ہوا تھا آنحضرتؐ نے اس اطلاق کو منع فرمادیا کہ ایک نجس چیز جو شراب ہے اس کے مادہ اور مبداء و بنیاد کو کرم کے نام سے کیوں یاد کیا جائے اس لئے آپ نے فرمادیا کہ کرم نہ کہو عنب کہو یا حبلہ کہو انگور کے درخت یا اس کی شاخ یا جڑ کو حبلہ کہتے ہیں۔

### زمانہ کو بُرا نہ کہو

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْمُوا عِنَبَ الْكَرَمِ وَلَا تَقُولُوا يَا حَيَّةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُنکو رو کر م نہ کہو اور یہ نہ کہو کہ اے ناامیدی زمانہ کی کیونکہ بلاشبہ اللہ (ہی کے اختیار) میں زمانہ ہے۔ (بخاری)

توضیح

”اللہ الدھر“ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ توفیقی نام ہیں اس میں الدھر نام نہیں ہے تو یہاں کیسے کہا گیا کہ اللہ دھر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ الدھر بمعنی متصرف فی الدھر یا اللہ هو المدھر یعنی زمانہ میں تصرف کرنے والا اور اس میں الٹ پلٹ لانے والا اللہ تعالیٰ ہے اب دھر کو برا کہنے سے کیوں منع کیا گیا تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ زمانہ تو خود کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے زمانہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے زمانہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو جو شخص زمانہ کو گالی دیتا ہے وہ درحقیقت اس کے پیچھے مؤثر حقیقی کو غیر شعوری طور پر گالی دیتا ہے یہ گالی بحال متعلقہ کے اعتبار سے ہے اس میں فاعل مختار کی بے ادبی کا خطرہ ہے اس لئے منع کر دیا گیا کہ زمانہ کو برا نہ کہو اس کی تفصیل توضیحات جلد اول کی ابتدائی ابواب ایمان میں گزر چکی ہے۔

﴿۱۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُبُّ أَحَدُكُمْ الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص زمانہ کو برا نہ کہے کیوں حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی زمانہ کو الٹ پھیر کرنے والا ہے۔ (مسلم)

اپنے آپ کو خبیث نہ کہو

﴿۱۵﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبِثْتُ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لِقَسَتْ نَفْسِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ فِي بَابِ الْإِيمَانِ اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے کہ میرا دل خبیث ہو گیا بلکہ لقست نفسي کہے یعنی میری طبعیت خراب ہو گئی۔ (بخاری و مسلم) اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت یو دینی ابن آدم باب الایمان میں نقل کی جا چکی ہے۔

الفصل الثانی

ابو احکم کی کنیت مناسب نہیں ہے

﴿۱۶﴾ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمَّا وَقَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ

سَمِعَهُمْ يَكُونُ لَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحَكَمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ قَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ اتَّوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كَالْفَرِيقَيْنِ بِحُكْمِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنُ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِي شَرِيحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ قُلْتُ شَرِيحٌ قَالَ فَانْتَ أَبُو شَرِيحٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيُّ

حضرت شریح ابن ہاشمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سنا کہ ان کی قوم ان کو ابو الحکم کی کنیت کے ذریعہ یاد و مخاطب کرتی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور حکم اسی کی طرف سے ہے پھر تم نے اپنی کنیت ابو الحکم کیوں مقرر کی ہے، حضرت ہاشمی نے عرض کیا کہ جب میری قوم کے لوگ کسی معاملہ میں اختلاف کا شکار ہوتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے معاملے میں جو حکم فیصلہ کرتا ہوں دونوں فریق میرے اس فیصلہ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ بہت اچھی بات ہے (لیکن یہ بتاؤ) تمہارے کتنے بچے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں انہوں نے کہا میرے تین بچے ہیں جن کے نام (شریح مسلم اور عبد اللہ ہیں۔ آنحضرتؐ نے پوچھا کہ ان تینوں میں بڑا کون ہے؟ حضرت ہاشمی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا شریح۔ آنحضرتؐ نے فرمایا تو پھر آج سے تم (ابو شریح ہو۔ (نسائی)

توضیح

”الحکم“ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس شخص کی کنیت ابو الحکم تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کا پہلو نکل سکتا تھا آنحضرتؐ نے اس کنیت کو ناپسند کیا اور اس کو ابو شریح کے نام سے بدل دیا۔ ابو الحکم یعنی حکم کا باپ اور حکم اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پاکستان کے سیاسی لیڈر اور جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب کو ابو الاعلیٰ کہنا بھی منع ہے جس طرح ابو الحکم منع ہے۔

اجدع نام رکھنا اچھا نہیں ہے

﴿۱۷﴾ وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا أَجْدَعُ شَيْطَانٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

حضرت مسروق (تابعی) کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عمرؓ سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو میں نے عرض کیا کہ میں اجدع کا بیٹا مسروق ہوں، حضرت عمرؓ نے (میرے باپ کا نام اجدع سن کر) فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اجدع ایک شیطان کا (نام) ہے (ابوداؤد وابن ماجہ)

## توضیح

”اجدع“ مسروق کی تاریخ اور وجہ تسمیہ اس سے پہلے ج ۵ ص ۳۷۴ پر لکھا جا چکا ہے اجدع کان اور ناک کٹے ہوئے آدمی کو کہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے تفنن اور ظرافت طبع کے طور پر یہ فرمایا جس میں اشارہ تھا کہ اگر تمہارا والد اس وقت زندہ ہوتا تو اس کا نام بدل دیا جاتا۔

## اچھے نام رکھو

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَائَكُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

اور حضرت ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ لہذا تم اپنے اچھے نام رکھو۔ (احمد و ابو داؤد)

بعض قومیں عجیب ہوتی ہیں بچوں کو پیدا کرتی ہیں سارا بوجھ اٹھاتی ہیں لیکن معمولی زحمت کر کے اچھا نام نہیں سوچتی۔

## آنحضرت کا نام اور کنیت ایک ساتھ نہ رکھو

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدُ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ وَيُسَمِّيَ مُحَمَّدًا أَبَا الْقَاسِمِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص آپ کے نام اور کنیت کو ایک ساتھ اختیار کرے اور جس شخص کا نام محمد ہو اس کو ابو القاسم (بھی) کہا جائے۔ (ترمذی)

﴿۲۰﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمَّيْتُمْ بِاسْمِي فَلَا تَكْتُبُوا بِكُنْيَتِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكُنْ بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكُنْ بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّ بِاسْمِي

اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میرے نام پر اپنا نام محمد رکھو تو میری کنیت پر کنیت مقرر نہ کرو۔ (ترمذی ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے نیز ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے نام پر نام رکھے تو وہ میری کنیت پر کنیت نہ مقرر کرے اور جو شخص میری کنیت پر کنیت مقرر کرے تو میرے نام پر نام نہ رکھے۔

## آنحضرت کے نام اور کنیت رکھنے کی اجازت

﴿۲۱﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكُنَيْتُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَذَكَرَ لِي أَنَّكَ تُكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنَيْتِي أَوْ مَا الَّذِي حَرَّمَ كُنَيْتِي وَأَحَلَّ بِاسْمِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ غَرِيبٌ

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک لڑکا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھی ہے لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو پسند نہیں فرماتے (یعنی بتانے والے نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے اپنا نام اور کنیت ایک ساتھ اختیار کئے جانے کو حرام قرار دیا ہے؟) آپ نے فرمایا ایسی کیا چیز ہے جس نے میرے نام پر نام رکھنے کو تو حلال و جائز رکھا ہے اور میری کنیت پر کنیت مقرر کرنے کو حرام کیا ہے یا یہ فرمایا کہ ایسی کیا چیز ہے جس نے میری کنیت پر کنیت رکھنے کو تو حرام کیا ہے اور میرے نام پر نام رکھنے کو حلال رکھا ہے؟ (ابوداؤد) اور محی السنۃ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

اس حدیث کو ممانعت کی دیگر احادیث کے لئے نسخ قرار دیا جاسکتا ہے اسی لئے جمہور کے ہاں یہ فیصلہ ہے کہ آنحضرت کے نام اور کنیت کو آپ کی وفات کے بعد رکھنا جائز ہے اختلافی اقوال پیچھے نقل کر چکا ہوں۔

﴿۲۲﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَلَدْتُ بَعْدَكَ وَلَدًا أَسَمِيهِ بِاسْمِكَ وَأَكْنِيهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اور حضرت محمد ابن حنفیہ اپنے والد ماجد (حضرت علی کرم اللہ وجہہ) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے (وصال کے) بعد میرے یہاں (حضرت فاطمہؑ سے یا کسی اور بیوی سے) کوئی بچہ پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام آپ کے نام پر اور اس کی کنیت آپ کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ (ابوداؤد)

## حضرت انس کی کنیت

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَلْبَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِبُهَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِي الْمَصَابِيحِ صَحَّحَهُ

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت اس ساگ کے نام مقرر کی تھی جس کو میں اکھاڑتا تھا (یعنی آپ نے ایک دن مجھے ایک ساگ کے جس کو عربی میں حمزہ کہتے ہیں اکھاڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی مناسبت سے میری کنیت ابو حمزہ رکھ دی۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا کہ ہمارا علم یہ ہے کہ یہ حدیث اس سند



کے علاوہ (جو جامع ترمذی میں نقل کی گئی ہے) اور کسی سند کے ساتھ مذکور نہیں ہے) لیکن صاحب مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ مصابح میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔

## توضیح

جس گھاس اور ساگ کو حضرت انس چنتے تھے اس کا نام حمزہ ہوتا تھا اس لئے آپ کی کنیت ابو حمزہ رکھی گئی اس سے معلوم ہو گیا کہ کنیت رکھنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اولاد کی وجہ سے ہو بلکہ دیگر اشیاء کی وجہ سے بھی کنیت رکھی جاسکتی ہے البتہ اس کے ساتھ وابستگی اور تعلق ضروری ہے جیسے ابو ہریرہ ابو حمزہ ابو الکلام وغیرہ۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ آدمی بالغ ہو تب اس کی کنیت رکھی جائے بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو کنیت سے یاد کیا جائے جیسے ابو عمیر چھوٹا بچہ تھا کہ حضور نے کنیت دیدی۔

﴿۲۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْأَسْمَ الْقَبِيحَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ  
اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ (ترمذی)

## آنحضرت نے کئی نام تبدیل فرمائے

﴿۲۵﴾ وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمِّهِ أَسَامَةَ بْنِ خُذْرِيٍّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ اتَّوَارَسُوا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ قَالَ أَصْرَمُ قَالَ بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ وَغَيْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ الْعَاصِ

اور حضرت بشیر ابن میمونؓ عن عمہ اسامہ بن خدریؓ رجلاً یقال لہ اصرمؓ کان فی النفر الذین اتوارسوا للہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمک قال اصرمؓ قال بل انت زرعۃ۔ رواہ ابو داؤدؓ وقال و غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسم العاصؓ وعزیز وعتلۃ وشیطان والحکم وغراب وحباب وشہاب وقال ترکث اسانیدہا للاختصار اور حضرت بشیر ابن میمونؓ (تابعی) اپنے چچا حضرت اسامہ بن خدریؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت حاضر ہوئی تو اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کو اصرمؓ کہا جاتا تھا آنحضرتؐ نے فرمایا کہ (نہیں بلکہ آج سے) تمہارا نام زرعہ ہے۔ اس روایت کو ابو داؤدؓ نے نقل کیا ہے، نیز انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصؓ، عزیزؓ، عتلہؓ، شیطانؓ، حکمؓ، غرابؓ، حبابؓ اور شہابؓ ناموں کو بدل دیا تھا۔ ابو داؤدؓ کہتے ہیں کہ میں نے اختصار کے پیش نظر ان روایتوں کو (کہ جس میں مذکورہ ناموں کو بدلنے کا ذکر ہے) بغیر اسناد کے نقل کیا ہے۔

## توضیح

”اصرم“ یہ کائنے کے معنی میں ہے جیسا کہ کوئی درخت یا فصل کاٹی جاتی ہے یہ نام اچھا نہیں تھا اس کے بدلے آپؐ نے تعمیری نام زرعہ رکھا جو کھیت اور کاشت کو کہتے ہیں۔ عاصیؓ نام نافرمانی اور سرکشی کے معنی میں ہے اس لئے آنحضرتؐ نے

اس کو تبدیل فرمادیا۔ ”عزیز“ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے عبد العزیز تو اچھا ہے لیکن صرف عزیز مناسب نہیں نیز اس کے معنی میں تعالیٰ اور زبردستی ہے جو شان عبدیت کے خلاف ہے۔

”عتلۃ“ غلیظ شدید اور سرکش کو کہتے ہیں مؤمن ایسا نہیں ہوتا۔ ”شیطان“ برائیوں کی جڑ اور اس کے داعی کا نام شیطان ہے اس لئے اس نام کو رکھنا غلط ہے کیونکہ شیطان یا شیط سے بنا ہے جس کے معنی جل جانا اور ہلاک ہونا ہے یا شیطان شطن سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں اللہ کی رحمت سے نکلا ہوا ہونا اور بعید ہونا دونوں معنی بیکار ہیں اور خود شیطان بد کردار ہے لہذا یہ نام بیکار ہے۔ ”حکم“ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے جب آپ نے ابوالحکم کو منع کر دیا تو صرف حکم نام رکھنا تو بطریق اولیٰ ناجائز ہے۔

”غراب“ کوئے کو غراب کہتے ہیں جو ایک مکروہ پرندہ ہے مردار بھی ہے۔ ”حباب“ شیطان کا نام ہے اور سانپ کا نام بھی ہے اس لئے بطور نام رکھنا غلط ہے ”شہاب“ شیطان پر مارے جانے والے ستاروں کو شہاب ثاقب کہتے ہیں اگر اس کی اضافت دین کی طرف ہو جائے جیسے شہاب الدین تو پھر جائز ہے۔

### زعموا کا لفظ جھوٹ کا پل ہے

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِأَبِي مَسْعُودٍ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي زَعْمُوا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ

اور حضرت ابو مسعود انصاریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو عبد اللہ سے یا حضرت ابو عبد اللہ نے حضرت ابو مسعود انصاری سے دریافت کیا کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ زعموا کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ (یہ لفظ) مرد کی بری سواری ہے۔ ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ابو عبد اللہ حضرت حذیفہ بن الیمان کی کنیت ہے۔

### توضیح

”زعموا“ یعنی زعموا کا جو لفظ ہے یہ آدمی کی بدترین سواری ہے۔ اہل لغت نے لکھا ہے کہ زعم کے لفظ کے ساتھ جو قول کیا جائے یہ اس بات اور اس قول کو کہتے ہیں جس میں پورا اعتماد اور اطمینان نہ ہو، اگرچہ کبھی کبھی لفظ زعم یقینی بات کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ یہ لفظ شک اور گمان کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ زیر بحث حدیث میں ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے حضور اکرمؐ سے لفظ زعموا کے متعلق سنا ہے صحابی نے جواب دیا کہ ہاں میں

نے سنا ہے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ یہ آدمی کی بدترین سواری ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی کسی حیلے بہانے سے اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے ذرائع استعمال کرتا ہے اسی طرح ایک آدمی جب کسی جھوٹی بات کو پھیلا نا چاہتا ہے تو وہ کسی ثبوت یا سند یا کسی کے نام کے بغیر کہتا ہے کہ لوگوں کا اس طرح خیال ہے لوگ اس طرح کہتے ہیں اس طرح بتایا جاتا ہے، کلام کے اس انداز سے آدمی اس لفظ کی آڑ میں بے تحاشہ جھوٹ بولتا اور پھیلاتا ہے آج کل بی بی سی کی خبروں میں جھوٹ تک پہنچنے اور اسے پھیلانے میں سب سے زیادہ اسی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے ایک جزئی بات اور واقعہ کو قاعدہ کلیہ کی شکل دینے کے لئے اسی لفظ کو بطور پل استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں لوگوں کا اس طرح خیال ہے یہ عجیب طریقہ ہے کہ کسی جھوٹے آدمی کو کبھی نہیں پکڑا جاسکتا ہے کیونکہ نہ وہ کسی کا نام لیتا ہے اور نہ سند و ثبوت بتاتا ہے۔ اس حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ اس طرح بے سرو پا باتوں کو نہیں پھیلا نا چاہئے اور بلا تحقیق سنی سنائی باتوں کو نہیں اڑانا چاہئے بلکہ پوری تحقیق اور اعتماد کے ساتھ ٹھوس حقیقت کی بنیاد پر بات آگے پہنچانا چاہئے۔

## شرک فعلی کی طرح شرک قولی سے بچنا بھی ضروری ہے

﴿۲۷﴾ وَعَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فَلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فَلَانٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ مُنْقَطِعًا قَالَ لَا تَقُولُوا

مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

اور حضرت حذیفہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہو کہ (وہی ہوگا) جو اللہ چاہے اور فلاں شخص چاہے (کیونکہ اس طرح کے کہنے کا مطلب ارادہ و مشیت میں اللہ اور بندے کو برابر کا درجہ دینا ہے جب کہ کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت و مرضی پر منحصر ہوتا ہے) البتہ ظاہری اسباب و وسائل کے پیش نظر انسان کی طرف ارادہ و مشیت کی نسبت کرنا ہی منظور ہو تو پھر (یوں کہو کہ) (وہی ہوگا) جو اللہ چاہے اور پھر فلاں چاہے۔ (احمد و ابو داؤد)

## توضیح

”وَشَاءَ فَلَانٌ“ یعنی مشیت کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ کسی اور کی مشیت ملا نا نہیں چاہئے کہ کوئی کہے کہ اللہ و رسول جو چاہے وہی ہوگا اس طرح ایک جملہ بنا کر ملا نا جائز نہیں بلکہ اس طرح فاصلہ کرنا چاہئے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر فلاں آدمی چاہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت مقدم ہوگی اور آدمی کی مشیت اس کے تابع ہو جائے گی یہ صورت صحیح ہے لوگ اس طرح باتوں میں بہت غلطیاں کرتے ہیں حالانکہ جس طرح شرک فعلی سے آدمی اجتناب کرتا ہے اسی طرح شرک قولی سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔

## منافق کو سردار مت کہو

﴿۲۸﴾ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْمَنَافِقِ سَيِّدًا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ اسْتَخَطَّكُمْ رَبُّكُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت حذیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی منافق کو سید نہ کہو یعنی سردار آقا نہ کہو کیونکہ اگر وہ سید ہو (اور تم نے اس کو سید کہا) تو تم نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا۔ (ابوداؤد)

توضیح

”سید“ سردار اور آقا کو سید کہتے ہیں منافق چونکہ اللہ تعالیٰ کے دین اور مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے زبان پر کچھ بھی ہو وہ قلبی طور پر اسلام سے عدوات رکھتا ہے تو ایسے دشمن خدا کو سید اور آقا کے احترام والے الفاظ سے یاد کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ذلت و رسوائی اور خواری و بربادی کے الفاظ سے یاد کیا ہے اس کے باوجود اگر کوئی شخص منافق کی تعریف و توصیف کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اگر کوئی منافق واقعہً اپنے خاندان کا سردار ہے یا ملک کا سربراہ ہے پھر بھی اس کو سردار و آقا نہیں کہنا چاہئے کیونکہ وہ ان شاندار الفاظ کے ساتھ یاد کرنے کا اہل نہیں ہے۔ آج کل مسلمانوں کے منافق حکمرانوں کی تعریف میں جو خوشامدی لوگ ان کے قصیدے پڑھتے ہیں ان کو چاہئے کہ اس سے باز آجائیں اور اپنے رب کو ناراض نہ کریں ورنہ آخرت کے عذاب کے لئے تیار ہو جائے۔

## الفصل الثالث

### برے نام کا بُرا اثر پڑتا ہے

﴿۲۹﴾ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنَاقِدَمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اِسْمِي حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرِ اسْمًا سَمَانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت عبد الحمید ابن جبیر ابن شیبہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سعد ابن مسیب کی خدمت میں حاضر تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ میرے دادا (جن کا نام حزن تھا) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ (حزن اچھا نام نہیں ہے) بلکہ میں تمہارا نام سہل رکھتا ہوں میرے دادا نے کہا کہ میرے باپ نے میرا جو نام رکھا ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا حضرت سعید نے فرمایا کہ اس کے بعد سے اب تک ہمارے خاندان میں ہمیشہ سختی رہی۔ (بخاری و مسلم)

## توضیح

”حزن“ یہ نو مسلم صحابی تھے شاید آنحضرت کے کلام کو حکم کے بجائے اختیاری سمجھ لیا اور نام تبدیل کرنے کو پسند نہیں کیا لیکن نام کا ترجمہ چونکہ سختی و مصیبت تھا اس لئے اس نام کا اثر ان کے خاندان پر رہا اور ہمیشہ حکمرانوں کی طرف سے آلام و مصائب کے شکار رہے۔ حضرت سعید بن المسیب جلیل القدر تابعی ہیں یہ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش اگر میرے دادا حضور اکرم کے بتائے ہوئے نام سہل کو اپناتے تو ہمارے خاندان پر بھی نرمی اور سہولت رہتی کیونکہ اچھے اور برے نام کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ حزن سخت اور دشوار گزار پتھریلی زمین کو کہتے ہیں اور سہل نرم ملائم اور ہموار زمین کو کہتے ہیں۔

## اچھے اور سچے نام

﴿۳۰﴾ وَعَنْ أَبِي وَهَبِ الْجَشَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمُوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَامْرَأَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

اور حضرت ابو وہب جشمی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے ناموں پر اپنے نام رکھو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں نیز زیادہ سچے نام، حارث اور ہمام ہیں اور سب سے برے نام حرب اور مرہ ہے۔ (ابوداؤد)

## توضیح

”الانبیاء“ یعنی انبیاء کرام کے ناموں پر اپنا نام رکھو اس میں خفیہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے نام پر اپنا نام نہ رکھو اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ زمانہ جاہلیت کے طرز پر برے اور ڈراؤنے نام نہ رکھو جیسے حرب ہے یا مرہ ہے مرہ کڑوے اور تلخ کو کہتے ہیں ابلیس کی کنیت بھی ابو مرہ ہے۔ اور حرب جنگ کو کہتے ہیں جاہلیت کے دور میں حمار کلب عبد القیس وغیرہ نام بھی رکھے جاتے تھے یہ بھی قبیح نام ہیں۔ ”حارث“ کھیتی باڑی اور کسب و کمائی کے لئے حارث کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب دنیا کا ہر شخص کسب و کمائی میں مشغول ہے اس لئے یہ سچا نام۔ ہے اسی طرح ”ہمام“ اہتمام اور قصد و ارادہ کو کہتے ہیں اور ہر شخص کسی نہ کسی اہتمام اور قصد و ارادہ میں پڑا رہتا ہے اس لئے یہ بھی سچا نام ہے۔